

إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّئَالُ

# اس کے مسائل

اور ان کا حل

اضافہ و تخریج شدہ ایڈیشن

پہنچ  
جلد پنجم

زکوٰۃ کے مسائل، پیداوار کا عشر  
صدقہ فقراء وغیرہ سے متعلق  
مدینہ منورہ کی حاضری  
قربانی کے مسائل، ایام قربانی  
قربانی کے حصے دار ذبح کرنے  
اور گوشت سے متعلق مسائل  
قربانی کی کھالوں کے مصارف  
عقیقہ، شکار، حلال اور حرام  
جانوروں کے مسائل  
قسم کھانے کے مسائل



حضرت مولانا

محمد یوسف لدھیانوی شہید

ترتیب و تخریج

حضرت مولانا سعید احمد جلالپوری شہید



مکتبہ لدھیانوی

إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّئَالُ (الحديث)

لا علمی کی شفا سوال کرنے میں ہے

۵

# آپ کے مسائل

اور ان کا حل

اضافہ و تخریج شدہ ایڈیشن

حضرت مولانا

محمد یوسف لدھیانوی شہید

ترتیب و تخریج

حضرت مولانا سعید احمد جلالپوری شہید

مکتبہ لدھیانوی

18- سلام کتب مارکیٹ بنوری ٹاؤن کراچی، دفتر ختم نبوت پرانی نمائش ایم اے جناح روڈ کراچی

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

## جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

یہ کتاب یا اس کا کوئی حصہ کسی بھی شکل میں ادارہ کی پیشگی تحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جاسکتا۔

کاپی رائٹ رجسٹریشن نمبر 11720

نام کتاب	: آپ کے مسائل اور ان کا حل
مصنف	: حضرت مولانا محمد یونس لدھیانوی شہید
ترتیب و تخریج	: حضرت مولانا سعید احمد جلالپوری شہید
قانونی مشیر	: منظور احمد میورا جپوت (ایڈووکیٹ ہائی کورٹ)
طبع اول	: ۱۹۸۹ء
اضافہ و تخریج شدہ ایڈیشن	: مئی ۲۰۱۱ء
کمپوزنگ	: محمد عامر صدیقی
پرینٹنگ	: شمس پرینٹنگ پریس

## مکتبہ لدھیانوی

18 - سلام کتب مارکیٹ بنوری ٹاؤن کراچی  
دفتر ختم نبوت پرانی نمائش ایم اے جناح روڈ کراچی

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

## فہرست

## زکوٰۃ کے مسائل

- ۴۷..... زکوٰۃ، دولت کی تقسیم کا انقلابی نظام
- ۵۶..... زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل اور نہ دینے کا وبال
- ۵۹..... زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟
- ۶۰..... زکوٰۃ کے ڈر سے غیر مسلم لکھوانا
- ۶۰..... عورتوں کے لئے سونے چاندی کا استعمال جائز ہے

## زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟

- ۶۳..... بالغ پر زکوٰۃ
- ۶۳..... نابالغ بچے کے مال پر زکوٰۃ
- ۶۳..... نابالغ کی ملکیت پر زکوٰۃ نہیں
- ۶۳..... اگر نابالغ بچیوں کے نام سونا کر دیا تو زکوٰۃ کس پر ہوگی؟
- ۶۳..... یتیم نابالغ بچے پر زکوٰۃ نہیں
- ۶۳..... یتیم کے مال پر زکوٰۃ نہیں
- ۶۵..... مجنون پر زکوٰۃ نہیں ہے
- ۶۵..... زیور کی زکوٰۃ
- ۶۵..... عورت پر زیور کی زکوٰۃ
- ۶۶..... بیوی کی زکوٰۃ شوہر کے ذمہ نہیں
- ۶۶..... بیوی کے زیور کی زکوٰۃ کا مطالبہ کس سے ہوگا؟
- ۶۶..... کیا شوہر کی طرف سے دیئے گئے زیور کی زکوٰۃ بیوی کے ذمے ہے؟
- ۶۷..... زیور کی زکوٰۃ کس پر ہوگی؟

- ۶۸..... شوہر اور بیوی کی زکوٰۃ کا حساب الگ الگ ہے
- ۶۸..... شوہر بیوی کے زیور کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے
- ۶۹..... مرحوم شوہر کی زکوٰۃ بیوی پر فرض نہیں
- ۶۹..... زیور کی زکوٰۃ اور اس پر حق وراثت
- ۷۰..... بیٹی کے لئے زیور پر زکوٰۃ
- ۷۰..... گزشتہ سالوں کی زیور کی زکوٰۃ
- ۷۱..... نصاب میں انفرادی ملکیت کا اعتبار ہے
- ۷۱..... خاندان کی اجتماعی زکوٰۃ
- ۷۱..... مشترکہ گھرداری میں زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟
- ۷۲..... مشترکہ خاندان میں بیوی، بیٹی، بہوؤں کی زکوٰۃ کس طرح دی جائے؟
- ۷۲..... شراکت والے کاروبار کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی؟
- ۷۳..... قرض کی زکوٰۃ کس کے ذمہ ہے؟
- ۷۴..... تجارت کے لئے منافع پر دی گئی رقم کی زکوٰۃ کس کے ذمے ہے؟
- ۷۵..... مشترکہ کاروبار کی زکوٰۃ
- ۷۵..... چھ ماہ قرض دار اور چھ ماہ مالک کے پاس رہنے والی رقم پر زکوٰۃ کس طرح ہے؟
- ۷۵..... ادھار دی ہوئی چار سال بعد ملنے والی رقم پر کتنی زکوٰۃ ہے؟
- ۷۶..... نادہند قرض دار کو دی گئی قرض کی رقم پر زکوٰۃ
- ۷۶..... امانت کی رقم پر زکوٰۃ
- ۷۷..... اگر امانت کی رقم سے حکومت زکوٰۃ کاٹ لے؟
- ۷۷..... زرضمانت کی زکوٰۃ
- ۷۷..... سنا رکودینے کے لئے رکھے ہوئے پیسوں پر زکوٰۃ آئے گی؟
- ۷۸..... کیا ایک سال گزرنے کے بعد زرضمانت پر زکوٰۃ ہے؟

### زکوٰۃ کا نصاب اور شرائط

- ۷۹..... زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟
- ۸۰..... نصاب کی واحد شرط کیا ہے؟

- ۸۱..... زکوٰۃ کے نصاب کی حد
- ۸۲..... زکوٰۃ کب واجب ہوئی؟
- ۸۲..... نقد اور مال تجارت کے لئے چاندی کا نصاب معیار ہے
- ۸۳..... نصاب سے کم اگر فقط سونا ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں
- ۸۳..... ساڑھے سات تولے سونے سے کم پر نقدی ملا کر زکوٰۃ واجب ہے
- ۸۳..... زیور اور رقم ملا کر اگر ۹ ہزار روپے ہو جائیں تو زکوٰۃ اور قربانی واجب ہے
- ۸۴..... اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا اور تھوڑی سی چاندی ہو تو کیا یہ صاحب نصاب ہے؟
- ۸۴..... سونا بیچ کر کاروبار کر لیا تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی
- ۸۵..... کس رقم پر زکوٰۃ ہے؟
- ۸۵..... سونا ساڑھے سات تولے سے کم ہو اور کچھ رقم بھی ہو تو زکوٰۃ واجب ہے
- ۸۵..... سونے کی زکوٰۃ سے بچنے کے لئے بیچ کر ٹی وی، پلنگ وغیرہ خریدنا
- ۸۶..... پورے مال تجارت پر زکوٰۃ ہے خواہ کم بلکتا ہو یا زیادہ
- ۸۶..... ایک ہزار روپے ماہانہ جیب خرچ والے پر زکوٰۃ
- ۸۶..... کیا نصاب سے زائد میں، نصاب کے پانچویں حصے تک چھوٹ ہے؟
- ۸۸..... نصاب سے زیادہ سونے کی زکوٰۃ
- ۸۸..... نوٹ پر زکوٰۃ
- ۸۸..... زکوٰۃ بچت کی رقم پر ہوتی ہے تنخواہ پر نہیں
- ۸۹..... زکوٰۃ ماہانہ تنخواہ پر نہیں، بلکہ بچت پر سال گزار جانے پر ہے
- ۸۹..... تنخواہ کی رقم جب تک وصول نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں
- ۸۹..... زکوٰۃ کس حساب سے ادا کریں؟
- ۹۰..... کاروبار میں لگائی ہوئی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے
- ۹۰..... اصل رقم اور منافع پر زکوٰۃ
- ۹۰..... قابل فروخت مال اور نفع دونوں پر زکوٰۃ واجب ہے
- ۹۱..... کاروبار میں قرضہ کو منہا کر کے زکوٰۃ دیں
- ۹۲..... قابل فروخت مال کی قیمت سے قرض منہا کر کے زکوٰۃ دی جائے
- ۹۲..... صنعت کا ہر قابل فروخت مال بھی مال زکوٰۃ ہے

- ۹۲..... سال کے دوران جتنی بھی رقم آتی رہے، لیکن زکوٰۃ اختتام سال پر موجود رقم پر ہوگی
- ۹۳..... جب نصاب کے برابر مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی
- ۹۳..... زکوٰۃ اندازاً دینا صحیح نہیں ہے
- ۹۴..... کسی خاص مقصد کے لئے بقدر نصاب مال پر زکوٰۃ
- ۹۴..... اگر پانچ ہزار روپیہ ہو اور نصاب سے کم سونا ہو تو زکوٰۃ کا حکم
- ۹۴..... زیور کی زکوٰۃ قیمت فروخت پر
- ۹۵..... زیورات کی زکوٰۃ کی شرح
- ۹۵..... استعمال والے زیورات پر زکوٰۃ
- ۹۵..... زیورات اور اشرنی پر زکوٰۃ واجب ہے
- ۹۶..... زیور کے نگ پر زکوٰۃ نہیں، لیکن کھوٹ سونے میں شمار ہوگا
- ۹۶..... سونے کی زکوٰۃ
- ۹۷..... سونے کی زکوٰۃ کی سال بہ سال شرح
- ۹۷..... زیورات پر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ
- ۹۸..... بچیوں کے نام پانچ پانچ تولہ سونا کر دیا، اور ان کے پاس چاندی اور رقم نہیں، تو کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں
- ۹۸..... سابقہ زکوٰۃ معلوم نہ ہو تو اندازے سے ادا کرنا جائز ہے
- ۹۹..... کیا سسرال اور ماں باپ کی طرف سے دیئے گئے دونوں زیوروں پر زکوٰۃ ہوگی؟
- ۹۹..... نابالغ پر زکوٰۃ نہیں، جب ہو جائے گی تو زکوٰۃ دینی ہوگی
- ۱۰۰..... ۱۳ تولہ سونا اگر تین بیٹیوں میں برابر تقسیم کر دوں تو کیا زکوٰۃ ہوگی؟
- ۱۰۱..... اگر زیور کی زکوٰۃ نہ دی ہو، اور رقم بھی نہ ہو تو کیا کریں؟
- ۱۰۱..... کیا الگ الگ زیورات پر زکوٰۃ ہوگی یا اکٹھے؟
- ۱۰۲..... زکوٰۃ کا سال شمار کرنے کا اصول
- ۱۰۲..... زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت
- ۱۰۳..... سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا صحیح ہے
- ۱۰۴..... زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر سال کا شمار
- ۱۰۴..... درمیان سال کی آمدنی پر زکوٰۃ
- ۱۰۴..... گزشتہ سال کی غیر ادا شدہ زکوٰۃ کا مسئلہ

- ۱۰۵..... مال کی نکالی ہوئی زکوٰۃ پر اگر سال گزر گیا تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی؟
- ۱۰۵..... کس پلاٹ پر زکوٰۃ واجب، کس پر نہیں؟
- ۱۰۵..... خرید شدہ پلاٹ پر زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟
- ۱۰۶..... رہائشی مکان کے لئے پلاٹ پر زکوٰۃ
- ۱۰۶..... تجارتی پلاٹ پر زکوٰۃ
- ۱۰۷..... تجارت کے لئے مکان یا پلاٹ کی مارکیٹ قیمت پر زکوٰۃ ہے
- ۱۰۷..... کاروبار کی نیت سے خرید کردہ پلاٹوں پر زکوٰۃ ہے
- ۱۰۸..... رہائش کے لئے خریدی گئی زمین اگر فروخت کر دی تو کیا اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟
- ۱۰۸..... رہائش کے لئے خریدے ہوئے پلاٹ پر زکوٰۃ ہے؟
- ۱۰۸..... جو مکان کرایہ پر دیا ہے، اس کے کرایہ پر زکوٰۃ ہے
- ۱۰۹..... کیا مکان کے کرایہ پر زکوٰۃ ہے؟
- ۱۰۹..... کاروبار کرنے کی نیت سے خریدی گئی دکان پر زکوٰۃ
- ۱۰۹..... قرض میں لیا ہوا مکان کرائے پر چڑھادیں تو کیا اس کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی؟
- ۱۰۹..... کرایہ پر دیئے ہوئے ایک سے زائد مکانات پر زکوٰۃ
- ۱۱۰..... رہائشی مکان اور کاروبار کے لئے دکان پر زکوٰۃ
- ۱۱۰..... کرائے پر دیئے گئے مکان کی زکوٰۃ
- ۱۱۱..... مکان کی خرید پر خرچ ہونے والی رقم پر زکوٰۃ
- ۱۱۱..... حج کے لئے رکھی ہوئی رقم پر زکوٰۃ
- ۱۱۱..... چندے کی زکوٰۃ
- ۱۱۲..... زیورات کے علاوہ جو چیزیں زیر استعمال ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں
- ۱۱۲..... زیورات کے علاوہ استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں
- ۱۱۲..... لائبریری کی کتابوں پر زکوٰۃ نہیں
- ۱۱۳..... زکوٰۃ ادا کرنے کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا
- ۱۱۳..... چھ لاکھ کی گاڑی تین ہزار روپے ماہانہ اقساط پر فروخت کرنے والے پر کتنی زکوٰۃ آئے گی؟
- ۱۱۳..... دس لاکھ کی فسطوں پر فروخت شدہ گاڑی پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟
- ۱۱۳..... استعمال کی کار، موٹر سائیکل پر زکوٰۃ نہیں



- ۱۱۴..... استعمال کے برتنوں پر زکوٰۃ
- ۱۱۵..... ادویات پر زکوٰۃ
- ۱۱۵..... واجب الوصول رقم کی زکوٰۃ
- ۱۱۵..... حصص پر زکوٰۃ
- ۱۱۶..... خرید کردہ بیج یا کھاد پر زکوٰۃ نہیں
- ۱۱۶..... پراویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ
- ۱۱۶..... کمپنی میں نصاب کے برابر جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ واجب ہے
- ۱۱۷..... تجارتی کمپنیوں میں پھنسی ہوئی رقم پر زکوٰۃ کا حکم
- ۱۲۰..... بینک جو زکوٰۃ کا اثنا ہے اس کا انکم ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں
- ۱۲۰..... مقرض کو دی ہوئی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے، اور زکوٰۃ میں قیمتی کپڑے دے سکتے ہیں
- ۱۲۱..... ٹیکسی کے ذریعہ کرایہ کی کمائی پر زکوٰۃ ہے، ٹیکسی پر نہیں

## زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ

- ۱۲۳..... ایک مشت کسی ایک کو زکوٰۃ بقدر نصاب دینا
- ۱۲۳..... ایک شخص کو کتنی زکوٰۃ دی جاسکتی ہے؟
- ۱۲۴..... مستحق کی اجازت سے اس کی طرف سے حج کی رقم پر زکوٰۃ سے جمع کروا دینا
- ۱۲۴..... زکوٰۃ کی رقم سے حج کرانا
- ۱۲۴..... صاحب مال کے حکم کے بغیر زکوٰۃ ادا کرنا
- ۱۲۴..... زکوٰۃ کب ادا کی جائے؟
- ۱۲۵..... مختلف اوقات میں زکوٰۃ کی مد میں ادا شدہ رقم کو منہا کر کے باقی زکوٰۃ ادا کریں
- ۱۲۵..... غلطی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کر دی تو آئندہ سال میں شمار کر سکتا ہے؟
- ۱۲۵..... بغیر بتائے زکوٰۃ دینا
- ۱۲۶..... ادائے زکوٰۃ کی ایک صورت
- ۱۲۶..... صاحب مال کے حکم کے بغیر، وکیل زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا
- ۱۲۶..... زکوٰۃ کی تشہیر
- ۱۲۶..... تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دینا

- ۱۲۸..... مجوزہ پیشگی زکوٰۃ کی رقم سے قرض دینا
- ۱۲۹..... گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ
- ۱۲۹..... گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟
- ۱۳۰..... دکان کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے؟
- ۱۳۱..... استعمال شدہ چیز زکوٰۃ کے طور پر دینا
- ۱۳۱..... نہ فروخت ہونے والی چیز زکوٰۃ میں دینا
- ۱۳۱..... اشیاء کی شکل میں زکوٰۃ کی ادائیگی
- ۱۳۱..... زکوٰۃ کی رقم سے مستحقین کے لئے کاروبار کرنا
- ۱۳۲..... زکوٰۃ کی رقم سے غرباء کے لئے صنعت لگانا
- ۱۳۲..... قرض دی ہوئی رقم میں زکوٰۃ کی نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی
- ۱۳۲..... مستحق شخص کو زکوٰۃ دے کر کہنا کہ وہ کسی کوچ کروادے
- ۱۳۳..... گھر والوں کو پسند نہ آنے والا نیا کپڑا زکوٰۃ میں دینا
- ۱۳۳..... زکوٰۃ اسکول کے بچوں پر خرچ کرنا
- ۱۳۴..... کسی غریب بچی کی شادی کے لئے زکوٰۃ کی رقم سے دو تولے یا اس سے کم سونا خرید کر دینا
- ۱۳۴..... زکوٰۃ کی رقم سے جہیز خرید کر دینا
- ۱۳۵..... قرض دی ہوئی رقم پر زکوٰۃ سالانہ دیں، چاہے قرض کی وصولی پر یک مشت
- ۱۳۵..... مقروض سونے کی زکوٰۃ کس طرح ادا کرے؟
- ۱۳۵..... زکوٰۃ سے ملازم کو تنخواہ دینا جائز نہیں، امداد کے لئے زکوٰۃ دینا جائز ہے
- ۱۳۶..... ملازم کو ایڈوانس دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ کی نیت درست نہیں
- ۱۳۶..... آئندہ کے مزدوری کے مصارف زکوٰۃ سے منہا کرنا درست نہیں
- ۱۳۶..... زکوٰۃ کی رقم سے مسجد کا جزیر خریدنا جائز نہیں
- ۱۳۷..... پیسے نہ ہوں تو زیور بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے
- ۱۳۷..... بیوی خود زکوٰۃ ادا کرے چاہے زیور بیچنا پڑے
- ۱۳۸..... غریب والدہ نصاب بھر سونے کی زکوٰۃ زیور بیچ کر دے
- ۱۳۸..... شوہر کے فوت ہونے پر زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟
- ۱۳۸..... اگر نقدی نہ ہو تو سابقہ اور آئندہ سالوں کی زکوٰۃ میں زیور دے سکتے ہیں

- ۱۳۹..... دکان میں مال تجارت پر زکوٰۃ اور طریقہ ادائیگی
- ۱۳۹..... انکم ٹیکس ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی
- ۱۴۰..... مالک بنائے بغیر فلیٹ رہائش کے لئے دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی
- ۱۴۱..... زکوٰۃ کی رقم سے مکان بنوانا
- ۱۴۱..... زکوٰۃ کی رقم سے قرض دینا

### کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ (مصارف زکوٰۃ)

- ۱۴۳..... زکوٰۃ کے مستحقین
- ۱۴۴..... سید اور ہاشمیوں کی اعانت غیر زکوٰۃ سے کی جائے
- ۱۴۴..... سادات کو زکوٰۃ کیوں نہیں دی جاتی؟
- ۱۴۵..... سید کی بیوی کو زکوٰۃ
- ۱۴۵..... سادات لڑکی کی اولاد کو زکوٰۃ
- ۱۴۶..... علوی (اعوان) کو زکوٰۃ دینا
- ۱۴۶..... سیدہ کی اولاد جو غیر سید سے ہو اُسے زکوٰۃ دینا
- ۱۴۶..... غریب سید بہنوئی کو زکوٰۃ دینا
- ۱۴۷..... زکوٰۃ کا صحیح مصرف
- ۱۴۷..... زکوٰۃ لینے والے کے ظاہر کا اعتبار ہوگا
- ۱۴۷..... معمولی آمدنی والے رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا جائز ہے
- ۱۴۸..... کم آمدنی والے خاندان کے بچوں کو عید پر زکوٰۃ سے کپڑے لے کر دینا
- ۱۴۸..... پگڑی پر لئے ہوئے گھر میں رہنے والے کو زکوٰۃ دینا
- ۱۴۸..... مستحق کا تعین کس طرح ہوگا؟
- ۱۴۹..... عثمانی کو زکوٰۃ دینا
- ۱۴۹..... غریب خاندان کو مکان کی مرمت کے لئے زکوٰۃ دینا
- ۱۴۹..... زکوٰۃ کی رقم سے مستحق رشتہ دار کی شادی کرانا
- ۱۵۰..... اگر پوتے، پوتی کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی تو بہو کو کیسے دی جاسکتی ہے؟

- ۱۵۰..... بہن بھائی کی صدقہ فطر اور زکوٰۃ سے مدد کرنا
- ۱۵۰..... غریب بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا
- ۱۵۱..... زکوٰۃ کا بتائے بغیر بیوہ بہن کی زکوٰۃ سے مدد کرنا
- ۱۵۱..... یتیم بھائیوں، بہنوں اور والدہ پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا
- ۱۵۲..... بھائی کو زکوٰۃ دینا
- ۱۵۲..... بھائی اور والد کو زکوٰۃ دینا
- ۱۵۲..... نادار بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دینا
- ۱۵۳..... صاحب حیثیت آدمی کا اپنے والدین کی مالی مدد نہ کرنا، نیز اپنے بھائی کو چھوڑ کر دوسروں کو زکوٰۃ دینا
- ۱۵۳..... بیوہ بہن کو زکوٰۃ دینا
- ۱۵۳..... چچا کو زکوٰۃ
- ۱۵۴..... بھتیجے یا بیٹے کو زکوٰۃ دینا
- ۱۵۴..... بیوی کا شوہر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں
- ۱۵۵..... مال دار بیوی کے غریب شوہر کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے
- ۱۵۵..... شادی شدہ عورت کو زکوٰۃ دینا
- ۱۵۵..... مال دار اولاد والی بیوہ کو زکوٰۃ
- ۱۵۶..... زکوٰۃ کی مستحق
- ۱۵۶..... بیوہ اور بچوں کو ترکہ ملنے پر زکوٰۃ
- ۱۵۶..... ضرورت مند لیکن صاحب نصاب بیوہ کی زکوٰۃ سے امداد کیسے؟
- ۱۵۷..... مفلوک الحال بیوہ کو زکوٰۃ دینا
- ۱۵۷..... برسر روزگار بیوہ کو زکوٰۃ دینا
- ۱۵۸..... شوہر کے بھائیوں اور بھتیجوں کو زکوٰۃ دینا
- ۱۵۸..... غیر مستحق کو زکوٰۃ کی ادائیگی
- ۱۵۹..... کام کاج نہ کرنے والے آدمی کی کفالت زکوٰۃ سے کرنا جائز ہے
- ۱۵۹..... کام کاج نہ کرنے والے آدمی کے بچوں اور بیوی کو زکوٰۃ دینا
- ۱۵۹..... نہ کمانے والے کو زکوٰۃ دینا
- ۱۵۹..... صاحب نصاب مقروض پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟

- ۱۶۰..... مقروض کو زکوٰۃ دے کر قرض وصول کرنا
- ۱۶۰..... مقروض آدمی کو زکوٰۃ دینا جبکہ اس کے بیٹے کماتے ہوں
- ۱۶۱..... مقروض کو زکوٰۃ دے کر اُس سے اپنا قرض واپس لینا
- ۱۶۱..... کسی قرض دار کا قرض زکوٰۃ سے ادا کرنا
- ۱۶۱..... کیا ادھار دی ہوئی رقم میں زکوٰۃ کی نیت ہو سکتی ہے؟
- ۱۶۲..... پگڑی کا مکان اور گھر میں پندرہ بیس ہزار اشیاء والے کو بیچی کی شادی کے لئے زکوٰۃ دینا
- ۱۶۲..... مستحق کو زکوٰۃ میں مکان بنا کر دینا اور واپسی کی توقع کرنا
- ۱۶۳..... صاحبِ نصاب کے لئے زکوٰۃ کی مد سے کھانا
- ۱۶۳..... معذور لڑکے کے باپ کو زکوٰۃ دینا
- ۱۶۳..... نادار کو زکوٰۃ دینا اور نیت
- ۱۶۳..... کیا نصاب کی قیمت والی بھینس کا مالک زکوٰۃ لے سکتا ہے؟
- ۱۶۳..... امام کو زکوٰۃ دینا
- ۱۶۳..... امام مسجد کو تنخواہ زکوٰۃ کی رقم سے دینا جائز نہیں
- ۱۶۵..... جیل میں زکوٰۃ دینا
- ۱۶۵..... بھیک مانگنے والوں کو زکوٰۃ دینا
- ۱۶۶..... مدرسے کا چندہ مانگنے والوں کو بغیر تحقیق کے زکوٰۃ دینا
- ۱۶۶..... ساڑھے چار ہزار روپے مالیت کے سونے کے مالک کو زکوٰۃ دینا
- ۱۶۶..... جس گھر میں ٹی وی، وی سی آر ہو، اُس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں
- ۱۶۶..... غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں
- ۱۶۷..... غیر مسلم کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا درست نہیں
- ۱۶۷..... غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا
- ۱۶۷..... زکوٰۃ سے کرایہ، ڈاکٹر کی فیس ادا کرنے سے زکوٰۃ کی ادائیگی
- ۱۶۷..... اگر ڈاکٹر کی فیس زکوٰۃ سے ادا کر دی جائے تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟
- ۱۶۸..... زکوٰۃ فنڈ سے مریضوں کو دوائی خرید کر دینا
- ۱۶۸..... غیر مسلموں کو زکوٰۃ
- ۱۶۸..... زکوٰۃ اور کھالیں ان تنظیموں کو دیں جو صحیح مصرف میں خرچ کریں

- ۱۶۹..... دینی مدارس کو زکوٰۃ دینا بہتر ہے
- ۱۶۹..... کیا زکوٰۃ اور چرم قربانی مدرسہ کو دینا جائز ہے؟
- ۱۶۹..... زکوٰۃ کی رقم سے مدرسہ اور مطب چلانے کی صورت
- ۱۷۰..... زکوٰۃ کی رقم سے لحاف خرید کر طلباء کو صرف استعمال کے لئے دینا
- ۱۷۰..... زکوٰۃ سے شفا خانے کا قیام
- ۱۷۱..... مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ لگانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی
- ۱۷۱..... تبلیغ کے لئے بھی کسی کو مالک بنائے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی
- ۱۷۱..... زکوٰۃ کی رقم سے کپڑوں، مکوڑوں اور پرندوں کو دانہ ڈالنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی
- ۱۷۲..... حکومت کے ذریعہ زکوٰۃ کی تقسیم
- ۱۷۲..... وزیراعظم کے ریلیف فنڈ میں زکوٰۃ دینا
- ۱۷۲..... زکوٰۃ کی رقم ملکی قرض اتارو مہم میں دینا
- ۱۷۲..... مال زکوٰۃ دینی جماعتوں کو دینا
- ۱۷۳..... زکوٰۃ اور تعمیر مدرسہ
- ۱۷۳..... زکوٰۃ کی رقم سے کنویں کی تعمیر
- ۱۷۳..... مستحقین کو زکوٰۃ کی رقم سے عینکیں بنوا کر دینا
- ۱۷۴..... صدقات واجبہ غلط مصارف پر خرچ کرنا
- ۱۷۴..... زکوٰۃ کی رقم جماعت خانے کی تزئین و آرائش پر خرچ کرنا
- ۱۷۵..... زکوٰۃ سے خریدے گئے پلاٹ پر فلیٹ بنا کر کچھ غریبوں کو دینا اور کچھ بیچ دینا
- ۱۷۵..... رفاہی انجمن کے ذریعے زکوٰۃ کی تقسیم
- ۱۷۶..... زکوٰۃ کی رقم کو کاروبار میں لگا کر اس کے منافع سے غریبوں کی مدد کرنا
- ۱۷۶..... زکوٰۃ، صدقات وصول کرنے والی ویلفیئر شاپ سے سید کو اشیاء خریدنا
- ۱۷۷..... فلاحی ادارے اور زکوٰۃ کی رقم
- ۱۷۸..... زکوٰۃ کی رقم کا رفاہی امور میں استعمال
- ۱۷۸..... فلاحی ادارے زکوٰۃ کے وکیل ہیں، جب تک مستحق کو ادا نہ کریں
- ۱۷۹..... زکوٰۃ سے چندہ وصول کرنے والے کو مقررہ حصہ دینا جائز نہیں

## پیداوار کا عشر

- ۱۸۰..... عشر کی تعریف
- ۱۸۱..... زمین کی ہر پیداوار پر عشر ہے، زکوٰۃ نہیں
- ۱۸۲..... عشر کتنی آمدنی پر ہے؟
- ۱۸۲..... عشر کس کے ذمہ؟
- ۱۸۲..... پیداوار کا عشر کتنا ہوتا ہے؟
- ۱۸۲..... پیداوار کے عشر کے بعد اس کی رقم پر زکوٰۃ کا مسئلہ
- ۱۸۳..... غلہ اور پھل کی پیداوار پر عشر کی ادائیگی
- ۱۸۳..... عشر ادا کر دینے کے بعد تا فروخت غلہ پر نہ عشر ہے، نہ زکوٰۃ
- ۱۸۳..... مزارعت کی زمین میں عشر
- ۱۸۳..... ٹریکٹر وغیرہ چلانے سے زراعت کا عشر بیسواں حصہ ہے
- ۱۸۳..... قابل نفع پھل ہونے پر باغ بیچنا جائز ہے، اس کا عشر مالک کے ذمہ ہوگا
- ۱۸۵..... عشر کی رقم رفاہ عامہ کے لئے نہیں، بلکہ فقراء کے لئے ہے
- ۱۸۵..... قرض دار کو قرض کی رقم عشر و زکوٰۃ میں چھوڑنا
- ۱۸۵..... گورنمنٹ نے اگر کم عشر لیا ہو تو بقیہ کا کیا کریں؟
- ۱۸۵..... عشر کی ادائیگی سے متعلق متفرق مسائل

## زکوٰۃ کے متفرق مسائل

- ۱۸۷..... زکوٰۃ دہندہ جس ملک میں ہو اسی ملک کی کرنسی کا اعتبار ہوگا
- ۱۸۷..... امریکا والے کس کرنسی سے زکوٰۃ ادا کریں؟
- ۱۸۸..... زکوٰۃ کی مد میں رکھے ہوئے پیسوں میں سے کھلا کرنا، ضرورت کے لئے لینا
- ۱۸۸..... زکوٰۃ کے لئے نکالی ہوئی رقم یا سود کا استعمال
- ۱۸۸..... سود کی رقم پر زکوٰۃ

## صدقہ فطر

- ۱۸۹..... صدقہ فطر کے مسائل

- ۱۹۰..... محتاج چچی کو صدقہ فطر دینا.....
- ۱۹۱..... عید کے بعد دیر سے فطرہ ادا کرنا.....
- ۱۹۱..... صدقہ فطر غیر مسلم کو دینا جائز ہے، مسئلے کی تصحیح و تحقیق.....

## منت و صدقہ

- ۱۹۳..... صدقہ کی تعریف اور اقسام.....
- ۱۹۳..... خیرات، صدقہ اور نذر میں فرق.....
- ۱۹۳..... صدقہ اور منت میں فرق.....
- ۱۹۴..... نذر اور منت کی تعریف.....
- ۱۹۴..... منت کی شرائط.....
- ۱۹۴..... صرف خیال آنے سے منت لازم نہیں ہوتی.....
- ۱۹۵..... نابالغی کی حالت میں روزے رکھنے کی منت مانی تو یہ بلوغت کے بعد بھی واجب نہیں.....
- ۱۹۵..... نابالغی میں مانی ہوئی نذر بالغ ہونے پر بھی واجب نہیں ہوگی.....
- ۱۹۵..... نذر ماننا شرعاً کیسا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟.....
- ۱۹۷..... حلال مال صدقہ کرنے سے بلاؤ دور ہوتی ہے، حرام مال سے نہیں!.....
- ۱۹۷..... غیر اللہ کی نیاز کا مسئلہ.....
- ۱۹۸..... غیر اللہ کی منت ماننا جائز نہیں.....
- ۱۹۸..... بکری کسی زندہ یا وفات شدہ کے نام کرنا.....
- ۱۹۸..... خاتون جنت کی کہانی من گھڑت ہے اور اس کی منت ناجائز.....
- ۱۹۹..... نہ تو مزار پر سلامی کی منت ماننا جائز ہے اور نہ اس کا پورا کرنا.....
- ۱۹۹..... قرآن مجید کی ہر سطر پر انگلی رکھ کر ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھنے کی منت ماننا.....
- ۱۹۹..... بیماری سے تندرستی کے لئے منت کا ماننا.....
- ۲۰۰..... ملازمت کی نذر مانی ہو تو کیا انشورنس کی ملازمت ملنے پر واجب ہو جائے گی؟.....
- ۲۰۰..... اگر ۹، ۱۰ محرم کو جو تانہ پہننے کی منت مانی تو کیا درست ہوگی؟.....
- ۲۰۱..... صحت کے لئے اللہ سے منت ماننا جائز ہے.....



- ۲۰۱..... پرائی ٹکڑیاں سے پکی ہوئی چیز جائز نہیں
- ۲۰۱..... حرام مال سے صدقہ ناجائز اور موجب وبال ہے
- ۲۰۲..... ”ایک ہاتھ سے صدقہ دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو پتانہ چلے“ کا مطلب
- ۲۰۲..... صدقے میں بہت سی قیود لگانا درست نہیں
- ۲۰۳..... منت کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اس کے مستحق غریب لوگ اور مدرسہ کے طالب علم ہیں
- ۲۰۳..... کسی کام کی منت مان کر اس کام کو روک دیا تو منت لازم نہیں ہوتی
- ۲۰۴..... کام ہونے کے لئے جس چیز کی منت مانی تھی وہ بھول گئی تو کیا کرے؟
- ۲۰۴..... اگر صدقہ کی امانت گم ہو گئی تو اس کا ادا کرنا لازم نہیں
- ۲۰۵..... شیرینی کی منت مانی ہو تو اتنی رقم بھی خرچ کر سکتے ہیں
- ۲۰۵..... میت کے ثواب کے لئے کیا ہو صدقہ مسجد میں استعمال کرنا
- ۲۰۵..... منت پوری کرنا کام ہونے کے بعد ضروری ہے نہ کہ پہلے
- ۲۰۶..... منت کا ایک ہی روزہ رکھنا ہو گا یا دو؟
- ۲۰۶..... منت میں تاخیر کرنا برا ہے
- ۲۰۶..... روزوں کی منت پوری کرنا ضروری ہے
- ۲۰۷..... سوا مہینے کے روزے کی منت مان کر لگا تار نہ رکھ سکے تو وقفے وقفے سے رکھ لے
- ۲۰۷..... قربانی کی منت مانی ہوئی گائے کو عید الاضحیٰ کو ذبح کر کے گوشت فقراء میں تقسیم کر دیں
- ۲۰۷..... کیا اللہ کے نام کی نذر کا بکر فروخت کر کے غریب کو رقم دے سکتا ہے؟ نیز اس کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟
- ۲۰۸..... صدقے کا گوشت گھر میں استعمال کرنا ناجائز ہے
- ۲۰۸..... جو گوشت فقراء میں تقسیم کر دیا وہ صدقہ ہے، جو گھر میں رکھا وہ صدقہ نہیں
- ۲۰۹..... منت کا گوشت صرف غریب کھا سکتے ہیں
- ۲۰۹..... منت کی نفلوں کا پورا کرنا واجب ہے
- ۲۱۰..... منت کے نفل جتنے یاد ہوں اتنے ہی پڑھے جائیں
- ۲۱۰..... قرآن مجید ختم کروانے کی منت لازم نہیں ہوتی
- ۲۱۰..... قرآن کریم، نفل پڑھنے کی منت ادا نہ کر سکیں تو کفارہ کیا ہوگا؟
- ۲۱۱..... کسی کے انتقال پر مضبوط ارادے سے کہنا کہ میں پڑھوں گی لیکن نہیں پڑھ سکی تو کیا حکم ہے؟
- ۲۱۱..... قرآن مجید ختم ہونے پر بکری ذبح کرنے کی منت ختم سے پہلے پوری کر دی تو کیا دوبارہ پوری کرنی ہوگی؟

- ۲۱۲..... گیارہویں، بارہویں کو نذر نیاز کرنا  
 ۲۱۲..... خیرات فقیر کے بجائے کتے کو ڈالنا جائز نہیں

### نقلی صدقات

- ۲۱۳..... صدقہ اور خیرات کی تعریف  
 ۲۱۳..... صدقہ کا طریقہ  
 ۲۱۳..... زکوٰۃ کے مستحق کو صدقہ بھی دے سکتے ہیں  
 ۲۱۳..... صدقہ کب لازم ہوتا ہے؟  
 ۲۱۵..... خیرات کا کھانا کھلانے کا صحیح طریقہ  
 ۲۱۵..... چوری کے مال کی واپسی یا اس کے برابر صدقہ  
 ۲۱۶..... ایسی چیز کا صدقہ جس کا مالک لاپتا ہو

### صدقہ، فقراء وغیرہ سے متعلق مسائل

- ۲۱۷..... مجبور لوگوں سے مانگنے کے بارے میں شرعی حکم  
 ۲۱۷..... کیا صدقہ دینے سے موت ٹل جاتی ہے؟  
 ۲۱۸..... کیا سڑکوں پر مانگنے والے گداگروں کو دینا بہتر ہے یا نہ دینا؟  
 ۲۱۹..... پیشہ ور گداگروں کو خیرات نہیں دینی چاہئے  
 ۲۱۹..... کیا پیشہ ور گداگر کے بارے میں تنبیہ آئی ہے؟  
 ۲۱۹..... پیشہ ور گداگر کو خیرات دینا، نیز مسجد میں مانگنا اور ان کو دینا  
 ۲۲۰..... پیشہ ور گداگروں کا مستحق ہونا کیسے معلوم ہوگا؟  
 ۲۲۰..... پیشہ ور مسائل کو دینا  
 ۲۲۱..... خیرات میں امیروں کا شامل ہونا  
 ۲۲۱..... کیا خیرات، نیاز، پڑوسی کو دے سکتے ہیں؟  
 ۲۲۱..... نقلی صدقے سے کی جانے والی دعوت میں غنی آدمی کی شرکت  
 ۲۲۱..... اگر رات کا کھانا کمپنی کے ذمہ ہو تو ملازمین کو کھلایا گیا گوشت صدقہ نہیں ہوگا  
 ۲۲۲..... صدقہ نقد دیں یا کھانے کی صورت میں  
 ۲۲۲..... کیا جانوروں پر صدقہ کرنا بہتر ہے یا انسانوں؟

- ۲۲۲..... صدقے کے جانور سے خود کھانا
- ۲۲۲..... صدقے کے لئے کالے بکرے کی تخصیص
- ۲۲۳..... اللہ تعالیٰ کے نام کی بجائے سر کا صدقہ دینا
- ۲۲۳..... صدقے کی رقم کہاں خرچ کی جائے؟
- ۲۲۳..... ختم قرآن و آیت کریمہ کے بعد صدقہ و خیرات کرنا
- ۲۲۳..... اپنی زندگی میں ہی صدقہ جاریہ کا اہتمام کرنا
- ۲۲۳..... حکومت کی چوری کر کے بچائے ہوئے پیسوں سے خیرات کرنا
- ۲۲۳..... رشوت کی رقم اور زمین کی پیداوار کی رقم والے کا صدقہ و خیرات کرنا
- ۲۲۵..... خیرات کرنے والے کے دل میں اپنی تعریف کا خیال آنا اور اس کا توبہ کرنا

## حج و عمرہ کی فضیلت

- ۲۲۶..... حج سے گناہوں کی معافی اور نیکیوں کا باقی رہنا
- ۲۲۶..... کیا حاجی کے قضا روزے اور نمازیں بھی معاف ہو جاتی ہیں؟
- ۲۲۷..... حج کی ادائیگی سے قبل حقوق واجبہ کی ادائیگی
- ۲۲۷..... حج مقبول کی پہچان
- ۲۲۷..... متعدد مرتبہ ”عمرہ“ کی ادائیگی پر اعتراض کا جواب
- ۲۲۸..... نفل حج زیادہ ضروری ہے یا غریبوں کی استعانت؟
- ۲۲۹..... حج و عمرہ جیسے مقدس اعمال کو گناہوں سے پاک رکھنا چاہئے
- ۲۲۹..... کیا نماز کا اہتمام نہ کرنے والے کے عمرے میں کوئی نقص ہوتا ہے؟
- ۲۳۰..... عمرے کی ادائیگی کے تقاضے
- ۲۳۰..... مکہ والوں کے لئے طواف افضل ہے یا عمرہ؟
- ۲۳۱..... کعبے پر پہلی نظر پڑنے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس وقت دُعا ضرور قبول ہوتی ہے؟
- ۲۳۱..... کیا غریب لوگ حج اور زکوٰۃ کے ثواب سے محروم رہیں گے؟
- ۲۳۲..... صرف امیر آدمی ہی حج کر کے جنت کا مستحق نہیں، بلکہ غریب بھی نیک اعمال کر کے اس کا مستحق ہو سکتا ہے

## حج اور عمرہ کی فرضیت

- ۲۳۳..... کیا صاحب نصاب پر حج فرض ہو جاتا ہے؟

- ۲۳۴..... حج کی فرضیت اور اہل و عیال کی کفالت
- ۲۳۵..... حج فرض میں جلدی کیجئے!
- ۲۳۵..... پہلے حج یا بیٹی کی شادی؟
- ۲۳۶..... پہلے بہن بھائیوں کی شادی کروں یا حج؟
- ۲۳۶..... محدود آمدنی میں لڑکیوں کی شادی سے قبل حج
- ۲۳۶..... پنشن کی رقم سے حج کرنا ضروری ہے یا مکان بنوائیں؟
- ۲۳۷..... کرایہ کا مکان، مہر مؤجل والے پر حج کی فرضیت
- ۲۳۷..... فریضہ حج اور بیوی کا مہر
- ۲۳۸..... کاروبار کی نیت سے حج کرنا
- ۲۳۸..... غربت کے بعد مال داری میں دوسرا حج
- ۲۳۹..... عورت پر حج کی فرضیت
- ۲۳۹..... کیا بیوی کو اپنی رقم سے حج کرنا چاہئے؟
- ۲۳۹..... منگنی شدہ لڑکی کا حج کو جانا
- ۲۳۹..... بیوہ حج کیسے کرے؟
- ۲۴۰..... اپنا حج نہ کرنے والے بیٹے کا والدین کو حج پر بھیجنا
- ۲۴۰..... بیٹی کی کمائی سے حج
- ۲۴۰..... حاملہ عورت کا حج
- ۲۴۰..... استطاعت کے باوجود حج سے پہلے عمرہ کرنا
- ۲۴۱..... حج یا والدہ کی خدمت؟
- ۲۴۱..... والد کے نافرمان بیٹے کا حج
- ۲۴۲..... عمرہ ادا کرنے سے حج لازم نہیں ہوتا جب تک دو شرطیں نہ پائی جائیں
- ۲۴۲..... جس کی طرف سے عمرہ کیا جائے اس پر حج فرض نہیں ہوتا
- ۲۴۳..... حج فرض ہو تو عورت کو اپنے شوہر اور لڑکے کو اپنے والد سے اجازت لینا ضروری نہیں
- ۲۴۳..... والدین کی اجازت اور حج
- ۲۴۴..... غیر شادی شدہ شخص کا والدین کی اجازت کے بغیر حج کرنا
- ۲۴۴..... بالغ کا حج

- ۲۴۴..... نابالغ کا حج نفل ہوتا ہے
- ۲۴۴..... اگر کسی کو چار لاکھ روپے اکٹھے مل جائیں تو اس پر حج فرض ہے
- ۲۴۵..... سعودی عرب میں ملازمت کرنے والوں کا عمرہ و حج
- ۲۴۵..... حج ڈیوٹی کے لئے جانے والا اگر حج بھی کر لے تو اس کا حج ہو جائے گا
- ۲۴۵..... سیاحت کے ویزے پر حج کرنا
- ۲۴۶..... فوج کی طرف سے حج کرنے والے کا فرض حج ادا ہو جائے گا
- ۲۴۶..... کیا بیوی کی آمدنی سے حج کرنا جائز ہے؟
- ۲۴۶..... والد اور شوہر کی مشترکہ ملکیت والی دکان بیچ کر دونوں کا حج پر جانا
- ۲۴۷..... حج کی رقم دوسرے مصرف پر لگا دینا
- ۲۴۷..... حج فرض کے لئے قرضہ لینا
- ۲۴۷..... قرض لے کر حج اور عمرہ کرنا
- ۲۴۷..... مقروض آدمی کا حج کرنا جائز ہے لیکن قرضہ ادا کرنے کی بھی فکر کرے
- ۲۴۸..... پہلے قرض ادا کروں یا نفلی حج؟
- ۲۴۸..... قرضے کی رقم سے صدقہ، حج کرنا اور قربانی دینا

## نا جائز ذرائع سے حج کرنا

- ۲۴۹..... غصب شدہ رقم سے حج کرنا
- ۲۴۹..... رشوت لینے والے کا حلال کمائی سے حج
- ۲۵۰..... کیا رشوتیں لینے والوں کا جائز پیسے سے حج، حج مقبول ہوتا ہے؟
- ۲۵۱..... حرام کمائی سے حج
- ۲۵۱..... حرام پیسوں سے حج پر جانا
- ۲۵۱..... حرام کمائی سے کروایا گیا حج قبول نہیں ہوتا
- ۲۵۲..... تحفہ یا رشوت کی رقم سے حج کرنا
- ۲۵۲..... سود کی رقم دوسری رقم سے ملی ہوئی ہو تو اس سے حج کرنا کیسا ہے؟
- ۲۵۲..... بیٹے کے سودی کاروبار کے پیسے سے حج کیسے کریں؟

- ۲۵۳..... جس دکان کی بجلی کا بل کبھی نہ دیا ہو، اُس کی کمائی سے حج کرنا
- ۲۵۳..... حجاج کرام کے لئے بینک کے تحفے
- ۲۵۳..... بینک کی طرف سے حاجیوں کو تحفہ دینا
- ۲۵۳..... کیا عرب شیوخ کے ذریعے کیا ہوا حج قبول ہوگا؟
- ۲۵۳..... سعودی عرب سے زائد رقم دے کر ڈرافٹ منگوا کر حج پر جانا
- ۲۵۵..... حج کے لئے ڈرافٹ پر زیادہ دینا
- ۲۵۵..... حج کے لئے جمع کی ہوئی حج کمیٹی کی رقم واپس کرے
- ۲۵۶..... پچاس روپے کے ٹکٹ پیچ کر قرعہ اندازی سے ایک آدمی کو حج پر بھیجنے والی اسکیم کی شرعی حیثیت
- ۲۵۶..... حج کے لئے لیا ہوا قرض بونڈ کے انعام کی رقم سے ادا کرنے کا حج پر اثر
- ۲۵۶..... بینک ملازمین سے زبردستی چندہ لے کر حج کا قرعہ نکالنا
- ۲۵۷..... بونڈ کی انعام کی رقم سے حج کرنا
- ۲۵۸..... سرکاری حج کا شرعی حکم
- ۲۵۸..... سرکاری خرچ پر حج کرنا
- ۲۵۹..... عازمین حج کا بیمہ
- ۲۵۹..... حج کے لئے جھوٹ بولنا
- ۲۶۰..... افغانستان کے پاسپورٹ پر حج و عمرہ کرنا
- ۲۶۰..... بلا اجازت حج کے لئے عزت و ملازمت کا خطرہ
- ۲۶۰..... حج کے لئے چھٹی کا حصول
- ۲۶۱..... حکومت کی اجازت کے بغیر حج کو جانا
- ۲۶۱..... عمرے کے ویزے پر جا کر حج کر کے آنا
- ۲۶۱..... رشوت کے ذریعے سعودی عرب میں ملازم کا والدین کو حج کرانا
- ۲۶۱..... خود کو کسی دوسرے کی بیوی ظاہر کر کے حج کرنا
- ۲۶۲..... مکہ میں رہتے ہوئے عمرہ

## عمرہ

- ۲۶۳..... عمرہ، حج کا بدل نہیں ہے

- ۲۶۳ ..... عمرہ اور قربانی کے لئے عقیقہ شرط نہیں
- ۲۶۳ ..... احرام باندھنے کے بعد اگر بیماری کی وجہ سے عمرہ نہ کر سکے تو اس کے ذمہ عمرہ کی قضا اور دم واجب ہے
- ۲۶۳ ..... ذی الحجہ میں حج سے قبل کتنے عمرے کئے جاسکتے ہیں؟
- ۲۶۳ ..... یومِ عرفہ سے لے کر ۱۳ ذی الحجہ تک عمرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے
- ۲۶۳ ..... عمرہ کا ایصالِ ثواب
- ۲۶۵ ..... والدہ مرحومہ کو عمرہ کا ثواب کس طرح پہنچایا جائے؟
- ۲۶۵ ..... ملازمت کا سفر اور عمرہ
- ۲۶۵ ..... کیا حج کے مہینے میں عمرہ کرنے والا اور عمرے کر سکتا ہے؟

### حج و عمرہ کی اصطلاحات

- ۲۶۶ ..... حج کرنے والوں کے لئے ہدایات
- ۲۷۲ ..... حج کے اقسام کی تفصیل اور اسہل حج
- ۲۷۷ ..... عمرہ کے بعد حج کون سا حج کہلائے گا؟
- ۲۷۸ ..... حج تمتع کا طریقہ
- ۲۷۸ ..... حج کے مہینوں (شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ) میں عمرہ کرنے والے پر حج

### حج بدل

- ۲۸۰ ..... حج بدل کی شرائط
- ۲۸۰ ..... حج بدل کی شرعی حیثیت
- ۲۸۱ ..... حج بدل کا جواز
- ۲۸۱ ..... حج بدل کون کر سکتا ہے؟
- ۲۸۲ ..... حج بدل کس کی طرف سے کرانا ضروری ہے؟
- ۲۸۳ ..... بغیر وصیت کے حج بدل کرنا
- ۲۸۳ ..... میت کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں
- ۲۸۳ ..... بیٹی کا مرحومہ والدہ کی طرف سے حج ادا کرنا
- ۲۸۳ ..... حج بدل کے سلسلے میں اشکالات کے جوابات

- ۲۸۵..... مجبوری کی وجہ سے حج بدل
- ۲۸۶..... بغیر وصیت کے مرحوم والدین کی طرف سے حج
- ۲۸۶..... والدہ کی طرف سے حج بدل ادا کرنا
- ۲۸۷..... والدہ کا حج بدل
- ۲۸۷..... معذور باپ کی طرف سے جدہ میں مقیم بیٹا کس طرح حج بدل کرے؟
- ۲۸۸..... دادا کی طرف سے حج بدل
- ۲۸۸..... بیوی کی طرف سے حج بدل
- ۲۸۹..... سر کی جگہ حج بدل
- ۲۸۹..... ایسی عورت کا حج بدل جس پر حج فرض نہیں تھا
- ۲۹۰..... جس نے اپنا حج نہ کیا ہو، اُسے حج بدل پر بھیجنا مکروہ ہے
- ۲۹۰..... اپنا حج نہ کرنے والے کا حج بدل کرنا، حج بدل کے بعد دوسرے حج کی فرضیت
- ۲۹۱..... کیا حج بدل افراد ہی کیا جاسکتا ہے؟
- ۲۹۱..... اپنا حج نہ کرنے والے کا حج بدل پر جانا
- ۲۹۲..... حج بدل کوئی بھی کر سکتا ہے غریب ہو یا امیر
- ۲۹۲..... نابالغ حج بدل نہیں کر سکتا
- ۲۹۳..... حج بدل میں قربانی لازم ہے یا نہیں؟
- ۲۹۳..... حج بدل میں کتنی قربانیاں کرنی ضروری ہیں؟

## بغیر محرم کے حج

- ۲۹۵..... محرم کے کہتے ہیں؟
- ۲۹۵..... بیوہ بہو کو حج کے لئے ساتھ لے جانا
- ۲۹۵..... عورتوں کے لئے حج میں محرم کی شرط کیوں ہے؟ نیز منہ بولے بھائی کے ساتھ سفر حج
- ۲۹۶..... عورت کو عمرہ کے لئے تنہا سفر جائز نہیں لیکن عمرہ ادا ہو جائے گا
- ۲۹۶..... کراچی سے جدہ تک بغیر محرم کے سفر
- ۲۹۷..... مطلقہ عورت پر حج کی فرضیت، نیز اس کا محرم کون ہو؟
- ۲۹۷..... بغیر محرم کے حج کا سفر



- ۲۹۷..... حج کے لئے غیر محرم کو محرم بنانا گناہ ہے
- ۲۹۸..... نامحرم کو محرم ظاہر کر کے حج کرنا
- ۲۹۸..... عورت کو محرم کے بغیر حج پر جانا جائز نہیں
- ۲۹۸..... رضاعی بھتیجے کے ساتھ حج کرنا
- ۲۹۹..... بغیر محرم کے حج
- ۳۰۰..... بغیر محرم کے حج پر جانا
- ۳۰۰..... بوڑھے جوڑے کے ساتھ حج پر جانا
- ۳۰۱..... محرم کے بغیر بوڑھی عورت کا حج تو ہو گیا لیکن گناہ گار ہوگی
- ۳۰۱..... ضعیف عورت کا ضعیف نامحرم مرد کے ساتھ حج
- ۳۰۱..... ممانی کا بھانجے کے ساتھ حج کرنا
- ۳۰۲..... بہنوئی کے ساتھ حج یا سفر کرنا
- ۳۰۲..... بہنوئی کے ہمراہ سفر حج پر جانا
- ۳۰۲..... ماموں زاد، چچا زاد، بہن بہنوئی کے ساتھ حج پر جانا
- ۳۰۳..... جیٹھ یا دوسرے نامحرم کے ساتھ سفر حج
- ۳۰۳..... شوہر کے سگے چچا کے ساتھ سفر حج کرنا
- ۳۰۳..... عورت کا بیٹی کے سر و ساس کے ساتھ سفر حج
- ۳۰۴..... بہن کے دیور کے ساتھ سفر حج و عمرہ
- ۳۰۴..... عورت کا منہ بولے بھائی کے ساتھ حج کرنا
- ۳۰۴..... عورت کا ایسی عورت کے ساتھ سفر حج کرنا جس کا شوہر ساتھ ہو
- ۳۰۵..... ملازم کو محرم بنا کر حج کرنا
- ۳۰۵..... اگر عورت کو مرنے تک محرم حج کے لئے نہ ملے تو حج کی وصیت کرے
- ۳۰۵..... آیامِ عدت میں ارکان حج کی ادائیگی

## احرام باندھنے کے مسائل

- ۳۰۷..... غسل کے بعد احرام باندھنے سے پہلے خوشبو اور سرمہ استعمال کرنا
- ۳۰۷..... میقات کے بورڈ اور تنعیم میں فرق

- ۳۰۸..... احرام کی حالت میں چہرے یا سر کا پسینہ صاف کرنا
- ۳۰۸..... سردی کی وجہ سے احرام کی حالت میں سوٹریا گرم چادر استعمال کرنا
- ۳۰۸..... عورتوں کا احرام کس شکل کا ہوتا ہے؟
- ۳۰۹..... عورتوں کا احرام میں چہرے کو کھلا رکھنا
- ۳۰۹..... عورت کے احرام کی کیا نوعیت ہے؟ اور وہ احرام کہاں سے باندھے؟
- ۳۱۰..... عورت کا احرام کے اوپر سے سر کا مسح کرنا غلط ہے
- ۳۱۰..... عورت کا ماہواری کی حالت میں احرام باندھنا
- ۳۱۱..... حج میں پردہ
- ۳۱۱..... طواف کے علاوہ کندھے ننگے رکھنا مکروہ ہے
- ۳۱۱..... ایک احرام کے ساتھ کتنے عمرے کئے جاسکتے ہیں؟
- ۳۱۲..... عمرے کا احرام کہاں سے باندھا جائے؟
- ۳۱۳..... مدینہ سے مکہ آتے ہوئے یا مسجد عائشہ کی زیارت کے بعد عمرہ ضروری ہے؟
- ۳۱۳..... مکی، حج یا عمرہ کا احرام کہاں سے باندھے گا؟
- ۳۱۴..... کراچی سے جانے والے احرام کہاں سے باندھیں؟
- ۳۱۴..... عمرہ کرنے والا شخص احرام کہاں سے باندھے؟
- ۳۱۴..... ہوائی جہاز پر سفر کرنے والا احرام کہاں سے باندھے؟
- ۳۱۵..... بحری جہاز کے ملازمین اگر حج کرنا چاہیں تو کہاں سے احرام باندھیں گے؟
- ۳۱۶..... کیا کراچی سے احرام باندھنا ضروری ہے؟
- ۳۱۶..... کراچی سے عمرہ پر جانے والا کہاں سے احرام باندھے؟
- ۳۱۶..... پینٹ شرٹ پہن کر عمرے کے لئے جانا
- ۳۱۷..... جس کی فلائٹ یقینی نہ ہو وہ احرام کہاں سے باندھے؟
- ۳۱۷..... میقات سے بغیر احرام کے گزرنا
- ۳۱۹..... بغیر احرام کے میقات سے گزرنا جائز نہیں
- ۳۲۰..... بغیر احرام کے میقات سے گزرنے والے پر دم
- ۳۲۰..... میقات سے اگر بغیر احرام کے گزر گیا تو دم واجب ہو گیا، لیکن اگر واپس آ کر میقات سے احرام باندھ لیا تو دم ساقط ہو گیا
- ۳۲۱..... بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہونا

- ۳۲۱..... مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لئے احرام ضروری ہے؟
- ۳۲۲..... کیا مدینہ سے طائف آتے ہوئے حد و حرم سے گزرتے وقت احرام باندھنا ضروری ہے؟
- ۳۲۳..... شوہر کے پاس جدہ جانے والی عورت پر احرام باندھنا لازم نہیں
- ۳۲۳..... حج و عمرہ کے ارادے سے جدہ پہنچنے والے کا احرام
- ۳۲۳..... کیا احرام جدہ سے باندھ سکتے ہیں؟
- ۳۲۳..... جدہ جا کر احرام باندھنا صحیح نہیں
- ۳۲۵..... جدہ سے احرام کب باندھ سکتا ہے؟
- ۳۲۵..... جدہ سے مکہ آنے والوں کا احرام باندھنا
- ۳۲۶..... احرام کھولنے کا کیا طریقہ ہے؟
- ۳۲۶..... عمرے سے فارغ ہو کر حلق سے پہلے کپڑے پہننا
- ۳۲۷..... احرام کھولنے کے لئے کتنے بال کاٹنے ضروری ہیں؟
- ۳۲۹..... حج کا احرام طواف کے بعد کھول دیا تو کیا کیا جائے؟
- ۳۲۹..... عمرہ کے احرام سے فراغت کے بعد حج کا احرام باندھنے تک پابندیاں نہیں ہیں
- ۳۲۹..... احرام والے کے لئے بیوی کب حلال ہوتی ہے؟
- ۳۳۰..... احرام باندھنے کے بعد بغیر حج کے واپسی کے مسائل
- ۳۳۰..... عمرہ ادا کئے بغیر احرام کھولنے والے پر دم واجب ہے اور قضا لازم ہے
- ۳۳۰..... کیا حالت احرام میں ناپاک ہونے پر دم واجب ہے؟
- ۳۳۱..... اگر ناپاک احرام کے ساتھ عمرہ کر کے دم دے دیا تو کیا عمرہ ہو گیا؟
- ۳۳۱..... ناپاکی کی وجہ سے احرام کی ٹحلی چادر کا بدلنا
- ۳۳۱..... احرام کی حالت میں بال گریں تو کیا قربانی کی جائے؟
- ۳۳۲..... کیا حالت احرام میں چوٹ لگنے سے دم واجب ہے؟
- ۳۳۲..... عمرہ کرنے کے بعد حج کے لئے احرام دھونا
- ۳۳۲..... حالت احرام میں دانتوں سے خون نکلنے کا کیا حکم ہے؟
- ۳۳۲..... احرام کے سر پر لگنے، ٹیکے پر سونے، احرام سے آنکھ کا پانی صاف کرنے کا احرام پر اثر اور اس کا ازالہ
- ۳۳۳..... کیا ہر مرتبہ عمرہ کے لئے احرام دھونا پڑے گا؟
- ۳۳۳..... احرام کی چادر استعمال کے بعد کسی کو بھی دے سکتے ہیں

- ۳۳۳ ..... احرام کو تولیہ کی جگہ استعمال کرنا  
 ۳۳۳ ..... احرام کے کپڑے کو بعد میں دوسری جگہ استعمال کرنا

## طواف

- ۳۳۴ ..... حرم شریف کی تحیۃ المسجد طواف ہے  
 ۳۳۴ ..... طواف سے پہلے سعی کرنا  
 ۳۳۴ ..... اذان شروع ہونے کے بعد طواف شروع کر دیا  
 ۳۳۵ ..... بیت اللہ میں اذان مغرب اور نماز مغرب کے درمیان طواف کا دو گانہ پڑھنا  
 ۳۳۵ ..... طواف کے دوران ایذا رسانی  
 ۳۳۵ ..... دوران طواف عورتوں کا ٹکرا جانا  
 ۳۳۵ ..... حجرِ اسود کے استلام کا طریقہ  
 ۳۳۶ ..... حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کا بوسہ لینا  
 ۳۳۶ ..... حجرِ اسود کی توہین  
 ۳۳۷ ..... طواف کے ہر چکر میں نئی دعا پڑھنا ضروری نہیں  
 ۳۳۷ ..... اضطباع ساتوں چکروں میں ہے  
 ۳۳۸ ..... طواف کے چودہ چکر لگانا  
 ۳۳۹ ..... بیت اللہ کی دیوار کو چومنا مکروہ اور خلافِ ادب ہے  
 ۳۳۹ ..... طوافِ عمرہ کا ایک چکر حطیم کے اندر سے کیا تو دم واجب ہے  
 ۳۳۹ ..... مقامِ ابراہیم پر نماز واجب الطواف ادا کرنا  
 ۳۴۰ ..... طواف کی دو رکعت نفل کیا مقامِ ابراہیم پر ادا کرنا ضروری ہے؟  
 ۳۴۰ ..... ہر طواف کی دو نفل غیر ممنوع اوقات میں ادا کرنا  
 ۳۴۱ ..... دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟  
 ۳۴۱ ..... طواف میں بار بار وضو ٹوٹے تو کیا کیا جائے؟  
 ۳۴۱ ..... عمرہ کے طواف کے دوران ایام آنے والی لڑکی کیا کرے؟  
 ۳۴۲ ..... معذور شخص طواف اور دو گانہ نفل کا کیا کرے؟  
 ۳۴۲ ..... آبِ زم زم پینے کا طریقہ

## حج کے اعمال

- ۳۴۳..... حج کے ایام میں دوسرے کو تلبیہ کہلوانا
- ۳۴۳..... ان پڑھ والدین کو حج کس طرح کرائیں؟
- ۳۴۴..... حرم اور حرم سے باہر صفوں کا شرعی حکم
- ۳۴۴..... جن لوگوں کو حج کی دعائیں یاد نہ ہوں وہ کیا کریں؟
- ۳۴۴..... کیا عورتوں کو حرم شریف، مسجد نبوی میں جانا جائز ہے؟
- ۳۴۴..... دوران حج میاں بیوی کی ناراضی
- ۳۴۵..... حج کے دوران عورتوں کے لئے احکام
- ۳۴۶..... عورت کا باریک دوپٹہ پہن کر حرمین شریفین آنا
- ۳۴۷..... حج کے مبارک سفر میں عورتوں کے لئے پردہ
- ۳۴۸..... حج و عمرہ کے دوران ایام حیض کو دوا سے بند کرنا
- ۳۴۸..... حاجی، مکہ، منیٰ، عرفات اور مزدلفہ میں مقیم ہوگا یا مسافر؟
- ۳۴۹..... آٹھویں ذوالحجہ کو کس وقت منیٰ جانا چاہئے؟
- ۳۵۰..... دس اور گیارہ ذوالحجہ کی درمیانی رات منیٰ کے باہر گزارنا خلاف سنت ہے
- ۳۵۰..... منیٰ کی حدود سے باہر قیام کیا تو حج ہو یا نہیں؟
- ۳۵۰..... پاکستانی حجاج منیٰ اور عرفات میں پوری نماز پڑھیں گے یا قصر؟
- ۳۵۱..... حاجی، منیٰ اور عرفات میں نماز قصر کرے یا پوری پڑھے؟
- ۳۵۱..... حج اور عمرہ میں قصر نماز
- ۳۵۱..... عرفات، منیٰ، مکہ مکرمہ میں نماز قصر پڑھنا
- ۳۵۲..... وقوف عرفہ کی نیت کب کرنی چاہئے؟
- ۳۵۳..... میدان عرفات اور نماز قصر
- ۳۵۳..... عرفات کے میدان میں ظہر و عصر کی نماز قصر کیوں کی جاتی ہے؟
- ۳۵۳..... عرفات میں نماز ظہر و عصر جمع کرنے کی شرط
- ۳۵۳..... کیا عرفات میں نماز ظہر، نماز عصر اکیلے پڑھنے والا دونوں کو الگ الگ پڑھے؟
- ۳۵۳..... عرفات سے عصر کے بعد ہی نکلنا کیسا ہے؟

- ۳۵۵..... عرفات میں ظہر و عصر اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء یکجا پڑھنا
- ۳۵۶..... مزدلفہ اور عرفات میں نمازیں جمع کرنا اور ادا کرنے کا طریقہ
- ۳۵۷..... مزدلفہ میں نمازِ مغرب و عشاء کو جمع کرنا
- ۳۵۷..... کیا مزدلفہ میں نمازِ مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھنے کے لئے جماعت ضروری ہے؟
- ۳۵۷..... رش کی وجہ سے مزدلفہ میں ۱۰/۱۰ الحجہ کی فجر کے وقت پہنچنے سے مغرب و عشاء قضا ہوگئی تو کیا کرے؟
- ۳۵۸..... مزدلفہ میں وتر اور سنتیں پڑھنے کا حکم
- ۳۵۸..... مزدلفہ کا وقوف کب ہوتا ہے؟ اور وادیِ محسر میں وقوف کرنا اور نماز ادا کرنا
- ۳۵۹..... دورانِ حج مزدلفہ میں قیام ضروری ہے
- ۳۵۹..... مزدلفہ کے وقوف کا ترک ہو جانا
- ۳۵۹..... یوم النحر کے کن افعال میں ترتیب واجب ہے؟
- ۳۶۰..... دم کہاں ادا کیا جائے؟

## رَمی

### (شیطان کو کنکریاں مارنا)

- ۳۶۲..... شیطان کو کنکریاں مارنے کی کیا علت ہے؟
- ۳۶۲..... اگر جمرات کے لئے مزدلفہ سے کنکریاں نہ لے تو کیا کرے؟
- ۳۶۲..... شیطان کو کنکریاں مارنے کا وقت
- ۳۶۳..... رات کے وقت رَمی کرنا
- ۳۶۳..... رَمی جمار میں ترتیب بدل دینے سے دم واجب نہیں ہوتا
- ۳۶۳..... اگر کسی نے تینوں دن کی رَمی چھوڑ دی تو کتنے دم واجب ہوں گے؟
- ۳۶۳..... اگر مزدلفہ کا قیام نہ ہو سکے اور قربانی، رَمی، حلق کی ترتیب تبدیل ہوگئی ہو تو دو دم آئیں گے
- ۳۶۵..... دسویں ذی الحجہ کو مغرب کے وقت رَمی کرنا
- ۳۶۵..... کسی سے کنکریاں مروانا
- ۳۶۶..... کیا ہجوم کے وقت خواتین کی کنکریاں دوسرا مار سکتا ہے؟
- ۳۶۶..... وزارتِ مذہبی امور کا کتابچہ
- ۳۶۷..... جمرات کی رَمی کرنا

- ۳۶۸..... بیمار یا کمزور آدمی کا دوسرے سے رمی کروانا
- ۳۶۸..... ۱۰ ارذی الحجہ کو رمی ریش کی وجہ سے نہ کر سکے تو کیا کرے؟
- ۳۶۸..... دس ذوالحجہ کو رمی جمار کے لئے کنکریاں دوسرے کو دے کر چلے آنا جائز نہیں
- ۳۶۹..... بیمار اہلیہ کی طرف سے رمی کرنا
- ۳۷۰..... ۱۲ ارذی الحجہ کو زوال سے پہلے رمی کرنا درست نہیں
- ۳۷۱..... عورتوں اورضعفاء کا بارہویں اور تیرہویں کی درمیانی شب میں رمی کرنا
- ۳۷۱..... تیرہویں کو صبح سے پہلے منی سے نکل جائے تو رمی لازم نہیں

## حج کے دوران قربانی

- ۳۷۲..... کیا حاجی پر عید کی قربانی بھی واجب ہے؟
- ۳۷۲..... حج کے موقع پر کتنا مال ہو تو قربانی کرنا واجب ہے؟
- ۳۷۳..... کیا دوران حج مسافر کو قربانی معاف ہے؟
- ۳۷۳..... حج افراد میں قربانی نہیں، چاہے پہلا ہو یا دوسرا، تیسرا
- ۳۷۳..... حج میں قربانی کریں یا دم شکر؟
- ۳۷۳..... رمی مؤخر ہونے پر قربانی بھی بعد میں ہوگی
- ۳۷۳..... کسی ادارے کو رقم دے کر قربانی کروانا
- ۳۷۵..... حج کی قربانی کس جگہ کی جاسکتی ہے؟
- ۳۷۵..... حاجی کا قربانی کے لئے کسی جگہ رقم جمع کروانا
- ۳۷۶..... بینک کے ذریعے قربانی کروانا
- ۳۷۷..... ایک قربانی پر دو دعویٰ کریں تو پہلے خریدنے والے کی شمار ہوگی
- ۳۷۷..... حاجی کس قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے؟

## حلق

### (بال منڈوانا)

- ۳۷۹..... رمی جمار کے بعد سر منڈانا

- ۳۷۹..... احرام کھولنے کا طریقہ
- ۳۸۰..... بار بار عمرہ کرنے والے کے لئے حلق لازم ہے
- ۳۸۰..... حج و عمرہ میں کتنے بال کٹوائیں؟
- ۳۸۲..... سعی کے بعد بال نہ کٹوانے والی عورت کے لئے کیا حکم ہے؟
- ۳۸۳..... احرام کی حالت میں کسی دوسرے کے بال کا ثنا
- ۳۸۳..... شوہر یا باپ کا اپنی بیوی یا بیٹی کے بال کا ثنا

### طواف زیارت و طواف وداع

- ۳۸۳..... طواف زیارت، رمی، ذبح وغیرہ سے پہلے کرنا مکروہ ہے
- ۳۸۳..... کیا ضعیف مرد یا عورت ۷ یا ۸ رذوالحجہ کو طواف زیارت کر سکتے ہیں؟
- ۳۸۵..... کیا طواف زیارت میں رمل، اضطباع کیا جائے گا؟
- ۳۸۵..... طواف زیارت سے قبل میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا
- ۳۸۵..... طواف زیارت سے پہلے جماع کرنے سے اونٹ یا گائے کا دم دے
- ۳۸۶..... خواتین کو طواف زیارت ترک نہیں کرنا چاہئے
- ۳۸۶..... عورت کا ایام خاص کی وجہ سے بغیر طواف زیارت کے آنا
- ۳۸۷..... عورت ناپاکی یا اور کسی وجہ سے طواف زیارت نہ کر سکے تو حج نہ ہوگا
- ۳۸۷..... طواف زیارت اگر ۱۲ رذوالحجہ سے پہلے نہ کر سکے تو کیا کرے؟
- ۳۸۷..... طواف زیارت میں تاخیر کا دم
- ۳۸۸..... طواف وداع کب کیا جائے؟
- ۳۸۸..... طواف وداع کا مسئلہ
- ۳۸۹..... طواف وداع میں رمل، اضطباع اور سعی ہوگی یا نہیں؟
- ۳۹۰..... سعی ۱۲ رذی الحجہ کے بعد کرنے والے پر دم یا کفارہ تو نہیں؟

### مدینہ منورہ کی حاضری

- ۳۹۱..... زیارتِ روضہ اطہر اور حج
- ۳۹۱..... مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا اور شفاعت کی درخواست کرنا
- ۳۹۲..... مسجد نبوی (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) میں چالیس نمازیں



## حج کے متفرق مسائل

- ۳۹۳..... حقانی صاحب کی حج تجاویز.....
- ۳۹۷..... حج و عمرہ کے بعد بھی گناہوں سے نہ بچے تو گویا اس کا حج مقبول نہیں ہوا.....
- ۳۹۸..... حج کے بعد اعمال میں سستی آئے تو کیا کریں؟.....
- ۳۹۸..... جمعہ کے دن حج اور عید کا ہونا سعادت ہے.....
- ۳۹۸..... ”حج اکبر“ کی فضیلت.....
- ۳۹۹..... حج کے ثواب کا ایصالِ ثواب.....
- ۳۹۹..... کیا حجرِ اسود جنت سے ہی سیاہ رنگ کا آیا تھا؟.....
- ۳۹۹..... حرمین شریفین کے ائمہ کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بڑی محرومی ہے.....
- ۴۰۰..... حج صرف مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے.....
- ۴۰۰..... کیا لڑکی کا رخصتی سے پہلے حج ہو جائے گا؟.....
- ۴۰۰..... حاجی کو دریاؤں کے کن جانوروں کا شکار جائز ہے؟.....
- ۴۰۱..... حدودِ حرم میں جانور ذبح کرنا.....
- ۴۰۱..... سانپ بچھو وغیرہ کو حرم میں، اور حالتِ احرام میں مارنا.....
- ۴۰۱..... حج کے دوران تصویر بنوانا.....
- ۴۰۲..... بیجراہ کی زندگی گزارنے سے توبہ اور حرام رقم سے حج.....
- ۴۰۲..... حرم میں چھوڑے ہوئے جوتوں اور چپلوں کا شرعی حکم.....
- ۴۰۳..... حج کے دنوں میں غیر قانونی طور پر گاڑی کرایہ پر چلانا.....
- ۴۰۳..... بغیر اجازت کے کمپنی کی گاڑی وغیرہ حج کے لئے استعمال کرنا.....
- ۴۰۳..... حاجیوں کا تحفے تحائف دینا.....
- ۴۰۴..... حج کے ویسے کی شرعی حیثیت.....
- ۴۰۴..... ادا نیگی حج کا عقیقہ.....
- ۴۰۴..... حج کرنے کے بعد ”حاجی“ کہلانا اور نام کے ساتھ لکھنا.....
- ۴۰۴..... حاجیوں کا استقبال کرنا شرعاً کیسا ہے؟.....

## عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے مسائل کی تفصیل

- ۴۰۶..... فضائل قربانی
- ۴۰۷..... قربانی کس پر واجب ہے؟
- ۴۰۹..... قربانی کا وقت
- ۴۱۰..... کسی دوسرے کی طرف سے نیت کرنا
- ۴۱۱..... قربانی کن جانوروں کی جائز ہے؟
- ۴۱۳..... قربانی کا گوشت
- ۴۱۴..... چند غلطیوں کی اصلاح
- ۴۱۵..... قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے
- ۴۱۶..... قربانی کی شرعی حیثیت
- ۴۱۶..... قربانی واجب ہے، سنت نہیں
- ۴۱۷..... قربانی کیا صرف حاجی پر ہے؟

## قربانی کس پر واجب ہے؟

- ۴۱۹..... چاندی کے نصاب بھر مالک ہو جانے پر قربانی واجب ہے
- ۴۱۹..... قربانی صاحب نصاب پر ہر سال واجب ہے
- ۴۲۰..... وجوب قربانی کا نصاب
- ۴۲۰..... کیا گنجائش نہ ہونے والے گزشتہ سالوں کی قربانی گنجائش پر کرنی ہوگی؟
- ۴۲۰..... قربانی کے واجب ہونے کی چند اہم صورتیں
- ۴۲۳..... عورت اگر صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے
- ۴۲۳..... میاں کے پاس ایک لاکھ روپے ہوں اور بیوی کے پاس دس تو لے سونا تو دونوں پر قربانی واجب ہے
- ۴۲۴..... میاں بیوی میں سے کس پر قربانی واجب ہے؟
- ۴۲۴..... برسر روزگار صاحب نصاب لڑکے، لڑکی سب پر قربانی واجب ہے چاہے ابھی ان کی شادی نہ ہوئی ہو
- ۴۲۴..... خانہ داری مشترک ہونے کی صورت میں بالغ اولاد کی طرف سے قربانی
- ۴۲۵..... کیا مقروض پر قربانی واجب ہے؟
- ۴۲۵..... قربانی کے بدلے میں صدقہ و خیرات کرنا

- ۴۲۵..... صاحبِ نصاب پر گزشتہ سال کی قربانی ضروری ہے
- ۴۲۶..... نابالغ بچے کی قربانی اس کے مال سے جائز نہیں
- ۴۲۶..... گھر کا سربراہ جس کی طرف سے قربانی کرے گا ثواب اسی کو ملے گا
- ۴۲۷..... بیوہ عورت قربانی اپنی طرف سے کرے یا شوہر کی طرف سے؟
- ۴۲۷..... کیا مرحوم کی قربانی کے لئے اپنی قربانی ضروری ہے؟
- ۴۲۸..... صاحبِ نصاب نے اگر مرحوم والد کی طرف سے قربانی کر دی اور اپنی نہ کی تو اس کے ذمے باقی ہے
- ۴۲۸..... مرحوم والدین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دینا
- ۴۲۸..... مہنگائی کی وجہ سے قربانی نہ کرنے والا کیا کرے؟
- ۴۲۹..... اگر کفایت کر کے جانور خرید سکتے ہیں تو قربانی ضرور کریں
- ۴۲۹..... فوت شدہ آدمی کی طرف سے کس طرح قربانی دیں؟
- ۴۲۹..... اپنی قربانی کرنے کے بجائے اپنے والد کی طرف سے قربانی کرنا
- ۴۳۰..... مرحوم والدین کی طرف سے قربانی دینا
- ۴۳۰..... زکوٰۃ نہ دینے والے کا قربانی کرنا
- ۴۳۰..... جس پر قربانی واجب نہ ہو، وہ کرے تو اسے بھی ثواب ہوگا
- ۴۳۱..... قربانی کے بجائے پیسے خیرات کرنا
- ۴۳۱..... کیا قربانی کا گوشت خراب کرنے کے بجائے اتنی رقم صدقہ کر دیں؟
- ۴۳۲..... قربانی کا جانور اگر فروخت کر دیا تو رقم کو کیا کرے؟
- ۴۳۲..... سات سال مسلسل قربانی واجب ہونے کی بات غلط ہے
- ۴۳۲..... بقر عید پر جانور مہنگے ہونے کی وجہ سے قربانی کیسے کریں؟

## ایام قربانی

- ۴۳۴..... قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں؟
- ۴۳۴..... قربانی دسویں، گیارہویں اور بارہویں ذی الحجہ کو کرنی چاہئے
- ۴۳۴..... شہر میں نماز عید سے قبل قربانی کرنا صحیح نہیں
- ۴۳۵..... قربانی کرنے کا صحیح وقت

## کن جانوروں کی قربانی جائز ہے یا ناجائز؟

- ۴۳۶..... کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟
- ۴۳۷..... قربانی کا بکر ایک سال کا ہونا ضروری ہے، دو دانت ہونا علامت ہے
- ۴۳۸..... قربانی کے جانور کی عمر کا حساب کیسے ہوگا؟
- ۴۳۸..... کیا پیدائشی عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے؟
- ۴۳۸..... گا بھن جانور کی قربانی کرنا
- ۴۳۹..... اگر قربانی کے جانور کا سینگ ٹوٹ جائے؟
- ۴۳۹..... جانور کو خصی کرنا
- ۴۳۹..... کیا خصی جانور عیب دار ہوتا ہے؟
- ۴۴۰..... خصی بکرے کی قربانی دینا جائز ہے
- ۴۴۰..... خصی جانور کی قربانی کی علمی بحث
- ۴۴۲..... قربانی کے جانور کے بچے ہونے پر کیا کرے؟
- ۴۴۲..... قربانی کا جانور گم ہو جائے تو کیا کرے؟

## قربانی کے حصے دار

- ۴۴۳..... پوری گائے دو حصے دار بھی کر سکتے ہیں
- ۴۴۳..... مشترک خرید ہوا بکر قربانی کرنا
- ۴۴۳..... جانور ذبح ہو جانے کے بعد قربانی کے حصے تبدیل کرنا جائز نہیں
- ۴۴۴..... ایک گائے میں چند زندہ اور مرحوم لوگوں کے حصے ہوں تو قربانی کا کیا طریقہ ہے؟

## قربانی کے لئے دُعا

- ۴۴۵..... جانور ذبح کرتے وقت کی دُعا
- ۴۴۵..... جانور ذبح کرنے کے بعد کی دُعا
- ۴۴۵..... قربانی کے بعد کی دُعا کا ثبوت
- ۴۴۶..... قربانی کے ثواب میں دوسرے مسلمانوں کی شرکت

## ذبح کرنے اور گوشت سے متعلق مسائل

- ۴۴۸..... بسم اللہ کے بغیر ذبح شدہ جانور کا شرعی حکم
- ۴۴۸..... مسلمان قصائی ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھتے ہوں یا نہیں؟ یہ شک غلط ہے
- ۴۴۹..... قصاب سے قربانی کا جانور ذبح کروانا
- ۴۴۹..... آداب قربانی
- ۴۵۰..... قربانی کا مسنون طریقہ
- ۴۵۰..... قربانی کا جانور کس طرح لٹانا چاہئے؟
- ۴۵۰..... جانور ذبح کرتے وقت ”اللہ اکبر“ کہنا
- ۴۵۱..... بائیں ہاتھ سے جانور ذبح کرنا خلاف سنت ہے
- ۴۵۱..... کیا چھری کے ساتھ دستہ اور چھری میں تین سوراخ ہونا ضروری ہے؟
- ۴۵۱..... بغیر دستے کی چھری سے ذبح کرنا
- ۴۵۱..... مغرب کے بعد جانور ذبح کرنا
- ۴۵۲..... عورت کا ذبیحہ حلال ہے
- ۴۵۲..... مشین کے ذریعہ ذبح کیا ہوا گوشت صحیح نہیں
- ۴۵۲..... سر پر چوٹ مار کر مشین سے مرغی ذبح کرنا غلط ہے
- ۴۵۳..... قادیانیوں کا ذبیحہ اور دوسری چیزیں کھانا
- ۴۵۳..... غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ گوشت حلال نہیں ہے
- ۴۵۳..... اگر مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق گوشت مہیا نہ ہو تو کھانا جائز نہیں
- ۴۵۴..... سعودی عرب میں فروخت ہونے والے گوشت کا استعمال
- ۴۵۵..... کیا مسلمان، غیر مسلم مملکت میں حرام گوشت استعمال کر سکتے ہیں؟
- ۴۵۶..... ہوٹلوں میں مرغی کا گوشت
- ۴۵۷..... فرانس سے درآمد شدہ مرغی کا گوشت کھانا
- ۴۵۷..... آسٹریلیا سے درآمد کردہ بھیڑوں کا گوشت استعمال کرنا
- ۴۵۸..... آسٹریلیا سے درآمد شدہ گوشت استعمال کرنا
- ۴۵۸..... سری جہاز پر عیسائی کے ہاتھ کا ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانا

۴۵۹..... بازار کے گوشت کے کباب استعمال کرنا

## قربانی کا گوشت

- ۴۶۰..... قربانی کے گوشت کی تقسیم
- ۴۶۰..... قربانی کے بکرے کی رانیں گھر میں رکھنا
- ۴۶۱..... قربانی کا گوشت شادی میں کھلانا
- ۴۶۱..... کیا سارا گوشت خود کھانے والوں کی قربانی ہو جاتی ہے؟
- ۴۶۱..... قربانی کے گوشت کا اشاک جائز ہے
- ۴۶۲..... قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا
- ۴۶۲..... منت کی قربانی کا گوشت صرف غریب لوگ کھا سکتے ہیں

## قربانی کی کھالوں کے مصارف

- ۴۶۳..... چرمہائے قربانی، مدارس عربیہ کو دینا
- ۴۶۳..... کھال کیسے ادارے کو دے سکتے ہیں؟
- ۴۶۴..... قصائی کا قربانی کی کھال کو اپنے پاس رکھ لینا
- ۴۶۴..... قربانی کی کھال گوشت کی طرح ہر کسی کو دے سکتے ہیں
- ۴۶۴..... امام مسجد کو چرم قربانی دینا کیسا ہے؟
- ۴۶۵..... صاحب حیثیت امام کو قربانی کی کھالیں اور صدقہ فطر دینا
- ۴۶۵..... چرم قربانی یا صدقہ فطر اگر غریب آدمی لے کر بخوشی مسجد و مدرسہ کو دے تو جائز ہے
- ۴۶۵..... فلاحی کاموں کے لئے قربانی کی کھالیں جمع کرنا
- ۴۶۶..... قربانی کی کھالوں کی رقم سے مسجد کی تعمیر صحیح نہیں
- ۴۶۶..... اشاعت کتب میں چرم قربانی کی رقم لگانا
- ۴۶۶..... مسجد سے متصل دکانوں میں چرم قربانی کی رقم خرچ کرنا
- ۴۶۷..... طالب علم کو دنیاوی اعلیٰ تعلیم کے لئے چرم قربانی کی خطیر رقم دینا

## غیر مسلم کے ذبیحے کا حکم

- ۴۶۹..... مسلمان اور کتابی کا ذبیحہ جائز ہے، مرتد و دہریے اور جھٹکے کا ذبیحہ جائز نہیں

- ۴۶۹..... کن اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے؟
- ۴۷۱..... یہودی کا ذبیحہ جائز ہونے کی شرائط
- ۴۷۱..... یہودی کا ذبیحہ استعمال کریں یا عیسائی کا؟
- ۴۷۱..... روافض کے ذبیحے کا کیا حکم ہے؟

## قربانی کے متفرق مسائل

- ۴۷۳..... جانور اُدھار لے کر قربانی کرنا
- ۴۷۳..... سودی قرضے سے قربانی کرنا
- ۴۷۴..... قسطوں پر قربانی کے بکرے
- ۴۷۴..... غریب کا قربانی کا جانور اچانک بیمار ہو جائے تو کیا کرے؟
- ۴۷۴..... قربانی کا بکر خریدنے کے بعد مر جائے تو کیا کرے؟
- ۴۷۵..... جس شخص کا عقیقہ نہ ہوا ہو، کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟
- ۴۷۵..... لاعلمی میں ذنبہ کے بجائے بھیڑ کی قربانی
- ۴۷۵..... حلال خون اور حلال مردار کی تشریح
- ۴۷۶..... ذبح شدہ جانور کے خون کے چھینٹوں کا شرعی حکم
- ۴۷۶..... قربانی کے خون میں پاؤں ڈبونا
- ۴۷۶..... قربانی کرنے سے خون آلودہ کپڑوں میں نماز جائز نہیں
- ۴۷۷..... قربانی کے جانور کی چربی سے صابن بنانا جائز ہے

## عقیقہ

- ۴۷۸..... عقیقے کی اہمیت
- ۴۷۸..... عقیقے کا عمل سنت ہے یا واجب
- ۴۷۸..... بالغ لڑکی لڑکے کا عقیقہ ضروری نہیں اور نہ بال منڈانا ضروری ہے
- ۴۷۹..... عقیقے کے جانور کی رقم صدقہ کرنے سے عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی
- ۴۷۹..... بچوں کا عقیقہ ماں اپنی تنخواہ سے کر سکتی ہے
- ۴۷۹..... اپنے عقیقے سے پہلے بچی کا عقیقہ کرنا
- ۴۸۰..... قرض لے کر عقیقہ اور قربانی کرنا

- ۴۸۰..... عقیقہ امیر کے ذمہ ہے یا غریب کے بھی؟
- ۴۸۰..... غریب کے بچے بغیر عقیقے کے مر گئے تو کیا کرے؟
- ۴۸۱..... دس کلو قیمہ منگوا کر دعوتِ عقیقہ کرنا
- ۴۸۱..... رشتہ دار کی خبر گیری پر خرچ کو عقیقے پر ترجیح دی جائے
- ۴۸۲..... کن جانوروں سے عقیقہ جائز ہے؟
- ۴۸۲..... لڑکے کے عقیقے میں دو بکروں کی جگہ ایک بکر ادینا
- ۴۸۲..... لڑکے اور لڑکی کے لئے کتنے بکرے عقیقے میں دیں؟
- ۴۸۲..... تحفے کے جانور سے عقیقہ جائز ہے
- ۴۸۳..... قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھنا
- ۴۸۳..... عقیقے کے متعلق ائمہ اربعہ کا مسلک
- ۴۸۸..... بڑی عمر میں اپنا عقیقہ خود کر سکتے ہیں، عقیقہ نہ کیا ہو تو بھی قربانی جائز ہے
- ۴۸۸..... شوہر کا بیوی کی طرف سے عقیقہ کرنا
- ۴۸۸..... ساتویں دن عقیقہ دوسری جگہ بھی کرنا جائز ہے
- ۴۸۹..... کئی بچوں کا ایک ساتھ عقیقہ کرنا
- ۴۸۹..... مختلف دنوں میں پیدا شدہ بچوں کا ایک ہی دن عقیقہ جائز ہے
- ۴۸۹..... اگر کسی کو پیدائش کا دن معلوم نہ ہو تو وہ عقیقہ کیسے کرے؟
- ۴۹۰..... عقیقے کے وقت بچے کے سر کے بال اتارنا
- ۴۹۰..... عقیقے کا گوشت والدین کو استعمال کرنا جائز ہے
- ۴۹۰..... عقیقے کے گوشت میں ماں، باپ، دادا، دادی کا حصہ
- ۴۹۰..... سات دن کے بعد عقیقہ کیا تو اس کے گوشت کا حکم
- ۴۹۱..... عقیقے کے سلسلے میں بعض ہندوانہ رسوم کفر و شرک تک پہنچا سکتی ہیں

## حلال اور حرام جانوروں کے مسائل

### شکار

- ۴۹۲..... حلال و حرام جانوروں کو شکار کرنا
- ۴۹۲..... نشانہ بازی کے لئے جانوروں کا شکار کرنا



- ۴۹۳..... کتے کا شکار کیا حکم رکھتا ہے؟
- ۴۹۳..... شارٹ گن سے کیا ہوا شکار
- ۴۹۳..... بندوق سے شکار
- ۴۹۴..... بندوق، غلیل، شکاری کتے کے شکار کا شرعی حکم
- ۴۹۵..... گورنمنٹ کی پابندی لگائے ہوئے جانوروں کا شکار
- ۴۹۵..... رات کو پرندوں کا شکار کرنا

## خشکی کے جانوروں اور متعلقات کا شرعی حکم

- ۴۹۶..... گھوڑا، خچر اور کبوتر کا شرعی حکم
- ۴۹۶..... گھوڑے کا گوشت
- ۴۹۷..... کیا جانوروں کے منہ کا جھاگ ناپاک ہے؟
- ۴۹۷..... خرگوش حلال ہے
- ۴۹۷..... گدھی کا دودھ حرام ہے
- ۴۹۸..... کم عمر جانور ذبح کرنا جائز ہے
- ۴۹۸..... بھینس کا نوزائیدہ بچہ ذبح کر کے کھانا
- ۴۹۸..... دو تین ماہ کا بکری، بھیڑ کا بچہ ذبح کرنا
- ۴۹۸..... ذبح شدہ جانور کے پیٹ سے بچہ نکلے تو کیا کرے؟
- ۴۹۹..... حشرات الارض کا کھانا
- ۴۹۹..... ”خارپشت“ نامی جانور کو کھانا جائز نہیں
- ۴۹۹..... حشرات الارض کو مارنا
- ۵۰۰..... موذی جانوروں اور حشرات کو مارنا
- ۵۰۰..... مکھیوں اور مچھروں کو برقی رو سے مارنا جائز ہے
- ۵۰۰..... جانور کی کھال کی ٹوپی کا شرعی حکم
- ۵۰۱..... کتے کے دانتوں کا ہار پہننا
- ۵۰۱..... سوری ہڈی استعمال کرنا
- ۵۰۱..... حرام جانوروں کی رنگی ہوئی کھال کی مصنوعات پاک ہیں سوائے خنزیر کے

- ۵۰۱..... جانور سخت بیمار ہو جائے یا حادثے سے قریب المرگ ہو جائے تو اسے ذبح کر کے کھانا  
۵۰۱..... بکری وغیرہ مر جائے تو اس کی کھال اتارنا کیسا ہے؟

## دریائی جانوروں کا شرعی حکم

- ۵۰۲..... دریائی جانوروں کا حکم  
۵۰۲..... کیا سب دریائی جانور حلال ہیں؟  
۵۰۳..... پانی اور خشکی کے کون سے جانور حلال ہیں؟  
۵۰۳..... جھینگا کھانا اور اس کا کاروبار کرنا  
۵۰۳..... جھینگا حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے  
۵۰۲..... سطح آب پر آنے والی مردہ مچھلیوں کا حکم  
۵۰۵..... کیڑا حلال نہیں  
۵۰۵..... کچھوے کے انڈے حرام ہیں

## پرندوں اور ان کے انڈوں کا شرعی حکم

- ۵۰۶..... بگلا اور غیر شکاری پرندے بھی حلال ہیں  
۵۰۶..... کبوتر کھانا حلال ہے  
۵۰۶..... بطن حلال ہے  
۵۰۷..... مور کا گوشت حلال ہے  
۵۰۷..... کیا انڈا حرام ہے؟  
۵۰۷..... انڈا حلال ہے  
۵۰۸..... پولٹری فارم کی مرغی اور انڈا حلال ہے؟  
۵۰۸..... فارمی مرغی کے کھانے کا حکم  
۵۰۸..... پرندے پالنا اور ان کی جنس تبدیل کرنا  
۵۰۹..... پرندے پالنا جائز ہے  
۵۰۹..... حلال پرندے کو شوقیہ پالنا جائز ہے

## تلی، اوجھڑی، کپورے وغیرہ کا شرعی حکم

- ۵۱۰..... حلال جانور کی سات مکروہ چیزیں
- ۵۱۰..... کلیجی حلال ہے
- ۵۱۱..... تلی کھانا جائز ہے
- ۵۱۱..... حلال جانور کی اوجھڑی حلال ہے
- ۵۱۱..... گردے، کپورے اور ٹنڈی حلال ہے یا حرام؟
- ۵۱۱..... بکرے کے کپورے کھانا اور خرید و فروخت کرنا
- ۵۱۲..... کپورے دوا کے طور پر کھانا
- ۵۱۲..... کپوروں والے توے پر کلیجی، بھیجا بھنا ہو کھانا

## کتا پالنا

- ۵۱۳..... کتا پالنا شرعاً کیسا ہے؟
- ۵۱۳..... کتا پالنا اور کتے والے گھر میں فرشتوں کا نہ آنا
- ۵۱۴..... کیا کتا انسانی مٹی سے بنایا گیا ہے؟ اور اس کا پالنا کیوں منع ہے؟
- ۵۱۵..... کتا کیوں نجس ہے؟ جبکہ وہ وفادار بھی ہے
- ۵۱۶..... مسلمان ملکوں میں کتوں کی نمائش
- ۵۱۷..... کتار کھنے کے لئے اصحابِ کہف کے کتے کا حوالہ غلط ہے

## قسم کھانے کے مسائل

## قسم کھانے کی مختلف صورتیں

- ۵۱۹..... کون سی قسم میں کفارہ لازم آتا ہے اور کس میں نہیں آتا؟
- ۵۲۰..... نیک مقصد کے لئے سچی قسم کھانا جائز ہے
- ۵۲۰..... قرآن مجید کی قسم کھانا جائز ہے
- ۵۲۰..... قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یا بلار کھے قسم اٹھانا
- ۵۲۱..... جانبین کا جھگڑا ختم کرنے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر رقم اٹھالینا
- ۵۲۱..... قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنے والے کو گناہ ہوگا، نہ کہ فیصلہ کرنے والے کو

- ۵۲۱..... ”کلمہ شہادت پڑھ کر کہتا ہوں کہ کام نہیں کروں گا“ لیکن پھر کر لیا تو کیا کفارہ ہے؟
- ۵۲۲..... اللہ اور قرآن کی جھوٹی قسمیں کھانا
- ۵۲۲..... لفظ ”بخدا“ یا ”واللہ“ کے ساتھ قسم ہو جائے گی
- ۵۲۲..... رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا جائز نہیں
- ۵۲۳..... ”یہ کروں تو حرام ہے“ کہنے سے قسم ہو جاتی ہے، جس کے خلاف کرنے پر کفارہ ہے
- ۵۲۳..... کافر ہونے کی قسم کھانا

### جھوٹی قسم کا کفارہ استغفار ہے

- ۵۲۴..... جھوٹی قسم کھانے کا کفارہ سوائے توبہ استغفار کے کچھ نہیں
- ۵۲۴..... بھائی کے فائدے کے لئے جھوٹا حلف اٹھانے کا کفارہ
- ۵۲۵..... جھوٹے حلف نامے کا کفارہ
- ۵۲۶..... جھوٹی قسم
- ۵۲۶..... کسی حقیقی مجرم کے خلاف بن دیکھے جھوٹی گواہی دینا
- ۵۲۷..... جھوٹی قسم اٹھانا سخت گناہ ہے، کفارہ اس کا توبہ ہے
- ۵۲۷..... جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے
- ۵۲۸..... جبراً قرآن اٹھانے کا کفارہ
- ۵۲۸..... مجبوراً اٹھائی ہوئی جھوٹی قسم کا کفارہ
- ۵۲۸..... سودا بیچنے کے لئے جھوٹی قسم کھانا
- ۵۲۹..... زبردستی قرآن اٹھوانے والے بھائی سے قطع تعلق کرنا

### قسم توڑنے کا کفارہ

- ۵۳۱..... قسم توڑنے کے کفارہ کے روزے لگاتا رکھنا ضروری ہے
- ۵۳۱..... قسم کے کفارہ کا کھانا دس مسکینوں کو وقفے وقفے سے دے سکتے ہیں
- ۵۳۱..... قسم کے کفارہ کا کھانا بیس تیس مسکینوں کو اکٹھے کھلا دینا
- ۵۳۲..... قسم کا کفارہ کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا اور کس طرح کھلانا ہے؟
- ۵۳۲..... نابالغ پر قسم توڑنے کا کفارہ نہیں

## مختلف قسمیں جن سے کفارہ واجب ہوا

- ۵۳۳..... قسم خواہ کسی کے مجبور کرنے پر کھائی ہو کفارہ ادا کرنا ہوگا
- ۵۳۳..... قسم کا کفارہ قسم توڑنے کے بعد ہوتا ہے
- ۵۳۳..... ایک مہینے کی قسم کھائی اور مہینہ گزرنے کے بعد وہ کام کر لیا
- ۵۳۳..... کسی کی گھریلو زندگی بچانے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر غلط بیانی کرنے کا کفارہ
- ۵۳۳..... اپنے ہاتھ میں پنج سورہ لے کر کسی عورت سے کہنا کہ ”کہو تم میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرو گی“ کا کیا کفارہ ہے؟
- ۵۳۵..... قرآن پر ہاتھ رکھ کر شوہر سے کہنا کہ: ”اگر آپ ابھی رات کو گئے تو میں کیڑے مار دو کھالوں گی“ پھر نہیں کھائی
- ۵۳۵..... کسی اہم مسئلے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانا
- ۵۳۵..... جھوٹی قسم کے لئے قرآن ہاتھ میں لینا
- ۵۳۶..... قرآن پاک پر ہاتھ رکھے بغیر زبانی قسم بھی ہو جاتی ہے
- ۵۳۶..... دکان داروں کا قرآن کریم لے کر عہد کرنا کہ کم قیمت پر چیز نہ بیچیں گے، اس کی شرعی حیثیت
- ۵۳۶..... رشوت نہ لینے اور داڑھی نہ کاٹنے کی قسم توڑ دینا
- ۵۳۷..... قرآن پر ہاتھ رکھ کر خدا سے کیا ہوا وعدہ توڑ دینا
- ۵۳۷..... خدا تعالیٰ سے عہد کر کے توڑ دینا بڑی سنگین غلطی ہے
- ۵۳۸..... کسی کاراز فاش نہ کرنے کا عہد کر کے ایسے شخص کو بتانا جس کو پہلے معلوم ہو
- ۵۳۸..... ”تمباکو استعمال نہ کروں گی“ کا عہد کر کے توڑ دیا تو کفارہ ہوگا
- ۵۳۸..... گناہ نہ کرنے کی قسم کا توڑنا
- ۵۳۸..... کسی کام کو باوجود نہ کرنے کی قسم کھانے کے عمد آیا سہواً کر لینا
- ۵۳۹..... کسی کام کے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑنا
- ۵۳۹..... تین دفعہ کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھا کر توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟
- ۵۴۰..... کیا بار بار قسم توڑنے والے کی بخشش نہیں ہوگی؟
- ۵۴۱..... تین قسمیں توڑنے کا کفارہ کیا ہوگا؟
- ۵۴۱..... بیٹے کو گھر سے نکالنے کی قسم توڑنا شرعاً واجب ہے
- ۵۴۲..... بھائی سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی تو اب کیا کرے؟
- ۵۴۲..... شادی نہ کرنے کی قسم کھائی تو شادی کر کے کفارہ ادا کرے

- ۵۴۲..... قرآن مجید سر پر اٹھا کر قسم کھائی کہ میں شادی کروں گا، پھر نہیں کی
- ۵۴۳..... قرآن پر ہاتھ رکھ کر کھائی ہوئی محبت کرنے کی قسم کا کفارہ
- ۵۴۳..... ماموں زاد بھائی سے بہن رہنے کی قسم کھائی تو اب اس سے شادی کیسے کریں؟
- ۵۴۴..... غلط قسم توڑ دیں اور کفارہ ادا کریں
- ۵۴۴..... صحیح قسم پر قائم رہنا چاہئے
- ۵۴۴..... کمپنی میں ٹھیکے پر کام نہ کرنے کی قسم توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟
- ۵۴۵..... ”تمہاری چیز کھاؤں تو خنزیر کا گوشت کھاؤں“ کہنے سے قسم
- ۵۴۶..... کیا یونین کے غلط حلف کو توڑنا جائز ہے؟
- ۵۴۷..... درزی سے کپڑے نہ سلوانے کی قسم کا کیا کروں؟

### کن الفاظ سے قسم نہیں ہوتی؟

- ۵۴۸..... غیر اللہ کی قسم کھانا سخت گناہ ہے
- ۵۴۸..... دل ہی دل میں قسم کھانے سے قسم نہیں ہوتی
- ۵۴۹..... ”تمہیں خدا کی قسم“ کہنے سے قسم لازم نہیں ہوتی
- ۵۴۹..... ماں، باپ یا بچوں کی قسم کھانا حرام ہے
- ۵۴۹..... کسی دوسرے کا خدا کا واسطہ دینے سے قسم نہیں ہوتی
- ۵۵۰..... کسی کو قسم دینا
- ۵۵۰..... بچوں کی قسم کھانا گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہئے
- ۵۵۰..... بچوں کی جان کی قسم کھانا جائز نہیں
- ۵۵۱..... بیٹے کی قسم کھانا جائز نہیں
- ۵۵۱..... ”تمہیں میری قسم“ یا ”دودھ نہیں بخشوں گی“ کہنے سے قسم نہیں ہوتی
- ۵۵۱..... قرآن مجید کی طرف اشارہ کرنے سے قسم نہیں ہوتی
- ۵۵۲..... ”اگر فلاں کام کروں تو اپنی ماں سے زنا کروں“ کے یہودہ الفاظ سے قسم نہیں ہوتی
- ۵۵۲..... غیر مسلم کے ذمہ قرآن پاک کی قسم پوری نہ کرنے کا کفارہ کچھ نہیں



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## زکوٰۃ کے مسائل

### زکوٰۃ، دولت کی تقسیم کا انقلابی نظام

سوال: ... زکوٰۃ سے عوام کو کیا فوائد ہیں؟ یہ بھی ایک قسم کا ٹیکس ہے جس کو رفاہ عامہ پر خرچ کرنا چاہئے، اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالئے۔

جواب: ... میں آپ کے مجمل سوال کو پانچ عنوانات پر تقسیم کرتا ہوں، زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کے فوائد، زکوٰۃ ٹیکس نہیں بلکہ عبادت ہے، زکوٰۃ کے ضروری مسائل اور زکوٰۃ کے مصارف۔

### زکوٰۃ کی فرضیت:

زکوٰۃ، اسلام کا اہم ترین رکن ہے، قرآن کریم میں اس کی بار بار تاکید کی گئی ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں بھی اس کی اہمیت و افادیت اور اس کے ادا نہ کرنے کے وبال کو بہت ہی نمایاں کیا گیا ہے۔

### قرآن کریم میں ہے:

”وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ

(التوبہ: ۳۴، ۳۵)

لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔“

ترجمہ: ... ”جو لوگ سونے اور چاندی کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں

کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن ان سونے، چاندی کے خزانوں کو جہنم کی آگ میں

تپا کر ان کے چہروں، ان کی پشتوں اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، (اور ان سے کہا جائے گا کہ) یہ تھا تمہارا

مال جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا، پس اپنے جمع کئے کی سزا چکھو۔“

حدیث میں ارشاد ہے کہ: ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، ۱: اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں،

اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ۲: نماز قائم کرنا۔ ۳: زکوٰۃ ادا کرنا۔ ۴: بیت اللہ کا حج کرنا۔ ۵: رمضان

المبارک کے روزے رکھنا۔



”قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.“

(رواه البخاري ومسلم واللفظ له ج: ۱ ص: ۳۲)  
 ایک اور حدیث میں ہے کہ: ”جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس نے اس کے شر کو دور کر دیا۔“  
 ”من ادى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره.“ (کنز العمال حدیث: ۱۵۷۷۸، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۶۳، وقال الهیثمی رواه الطبرانی فی الاوسط واسناده حسن وان كان فی بعض رجاله كلام)

ایک اور حدیث میں ہے کہ: ”جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی تھی، اس سے تم سبکدوش ہو گئے۔“

”عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا ادیت زکوة مالک فقد قضیت ما علیک.“ (ترمذی ج: ۱ ص: ۷۸، ابن ماجہ ص: ۱۲۸، مطبوعہ نور محمد کارخانہ راجھی)

ایک اور حدیث میں ہے کہ: ”اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعہ محفوظ کرو، اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو، اور مصائب کے طوفانوں کا دُعا و تضرع سے مقابلہ کرو۔“<sup>(۱)</sup>  
 ایک حدیث میں ہے کہ: ”جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت میں اس کا مال گنجه سانپ کی شکل میں آئے گا، اور اس کی گردن سے لپٹ کر گلے کا طوق بن جائے گا۔“

”عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما من احد لا یؤدی زکوة ماله الا مثل له یوم القیامة شجاعا اقرع حتی یطوق عنقه.“  
 (سنن نسائی ج: ۱ ص: ۳۳۳، سنن ابن ماجہ ص: ۱۲۸، واللفظ له)

اس مضمون کی بہت سی احادیث ہیں، جن میں زکوٰۃ نہ دینے پر قیامت کے دن ہولناک سزاؤں کی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔  
 زکوٰۃ کے فوائد:

حق تعالیٰ شانہ نے جتنے احکام اپنے بندوں کے لئے مقرر فرمائے ہیں ان میں بے شمار حکمتیں ہیں جن کا انسانی عقل احاطہ نہیں کر سکتی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا فریضہ عائد کرنے میں بھی بہت سی حکمتیں رکھی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ نظام ایسا پاکیزہ و مقدس اور اتنا اعلیٰ و ارفع ہے کہ انسانی عقل اس کی بلندیوں تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہے، یہاں چند عام فہم فوائد کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔

۱:۔۔۔ آج پوری دنیا میں سوشلزم کی بات ہو رہی ہے، جس میں غریبوں کی فلاح و بہبود کا نعرہ لگا کر انہیں متمول طبقے کے خلاف

(۱) عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. (مراسيل أبي داود ص: ۸، طبع ايج ايم سعيد).

اُکسایا جاتا ہے، اس تحریک سے غریبوں کا بھلا کہاں تک ہوتا ہے؟ یہ ایک مستقل موضوع ہے، مگر یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امیر و غریب کی یہ جنگ صرف اس لئے پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے متمول طبقے کے ذمہ پسماندہ طبقے کے جو حقوق عائد کئے تھے ان سے انہوں نے پہلو تہی کی، اگر پورے ملک کی دولت کا چالیسواں حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے اور یہ عمل ایک وقتی سی چیز نہ رہے، بلکہ ایک مسلسل عمل کی شکل اختیار کر لے، اور امیر طبقہ کسی ترغیب و تخریص اور کسی جبر و اکراہ کے بغیر ہمیشہ یہ فریضہ ادا کرتا رہے اور پھر اس رقم کی منصفانہ تقسیم مسلسل ہوتی رہے تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ غرباء کو امیروں سے شکایت ہی نہیں رہے گی، اور امیر و غریب کی جس جنگ سے دُنیا جہنم کدہ بنی ہوئی ہے، وہ اس نظام کی بدولت راحت و سکون کی جنت بن جائے گی۔

میں صرف پاکستان کی ملتِ اسلامیہ سے نہیں، بلکہ دُنیا بھر کے انسانوں اور معاشروں سے کہتا ہوں کہ وہ اسلام کے نظامِ زکوٰۃ کو نافذ کر کے اس کی برکات کا مشاہدہ کریں اور سرمایہ دار ملکوں کی جتنی دولت کمیونزم کا مقابلہ کرنے پر صرف ہو رہی ہے وہ بھی اسی مد میں شامل کر لیں۔

۲: ... مال و دولت کی حیثیت انسانی معیشت میں وہی ہے جو خون کی بدن میں ہے، اگر خون کی گردش میں فتور آجائے تو انسانی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات دل کا دورہ پڑنے سے انسان کی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر دولت کی گردش منصفانہ نہ ہو، تو معاشرے کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے، اور کسی وقت بھی حرکتِ قلب بند ہو جانے کا خوف طاری رہتا ہے۔ حق تعالیٰ نے دولت کی منصفانہ تقسیم اور عادلانہ گردش کے لئے جہاں اور بہت سی تدبیریں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ و صدقات کا نظام بھی ہے، اور جب تک یہ نظام صحیح طور پر نافذ نہ ہو اور معاشرہ اس نظام کو پورے طور پر ہضم نہ کر لے تب تک نہ دولت کی منصفانہ گردش کا تصور کیا جاسکتا ہے، اور نہ معاشرہ اختلال و زوال سے محفوظ رہ سکتا ہے۔

۳: ... پورے معاشرے کو ایک اکائی تصور کیجئے، اور معاشرے کے افراد کو اس کے اعضاء سمجھئے، آپ جانتے ہیں کہ کسی حادثے یا صدمے سے کسی عضو میں خون جمع ہو کر منجمد ہو جائے تو وہ گل سڑ کر پھوڑے پھنسی کی شکل میں پیپ بن کر بہ نکلتا ہے۔ اسی طرح جب معاشرے کے اعضاء میں ضرورت سے زیادہ خون جمع ہو جاتا ہے تو وہ بھی سڑنے لگتا ہے، اور پھر کبھی تعیش پسندی اور فضول خرچی کی شکل میں نکلتا ہے، کبھی عدالتوں اور وکیلوں کے چکر میں ضائع ہوتا ہے، کبھی بیماریوں اور اسپتالوں میں لگتا ہے، کبھی اونچی اونچی بلڈنگوں اور محلات کی تعمیرات میں برباد ہو جاتا ہے (اور اس بربادی کا احساس آدمی کو اس وقت ہوتا ہے جب اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں اور اسے بیک بینی و دو گوش یہاں سے باہر نکال دیا جاتا ہے)۔

قدرت نے زکوٰۃ و صدقات کے ذریعہ ان پھوڑے پھنسیوں کا علاج تجویز کیا ہے، جو دولت کے انجماد کی بدولت معاشرے کے جسم پر نکل آتی ہیں۔

۴: ... اپنے بنی نوع سے ہمدردی، انسانیت کا عمدہ ترین وصف ہے، جس شخص کا دل اپنے جیسے انسانوں کی بے چارگی، غربت

وافلاس، بھوک، فقر و فاقہ اور تنگ دستی و زبوں حالی دیکھ کر نہیں پسجتا، وہ انسان نہیں جانور ہے، اور چونکہ ایسے موقعوں پر شیطان اور نفس، انسان کو انسانی ہمدردی میں اپنا کردار ادا کرنے سے باز رکھتے ہیں، اس لئے بہت کم آدمی اس کا حوصلہ کرتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ نے اپنے کمزور بندوں کی مدد کے لئے امیر لوگوں کے ذمہ یہ فریضہ عائد کر دیا ہے، تاکہ اس فریضہ خداوندی کے سامنے وہ کسی نادان دوست کے مشورے پر عمل نہ کریں۔

۵: ... مال، جہاں انسانی معیشت کی بنیاد ہے، وہاں انسانی اخلاق کے بنانے اور بگاڑنے میں بھی اس کو گہرا دخل ہے، بعض دفعہ مال کا نہ ہونا انسان کو غیر انسانی حرکات پر آمادہ کر دیتا ہے، اور وہ معاشرے کی نا انصافی کو دیکھ کر معاشرتی سکون کو غارت کرنے کی ٹھان لیتا ہے۔

بعض اوقات وہ چوری، ڈکیتی، سٹہ اور جو اُجھسی قبیح حرکات شروع کر دیتا ہے، کبھی غربت و افلاس کے ہاتھوں تنگ آ کر وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھولینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، کبھی وہ پیٹ کا جہنم بھرنے کے لئے اپنی عزت و عصمت کو نیلام کرتا ہے، اور کبھی فقر و فاقہ کا مداوا ڈھونڈنے کے لئے اپنے دین و ایمان کا سودا کرتا ہے، اسی بنا پر ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے:

”كاد الفقر أن يكون كفرًا.“ (رواه البيهقي في شعب الإيمان، مشکوٰۃ ص: ۴۲۹، وعزاه في الدر المنثور

ج: ۶ ص: ۴۲۰، إلى ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان وذكره الجامع الصغير، معزياً إلى أبي نعيم في

الحلية، وقال السخاوي طرفه كلها ضعيف كما في المقاصد الحسنة ولبعض القدير شرح جامع الصغير ج: ۳

ص: ۵۳۲، وقال العزبزي (ج: ۴ ص: ۲) هو حديث ضعيف، وفي تذكرة الموضوعات للشيخ محمد طاهر

الفتي (۱۷۳) ضعيف ولكن صح من قول أبي سعيد)

یعنی ”فقر و فاقہ آدمی کو قریب قریب کفر تک پہنچا دیتا ہے۔“ اور فقر و فاقہ میں اپنے منعم حقیقی کی ناشکری کرنا تو ایک عام بات ہے۔

یہ تمام غیر انسانی حرکات، معاشرے میں فقر و فاقہ سے جنم لیتی ہیں، اور بعض اوقات گھرانوں کے گھرانوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، ان کا مداوا ڈھونڈنا معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اور صدقات و زکوٰۃ کے ذریعے خالق کائنات نے ان بُرائیوں کا سد باب بھی فرمایا ہے۔

۶: ... اس کے برعکس بعض اخلاقی خرابیاں وہ ہیں جو مال و دولت کے افراط سے جنم لیتی ہیں، امیر زادوں کو جو جو چونچلے سو جھتے ہیں، اور جس قسم کی غیر انسانی حرکات ان سے سرزد ہوتی ہیں، انہیں بیان کرنے کی حاجت نہیں، صدقات و زکوٰۃ کے ذریعے حق تعالیٰ نے مال و دولت سے پیدا ہونے والی اخلاقی بُرائیوں کا بھی انسداد فرمایا ہے، تاکہ ان لوگوں کو غرباء کی ضروریات کا بھی احساس رہے اور غرباء کی حالت ان کے لئے تازیانہ عبرت بھی ہے۔

۷: ... زکوٰۃ و صدقات کے نظام میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے وہ مصائب و آفات ٹل جاتی ہیں جو انسان پر نازل ہوتی

رہتی ہیں، اسی بنا پر بہت سی احادیث شریفہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ صدقہ سے رَدِ بلا ہوتا ہے، اور انسان کی جان و مال آفات سے محفوظ رہتی ہے۔<sup>(۱)</sup>

عام لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو صدقہ کا بکرا ذبح کر دیتے ہیں، وہ مسکین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بکرے کی جان کی قربانی دینے سے مریض کی جان بچ جائے گی، ان لوگوں نے صدقہ کے مفہوم کو نہیں سمجھا، صدقہ صرف بکرا ذبح کر دینے کا نام نہیں، بلکہ اپنے پاک مال سے کچھ حصہ خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے کسی ضرورت مند کے حوالے کر دینے کا نام ہے، جس میں ریاد تکبر اور فخر و مباہات کی کوئی آلائش نہ ہو، اس لئے جب کوئی آفت پیش آئے، صدقہ سے اس کا علاج کرنا چاہئے، آپ جتنی ہمت و استطاعت رکھتے ہیں تو بازار سے اس کی قیمت معلوم کر کے اتنی قیمت کسی محتاج کو دے دیجئے، یا بکرا ہی خرید کر کسی کو صدقہ کر دیجئے، الغرض بکرے کو ذبح کرنے کو رَدِ بلا میں کوئی دخل نہیں، بلکہ بلا تو صدقہ سے ٹلتی ہے، اس لئے صرف شدید بیماری نہیں، بلکہ ہر آفت و مصیبت میں صدقہ کرنا چاہئے، بلکہ آفتوں اور مصیبتوں کے نازل ہونے سے پہلے صدقہ سے ان کا تدارک ہونا چاہئے، ہمارا متمول طبقہ جس قدر دولت میں کھیلتا ہے، بد قسمتی سے آفات و مصائب کا شکار بھی اسی قدر زیادہ ہوتا ہے۔

اس کا سبب بھی یہی ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک ادا نہیں کرتے، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔

۸: ... زکوٰۃ و صدقات کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے، اور زکوٰۃ و صدقات میں بخل کرنا آسمانی برکتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے، حدیث میں ہے کہ: ”جو قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قحط اور خشک سالی مسلط کر دیتا ہے، اور آسمان سے بارش بند ہو جاتی ہے“ (طبرانی، حاکم)۔<sup>(۲)</sup>

ایک اور حدیث میں ہے کہ چار چیزوں کا نتیجہ چار چیزوں کی شکل میں ہوتا ہے:

۱:- جب کوئی قوم عہد شکنی کرتی ہے تو اس پر دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔

۲:- جب وہ ما انزل اللہ کے خلاف فیصلے کرتی ہے، تو قتل و خونریزی اور موت عام ہو جاتی ہے۔

۳:- جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے تو ان سے بارش روک لی جاتی ہے۔

(۱) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفى غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذی. (الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۱۲، الترغيب في الصدقة رقم الحديث: ۲۱). وروى عن نافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تسد سبعين باباً من السوء. (رواه الطبرانی في الكبير). وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باكروا بالصدقة، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. رواه البيهقي. (الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۱۹، رقم الحديث: ۳۷، طبع دار إحياء التراث العربي).

(۲) وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. رواه الطبرانی في الأوسط ورجاله ثقات. (مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۱۵۳، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة، طبع بيروت).

۳:- جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو زمین کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور قوم پر قحط مسلط ہو جاتا ہے (طبرانی)۔<sup>(۱)</sup>  
 خلاصہ یہ کہ خدا تعالیٰ کا تجویز فرمودہ نظام زکوٰۃ و صدقات انقلابی نظام ہے، جس سے معاشرے کو راحت و سکون کی زندگی نصیب ہو سکتی ہے، اور اس سے انحراف کا نتیجہ معاشرے کے افراد کی بے چینی و بے اطمینانی کی شکل میں رونما ہوتا ہے۔  
 ۹:۔۔۔ یہ تمام امور تو وہ تھے جن کا تعلق دنیا کی اسی زندگی سے ہے، لیکن ایک مؤمن جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، یہ دنیوی زندگی ہی اس کا منہج نظر نہیں، بلکہ اس کی زندگی کی ساری تک و دو آخرت کی زندگی کے لئے ہے، وہ اس دار فانی کی محنت سے اپنا آخرت کا گھر سجانا چاہتا ہے، وہ اس تھوڑی سی چند روزہ زندگی سے آخرت کی دائمی زندگی کی راحت و سکون کا متلاشی ہے۔ عام انسانوں کی نظر صرف اس دنیا تک محدود ہے، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں صرف اسی دنیا کی فلاح و بہبود کے لئے کرتے ہیں، جس منصوبے کی تشکیل کرتے ہیں، محض اس زندگی کے خاکوں اور نقشوں کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صدقات و زکوٰۃ کے ذریعہ اہل ایمان کو آخرت کے بینک میں اپنی دولت منتقل کرنے کا گر بتایا ہے، زکوٰۃ و صدقات کی شکل میں جو رقم دی جاتی ہے وہ براہ راست آخرت کے بینک میں جمع ہوتی ہے، اور یہ آدمی کو اس دن کام آئے گی جب وہ خالی ہاتھ یہاں کی چیزیں یہیں چھوڑ کر رخصت ہوگا:

”سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا، جب لا دل چلے گا بخارا“

اس لئے بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی دولت یہاں سے وہاں منتقل کرنے میں پیش قدمی کرتے ہیں۔

۱۰:۔۔۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو بہت سے تعلقات اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ،

عزیز و اقارب کا رشتہ، اہل و عیال کا رشتہ وغیرہ وغیرہ۔

لیکن مؤمن کا ایک رشتہ اپنے خالق و محسن اور محبوب حقیقی سے بھی ہے، اور یہ رشتہ تمام رشتوں سے مضبوط بھی ہے اور پائیدار بھی، دوسرے سارے رشتے توڑے بھی جاسکتے ہیں اور جوڑے بھی جاسکتے ہیں، مگر یہ رشتہ کسی لمحے نہ توڑا جاسکتا ہے نہ اس کا چھوڑنا ممکن ہے، یہ دنیا میں بھی قائم ہے، نزع کے وقت بھی رہے گا، قبر کی تاریک کوٹھری میں بھی رہے گا، میدانِ محشر میں بھی اور جنت میں بھی، جوں جوں زندگی کے دور گزرتے اور بدلتے رہیں گے، یہ رشتہ قوی سے قوی تر ہوتا جائے گا، اور اس کی ضرورت کا احساس بھی سب رشتوں پر غالب آتا جائے گا۔ اس رشتے کی راہ میں سب سے بڑھ کر انسان کی نفسانی خواہشات حائل ہوتی ہیں، اور ان خواہشات کی بجا آوری کا سب سے بڑا ذریعہ مال ہے، زکوٰۃ و صدقات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں، اور بندے کا جو رشتہ اس کے ساتھ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اس لئے جو صدقہ کسی فقیر و مسکین کو دیا جاتا ہے، وہ دراصل اس کو

(۱) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خمس بخمس! قيل: يا رسول اللہ! وما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم (الفقر، ولأظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم) الموت، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم المطر، ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين۔ أخرجه الطبرانی في الكبير۔ (مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۱۵۳، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة، طبع دار الكتب العلمية)۔

نہیں دیا جاتا، بلکہ یہ اپنی مالی قربانی کا حقیر سا نذرانہ ہے، جو بندے کی طرف سے محبوبِ حقیقی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دستِ رضا سے قبول فرماتے ہیں اور پھر اس کی پرورش فرماتے رہتے ہیں، قیامت کے دن وہ صدقہ رائی سے پہاڑ بنا کر بندے کو واپس کر دیا جائے گا۔<sup>(۱)</sup> پس حیف ہے! ہم بارگاہِ رَبِّ العزت میں اتنی معمولی سی قربانی پیش کرنے سے بھی ہچکچائیں اور حق تعالیٰ شانہ کی بے پایاں عنایتوں اور رحمتوں سے خود کو محروم رکھیں۔

### زکوٰۃ ٹیکس نہیں:

اوپر کی سطور سے یہ حقیقت بھی عیاں ہو گئی کہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں، بلکہ ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں زکوٰۃ کا ایک نہایت گھٹیا تصور ہے، وہ اس کو حکومت کا ٹیکس سمجھتے ہیں، جس طرح کہ تمام حکومتوں میں مختلف قسم کے ٹیکس عائد کئے جاتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کسی حکومت کا عائدہ ٹیکس نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کی ضروریات کے لئے اس کو عائد کیا ہے، بلکہ حدیث میں صاف طور پر ارشاد ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے متمول طبقے سے لے کر ان کے تنگ دستوں کو لوٹا دی جائے گی۔<sup>(۲)</sup> اسی طرح یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ زکوٰۃ دینے والے فقراء و مساکین پر کوئی احسان کرتے ہیں، ہرگز نہیں! بلکہ خود فقراء و مساکین کا مالداروں پر احسان ہے کہ ان کے ذریعے سے ان لوگوں کی رقومِ خدائی بینک میں جمع ہو رہی ہیں، اگر آپ کسی کو بینک میں جمع کرانے کے لئے کوئی رقم سپرد کرتے ہیں تو کیا آپ اس پر احسان کر رہے ہیں؟ اگر یہ احسان نہیں تو غرباء کو زکوٰۃ دینا بھی ان پر احسان نہیں!

پہلی اُمتوں میں جو مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، اس کا استعمال کرنا کسی کے لئے بھی جائز نہیں تھا، بلکہ وہ سوختنی قربانی کہلاتی تھی، اسے قربان گاہ میں رکھ دیا جاتا تھا، اب اگر آسمان سے آگ آ کر اسے راکھ کر جاتی تو یہ قربانی کے قبول ہونے کی علامت تھی، اور اگر وہ چیز اسی طرح پڑی رہتی تو اس کے مردود ہونے کی نشانی تھی۔<sup>(۳)</sup> حق تعالیٰ نے اس اُمتِ مرحومہ پر یہ خاص عنایت فرمائی ہے کہ امراء کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جو چیز حق تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیں اسے ان کے فلاں فلاں بندوں (فقراء و مساکین) کے حوالے کر دیں۔ اس عظیم الشان رحمت کے ذریعہ ایک طرف فقراء کی حاجات کا انتظام کر دیا گیا اور دوسری طرف اس اُمتِ مرحومہ کے لوگوں کو رسوائی اور ذلت سے بچالیا گیا، اب خدا ہی جانتا ہے کہ کون پاک مال سے صدقہ کرتا ہے؟ اور کون

(۱) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب ولا یقبل اللہ الا الطیب فان اللہ یقبّلہا بيمينہ ثم یربّیہا لصاحبہا کما یربّی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل۔ متفق علیہ۔ (مشکوٰۃ ص: ۱۶۷، باب فضل الصدقة، کتاب الزکاة، طبع قدیمی)۔

(۲) عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذاً الی الیمن فقال..... فاعلمہم ان اللہ قد فرّض علیہم صدقة تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم... الخ۔ متفق علیہ۔ (مشکوٰۃ ص: ۱۵۵، کتاب الزکاة)۔

(۳) واتل علیہم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر۔ (المائدة: ۲۷)۔ وفي التفسیر المظہری: والقربان اسم ما يتقرب بها إلى اللہ تعالیٰ من ذبیحة أو غيرها..... وكانت القربان إذا قبلت نزلت نار من السماء بیضاء فأکلته وإذا لم تقبل لم تنزل النار وأكله الطیر والسباع۔ (تفسیر مظہری ج: ۳ ص: ۷۹ طبع دہلی)۔

ناپاک مال سے؟ کون ایسا ہے جو محض رضائے الہی کے لئے دیتا ہے؟ اور کون ہے جو نام و نمود اور شہرت و ریا کے لئے؟ الغرض زکوٰۃ ٹیکس نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے قرضِ حسن فرمایا ہے: ”کون ہے جو اللہ کو قرضِ حسن دے؟ پس وہ اس کے لئے اس کو کئی گنا بڑھا دے“ (البقرہ)۔<sup>(۱)</sup>

یہاں صدقات کو ”قرضِ حسن“ سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح قرض واجب الادا ہے، اسی طرح صدقہ کرنے والوں کو مطمئن رہنا چاہئے کہ ان کا یہ صدقہ بھی ہزاروں برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ انہیں واپس کر دیا جائے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ کو کسی کی احتیاج ہے، یہی وجہ ہے کہ صدقہ فقیر کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اور فقیر گویا اس دینے والے سے وصول نہیں کر رہا، بلکہ یہ اس کی طرف سے دیا جا رہا ہے جو سب کا داتا ہے۔

### زکوٰۃ حکومت کیوں وصول کرے؟

رہا یہ سوال کہ جب زکوٰۃ ٹیکس نہیں، بلکہ خالص عبادت ہے، تو حکومت کو اس کا انتظام کیوں تفویض کیا جائے؟ اس سوال کا جواب ایک مستقل مقالے کا موضوع ہے، مگر یہاں مختصر طور پر اتنا سمجھ لینا چاہئے کہ اسلام پورے معاشرے کو ایک اکائی قرار دے کر اس کا نظم و نسق اسلامی حکومت کے سپرد کرتا ہے۔ اس لئے وہ فقراء و مساکین جو اسلامی معاشرے کا جزو ہیں ان کی ضروریات کا تکفل بھی اسلامی معاشرے کی قوتِ مقتدرہ کے سپرد کرتا ہے، اور اس کفالت کے لئے اس نے صدقات و زکوٰۃ کا نظام رائج فرمایا ہے، فقراء و مساکین کی کفالت کی سب سے بڑی ذمہ داری حکومت پر عائد کی گئی ہے، اس لئے اس مدد کے لئے مخصوص رقم کا بندوبست بھی حکومت کا فریضہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حکومت کی جانب سے صدقات کی وصولی و انتظام پر مقرر ہوں، حدیثِ پاک میں ان کو ”غازی فی سبیل اللہ“ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔<sup>(۲)</sup> (ابوداؤد، ترمذی) جس میں ایک طرف ان کی خدمات کو سراہا گیا ہے، اور دوسری طرف ان کی نازک ذمہ داری کا بھی احساس دلایا گیا ہے۔ یعنی اگر وہ اس فریضے کو جہاد فی سبیل اللہ سمجھ کر ادا کریں گے تب اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوں گے، اور اگر انہوں نے اس مال میں ایک پیسے کی بھی خیانت روارکھی تو انہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ وہ خدائی مال میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں، جو ان کے لئے آتشِ دوزخ کا سامان ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ: ”جس شخص کو ہم نے کسی کام پر مقرر کیا، اور اس کے لئے ایک وظیفہ بھی مقرر کر دیا، اس کے بعد اگر وہ اس مال سے کچھ لے تو وہ غنیمت میں خیانت کرنے والا ہوگا“ (ابوداؤد)۔

### زکوٰۃ کے چند مسائل:

زکوٰۃ ہر صاحبِ نصابِ مسلمان پر فرض ہے، اس کے مسائل حضراتِ علمائے کرام سے اچھی طرح سمجھ لینے چاہئیں، میں

(۱) قال تعالیٰ: ”من ذا الذي يقرض الله قرصاً حسناً فيضعفه له أضعافاً كثيرة“ (البقرہ: ۲۴۵)۔

(۲) عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. رواه أبو داؤد والترمذي. (مشکوٰۃ ص: ۱۵۷)۔ عن عبدالله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملنا على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ ذلك فهو غلول. (سنن أبي داؤد ج: ۲ ص: ۵۲)۔

یہاں چند مسائل درج کرتا ہوں، مگر عوام صرف اپنے فہم پر اعتماد نہ کریں، بلکہ اہل علم سے اچھی طرح تحقیق کر لیں۔

۱: ... اگر کسی شخص کی ملکیت میں ساڑھے باون تولے (۶۱۲ء ۳۵ گرام) چاندی یا ساڑھے سات تولے (۸۷۷ء ۵ گرام)

سونا ہے، یا اتنی مالیت کا نقد روپیہ ہے یا پھر اتنی مالیت کا مال تجارت ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔<sup>(۱)</sup>

۲: ... اگر کسی شخص کے پاس کچھ چاندی ہو، کچھ سونا ہو یا کچھ روپیہ یا کچھ مال تجارت ہو، اور ان سب کی مجموعی مالیت ساڑھے

باون تولے (۶۱۲ء ۳۵ گرام) چاندی کے برابر ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔<sup>(۲)</sup>

۳: ... کارخانے اور فیکٹری وغیرہ کی مشینوں پر زکوٰۃ نہیں، لیکن ان میں جو مال تیار ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اسی طرح جو خام

مال کارخانے میں موجود ہو، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔<sup>(۳)</sup>

۴: ... سونے چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ ہے، چنانچہ سونے چاندی کے زیور، سونے چاندی کے برتن حتیٰ کہ سچا گونا، ٹھپا، اصلی

زری، سونے چاندی کے بٹن، خواہ کپڑوں میں لگے ہوئے ہوں، ان سب پر زکوٰۃ فرض ہے۔<sup>(۴)</sup>

۵: ... کارخانوں اور ملوں کے حصص پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، جبکہ ان حصص کی مقدار بقدر نصاب ہو یا دوسری قابل زکوٰۃ

چیزوں کو ملا کر نصاب بن جاتا ہو، البتہ مشینری اور فرنیچر وغیرہ استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لئے ہر حصے دار کے حصے میں

اس کی جتنی قیمت آتی ہے، اس کو مستثنیٰ کر کے باقی کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔<sup>(۵)</sup>

۶: ... سونا چاندی، مال تجارت اور کمپنی کے حصص کی جو قیمت زکوٰۃ کا سال پورا ہونے کے دن ہوگی، اس کے مطابق زکوٰۃ ادا

کی جائے گی۔<sup>(۶)</sup>

۷: ... سال کے اول و آخر میں نصاب کا پورا ہونا شرط ہے، اگر درمیان سال میں رقم کم ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں۔<sup>(۷)</sup>

مثلاً: ایک شخص سال شروع ہونے کے وقت تین ہزار روپے کا مالک تھا، تین مہینے کے بعد اس کے پاس پندرہ سو روپے رہ

گئے، چھ مہینے بعد چار ہزار روپے ہو گئے، اور سال کے ختم پر ساڑھے چار ہزار روپے کا مالک تھا، تو سال پورا ہونے کے وقت اس پر

(۱) نصاب الذهب عشرون مثقالاً والفضة مئتا درہم... الخ۔ (درمختار مع الشامی، باب زکوٰۃ المال ج: ۲ ص: ۲۹۵)۔

(۲) وقیمة العروض للتجارة تضم الى الثمنين لأن الكل للتجارة وضعا وجعلا ويضم الذهب الى الفضة وعكسه يجمع

الثمانية قيمة... الخ۔ (درمختار مع الشامی ج: ۲ ص: ۳۰۳، وأيضاً في الهندية ج: ۱ ص: ۱۷۹، كتاب الزكاة)۔

(۳) فليس في دور السكنى..... وكذا كتب العلم إن كان من أهله وآلات المحترفين۔ (هندية ج: ۱ ص: ۱۷۲)۔

(۴) قال القدوري: وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأواليهما الزكاة... الخ۔ (هداية ج: ۱ ص: ۱۷۵، كذا في الهندية

ج: ۱ ص: ۱۷۸، كتاب الزكاة)۔

(۵) أيضاً حاشية نمبر ۱ ملاحظہ ہو۔

(۶) وتعتبر القيمة عند حلول الحول... الخ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۹، كتاب الزكاة، الفصل الثاني في العروض)۔

(۷) وإذا كان النصاب كاملاً في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة كذا في الهداية۔ (عالمگیری ج: ۱

ص: ۱۷۵، كتاب الزكاة، الباب الأول)۔



ساڑھے چار ہزار روپے کی زکوٰۃ واجب ہوگی، درمیان سال میں اگر رقم گھٹتی بڑھتی رہی، اس کا اعتبار نہیں۔

(نوٹ: آج کل ساڑھے باون تو لے چاندی کی قیمت پونے تین ہزار روپے ہے)

۸: ... پراویڈنٹ فنڈ پر وصول یا بی کے بعد زکوٰۃ فرض ہے، وصول یا بی سے پہلے سالوں کی زکوٰۃ فرض نہیں۔<sup>(۱)</sup>

۹: ... صاحبِ نصاب اگر پیشگی زکوٰۃ ادا کر دے، تب بھی جائز ہے، لیکن سال کے دوران اگر مال بڑھ گیا تو سال ختم ہونے پر زائد رقم ادا کر دے۔<sup>(۲)</sup>

### زکوٰۃ کے مصارف:

۱: ... زکوٰۃ صرف غرباء و مساکین کا حق ہے،<sup>(۳)</sup> حکومت اس کو عام رفاہی کاموں میں استعمال نہیں کر سکتی۔<sup>(۴)</sup>

۲: ... کسی شخص کو اس کے کام یا خدمت کے معاوضے میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جاسکتی،<sup>(۵)</sup> لیکن زکوٰۃ کی وصولی پر جو عملہ حکومت کی طرف سے مقرر ہو، ان کا مشاہرہ اس فنڈ سے ادا کرنا صحیح ہے۔<sup>(۶)</sup>

۳: ... حکومت صرف اموالِ ظاہرہ کی زکوٰۃ وصول کرے گی، اموالِ باطنہ کی زکوٰۃ ہر شخص اپنی صوابدید کے مطابق ادا کر سکتا ہے۔<sup>(۷)</sup> (کارخانوں اور ملوں میں تیار ہونے والا مال، تجارت کا مال اور بینک میں جمع شدہ سرمایہ ”اموالِ ظاہرہ“ ہیں، اور جو سونا، چاندی، نقدی گھروں میں رہتی ہے، ان کو ”اموالِ باطنہ“ کہا جاتا ہے)۔

۴: ... کسی ضرورت مند کو اتار و پیہ دے دینا جتنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مکروہ ہے، لیکن زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔<sup>(۸)</sup>

## زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل اور نہ دینے کا وبال

سوال: ... زکوٰۃ دینے پر کیا خوشخبری اور نہ دینے پر کیا وعید ہے؟

(۱) ومنها كون النصاب ناميا حقيقة ..... أو تقديرا بان يتمكن من الاستمنا كون المال في يده أو في يد نائبه ... الخ. (هندية ج: ۱ ص: ۱۷۴، كتاب الزكاة، الباب الأول).

(۲) ويجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب فلا يجوز قبله كذا في الخلاصة. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۶، كتاب الزكاة).

(۳) الباب السابع في المصارف. منها الفقير ..... ومنها المسكين ... الخ. (هندية ج: ۱ ص: ۱۸۷).

(۴) ولا يجوز أن ينبي بالزكاة ..... القناطر والسقايات واصلاح الطرقات وكري الأنهار ... الخ. (هندية ج: ۱ ص: ۱۸۸، الباب السابع في المصارف).

(۵) اما تفسيرها (اي الزكاة) فهي تدليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاة بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه الله تعالى هذا في الشرع كذا في التبيين. (هندية ج: ۱ ص: ۱۷۰) أيضا: ولو نوى الزكاة بما يدفع المعلم إلى الخليفة ولم يستاجرہ إن كان الخليفة بحاله لو لم يدفعه يعلم الصيان أيضا أجزاءه وآلا فلا. (هندية ج: ۱ ص: ۱۹۰).

(۶) ومنها العامل وهو من نصه الإمام لاستيفاء الصدقات والعشور كذا في الكافي. (هندية ج: ۱ ص: ۱۸۸).

(۷) قوله الظاهرة والباطنة فإن مال الزكاة نوعان ظاهر، وهو المواشي وما يمر به التاجر على العاشر وباطن: وهو الذهب والفضة، وأموال التجارة في مواضعها بحر. ... أما الباطنة التي في بيته لو أخبر بها العاشر فلا يأخذ منها ... الخ. (شامي، قبيل مطلب ما ورد في ذم العشار ج: ۲ ص: ۳۱۰).

(۸) ويكره أن يدفع إلى رجل مانتى درهم فصاعدا وإن دفعه جاز كذا في الهداية. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۸).

جواب: ... زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، اور حق تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور نہ دینے سے مال ناپاک رہتا ہے، اور خدا تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔<sup>(۱)</sup> قرآن کریم اور حدیث نبوی میں زکوٰۃ نہ دینے کے بہت سے وبال بیان فرمائے گئے ہیں، ایسا مال سانپ کی شکل میں مال دار کو کانٹے گا اور کبے گا کہ میں تیرا وہی مال ہوں جس کو تو جمع کرتا تھا اور خدا تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا۔

قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں زکوٰۃ و صدقات کے بڑے فضائل بیان کئے گئے ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے پر شدید وعیدیں وارد ہوئی ہیں، ان کی تفصیل حضرت شیخ سیدی و مرشدی مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کی کتاب ”فضائل صدقات“ میں دیکھی جائے، یہاں اختصار کے پیش نظر ایک ایک آیت اور حدیث فضائل میں، اور ایک ایک آیت اور حدیث وعید میں نقل کرتا ہوں۔

### زکوٰۃ و صدقات کی فضیلت:

”مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْتَبَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ، وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.“  
(البقرہ: ۲۶۱، ۲۶۲)

ترجمہ: ... ”جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کئے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت جس سے (فرض کرو) سات بالیس جمیں (اور) ہر بالی کے اندر سو دانے ہوں اور یہ افزونی خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں جاننے والے ہیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو (اس پر) احسان جتاتے ہیں اور نہ (برتاؤ سے) اس کو آزار پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو ان (کے اعمال) کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطر ہوگا اور نہ یہ مغموم ہوں گے۔“  
(ترجمہ: حضرت تھانوی)

حدیث: ... ”عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب، ولا یقبل اللہ الا الطیب، فان اللہ یتقبلها بيمينه ثم

(۱) أن الزكاة تطهر نفس المؤدی عن أنجاس الذنوب وتزکی أخلاقه بتخلق الجود والکرم وترك الشح والظن إذ الأنفس مجبولة علی الظن بالمال فتعود السماحة وترتاض لأداء الأمانات وإیصال الحقوق إلى مستحقیها وقد تضمن ذلك كله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها۔ (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۳، کتاب الزکاة)۔ ولا تجب علی الأنبياء لأن الزکاة طهرة لمن عساه أن يتدنس والأنبياء مبرؤن منه..... لأن مقتضى جعل هذه الزکاة من حصص حياتهم أنه لا فرق بين زکاة المال والبدن۔ (رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۵۶ کتاب الزکاة)۔

یربہا لصاحبها كما یربی احدکم فلوہ حتی تكون مثل الجبل۔ متفق علیہ۔“

(صحیح بخاری و مسلم، مشکوٰۃ ص: ۱۶۷ باب فضل الصدقہ)

ترجمہ:...” حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جو شخص ایک کھجور کے دانے کے برابر پاک کمائی سے صدقہ کرے، اور اللہ تعالیٰ صرف پاک ہی کو قبول فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دست میں لے کر قبول فرماتے ہیں، پھر اس کے مالک کے لئے اس کی پرورش فرماتے ہیں، جس طرح کہ تم میں سے ایک شخص اپنی گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ (ایک کھجور کے دانے کا صدقہ قیامت کے دن) پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔“

زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید:

”وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔  
يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ  
لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔“  
(التوبہ: ۳۴، ۳۵)

ترجمہ:...” جو لوگ سونا چاندی جمع کر کر رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے۔ کہ اس روز واقع ہوگی کہ ان کو دوزخ کی آگ میں (اول) تپایا جاوے گا، پھر ان سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور ان کی کروٹوں اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا، یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔“ (ترجمہ: حضرت تھانوی)

حدیث:...” عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما من رجل لا یؤدی زکوٰۃ ماله الا جعله اللہ یوم القیامۃ فی عنقه شجاعاً۔ ثم قرأ علينا مصداقه من کتاب اللہ: ولا یحسبن الذین ینخلون بما اتهم اللہ من فضله۔ الآیۃ۔“

(رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ، مشکوٰۃ ص: ۱۵۷، کتاب الزکوٰۃ)

ترجمہ:...” حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنجه سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کی آیت ہمیں پڑھ کر سنائی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے: اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات کچھ ان کے لئے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کی بہت بُری ہے، وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنا دیئے جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔“ (آل عمران: ۱۸۰، ترجمہ: حضرت تھانوی)

## زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟

سوال: ... میرا ایک دوست محمد صدیق ہے، جس کے ساتھ میری زکوٰۃ کے بارے میں بات ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ زکوٰۃ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا تھا۔ اور جس مال میں سے زکوٰۃ نہ دی جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح کہ ہر مسلمان پر شراب اور خنزیر حرام ہے۔ وہ بولتا ہے کہ صرف ایک حضرت ابو بکر صدیق نے ہی حکم دیا تھا، باقی تین خلفائے راشدین، اس کے بعد بنو امیہ، اس کے بعد بنو عباسیہ، اس کے بعد عثمانیہ، خلفائوں میں سے کسی نے حکم نہیں دیا۔ یعنی جہاد کا حکم نہیں دیا۔ اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، نہ وہ مرتد ہے اور نہ کسی بھی قسم کے اور زمرے میں آتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا تصور کرتا ہے۔

جواب: ... زکوٰۃ اسلام کا قطعی فریضہ اور اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ بعد کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں کسی نے اس سے انکار ہی نہیں کیا، اس لئے ان کو اس کی خاطر جہاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس لئے آپ کے دوست کا استدلال غلط ہے۔

قرآن کریم میں ہے: ”اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے (یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے) ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے۔ جس دن اس سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لئے جمع کرتے تھے، سو آج اس خزانے کے جمع کرنے کا مزہ چکھو“ (التوبہ: ۳۴، ۳۵)۔<sup>(۱)</sup> جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کو مانتا ہے، لیکن غفلت اور بخل کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ مرتد تو نہیں، لیکن فاسق اور بدکار ہے، اور اس کی سزا قبر اور حشر میں وہ ہوگی جو قرآن کریم کی مندرجہ بالا آیت میں ذکر کی گئی ہے۔ اور جو شخص زکوٰۃ کو ضروری ہی نہیں سمجھتا، نہ اسے فرض سمجھتا ہے، وہ بلاشبہ مرتد ہے۔<sup>(۲)</sup> جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ کیا تھا۔<sup>(۳)</sup>

(۱) ”وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ“ (التوبة: ۳۴، ۳۵)۔

(۲) ”وَأَمَّا صَفْتَهَا فَهِيَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ يَكْفُرُ جَا حِدَهَا وَيَقْتُلُ مَانِعَهَا، هَكَذَا فِي مَحِيطِ السَّرْحَسِيِّ۔ وَتَجِبُ عَلَى الْفُورِ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ حَتَّى يَأْتِمَ بِتَأْخِيرِهِ مِنْ غَيْرِ عَذْرٍ وَفِي رِوَايَةِ الرَّازِيِّ عَلَى التَّرَاخِيِّ حَتَّى يَأْتِمَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، كَذَا فِي التَّهْذِيبِ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۰، کتاب الزکاة)۔

(۳) ”فالدليل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول... إلخ۔ (بدائع ج: ۲ ص: ۲)، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان۔ متفق عليه. (مشكوة ص: ۱۲)۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب۔ قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله،..... (بقي المصحح)“

## زکوٰۃ کے ڈر سے غیر مسلم لکھوانا

سوال: ... ایک صاحب نے ایک بیوہ عورت کو مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوادیں تو زکوٰۃ نہیں کئے گی، کیا ایسا کرنے سے ایمان پر اثر نہیں ہوگا؟

جواب: ... کسی شخص کا اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوانا کفر ہے<sup>(۱)</sup> اور زکوٰۃ سے بچنے کے لئے ایسا کرنا ڈبل کفر ہے، اور کسی کو کفر کا مشورہ دینا بھی کفر ہے<sup>(۲)</sup>۔ پس جس شخص نے بیوہ کو غیر مسلم لکھوانے کا مشورہ دیا اس کو اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے، اور اگر بیوہ نے اس کے کفریہ مشورہ پر عمل کر لیا ہو تو اس کو بھی از سر نو ایمان کی تجدید کرنی چاہئے<sup>(۳)</sup>۔

اسی کے ساتھ حکومت کو بھی اپنے اس نظام زکوٰۃ پر نظر ثانی کرنی چاہئے جو لوگوں کو مرتد کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ حکومت مسلمانوں کے مال سے جتنی مقدار ”زکوٰۃ“ کے نام سے وصول کرتی ہے (یعنی اڑھائی فیصد) اتنی ہی مقدار غیر مسلموں کے مال سے ”رفاہی ٹیکس“ کے نام سے وصول کر لیا کرے، اس صورت میں کسی کو زکوٰۃ سے فرار کی راہ نہیں ملے گی اور غیر مسلموں پر رفاہی ٹیکس کا عائد کرنا کوئی ظلم و زیادتی نہیں، کیونکہ حکومت کے رفاہی کاموں سے استفادے میں غیر مسلم برادری بھی برابر کی شریک ہے، اور اس فنڈ کو غیر مسلم معذوروں کی مدد و اعانت اور خبر گیری میں خرچ کیا جاسکتا ہے۔

## عورتوں کے لئے سونے چاندی کا استعمال جائز ہے

سوال: ... پچھلے دنوں ایک ماہنامہ بنام ”حکایت“ میں ایک مضمون پڑھا جس کو پروفیسر رفیع اللہ شہاب نے تحریر کیا تھا! اس مضمون میں پروفیسر صاحب نے ابو داؤد کی چند ایک احادیث کا حوالہ دے کر سونے کے زیورات کو عورتوں پر بھی حرام قرار دے دیا، احادیث کے حوالے پیش خدمت ہیں:

۱: ... حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت یزید نے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے بھی اپنے گلے میں سونے کا گلوبند پہنا تو قیامت کے دن اسے ویسا ہی آگ کا گلوبند پہنایا جائے گا، اور جو عورت بھی اپنے کانوں میں

(بقیہ صفحہ گزشتہ) ..... فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسي إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلوة والزكوة فإن الزكوة حق المال والله! لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، قال عمر: والله ما هو إلا رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. متفق عليه. (مشکوٰۃ ص ۱۵۷، کتاب الزکاة، الفصل الثالث).

(۱) مسلم قال: أنا ملحد، يكفر، ولو قال: ما علمت أنه كافر، لا يعذر بهذا. (عالمگیری ج: ۲ ص: ۲۷۹). أيضاً الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان. (شرح المجلة ص: ۹۰۰، الكتاب كالحطاب، أيضاً ص: ۳۹، المادة ۶۹).

(۲) إذا لقن الرجل رجلاً كلمة الكفر فإنه يصير كافراً وإن كان وجه اللعب، وكذا إذا أمر رجل امرأة الغير أن ترتد وتبين من زوجها يصير هو كافراً. (عالمگیری ج: ۲ ص: ۲۷۵، ۲۷۶، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

(۳) ما يكون كفراً اتفاقاً يبطل العمل والنكاح ..... وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (درمختار ج: ۳ ص: ۲۳۶، باب المرتد، عالمگیری ج: ۲ ص: ۲۸۳، كتاب السير).

سونے کی بالیاں پہنے گی تو قیامت کے دن انہیں کی مانند آگ اس کے کانوں میں ڈالی جائے گی۔

۲:... حضرت حذیفہؓ کی ایک بہن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت! تم چاندی کے زیورات کیوں نہیں پہنتیں کیونکہ تم میں سے جو عورت سونے کا زیور پہنے گی اور اس کی نمائش کرے گی تو قیامت کے دن اسے اس زیور سے عذاب دیا جائے گا (سنن ابوداؤد جلد نمبر ۲ صفحہ نمبر ۳۱۰ مصری ایڈیشن)۔

مولانا صاحب! مندرجہ بالا احادیث سے تو پروفیسر صاحب کی تحقیق صحیح ثابت ہوئی جب کہ ہمارے علمائے کرام کا فیصلہ اس کے بالکل برعکس ہے، صحیح احادیث سے فیصلہ فرما کر اس مسئلہ کو واضح فرمائیں۔

جواب:... ابوداؤد ج: ۲، ص: ۲۲۵ (مطبوعہ ایچ، ایم، سعید، کراچی) کے حاشیہ میں ہے:

”هذا الحديث وما بعده و كل ما شاكله منسوخ، وثبت اباحتہ، للنساء بالاحاديث

الصريحة الصحيحة وعليه انعقد الإجماع، قال الشيخ ابن حجر: النهي عن خاتم الذهب

او التختم به مختص بالرجال دون النساء، فقد انعقد الإجماع على اباحتہ للنساء، والله

تعالى اعلم و علمه احكم واتم۔“

ترجمہ:...” یہ حدیث، اس کے بعد کی حدیث اور اس مضمون کی دوسری احادیث منسوخ ہیں، اور

سونے کا عورتوں کے لئے جائز ہونا صریح اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور اس پر امت کا اجماع منعقد ہو چکا

ہے، شیخ ابن حجر فرماتے ہیں کہ: ”سونے کی انگوٹھی اور اس کے پہننے کی ممانعت صرف مردوں کے لئے ہے،

عورتوں کے لئے نہیں، چنانچہ اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ سونے کا پہننا عورتوں کے لئے جائز ہے۔“

ابوداؤد کی شرح بذل المجھود (ج: ۵، ص: ۸۷ مطبوعہ کتب خانہ تھکوی، بہار نیور) میں ہے:

”قال ابن رسلان هذا الحديث الذي ورد فيه الوعيد على تحلى النساء بالذهب

يحتمل وجوها من التاويل: احدها انه منسوخ كما تقدم من ابن عبد البر، والثاني انه في حق

من تزينت به وتبرجت و اظهرته والثالث ان هذا في حق من (لا) تؤدى زكوة دون من

اداهها، الرابع انه انما منع منه في حديث الأسورة والفتخات، لما رآى من غلظه فانه من

مظنة الفخر والخيلاء۔“

ترجمہ:...” ابن رسلان کہتے ہیں: یہ حدیث جس میں عورتوں کے سونے کے زیور پہننے پر وعید آئی ہے

اس میں چند تاویلوں کا احتمال ہے، ایک یہ کہ یہ منسوخ ہے، جیسا کہ امام ابن عبد البر کے حوالے سے گزر چکا

ہے، دوم یہ کہ یہ وعید اس عورت کے حق میں ہے جو اپنی زینت کی عام نمائش کرتی پھرتی ہو، سوم یہ کہ یہ اس عورت

کے حق میں ہے جو اس کی زکوٰۃ نہ دیتی ہو، اس کے بارے میں نہیں جو زکوٰۃ ادا کرتی ہو، چہارم یہ کہ ایک حدیث

میں کنگنوں اور پازیبوں کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بڑے موٹے

موٹے زیور فخر و تکبر کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔“

ان دونوں حوالوں سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے سونے کے استعمال کی ممانعت کی احادیث یا تو منسوخ ہیں یا مؤول ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے سونے کے استعمال کی اجازت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور یہ کہ اس پر امت کا اجماع ہے، اب اجازت کی دو حدیثیں لکھتا ہوں:

اول: ... ”عن علی رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرا فجعله فی یمینہ واخذ ذہبا فجعله فی شمالہ ثم قال ان ہذین حرام علی ذکور امتی۔ و فی روایة ابن ماجہ: حل لاناہم۔“ (ابوداؤد ج: ۲، ص: ۲۲۵ نسائی ج: ۲، ص: ۲۸۳، ابن ماجہ ص: ۲۵۷)

ترجمہ: ... ”حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونا لیا، پھر فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ میری امت کی عورتوں کے لئے حلال ہیں۔“

دوم: ... ”عن ابی موسیٰ الأشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: حرم لباس الحریر والذہب علی ذکور امتی واحل لاناہم۔“ (ترمذی ج: ۱، ص: ۲۰۵، نسائی ج: ۲، ص: ۲۸۳) وقال الترمذی: وفی الباب عن عمر، وعلی، وعقبہ بن عامر، وام ہانی، وانس، وحذیفہ، وعبداللہ بن عمرو، وعمران بن حصین، وعبداللہ بن الزبیر وجابر، وابی ریحانہ، وابن عمر، والبراء، ہذا حدیث حسن صحیح۔“

ترجمہ: ... ”حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ریشمی لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور ان کی عورتوں کے لئے حلال ہے۔“ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں مندرجہ ذیل صحابہؓ سے بھی احادیث مروی ہیں، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ام ہانی، حضرت انس، حضرت حذیفہ، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت عمران بن حصین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت جابر، حضرت ابو ریحانہ، حضرت ابن عمر، اور حضرت براء رضی اللہ عنہم۔“

## زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟

### بالغ پر زکوٰۃ

سوال: ... زکوٰۃ کتنی عمر کے لوگوں پر واجب ہے؟

جواب: ... زکوٰۃ بالغ پر واجب ہے،<sup>(۱)</sup> اور بلوغ کی خاص علامتیں مشہور ہیں، اگر لڑکا لڑکی پندرہ سال کے ہو جائیں مگر کوئی علامت بلوغ کی ظاہر نہ ہو تو پندرہ سال کی عمر پوری ہونے پر وہ بالغ تصور کئے جائیں گے۔<sup>(۲)</sup>

### نابالغ بچے کے مال پر زکوٰۃ

سوال: ... حکومت نے بینک اکاؤنٹ میں سے زکوٰۃ منہا کرنے کے احکامات صادر فرمائے ہیں، تو یہ فرمائیں کہ چھوٹے بچوں کے نام سے ان کے مستقبل کے لئے جو رقم بینک میں جمع کرائی جاتی ہے یا مختلف تقریبات میں ان کو ملتی ہے، اور وہ بھی بینک میں جمع ہوتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ ادا ہوتی ہے یا نہیں؟

جواب: ... نابالغ بچے کے مال میں زکوٰۃ نہیں، حکومت اگر نابالغ بچوں کے مال سے زکوٰۃ کاٹ لیتی ہے تو یہ صحیح نہیں۔<sup>(۳)</sup>

### نابالغ کی ملکیت پر زکوٰۃ نہیں

سوال: ... میں اپنی بچی کے لئے کچھ رقم پس انداز کرتا ہوں جو کہ اس کی ملکیت تصور کی جا رہی ہے، مگر وہ ابھی تک نابالغ ہے، زکوٰۃ ادا کرنا مجھ پر فرض ہے یا نہیں؟

جواب: ... جو رقم نابالغ بچی کے لئے جمع کی ملکیت ہو، اس پر اس کے بالغ ہونے تک زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بالغ ہونے کے بعد جب سال گزر جائے تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔<sup>(۴)</sup>

(۱) و شرط افتراضها عقل و بلوغ۔ (قولہ: عقل و بلوغ) فلا تجب علی مجنون و صبی لأنها عبادة محضة و ليسا مخاطبين بها... الخ۔ (درمختار مع الشامی ج: ۲ ص: ۲۵۸، کتاب الزکاة)۔

(۲) و بلوغ الغلام بالاحتلام و الإحبال و الإنزال و الأصل هو الإنزال..... فإن لم يوجد فيهما شيء فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى... الخ۔ (درمختار مع الشامی ج: ۲ ص: ۱۵۳، کتاب الحج)۔

(۳) و منها العقل و البلوغ فليس الزکوٰۃ علی صبی و مجنون... الخ۔ (ہندیہ ج: ۱ ص: ۱۷۲، کتاب الزکاة، الباب الأول، و أيضا في الدر المختار مع رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۵۸، کتاب الزکاة)۔

(۴) ایضاً۔



## اگر نابالغ بچیوں کے نام سونا کر دیا تو زکوٰۃ کس پر ہوگی؟

سوال: ... میری تین بیٹیاں ہیں، عمر ۱۲ سال، ۱۰ سال اور ۸ سال۔ میں نے ان کی شادی کے لئے ۲۰ تو لے سونا لے رکھا ہے، اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں مثلاً برتن کپڑے وغیرہ بھی آہستہ آہستہ جمع کر رہے ہیں، کیا ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ دینا پڑے گی؟ بچیوں کے نام پر کوئی پیسہ وغیرہ جمع نہیں ہے۔

جواب: ... اگر آپ نے اس سونے کا مالک اپنی بچیوں کو بنا دیا ہے تو ان کے جوان ہونے تک تو ان پر زکوٰۃ نہیں<sup>(۱)</sup>، جوان ہونے کے بعد ان میں جو صاحب نصاب ہوں ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی<sup>(۲)</sup> اور اگر بچیوں کو مالک نہیں بنایا، ملکیت آپ ہی کی ہے، تو اس سونے پر زکوٰۃ فرض ہے، برتن کپڑے وغیرہ استعمال کی جو چیزیں آپ نے ان کے لئے رکھی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں<sup>(۳)</sup>۔

## یتیم نابالغ بچے پر زکوٰۃ نہیں

سوال: ... بچے عمر اور زینب جو بالغ نہیں، اب زید کے انتقال کے بعد ان کے ولی مثلاً بکر کو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ عمر اور زینب کے مال سے زکوٰۃ عید وغیرہ ادا کرے، ان کے لئے یا کوئی اور صدقہ وغیرہ جائز ہے یا نہیں؟

جواب: ... نابالغ بچے کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں<sup>(۴)</sup>، البتہ صدقہ فطر یتیم نابالغ کی طرف سے ادا کرنا بھی ضروری ہے، جبکہ وہ نابالغ صاحب مال ہو۔<sup>(۵)</sup> اس کے علاوہ کوئی اور صدقہ یتیم کے مال میں سے کرنا جائز نہیں۔

## یتیم کے مال پر زکوٰۃ نہیں

سوال: ... کیا یتیموں کے مال پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ والد صاحب نے انتقال سے پہلے ہم تین بہنوں کی شادی کے لئے رقم ہمارے نام سے رکھوائی تھی، آج کل مہنگائی کے لحاظ سے وہ رقم بہت کم ہے، ہم سفید پوش لوگ ہیں، ہمیں ضروریات زندگی بھی پوری طرح میسر نہیں ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ عزت سے رہ رہے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا اس رقم پر زکوٰۃ فرض ہے؟

جواب: ... جو بچیاں نابالغ ہیں ان کے ذمے زکوٰۃ نہیں، اور جو بالغ ہو گئی ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔<sup>(۶)</sup>

(۱) ومنها العقل والبلوغ فليس الزكاة على صبي ومجنون... الخ. (هندية ج: ۱ ص: ۱۷۲)۔ وفي الفتاوى الشامية

(ج: ۲ ص: ۲۵۸) كتاب الزكاة: (قوله عقل وبلوغ) فلا تجب على مجنون وصبي لأنها عبادة محضة، وليس مخاطبين بها.

(۲) وسبب أي سبب افتراضها ملك نصاب حولي... الخ. (درمختار مع الشامي ج: ۲ ص: ۲۵۹) كتاب الزكاة.

(۳) ولا في ثياب البدن وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها..... إذا لم تنو للتجارة. (الدر المختار ج: ۲

ص: ۲۶۳)۔ قوله ونحوها أي كثياب البدن الغير احتاج إليها. (رد المختار ج: ۲ ص: ۲۶۵)۔

(۴) ايضاً حاشية نمبر ۱۔

(۵) حتى تجب على الصبي والمجنون إذا كان لهما مال ويخرجها الولي من مالهما... الخ. (شامي، باب صدقة الفطر ج: ۲

ص: ۳۵۹)۔

(۶) ايضاً حاشية نمبر ۱ ملاحظہ ہو۔

## مجنون پر زکوٰۃ نہیں ہے

سوال: ... مجنون شخص پر نماز فرض نہیں، اگر کوئی مجنون بہت سی دولت کا مالک ہو تو کیا اس کے مال سے زکوٰۃ کی رقم کاٹنا

جائز ہے؟

جواب: ... مجنون کے مال پر زکوٰۃ نہیں۔<sup>(۱)</sup>

## زیور کی زکوٰۃ

سوال: ... جبکہ مرد حضرات پیسہ کماتے ہیں تو بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ شوہر کو دینی چاہئے یا بیوی کو اپنے جیب خرچ سے جوڑ

کر؟ اگر شوہر زکوٰۃ ادا نہ کریں اگرچہ بیوی چاہتی ہو اور بیوی کے پاس روپیہ بھی نہ ہو کہ زکوٰۃ دے سکے تو گناہ کس کو ملے گا؟

جواب: ... زیور اگر بیوی کی ملکیت ہے تو زکوٰۃ اسی کے ذمہ واجب ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے پر وہی گناہگار ہوگی۔ شوہر کے

ذمہ اس کا ادا کرنا لازم نہیں،<sup>(۲)</sup> بیوی یا تو اپنا جیب خرچ بچا کر زکوٰۃ ادا کرے یا زیورات کا ایک حصہ زکوٰۃ میں دے دیا کرے۔<sup>(۳)</sup>

## عورت پر زیور کی زکوٰۃ

سوال: ... آپ نے اپنے کالم میں ایک صاحب کو ان کی بیوی کے زیورات پر زکوٰۃ کی ادائیگی ان کی بیوی کی ذمہ داری بتائی

ہے۔ عرض یہ ہے کہ عورت تو شوہر پر انحصار کرتی ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری شوہر پر ہوتی ہے، عورت کی کفالت تو مرد کرتا ہے، تو کیا ان

زیورات پر جو عورت کو جہیز میں یا تحفے میں ملے ہیں، ان پر زکوٰۃ کی ذمہ داری شوہر پر نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر عورت کو کیا کرنا چاہئے

کہ عورت زکوٰۃ ادا کر سکے؟

جواب: ... زکوٰۃ جن زیورات پر فرض ہو، وہ اگر عورت کی ملکیت ہے تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ مالک ہی پر فرض ہوگی، اور زکوٰۃ ادا

کرنے کی ذمہ داری بھی مالک ہی پر ہوگی۔ شوہر اگر اس کے کہنے پر زکوٰۃ ادا کرے تو ادا ہو جائے گی، ورنہ عورت پر لازم ہے کہ زکوٰۃ

میں ان زیورات کا حصہ بقدر زکوٰۃ نکال دیا کرے۔<sup>(۴)</sup>

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ ہو۔

(۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمرى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره... الخ. (صحيح مسلم ج: ۱ ص: ۳۱۸، كتاب الزكاة، باب إثم مانع زكاة). أيضا: لم يختلفوا أن الحلبي إذا كان في ملك الرجل تجب فيه الزكاة، فكذلك إذا كان في المرأة كالدرهم والدنانير، وأيضاً لا يختلف حكم الرجل والمرأة فيما يلزمها من الزكاة فوجب أن لا يختلف في الحلبي. (أحكام القرآن للجصاص ج: ۳ ص: ۱۰۷، ۱۰۸، باب زكاة الحلبي، طبع سهيل اكيذمي).

(۳) ولو كان له إبريق فضة، وزنه مائتان وقيمته لصايته ثلاث مائة إن أدى من العين يؤدي ربع عشره، وهو خمسة قيمتها سبعة ونصف، وإن أدى خمسة، قيمتها خمسة، جاز، ولو أدى من خلاف جنسه يعتبر القيمة إجماعاً. (فتاوى عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۹، كتاب الزكاة، الفصل الأول في زكاة الذهب والفضة، طبع رشيدية).

(۴) أيضاً۔

## بیوی کی زکوٰۃ شوہر کے ذمہ نہیں

سوال: ... ایک نلیل آمدنی والے شخص کی بیوی شادی کے موقع پر دس تو لے سونا زیورات کی شکل میں لاتی ہے، کیا شوہر کے لئے ضروری ہے کہ ہر حال میں اس پر زکوٰۃ ادا کرے؟

جواب: ... چونکہ یہ زیورات بیگم صاحبہ کی ملکیت ہیں، اس لئے اس زیور کی زکوٰۃ بیگم صاحبہ کے ذمہ ہے، غریب شوہر کے ذمہ نہیں۔ عورت کو چاہئے کہ ان زیورات کا بقدر واجب حصہ زکوٰۃ میں دے دیا کرے، اپنی زکوٰۃ شوہر کے ذمہ نہ ڈالے۔<sup>(۱)</sup>

## بیوی کے زیور کی زکوٰۃ کا مطالبہ کس سے ہوگا؟

سوال: ... اگر شوہر کی ذاتی ملکیت میں کوئی زیور ایسا نہ ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، لیکن جب اس کی بیوی شادی ہو کر اس کے گھر آئے تو اتنا زیور لے آئے کہ اس پر زکوٰۃ واجب الادا ہو، اور بیوی شوہر کے یہ حالات جانتے ہوئے بھی کہ وہ مقروض ہے اور اس کی اتنی تنخواہ بہر حال نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم نکال سکے، تو کیا شوہر پر بغیر بیوی کی طرف سے کسی قربانی کے زکوٰۃ و قربانی واجب رہے گی اور اللہ میاں شوہر ہی کا گریبان پکڑیں گے؟ اور کیا بیوی صاحبہ یہ کہہ کر بری الذمہ ہو جائیں گی کہ شوہر ہی ان کے آقا ہیں اور انہی سے سوال و جواب کئے جائیں؟

جواب: ... چونکہ زیور بیوی کی ملکیت ہے، اس لئے قربانی و زکوٰۃ کا مطالبہ بھی اسی سے ہوگا، اور اگر وہ ادا نہیں کرتی تو گناہگار بھی وہی ہوگی، شوہر سے اس کا مطالبہ نہیں ہوگا۔<sup>(۲)</sup>

## کیا شوہر کی طرف سے دیئے گئے زیور کی زکوٰۃ بیوی کے ذمے ہے؟

سوال: ... میرے شوہر کے انتقال کو تقریباً چار سال ہو گئے ہیں، میں اپنی سسرال میں رہتی ہوں، میرے دو بچے ہیں، ایک لڑکی، ایک لڑکا۔ اب مجھے معلوم یہ کرنا ہے کہ شادی پر میری سسرال کی طرف سے تقریباً چھ تو لے سونا چڑھا اور بعد میں، میں نے خود بھی کچھ بنایا، تقریباً تین تو لے، اس طرح آٹھ تو لے سونا میرے پاس موجود ہے۔

اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اسکول میں جا ب کرتی ہوں، میری تنخواہ ایک ہزار ہے، پانچ سو روپے میرے سر مجھے دیتے ہیں، اب کھانے کے علاوہ میں اپنے بچوں کی ساری ذمہ داری ان روپوں سے پوری کرتی ہوں، اس میں اسکول کی فیس، کپڑے وغیرہ بیماری غرض صرف کھانے کے سوا ساری ذمہ داری میری ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے؟ ویسے میں نے کبھی بھی زیور پر زکوٰۃ نہیں نکالی، لیکن ویسے جو بھی بنتا ہے میں غریبوں کو دیتی رہتی ہوں۔

جواب: ... اس زیور کے بارے میں یہ بات تصفیہ طلب ہے کہ وہ آپ کی ملکیت ہے یا مرحوم شوہر کی ملکیت تھا؟ عام طور پر

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۲، ۳ ملاحظہ ہو۔

(۲) ایضاً۔

گھر میں جو زیور ہو وہ شوہر کی ملکیت سمجھا جاتا ہے، اگر یہ آپ کے شوہر کی ملکیت تھا تو مرحوم کی وفات کے بعد اس میں آٹھواں حصہ آپ کا ہے، چھٹا حصہ مرحوم کی ماں اور باپ کا،<sup>(۲)</sup> اور باقی لڑکے اور لڑکی کا۔ (کل زیور کے ۷۲ حصے ہوں گے، ۹ حصے بیوہ کے، ۱۲، ۱۲ ماں اور باپ کے، ۲۶ لڑکے کے، ۱۳ لڑکی کے)۔ آپ کے ذمہ اپنے حصے کی زکوٰۃ واجب ہے، (جبکہ اس زیور کے علاوہ بھی روپیہ پیسہ آپ کے پاس رہتا ہو)۔<sup>(۳)</sup> بچے جب تک نابالغ ہیں، ان کے ذمے زکوٰۃ نہیں۔<sup>(۴)</sup> اور اگر یہ زیور کل کا کل آپ کی ملکیت ہے، تو اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمے ہے، بلکہ گزشتہ سالوں کی بھی۔ زکوٰۃ کی نیت سے جو پیسہ دیا جائے اس سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، بغیر نیت زکوٰۃ کے صدقہ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔<sup>(۵)</sup>

### زیور کی زکوٰۃ کس پر ہوگی؟

سوال: ... میں نے چند ماہ پیشتر اپنے بیٹے کی شادی کی، حق مہر لکھواتے ہوئے میں نے لڑکی والوں کو کہا کہ حق مہر شرعی ہوگا، لیکن عین موقع پر لڑکی والوں نے کہا کہ سونا لڑکی کے نام لکھوادیں۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن میرے لڑکے نے کہا کہ لکھوادیں، ہم نے کونسا سونا واپس لینا ہے۔ میں نے اجازت دے دی۔ اب صورت حال یہ ہے کہ لڑکی سونے کی مالک بن کر صاحب نصاب ہو چکی ہے، جبکہ وہ ایک گھریلو خاتون ہے، اور کہیں ملازمت نہیں کرتی، اور نہ ہی اس کی کوئی جائیداد ہے، اب زکوٰۃ کی ادائیگی کون کرے گا؟ اور کس طرح کرے گا؟

جواب: ... لڑکی صاحب نصاب ہے تو لڑکی کے مال کی زکوٰۃ بھی لڑکی کے ذمے ہے،<sup>(۶)</sup> خواہ وہ اپنا زیور بیچ کر زکوٰۃ دیا کرے، یا اپنے شوہر سے لے کر،<sup>(۷)</sup> واللہ اعلم!

(۱) قال تعالیٰ: "فإن كان لكم ولد فلهن الثمن" (النساء: ۱۲)۔

(۲) قال تعالیٰ: "ولأبويه لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد" (النساء: ۱۱)۔

(۳) وأما شروط وجوبها منها كون المال نصاباً فلا تجب في أقل منه. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۲، كتاب الزكاة)۔

(۴) فليس الزكاة على صبي ومجنون. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۲، كتاب الزكاة، الباب الأول)۔

(۵) وأما شرط أدائها فنية مقارنة للأداء..... فإذا نوى أن يؤدي الزكاة ولم يعزل شيئاً..... ولم تحضره النية

لم يجز عن الزكاة. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۰، كتاب الزكاة، الباب الأول، طبع رشیدیہ)۔

(۶) وأما شروط وجوبها... إلخ. منها العقل والبلوغ ومنها كون المال نصاباً فلا تجب في أقل منه... إلخ. (عالمگیری

ج: ۱ ص: ۱۷۳)۔ أيضاً: لم يختلفوا أن الحلي إذا كان في ملك الرجل تجب فيه الزكاة، فكذلك إذا كان في ملك

المرأة كالدرهم والدنانير، وأيضاً لا يختلف حكم الرجل والمرأة فيما يلزمها من الزكاة فوجب أن لا يختلفا في الحلي.

(أحكام القرآن للجصاص ج: ۳ ص: ۱۰۷، ۱۰۸، باب زكاة الحلي، طبع سهيل اكيڈمی)۔

(۷) ولو كان له إبريق فضة، وزنه مائتان، وقيمته لصيانته ثلث مائة إن أدى من العين يؤدي ربع عشره وهو خمسة قيمتها سبعة

ونصف وإن أدى خمسة قيمتها خمسة جاز، ولو أدى من خلاف جنسه يعتبر القيمة إجماعاً. (فتاوى عالمگیری ج: ۱

ص: ۱۷۹، كتاب الزكاة، الباب الثالث، أيضاً: رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۷۵، كتاب الزكاة)۔

## شوہر اور بیوی کی زکوٰۃ کا حساب الگ الگ ہے

سوال: ... شادی پر لڑکیوں کو جو زیورات ملتے ہیں وہ ان کی ملکیت ہوتے ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ اپنے شوہروں کی کمائی ہوئی رقم سے ادا کرتی ہیں، تو کیا اس صورت میں اگر شوہروں کے پاس بھی کچھ رقم ہو، لیکن نصاب سے وہ کم ہو تو کیا اس رقم کو بیویوں کے زیورات کی مالیت میں شامل کر کے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے یا دونوں کا حساب الگ الگ ہوگا؟

جواب: ... دونوں کا الگ الگ حساب ہوگا۔<sup>(۱)</sup>

## شوہر بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے

سوال: ... میں نے شادی کے وقت اپنی بیوی کو حق المہر میں ۱۳ تو لے سونا دیا تھا، کیا یہ جائز ہے؟ اور ۳ تو لے سونا وہ اپنے میکے سے لائی تھیں، چونکہ کل سونا ۱۶ تو لے پڑا، اب میری بیوی اگر زکوٰۃ ۱۶ تو لے پر نہیں دے سکتی تو کیا اس کی یہ زکوٰۃ میں اپنے خرچ سے دے سکتا ہوں؟ اور پھر یاد رہے کہ یہ حق المہر بھی میں نے ہی ادا کیا تھا؟

جواب: ... چونکہ سونا آپ کی بیوی کی ملکیت ہے، اس لئے اس کی زکوٰۃ تو اسی کے ذمہ ہے، لیکن اگر آپ اس کے کہنے پر اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں تو ادا ہو جائے گی۔<sup>(۲)</sup>

سوال: ... میرے پاس آٹھ تو لے سونا ہے جو کہ پچھلے سال شادی پر ملا تھا، اور وہ میری بیوی کی ملکیت میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ مجھ پر قرضہ بھی ہے، اس صورت میں ان زیورات کی زکوٰۃ مجھ پر ہوگی یا بیوی پر؟ ۲: زیورات پر زکوٰۃ جبکہ آمدنی کا ذریعہ میں ہی ہوں قرض کی رقم نکال کر ادا کی جائے یا صرف زیورات کی رقم پر ادا کی جائے؟

جواب: ... ۱: جب زیورات آپ کی بیوی کی ملکیت ہے تو زکوٰۃ بھی اسی کے ذمہ ہے۔ ۲: ... زیورات آپ کی بیوی کا ہے، اور قرض آپ کے ذمہ ہے، اس لئے زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس قرض کو منہا نہیں کیا جائے گا، بلکہ پورے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرے گی، البتہ اگر آپ کی بیوی کے ذمہ قرض ہو تو قرض منہا کیا جائے گا۔<sup>(۳)</sup>

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۶ دیکھیں۔

(۲) ایضاً۔

(۳) وشرط صحة أدائها نية مقارنة له: أي للأداء، ولو كانت المقارنة حكماً. (درمختار). وأما المقارنة للدفع إلى الوكيل فهي من الحكمية. (رد المختار ج: ۲ ص: ۲۶۸، كتاب الزكاة، مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء).

(۴) ایضاً گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۶ دیکھیں۔

(۵) وان كان ماله أكثر من دينه، زكى الفاضل إذا بلغ نصاباً لفراغه عن الحاجة الأصلية، والمراد به دين له مطالب من جهة العباد. (هداية مع فتح القدير ج: ۱ ص: ۴۸۶، كتاب الزكاة، طبع دار صادر). وفي الدر المختار (ج: ۲ ص: ۲۶۳) كتاب الزكاة: فلا زكاة على مكاتب ..... ومديون للعبد بقدر دينه، فيزكى الزائد إن بلغ نصاباً (قوله ومديون للعبد) الأولى: ومديون بدين يطالبه به العبد يشمل دين الزكاة والخراج لأنه لله تعالى مع أنه يمنع لأن له مطالباً من جهة العباد.

## مرحوم شوہر کی زکوٰۃ بیوی پر فرض نہیں

سوال: ... اگر کسی کا شوہر فوت ہو گیا ہو اور میاں بیوی نے اپنی زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہ دی ہو، مگر خیرات برابر کرتے رہے ہوں، تو کیا اب اس بیوہ کا فرض ہے کہ وہ گزرے دنوں کی زکوٰۃ ادا کرے؟

جواب: ... مرحوم شوہر کی زکوٰۃ بیوہ کے ذمہ فرض نہیں، اس کے مرحوم شوہر کے ذمہ ہے، وہی گناہگار ہوگا،<sup>(۱)</sup> اس کی طرف سے وارث ادا کر دیں تو اچھا ہے۔<sup>(۲)</sup>

سوال: ... اور کیا اپنی بھی زکوٰۃ وہ مرنے تک دیتی رہے، جبکہ اس کا ذریعہ آمدنی کوئی نہیں ہے؟

جواب: ... اگر اس کی اپنی ملکیت میں ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے،<sup>(۳)</sup> یعنی اس کے اپنے حصے کی مالیت اتنی ہو، (اگر مرحوم کے بچے یتیم ہوں تو ان کے مال کی زکوٰۃ نہیں)۔<sup>(۴)</sup>

## زیور کی زکوٰۃ اور اس پر حق وراثت

سوال: ... زیور کی زکوٰۃ کس کو دینا ہوگی؟ میری بیوی اپنے جہیز میں دس تولے سونے کے زیورات لائی تھی، جو اب تک وہ استعمال کر رہی ہے، میری شادی کو پانچ سال گزر چکے ہیں، میرے گھر جب سے آئی ہے ایک پیسہ بھی اس نے زکوٰۃ نہیں دیا ہے، زیور پہنتی ضرور ہے، لیکن میں اس کا حق دار نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اس پر اپنا کوئی حق سمجھتا ہوں، مرنے کے بعد یہ حق اس نے اپنے بیٹے کو دیا ہے، وہ جس طرح چاہے اسے استعمال کرے، میرے بیٹے کی عمر اس وقت چار سال ہے، اب آپ مجھے تفصیل سے یہ بتائیں کہ اس زیور کی زکوٰۃ کس کو ادا کرنا چاہئے؟

جواب: ... اس زیور کی زکوٰۃ آپ کی بیوی کے ذمہ ہے۔ ان سے کہئے کہ اگر ان کے پاس پیسے نہیں تو زیور بیچ کر پانچ سال کی زکوٰۃ ادا کریں،<sup>(۵)</sup> اور مرنے کے بعد بیٹے کو حق دار بنانا بھی شرعاً غلط ہے،<sup>(۶)</sup> اس کے مرنے کے وقت جتنے وارث ہوں گے، حصہ اس

(۱) واذا لم يؤذ إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب، حتى لو لم يؤذ حتى مات ياتم۔ (رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۷۱)۔

(۲) في الدر المختار: ولا تؤخذ من تركته بغير وصية لفقد شرطها وهو النية وان أوصى بها اعتبر من الثلث إلا أن يجيز الورثة. وفي الشرح: أي إذا أوصى بها وزادت على الثلث يؤخذ الزائد إلا أن يجيز الورثة. (الدر المختار مع الرد المختار ج: ۲ ص: ۲۹۳)۔

(۳) ص: ۶۷ کا حاشیہ نمبر ۶ ملاحظہ فرمائیں۔

(۴) (قوله عقل وبلوغ) فلا تجب على مجنون وصبي لأنهما عبادة محضة۔ (شامی ج: ۲ ص: ۲۵۸، کتاب الزکاة)۔

(۵) ص: ۶۷ کا حاشیہ نمبر ۶، ملاحظہ فرمائیں۔

(۶) عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث۔ رواه أبو داود۔ (مشکوٰۃ ص: ۲۶۵)۔ وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة۔ (مشکوٰۃ ج: ۱ ص: ۲۶۶ باب الوصايا)۔

میں سب کا ہوگا۔<sup>(۱)</sup>

## بیٹی کے لئے زیور پر زکوٰۃ

سوال: ... میں زکوٰۃ کے بارے میں کچھ زیادہ محتاط ہوں، اس لئے اس فرض کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتی ہوں، تو قبلہ! میں نے لوگوں کی زبانی سنا ہے کہ ”ماں اگر اپنا زیور اپنی لڑکی کے لئے اٹھارکھے یا یہ نیت کرے کہ یہ سونا میں اپنی بیٹی کو جہیز میں دوں گی تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اور جب یہ زیور یا سونا لڑکی کو ملے تو وہ اس کو پہن کر یا استعمال میں لا کر زکوٰۃ ادا کرے“ آپ یہ وضاحت کریں کہ لڑکی کے لئے کوئی زیور بنوا کر رکھا جائے تو زکوٰۃ دی جائے یا نہیں؟

جواب: ... اگر لڑکی کو زیور کی مالک بنا دیا تو جب تک وہ لڑکی نابالغ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں<sup>(۲)</sup>، بالغ ہونے کے بعد لڑکی کے ذمہ زکوٰۃ واجب ہوگی، جبکہ صرف یہ زیور یا اس کے ساتھ کچھ نقدی نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، صرف یہ نیت کرنے سے کہ یہ زیور لڑکی کے جہیز میں دیا جائے گا، زکوٰۃ سے مستثنیٰ نہیں قرار دیا جاسکتا، جب تک کہ لڑکی کو اس کا مالک نہ بنا دیا جائے، اور لڑکی کو مالک بنا دینے کے بعد پھر اس زیور کا خود پہننا جائز نہیں ہوگا۔<sup>(۳)</sup>

## گزشتہ سالوں کی زیور کی زکوٰۃ

سوال: ... میری شادی کو نو سال ہو گئے ہیں، میری بیگم کے پاس جب سے اب تک تقریباً ۸۰ لے سونا ہے، اور ہم نے ابھی تک اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کی، کیونکہ میری آمدنی اتنی نہیں کہ کچھ بچ جائے تو زکوٰۃ ادا کروں۔ میری دو بچیاں بھی ہیں، وہ سونا میری بیوی کو جہیز میں ملا تھا، اور اگر اب میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہوں تو کیسے ادا کروں؟ اور مجھ پر یا میری بیگم پر زکوٰۃ ضروری ہے جبکہ اتنی آمدنی نہیں؟

جواب: ... اس اسی تو لے کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ نہیں، بلکہ آپ کی بیوی کے ذمہ ہے، اگر زکوٰۃ ادا کرنے کے پیسے نہ ہوں تو

(۱) تتعلق بتركة الميت حقوق أربعة ..... ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنة واجتماع الأمة، فيبدأ بأصحاب الفروض وهم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله. (السراجي في الميراث ص: ۲، ۳).

(۲) وأما شرط وجوبها ..... ومنها العقل والبلوغ فليس الزكوة على صبي ومجنون... الخ. (هندية ج: ۱ ص: ۱۷۲، كتاب الزكاة). أيضاً: وشرط افتراضها عقل وبلوغ وإسلام. (قوله عقل وبلوغ) فلا تجب على مجنون وصبي لأنها عبادة محضة وليس مخاطبين بها. (رد المختار على الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۵۸، كتاب الزكاة، مطلب في أحكام المعتوه).

(۳) كتاب الزكاة (هي) لغة الطهارة والنماء، وشرعاً (تمليك) خرج الإباحة، فلو أطعم يتيمًا نأويًا الزكاة لا يعجزه إلا إذا دفع إليه المطعوم ..... (جزء مال) خرج المنفعة ..... (عينه الشارع) وهو ربع عشر نصاب حولي ..... (من مسلم فقير) ولو معتوها غير هاشمي ولا مولاه مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه. (در مختار مع تنوير الأبصار ج: ۲ ص: ۲۵۶ تا ۲۵۸، كتاب الزكاة، طبع ايچ ایم سعيد كراچی).

اتنا حصہ زیور کا دے دیا جائے۔<sup>(۱)</sup> بہر حال گزشتہ نو سالوں کی زکوٰۃ آپ کی بیوی کے ذمہ لازم ہے، ہر سال کا حساب کر کے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے ادا کی جائے۔<sup>(۲)</sup>

## نصاب میں انفرادی ملکیت کا اعتبار ہے

سوال: ... کسی گھر میں تین بھائی اکٹھے رہتے ہوں، ایک ہی جگہ کھاتے ہوں، لیکن کماتے الگ ہوں، ہر ایک کی بیوی کے پاس اڑھائی یا تین تو لے سونا ہو اور سب کا ملا کر تقریباً ساڑھے آٹھ تو لے سونا بنتا ہو تو کیا ان کو اس زیور کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟

جواب: ... اگر ان کے پاس اور کوئی مال نہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ نصاب کی حد کو پہنچتا ہو تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ نصاب زکوٰۃ میں انفرادی ملکیت کا اعتبار ہے، اور یہاں کسی کی انفرادی ملکیت بقدر نصاب نہیں۔<sup>(۳)</sup>

## خاندان کی اجتماعی زکوٰۃ

سوال: ... ایک خاندان کے چند افراد جو سب برسر روزگار ہیں، ان کی اپنی ملکیت میں اتنا مال نہیں کہ جس پر زکوٰۃ دیں، لیکن اگر سب اپنا مال جمع کر لیں تو وہ نصاب کے مطابق قابل زکوٰۃ بن جاتا ہے، تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ کس حساب سے نکالی جائے؟

جواب: ... ہر شخص کا الگ الگ صاحب نصاب ہونا شرط ہے، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔<sup>(۴)</sup> اس لئے آپ نے جو صورت لکھی ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ البتہ اگر عرفاً ساری ملکیت خاندان کے سربراہ کی سمجھی جاتی ہے، چونکہ یہ فرد واحد کی ملکیت ہوئی اور بقدر نصاب بھی ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، یہ اس صورت میں ہے کہ خاندان کے سربراہ کو واقعتاً مالک سمجھا بھی جاتا ہو۔

## مشترکہ گھرداری میں زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟

سوال: ... ہمارے گھر میں یہ طریقہ ہے کہ سب بھائی تنخواہ لاکر والدہ کو دیتے ہیں، جو گھر کا خرچہ چلاتی ہیں، جبکہ زیور اور کچھ بچت کی رقم ہمارے پاس ہوتی ہے، آیا زکوٰۃ دینی ہمارے ذمہ ہے یا والدہ محترمہ کے؟

(۱) ص: ۶۷ کا حاشیہ نمبر ۷، ۷۶ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) إمداد الفتاویٰ ج: ۲ ص: ۳۳ کتاب الزکاة والصدقات، طبع مکتبہ دارالعلوم کراچی۔

(۳) الزکوٰۃ واجبة علی الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملک نصاباً ملکاً تاماً وحال علیہ الحول۔ (هدایة ج: ۱ ص: ۱۸۵)۔

وسببہ أى سبب افتراضها ملک نصاب حولی ..... تام... الخ۔ (الدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ۲۵۹)۔ ومنها الملك

التام وهو ما اجتمع فيه الملك واليد وأما إذا وجد الملك دون اليد كالصداق قبل القبض أو وجد اليد دون الملك

كملك المكاتب والمديون لا تجب فيه الزکوٰۃ كذا فی السراج الوهاج۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۲، کتاب الزکاة)۔

(۴) ایضاً۔



جواب: ... اگر وہ سونا اور بچت کی رقم اتنی ہو کہ اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو سب بھائی صاحب نصاب ہو سکتے ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ نہیں۔<sup>(۱)</sup>

## مشترکہ خاندان میں بیوی، بیٹی، بہوؤں کی زکوٰۃ کس طرح دی جائے؟

سوال: ... میں گھر کا سربراہ ہوں، میرے دونوں لڑکے صاحب روزگار ہیں، اور میری دونوں بہوؤں کے ہاں کم سے کم ۱۲، ۱۲ تو لے فی کس زیورات ہیں، اور بیوی کے ہاں ۵ تو لے کے زیور اور کنواری لڑکی کی شادی کے لئے ۳ تو لے کے زیورات ہیں، جس کو ایک سال سے خرید کر رکھا ہوا ہے، دوسرے آج کل مشترکہ خاندان میں بھی زیور ہر متعلقہ عورت کی ذاتی ملکیت ہی شمار ہوتا ہے، ایک عورت کا زیور دوسری عورت مستقل طور سے نہیں لے سکتی، حتیٰ کہ ساس اپنی بہو کا زیور اپنی لڑکی کو نہیں دے سکتی، کیا ایسی صورت میں مجھے گھر کے تمام زیور کی مالیت کے مطابق زکوٰۃ نکالنا چاہئے یا فرداً فرداً کے حساب سے؟

جواب: ... زکوٰۃ کے واجب ہونے میں ہر شخص کی انفرادی ملکیت کا اعتبار ہے۔<sup>(۲)</sup> اب آپ کی بہوؤں کے پاس جو زیور ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کا مالک کون ہے؟ آپ کی بہوؤں کا زیور اگر ان کی ملکیت ہے تو زکوٰۃ ان کے ذمہ واجب ہے، اور اگر لڑکوں کی ملکیت ہے تو زکوٰۃ ان کے ذمہ واجب ہے، اور اگر کچھ زیور بہوؤں کی ملکیت ہے، مثلاً: جو زیور ان کے میکے سے ملا ہے، اور کچھ لڑکوں کی طرف سے، تو اگر ہر ایک کی ملکیت نصاب کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح آپ کی اہلیہ کے پاس جو سونا ہے وہ اگر اس کی مالک ہیں اور اس کے سوا ان کی ملکیت میں کوئی روپیہ پیسہ نہیں تو ان کے ذمہ زکوٰۃ نہیں، اور اگر وہ سونا آپ کی ملکیت ہے تو دوسرے اموال زکوٰۃ کے ساتھ اس زیور کی زکوٰۃ بھی آپ کے ذمہ ہوگی۔ آپ نے لڑکی کے لئے جو سونا خرید کر رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ نے وہ سونا لڑکی کی ملکیت کر دیا ہے یا نہیں؟ اگر لڑکی کی ملکیت نہیں تو اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ ہے، اور اگر لڑکی کی ملکیت ہے اور اس کے پاس کوئی نقد روپیہ پیسہ نہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں، اور اگر کچھ روپیہ پیسہ بھی اس کے پاس ہے تو زکوٰۃ اس کے ذمہ واجب ہے۔<sup>(۳)</sup>

## شراکت والے کاروبار کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی؟

سوال: ... میرا ایک بھائی ہے، اس کو اس کے بھائی نے چھ ہزار روپے میں کھلونوں کی دکان کھول دی ہے، اب اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے، جبکہ یہ کاروبار شراکت میں ہو گیا، یعنی رقم ایک بھائی کی ہے اور چلاتا دوسرا بھائی ہے، نفع برابر ہے۔ اس آدمی نے جس نے یہ دکان کھولی ہے ایک قطعہ زمین برائے دکان دس ہزار روپے میں خریدی ہے، اب اس کی زکوٰۃ کی کیا شکل ہوگی؟

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) الزکوٰۃ واجبة علی الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملک نصاباً ملکاً تاماً وحال علیہ الحول۔ (ہدایہ ج: ۱ ص: ۱۸۵)۔  
وسبہ ای سبب افتراضها ملک نصاب حولی..... تام... الخ۔ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۵۹، کتاب الزکوٰۃ)۔

(۳) وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة كذا في الكنز۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۹)۔

جواب: ... پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جب کسی کو کاروبار کے لئے مال دیا جائے اور نفع میں حصہ رکھا جائے تو شرعی اصطلاح میں اس کو ”مضاربت“ کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں عام طور سے اس کو ”شراکت“ کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ آپ نے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کاروبار میں ایک اصل رقم ہوتی ہے اور ایک اس کا منافع۔ اصل رقم کی زکوٰۃ اس کے اصل مالک کے ذمہ ہے، اور اس کے ذمہ منافع کے اس حصے کی زکوٰۃ بھی واجب ہے جو اسے ملے گا،<sup>(۱)</sup> اور جو نفع پر کام کرتا ہے اگر اس کا نفع نصاب کی مقدار کو پہنچے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اپنے حصے کی زکوٰۃ اس پر بھی ہوگی۔ جو قطعہ زمین دکان کے لئے خریدا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں<sup>(۲)</sup>۔ کھلونے اگر مجسموں کی شکل کے ہوں تو ان کا کاروبار درست نہیں۔<sup>(۳)</sup>

## قرض کی زکوٰۃ کس کے ذمہ ہے؟

سوال: ... دس ماہ پیشتر زید نے بکر کو ۲۰,۰۰۰ روپے قرض حسنہ دیا، ادائیگی کی مدت لا محدود ہے، بکر نے ۱۰,۰۰۰ روپے مکان خریدنے میں اور ۱۰,۰۰۰ روپے کاروبار میں لگائے۔ رقم منافع کے ساتھ اب ۱۰,۰۰۰ روپے سے بڑھ کر ۱۳,۰۰۰ روپے ہو گئی ہے، کیا اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اور اگر ہوگی تو کس صورت میں؟

جواب: ... اصول یہ ہے کہ جو رقم کسی کو قرض کے طور پر دی جائے، اس کی زکوٰۃ قرض دینے والے کے ذمہ ہوتی ہے، قرض لینے والے کے ذمہ نہیں ہوتی، پس زید نے جو بیس ہزار کی رقم بکر کو قرض دے رکھی ہے، اس کی زکوٰۃ زید کے ذمہ ہے۔<sup>(۴)</sup>

بکر کے پاس جو سرمایہ ہے خواہ وہ کاروبار میں لگا ہوا ہو یا سونے چاندی اور نقدی کی شکل میں اس کے پاس موجود ہو، اس

(۱) من كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه... الخ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۵، كتاب الزكاة، الباب الأول)، أيضا: واعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوی ومتوسط وضعیف، فتجب زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فوراً بل عند قبض أربعين درهما من الدين القوی كقرض وبدل مال تجارة فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم... الخ. (الدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ۳۰۵، باب زكاة المال).

(۲) وليس في دور السكنى..... وسلاح الاستعمال زكوة لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضا وعلى هذا كتب العلم لأهلها وآلات المحترفين لما قلنا... الخ. (هداية ج: ۱ ص: ۱۸۶، كتاب الزكاة). وفارغ عن حاجته الأصلية..... تحقيقا..... أو تقديرا كالعين فإن المديون محتاج إلى قضائه..... كآلات الحرفة وأثاث المنزل... الخ. (شامی ج: ۲ ص: ۲۶۲، مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء).

(۳) وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعه حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. (شامی ج: ۱ ص: ۶۳۷، مطلب إذا تردد الحكم بين... الخ).

(۴) ولو كان الدين على مقر..... فوصل إلى ملكه لزم زكوة ما مضى. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۶۶، ۲۶۷، كتاب الزكاة). أيضا: واعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوی، ومتوسط، وضعیف، فتجب زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فوراً بل عند قبض أربعين درهما من الدين القوی كقرض، وبدل مال تجارة، فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم. (الدر المختار مع رد المختار ج: ۲ ص: ۳۰۵، فتاوى هندية ج: ۱ ص: ۱۷۵، كتاب الزكاة).

تمام سرمایہ کی مجموعی رقم میں سے بیس ہزار روپے منہا کر دیا جائے، جو اس کے ذمہ قرض ہے۔<sup>(۱)</sup> باقی سرمایہ اگر ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو اس کے ذمہ اس کی زکوٰۃ واجب ہے۔<sup>(۲)</sup>

سوال: ... اگر کچھ رقم کسی کو قرض دی ہوئی ہو تو کیا اس رقم پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟

جواب: ... جی ہاں! اس رقم پر بھی ہر سال زکوٰۃ واجب ہے، البتہ آپ کو یہ اختیار ہے کہ ہر سال جب دوسرے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اسی کے ساتھ قرض پر دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ دے دیا کریں، اور یہ بھی اختیار ہے کہ جب قرض وصول ہو جائے تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ، جو اس قرض کی رقم پر واجب ہوئی تھی، وہ یک مشمت ادا کر دیں۔<sup>(۳)</sup>

سوال: ... میرے والدین نے اپنے مکان کی تعمیر کے سلسلے میں ۲۰,۰۰۰ روپے قرض لیا تھا، جو ابھی لوٹا یا نہیں گیا ہے، اگرچہ وہ رقم ہمارے پاس جمع شدہ نہیں ہے، بلکہ مکان کی تعمیر وغیرہ کے سلسلے میں خرچ ہو گئی، تو کیا ہم پر اس کی زکوٰۃ دینا فرض ہوگی؟ کیونکہ اس سلسلے میں معلوم کرنے پر ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جس شخص کی رقم ہوگی وہی زکوٰۃ ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ اس سلسلے میں ہم نے اس شخص سے بھی معلوم کیا جس کی یہ رقم ہے، تو انہوں نے صاف طور پر زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا، اور کہا کہ زکوٰۃ آپ خود ادا کریں کیونکہ یہ رقم آپ کے کام آئی ہے۔

جواب: ... قرض کی رقم کی زکوٰۃ قرض دینے والے کے ذمہ ہوتی ہے،<sup>(۴)</sup> قرض لینے والے کے ذمہ نہیں ہوتی،<sup>(۵)</sup> اس لئے اس رقم کی زکوٰۃ آپ لوگوں کے ذمہ نہیں، قرض دینے والے کو چاہئے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔

تجارت کے لئے منافع پر دی گئی رقم کی زکوٰۃ کس کے ذمے ہے؟

سوال: ... جہاں تک میرے علم میں ہے، شرعی لحاظ سے اگر کسی شخص کی قابل زکوٰۃ رقم سال یا سال سے اوپر کسی دوسرے شخص کے پاس رہتی ہے اور اس عرصے کے بعد اسے وہ رقم واپس ہوتی ہے، تو اس تمام عرصے کی زکوٰۃ اس شخص پر واجب الادا ہوگی جو اس رقم کا مالک ہوگا۔ ایک دکان دار نے جو بذات خود صوم و صلوة کا پابند اور رمضان المبارک میں اعتکاف میں بیٹھنے والا ہے، مجھ سے پچاس ہزار روپے کی رقم اپنی تجارت میں منقسمہ منافع کی شرائط پر لگانے کے لئے لی، مگر چند ماہ منافع ادا کرنے کے بعد من جملہ رقم مع منافع روک لی ہے، روکے ہوئے اب ڈیڑھ سال سے اوپر ہو گیا ہے، اور یہ شخص دونوں میں سے مختلف جھوٹ و حیلہ بہانہ کچھ ادا کرنے

(۱) ومن كان عليه دين يحيط بما له فلا زكوة عليه ..... وان كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصاباً. (هداية، كتاب الزكوة ج: ۱ ص: ۱۸۶).

(۲) الزكوة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق والذهب كذا في الهداية. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۹، كتاب الزكاة، الباب الثالث).

(۳) ولو كان الدين على مقر ..... فوصل إلى ملكه لزوم زكوة ما مضى. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۶۶، ۲۶۷).

(۴) ایضاً نیز گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳ ملاحظہ فرمائیں۔

(۵) لو استقرض ألفاً فكفل عنه عشرة ولكل ألف في بيته وحال الحول فلا زكوة على واحد منهم لشغله بدين الكفالة... الخ. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۲۰، كتاب الزكاة).

کو تیار نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسی رقم جو بلا معاوضہ دوسرے کی تحویل میں رہے، اور جس سے وہ شخص خواہ تمام تجارتی فوائد حاصل کرتا رہا ہو، اس کل رقم پر زکوٰۃ کی ادائیگی کس پر واجب ہوگی؟ یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جب تک منافع ملتا رہا، میں اس کی زکوٰۃ خود ادا کرتا رہا ہوں۔

جواب: ... اس رقم کی زکوٰۃ تو آپ کے ذمے واجب ہے، کیونکہ وہ رقم آپ کی ملکیت ہے، اور اس شخص کے پاس امانت ہے، زکوٰۃ مالک کے ذمے واجب ہوتی ہے، امین کے ذمے نہیں۔ البتہ آپ کو یہ اختیار ہے کہ اس رقم کی زکوٰۃ سال کے سال ادا کرتے رہیں، یا جب وہ رقم وصول ہو جائے تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ یکمشت ادا کر دیں۔<sup>(۱)</sup>

### مشترکہ کاروبار کی زکوٰۃ

سوال: ... دو افراد نے مشترکہ کاروبار اس شرط پر کیا کہ جس آدمی کی کاروبار میں رقم ہوگی، منافع کی رقم سے اس کو دو حصے ملیں گے، جبکہ دوسرا شخص جو صرف کاروبار میں محنت کرے گا اس کو منافع کی رقم سے ایک حصہ۔ چند سال بعد پھر معاہدہ ہوا کہ مالک رقم نے دوسرے ساتھی سے کہا کہ میں اب کاروبار میں پوری طرح ڈیوٹی انجام نہ دے سکوں گا، اس لئے رقم میری ہوگی، کاروبار تم اکیلے کو کرنا ہوگا۔ منافع کی رقم نصف نصف ہوگی۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم دکان کا کرایہ، بجلی وغیرہ کا بل سب مشترکہ کاروبار سے بخوشی ادا کرتے ہیں، جبکہ مالک رقم شروع ہی سے اس کاروبار میں رقم کی جس کا وہ منافع کماتا ہے، زکوٰۃ بھی مشترکہ کھاتے سے دیتا ہے، جبکہ معاہدے میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ جو شخص کاروبار چلا رہا ہے اس کو اعتراض ہے کہ تم زکوٰۃ اپنے پاس سے دو، دکان سے دینی ہے تو اپنے نام وہ رقم لکھو، مگر مالک کہتا ہے اس علاقے میں یہ رواج ہے کہ مشترکہ کاروبار ہی سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔

جواب: ... دونوں کو اپنے اپنے حصے کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہئے، رقم والے شخص کا مشترکہ کھاتے سے زکوٰۃ ادا کرنا صحیح نہیں۔<sup>(۲)</sup>

### چھ ماہ قرض دار اور چھ ماہ مالک کے پاس رہنے والی رقم پر زکوٰۃ کس طرح ہے؟

سوال: ... میرے پاس کچھ رقم ہے، جو کہ میں نے کسی کو قرض دی ہوئی ہے، چونکہ زکوٰۃ کا مسئلہ ایک سال رکھنے پر ہے، اب اگر چھ ماہ میرے پاس رقم رہی اور چھ ماہ قرض دار کے پاس، اس کی زکوٰۃ کس طرح ادا کروں؟

جواب: ... جو رقم کسی کو قرض دی گئی ہو، اس کی زکوٰۃ قرض دینے والے کے ذمے ہے، اس لئے اس رقم کی زکوٰۃ ادا کریں۔<sup>(۳)</sup>

### ادھار دی ہوئی چار سال بعد ملنے والی رقم پر کتنی زکوٰۃ ہے؟

سوال: ... چار سال پہلے ہم نے ایک صاحب کو کچھ رقم بطور قرض دی تھی، اب وہ رقم ہمیں ملنے والی ہے، عرض یہ ہے کہ جب پوری رقم ہمیں مل جائے تو اس میں سے ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ اگر نکالنی ہو تو کتنی رقم نکالیں؟

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳ ملاحظہ فرمائیں، نیز دیکھئے ص: ۷۳ کا حاشیہ نمبر ۴۔

(۲) و لیس لكل واحد من الشریکین أن یؤدی زکوٰۃ مال الآخر إلا بإذنه۔ (الجوہرۃ النیرۃ ص: ۲۹۲، کتاب الزکاۃ)۔

(۳) وتجب الزکوٰۃ فی الدین مع عدم القبض۔ (بدائع ج: ۲ ص: ۹، کتاب الزکاۃ، أيضًا حاشیہ رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۶۷)۔

جواب: ... اس رقم پر آپ کو چار سال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔<sup>(۱)</sup>

### نادہند قرض دار کو دی گئی قرض کی رقم پر زکوٰۃ

سوال: ... سائل سے عرصہ چار پانچ سال ہوئے اپنے ہی دوستوں یا رشتہ داروں نے کچھ رقم ادھار لی تھی، جن کے واپس دینے کی کوئی مدت طے ہوئی اور نہ کوئی تحریر لکھی گئی تھی۔ سائل نے اس عرصے میں کتنی ہی بار پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تو جواب ملا کہ کیا ہوا دے دیں گے ایسے ہی ہوتے ہوتے پانچ سال گزر گئے ہیں، لیکن پیسے واپس ملنے کی کوئی اُمید پختہ نظر نہیں آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ مزید اور زیادہ عرصہ گزر جائے، نا اُمید ہو کر میں نے بھی پیسے مانگنے چھوڑ دیئے ہیں۔ برائے مہربانی آگاہ فرمائیں کہ اس رقم کی زکوٰۃ جو عرصہ پانچ سال سے میرے پاس نہیں، دینی ہوگی یا نہیں؟

جواب: ... جو رقم کسی کو قرض دی ہو اس پر زکوٰۃ لازم ہے، البتہ یہ اختیار ہے کہ چاہے تو ہر سال ادا کر دیا کرے، یا وصول ہونے کے بعد گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ یکمشت ادا کر دے۔<sup>(۲)</sup> البتہ اگر مقروض قرضہ سے منکر ہو اور قرض دہندہ کے پاس گواہ بھی نہ ہوں تو وصول ہونے سے پہلے اس کی زکوٰۃ لازم نہیں اور وصول ہونے کے بعد بھی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں۔<sup>(۳)</sup>

سوال: ... میرے ایک دوست نے آج سے پانچ سال پہلے ڈیڑھ لاکھ روپیہ تجارت میں لگانے کے لئے لیا تھا، اس نے وہ تمام روپیہ خرید کر دیا، آج پانچ سال کے بعد اس نے مجھے پندرہ ہزار روپیہ واپس کیا ہے، کیا ان پندرہ ہزار روپیہ پر زکوٰۃ واجب ہے؟ کیا پانچ سال کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہئے یا صرف اسی سال کی؟ اور جو باقی کاروبار اس نے ادا نہیں کیا، اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہئے؟

جواب: ... اس پندرہ ہزار روپے پر گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح جو روپیہ آپ کے دوست سے ملتا جائے اس کی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے رہئے۔<sup>(۴)</sup>

### امانت کی رقم پر زکوٰۃ

سوال: ... میرے پاس کسی کی امانت ہے، تو اس پر زکوٰۃ دینا میرا فرض ہے یا جس کی رقم ہے وہ زکوٰۃ دے گا؟ دوسری بات عرض خدمت یہ ہے کہ مجھ سے کسی نے قرض مانگا اور وہ اپنے وقت پر نہ دے اور اُمید بھی کم ہے تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟

جواب: ... جس شخص کی امانت آپ کے پاس ہے، آپ کے ذمہ اس کی زکوٰۃ نہیں، بلکہ اس کی زکوٰۃ امانت رکھوانے والے کے ذمہ لازم ہے۔ اگر اس نے آپ کو زکوٰۃ دینے کا اختیار دیا ہے تو آپ بھی اس رقم میں سے ادا کر سکتے ہیں۔ کسی کے ذمہ جو آپ کا

(۱) ولو كان الدين على مقر ..... فوصل الى ملكه لزم زكوة ما مضى. (تنوير الابصار ج: ۲ ص: ۲۶۶، ۲۶۷).

(۲) ایضاً۔

(۳) والدين المحمود اذا لم يكن عليه بئنة ثم صارت له بئنة بعد سنين بان اقر عند الناس لا تجب عليه الزكوة هكذا في التبيين. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۵، کتاب الزکاة، الباب الأول).

(۴) ایضاً حاشیہ نمبراً ملاحظہ ہو۔

قرض ہے اگر وہ تسلیم کرتا ہے کہ مجھے قرض دینا ہے تو آپ کے ذمہ اس کی زکوٰۃ لازم ہے، خواہ ہر سال ادا کرتے رہیں یا جب وصول ہو جائے تب گزشتہ تمام سالوں کی ادا کر دیں۔<sup>(۱)</sup>

## اگر امانت کی رقم سے حکومت زکوٰۃ کاٹ لے؟

سوال: ... دوسرے شہروں کے لوگ اپنی تجارت اور امانت کے طور پر کسی کے پاس جو رقم جمع کراتے ہیں تو حفاظت کے خیال سے وہ شخص اپنے نام سے اس کو بینک میں رکھ دیتا ہے، اور وقتاً فوقتاً ان لوگوں کی ہدایت کے پیش نظر رقم نکالتا بھی رہتا ہے، تو حکومت کیا ان رقم پر زکوٰۃ منہا کرنے کی حق دار ہے یا نہیں؟

جواب: ... جس شخص کی امانت ہے، اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔<sup>(۲)</sup> مگر چونکہ حکومت آپ کے اکاؤنٹ سے زبردستی زکوٰۃ کاٹ لیتی ہے، اس لئے امانت رکھوانے والوں کو چاہئے کہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کا اختیار دے دیں، اس اختیار دینے کے بعد ان کی رقم سے جو زکوٰۃ کٹے گی وہ ان کی طرف سے ہوگی،<sup>(۳)</sup> اور آپ (زکوٰۃ کی رقم جو کاٹ لی گئی) اس کو منہا کر کے باقی رقم ان کو واپس کریں گے۔<sup>(۴)</sup>

## زیر ضمانت کی زکوٰۃ

سوال: ... جو رقم ہمارے پاس امانت رکھی ہو، اس پر زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ ہم ادا کریں گے یا اصلی مالک؟ مکان کے کرایہ پر جو رقم بطور زیر ضمانت پیشگی کرایہ دار سے لی جاتی ہے، وہ قابل واپسی ہے، اور کئی سال مالک مکان کے پاس امانت رہتی ہے، اس پر کون زکوٰۃ ادا کرے گا؟

جواب: ... جو شخص رقم کا مالک ہو اس کے ذمہ زکوٰۃ ہے، پس امانت کی رقم کی زکوٰۃ امین پر نہیں، بلکہ امانت رکھوانے والے مالک کے ذمہ ہے، اور زیر ضمانت کا مالک کرایہ دار ہے، اس کی زکوٰۃ بھی اسی کے ذمہ ہے۔<sup>(۵)</sup>

## سنا رکھنے کے لئے رکھے ہوئے پیسوں پر زکوٰۃ آئے گی؟

سوال: ... پچھلے رمضان المبارک سے ایک دن قبل میں نے اپنے بیٹے کی شادی کے لئے سونے کا سیٹ بننے کو دیا، جس میں ساڑھے پانچ تولے سونا اپنی چوڑیوں کا دیا، اور اسی سال سے بیسی ڈال دی۔ اگست میں بیسی نکل آئی، لیکن سونے کا سیٹ ابھی سنا رکھے پاس ہی ہے، جبکہ پیسے رکھے ہوئے چار مہینے ہو گئے ہیں، زکوٰۃ اس صورت حال میں دینی ہوگی یا نہیں؟

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) وسببہ ای سبب افتراضها ملک نصاب حولی ..... تام... الخ. (الدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ۲۵۹)۔

(۳) إذا وكل رجلاً بدفع زکوٰۃ ماله ونوى المالك عند الدفع إلى الوكيل فدفع الوكيل بلا نية فإنه يجزئه لأن المعترية الأمر لأنه المؤدى حقيقة. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۲۶، كتاب الزكاة)۔

(۴) ولو أدى زکوٰۃ غيره بغير أمره فبلغه فأجاز لم يجز لأنها وجدت نفاذاً على المتصدق لأنها ملكه ولم يصر نائباً عن غيره فنفذت عليه ولو تصدق عنه بأمره جاز ويرجع بما دفع... الخ. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۲۷، كتاب الزكاة)۔

(۵) ايضاً حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ ہو۔

جواب: ... جتنی رقم زکوٰۃ کی بنتی ہے، ان سب پر زکوٰۃ واجب ہے، واللہ اعلم! <sup>(۱)</sup>

کیا ایک سال گزرنے کے بعد زرخمانت پر زکوٰۃ ہے؟

سوال: ... کرایہ دار نے زرخمانت اس شرط پر جمع کرایا ہے کہ مکان خالی کرتے وقت رقم واپس کرنا ہوگی، کیا زرخمانت ایک سال گزرنے کے بعد مالک مکان کو اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟

جواب: ... زرخمانت پر زکوٰۃ واجب ہے، مگر وہ کرایہ دار کے ذمے ہے، <sup>(۲)</sup> مالک مکان کے پاس وہ امانت ہے، اس کے

ذمے نہیں۔

(۱) تجب فی کل مائتی درہم خمسة درہم وفی کل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۸، کتاب الزکاۃ، باب فی زکوٰۃ الذهب والفضة والعروض، طبع رشیدیہ کوئٹہ)۔  
(۲) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ فرمائیں۔

## زکوٰۃ کا نصاب اور شرائط

### زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟

سوال: ... زکوٰۃ کس کس چیز پر فرض ہے؟

جواب: ... زکوٰۃ مندرجہ ذیل چیزوں پر فرض ہے:

۱: ... سونا، جبکہ ساڑھے سات تولہ (۸۷، ۹۶، ۱۰۷ گرام) یا اس سے زیادہ ہو۔

۲: ... چاندی جبکہ ساڑھے باون تولہ (۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴ گرام) یا اس سے زیادہ ہو۔<sup>(۱)</sup>

۳: ... روپیہ، پیسہ اور مال تجارت، جبکہ اس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی (۶۱۲، ۶۱۳ گرام) کے برابر ہو۔<sup>(۲)</sup>

نوٹ: ... اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقد روپے ہیں، کچھ مال تجارت ہے، اور ان کی مجموعی مالیت

ساڑھے باون تولہ (۶۱۲، ۶۱۳ گرام) چاندی کے برابر ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے،

یا کچھ سونا ہے، کچھ نقد روپیہ ہے، یا کچھ چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے، تب بھی ان کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ ساڑھے باون تولہ

چاندی کی مالیت بنتی ہے یا نہیں؟ اگر بنتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ نہیں۔ الغرض سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت میں سے دو چیزوں

کی مالیت جب چاندی کے نصاب کے برابر ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔<sup>(۳)</sup>

۴: ... ان چیزوں کے علاوہ چرنے والے مویشیوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے<sup>(۴)</sup>، اور بھیڑ بکری، گائے، بھینس اور اونٹ کے الگ

(۱) الفصل الأول فی زکوٰۃ الذهب والفضة: تجب فی کل مائتی درہم خمسة درہم وفی کل عشرين مثقال ذهب نصف

مثقال مضروباً کان أو لم یکن۔ (فتاویٰ عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۸، کتاب الزکاة، الباب الثالث)۔

(۲) الزکوٰۃ واجبة فی عروض التجارة کائنة ما کانت إذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق والذهب کذا فی الهدایة۔

(عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۹، کتاب الزکاة، الباب الثاني، الفصل الثاني)۔

(۳) وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة کذا فی الكنز حتی لو ملک مائة درہم وخمسة دنانیر قيمتها

مائة درہم تجب الزکوٰۃ عنده خلافاً لهما۔ (فتاویٰ العالمگیری، کتاب الزکاة، الباب الثالث فی زکوٰۃ الذهب والفضة

والعروض ج: ۱ ص: ۱۷۹، وهكذا فی رد المحتار ج: ۲ ص: ۳۰۳، والبحر، باب زکوٰۃ المال ج: ۲ ص: ۳۰۰)۔

(۴) الباب الثاني فی صدقة السوائم، وفيه خمسة فصول، الفصل الأول فی المقدمة: تجب الزکوٰۃ فی ذکورها واناثها

ومختلطهما والسائمة هي التي تسام فی البراری... الخ۔ (فتاویٰ الہندیة، کتاب الزکوٰۃ ج: ۱ ص: ۱۷۶)۔



الگ نصاب ہیں، ان میں چونکہ تفصیل زیادہ ہے، اس لئے نہیں لکھتا، جو لوگ ایسے مویشی رکھتے ہوں وہ اہل علم سے دریافت کریں۔  
۵: عشری زمین کی پیداوار پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، جس کو ”عشر“ کہا جاتا ہے،<sup>(۱)</sup> اس کی تفصیلات آگے ملاحظہ کریں۔

## نصاب کی واحد شرط کیا ہے؟

سوال: ... عام طور سے زکوٰۃ کے لئے شرط نصاب جو سننے میں آتا ہے، وہ ہے ساڑھے باون تولے چاندی یا ساڑھے سات تولے سونا یا ان کی مالیت۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جس کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی، بلکہ پانچ ہزار روپے نقد ہیں، اسے کس نصاب پر عمل کرنا چاہئے، سونے پر یا چاندی پر؟ اور مالیت کا حساب لگائے تو کس چیز کے مطابق؟ اگر چاندی کی شرط پر عمل کرتا ہے تو وہ صاحب نصاب ٹھہرے گا، لیکن اگر سونے کی شرط پر عمل کرتا ہے تو ہرگز صاحب زکوٰۃ نہیں ٹھہرتا، لہذا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جاسکتا۔ وضاحت فرمائیں کہ ایسے شخص کو کون سی راہ اختیار کرنی چاہئے؟

آج کل نصاب کے دو معیار کیوں چل رہے ہیں؟ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایک ہی معیار تھا، یعنی دو سو درہم (چاندی) کی مالیت بیس دینار (سونے) کی مالیت کے برابر تھے، آج ان کی مالیتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لہذا کس شرط پر عمل کرنا لازمی ہے؟ نصاب کی واحد شرط کیا ہے؟

جواب: ... آپ کے سوال کے سلسلے میں چند باتیں سمجھ لینا ضروری ہے:

اول: ... کس مال میں کتنی مقدار واجب الادا ہے؟ کس مال میں کتنے نصاب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ یہ بات محض عقل و قیاس سے معلوم نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لئے ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف رجوع کرنا ناگزیر ہے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مال کا جو نصاب مقرر فرمایا ہے اس کو قائم رکھنا ضروری ہے، اور اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں، ٹھیک اسی طرح، جس طرح کہ نماز کی رکعات میں رد و بدل کی گنجائش نہیں۔<sup>(۲)</sup>

دوم: ... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کا نصاب دو سو درہم (یعنی ساڑھے باون تولے یعنی تقریباً ۶۱۲.۵ گرام) اور سونے کا نصاب بیس مثقال (ساڑھے سات تولے یعنی تقریباً ۸.۵ گرام) مقرر فرمایا ہے۔<sup>(۳)</sup> اب خواہ سونے چاندی کی قیمتوں

(۱) (وقوله تعالى) ومما أخرجنا لكم من الأرض: عموم في إيجابه الحق في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره في سائر أصناف الخارجة منها ويحتج به لأبي حنيفة رضي الله عنه في إيجابه العشر ..... مما تقصد الأرض بزراعتها. (أحكام القرآن للجصاص، باب المكاسب ج: ۱ ص: ۳۵۸، طبع سهيل اكيذمي لاهور، وأيضاً في اللباب في شرح الكتاب ج: ۱ ص: ۱۳۶، كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والثمار).

(۲) في شرح المنار أن مقادير الزكوات ثبتت بالتواتر كنقل القرآن وأعداد الركعات ... الخ. (البحر الرائق، باب زكاة المال ج: ۲ ص: ۲۳۳، طبع دار المعرفة بيروت).

(۳) (قوله يجب في مائتي درهم، وعشرون مثقالاً ربع العشر وهو خمسة دراهم في المائتين ونصف مثقال في العشرين ..... لحديث مسلم: ليس فيما دون خمس أوراق من الورق صدقة والأوقية أربعون درهماً كما رواه الدارقطني ولحديث علي وغيره في الذهب ... الخ. (البحر الرائق، باب زكاة المال ج: ۲ ص: ۲۳۲، طبع دار المعرفة بيروت).

کے درمیان وہ تناسب جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا قائم رہے یا نہ رہے، سونے چاندی کے ان نصابوں میں تبدیلی کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں، جس طرح فجر کی نماز میں دو کے بجائے چار رکعتیں اور مغرب کی نماز میں تین کے بجائے دو یا چار رکعتیں پڑھنے کا کوئی اختیار نہیں۔

سوم: ... جس کے پاس نقد روپیہ پیسہ ہو یا مال تجارت ہو تو یہ ظاہر ہے کہ اس کے لئے سونے چاندی میں سے کسی ایک کے نصاب کو معیار بنانا ہوگا، رہا یہ کہ چاندی کے نصاب کو معیار بنایا جائے یا سونے کے نصاب کو؟ اس کے لئے فقہائے اُمت نے، جو درحقیقت حکمائے اُمت ہیں، یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان دونوں میں سے جس کے ساتھ بھی نصاب پورا ہو جائے اسی کو معیار بنایا جائے گا، مثلاً: چاندی کی قیمت سے نصاب پورا ہو جاتا ہے، مگر سونے سے نصاب پورا نہیں ہوتا (اور یہی آپ کے سوال کا بنیادی نکتہ ہے)، تو چاندی کی قیمت سے حساب لگایا جائے گا، اور اس کی دو وجہیں ہیں، ایک یہ کہ زکوٰۃ فقراء کے نفع کے لئے ہے، اور اس میں فقراء کا نفع زیادہ ہے، دوم یہ کہ اس میں احتیاط بھی زیادہ ہے کہ جب ایک نقدی (یعنی چاندی) کے ساتھ نصاب پورا ہو جاتا ہے اور دوسری نقدی (یعنی سونے) کے ساتھ پورا نہیں ہوتا تو احتیاط کا تقاضا یہ ہوگا کہ جس نقدی کے ساتھ نصاب پورا ہو جاتا ہے اسی کا اعتبار کیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

## زکوٰۃ کے نصاب کی حد

سوال: ... آج کل بہت سی خواتین کی ملکیت میں دو تولے یا تین یا چار تولے یا پانچ یا چھ تولے سونا ہوتا ہے، ساڑھے سات تولے سے کم اور ساتھ ہی ان کی ملکیت میں کچھ چاندی یا کچھ مال تجارت یا کچھ نقد رقم ضرور ہوتی ہے، چاندی یا مال تجارت زیادہ نہیں ہوتا، لیکن نقد رقم تو یقیناً ہوتی ہی ہے، کوئی عورت ایسی ملنا مشکل ہے، جس کی ملکیت میں دو یا تین سو روپے یا اس سے کم پیسے موجود نہ ہوں، یقیناً موجود ہوتے ہیں، اور ایسی اکثر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری ملکیت میں سونا ساڑھے سات تولے سے کم ہے، اس لئے ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور وہ اپنے ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچ یا چھ تولے سونے کی زکوٰۃ نہیں نکالتیں، حالانکہ مجھے ایک معتبر عالم دین سے معلوم ہوا ہے اور ”معارف القرآن“ میں سورہ توبہ کی تفسیر میں بھی اس کا ذکر پڑھ چکی ہوں؟

جواب: ... جس شخص کی ملکیت سونا ساڑھے سات تولے سے کم ہو اور اس کے ساتھ کچھ چاندی یا نقد روپے پیسے یا مال تجارت بھی ہو اور سونے کے ساتھ مل کر ان کی مجموعی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، ایسی خواتین

(۱) وفي عروض تجارة قيمة نصاب ..... من ذهب أو ورق أي فضة مضروبة ..... مقوما بأحدهما إن استويا فلو أحدهما أروج تعين التقويم به ولو بلغ بأحدهما نصاباً دون الآخر تعين ما يبلغ به ولو بلغ بأحدهما نصاباً وخمساً وبالآخر أقل قومها بالأنفع للفقير. (درمختار ج: ۲ ص: ۲۹۹، كتاب الزكاة). وفي اللباب في شرح الكتاب ج: ۱ ص: ۱۳۵ الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت ..... إذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق أو الذهب يقومها صاحبها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما أي النصابين، احتياطاً لحق الفقراء، حتى لو وجبت الزكاة ان قومت بأحدهما دون الآخر قومت بما تجب فيه دون الآخر. (اللباب، باب زكاة العروض ج: ۱ ص: ۱۳۵، طبع قديمي).

کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہئے۔<sup>(۱)</sup>

## زکوٰۃ کب واجب ہوئی؟

سوال: میرے پاس سال بھر سے کچھ رقم تھی، جسے میں خرچ بھی کرتی رہی، شوال کے مہینے سے رجب تک میرے پاس دس ہزار روپے بچے، اور رجب میں ہی ۳۵ ہزار روپے کی آمدنی ہوئی، اب یہ بتائیں کہ رمضان میں صرف دس ہزار کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی یا ۳۵ ہزار بھی اس میں شامل کئے جائیں گے جبکہ ۳۵ ہزار پر رمضان تک صرف تین ماہ کا عرصہ گزرا ہوگا؟

جواب: جو آدمی ایک بار نصاب کا مالک ہو جائے تو جب اس نصاب پر ایک سال گزرے گا تو سال کے دوران حاصل ہونے والے کل سرمائے پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ہر رقم پر الگ الگ سال گزرنا شرط نہیں، اس لئے رمضان المبارک میں آپ پر کل رقم کی زکوٰۃ واجب ہوگی جو اس وقت آپ کے پاس ہو۔<sup>(۲)</sup>

سوال: اگر کسی کے پاس ۶۸ ہزار روپیہ اور ۶ تولہ سونا ہے تو اس سونے پر بھی زکوٰۃ دی جائے گی یا صرف روپے کی ہی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟

جواب: اس صورت میں زکوٰۃ سونے پر بھی واجب ہے، سال پورا ہونے کے دن سونے کی جو قیمت ہو، اس کے حساب سے ۶ تولہ سونے کی مالیت کو بھی رقم میں شامل کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے۔<sup>(۳)</sup>

## نقد اور مال تجارت کے لئے چاندی کا نصاب معیار ہے

سوال: نصاب ساڑھے سات تولہ سونا، ساڑھے باون تولہ چاندی کا ہے، اس سلسلے میں جاننا چاہوں گا کہ نقدی اور مال کا حساب کس کے معیار پر کیا جائے چاندی یا سونا؟

جواب: چاندی کے نصاب کا اعتبار کیا جائے۔<sup>(۴)</sup>

(۱) ولو ضم أحد النصابين إلى الآخر حتى يؤدي كله من الذهب أو من الفضة لا بأس به لكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء قدرًا ورواجًا. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۹، کتاب الزکاة، الباب الثالث فی زکاة الذهب والفضة والعروض، طبع رشیدیہ)، الزکوٰۃ واجبة فی عروض التجارة کائنة ما كانت..... إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو الذهب يقومها صاحبها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما ای النصابين احتیاطًا لحق الفقراء، حتی لو وجبت الزکوٰۃ ان قومت بأحدهما دون الآخر قومت بما تجب فيه دون الآخر. (اللباب فی شرح الكتاب ج: ۱ ص: ۱۳۵، باب زکاة العروض، طبع قدیمی).

(۲) ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه سواء كان المستفاد من نمائه أولا وبأى وجه استفاد ضمه سواء كان بميراث أو هبة... الخ. (فتاویٰ عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۵، کتاب الزکاة، الباب الأول).

(۳) ایضاً حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ ہو۔

(۴) حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ ہو۔ وأيضًا: وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة كذا في الكنز. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۹، کتاب الزکاة، الباب الثالث فی زکاة الذهب والفضة).

نوٹ: ... ساڑھے سات تولہ سونا مساوی ہے ۳۷۹.۸۷ گرام کے، اور ساڑھے باون تولے چاندی ۳۵.۶۱۲ گرام کے برابر ہے۔

سوال: ... آج کل کم سے کم کتنی رقم کی ملکیت پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟

جواب: ... ساڑھے باون تولے چاندی کی بازار میں جتنی قیمت ہو اتنی مالیت پر، چونکہ چاندی کا بھاؤ بدلتا رہتا ہے، اس لئے اس کی مالیت کا لکھنا بے سود ہے، جس دن زکوٰۃ واجب ہو، اس دن کی قیمت کا اعتبار ہے۔<sup>(۱)</sup>

نصاب سے کم اگر فقط سونا ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں

سوال: ... اگر کسی عورت کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا اور ساڑھے باون تولے چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگر کسی عورت کے پاس ۶.۵ تولہ سونا ہو چاندی اور نقدی وغیرہ کچھ نہ ہو اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتی، یہ صحیح ہے یا نہیں؟

جواب: ... اگر صرف سونا ہو، اس کے ساتھ چاندی یا نقد روپیہ اور دیگر کوئی چیز قابل زکوٰۃ نہ ہو تو ساڑھے سات تولے (۵.۸۷ گرام) سے کم سونے پر زکوٰۃ نہیں۔<sup>(۲)</sup>

ساڑھے سات تولے سونے سے کم پر نقدی ملا کر زکوٰۃ واجب ہے

سوال: ... میری چار لڑکیاں بالغ ہیں، ہر ایک کے پاس ۳ تولہ سونا زائد یا کم ہے، میں نے ہمیشہ کے لئے دے دیا تھا، اور ہر ایک کے پاس روپیہ چار سو ریال، چھ سو، ایک ہزار ریال جمع رہتا ہے، کیا ان سب پر زکوٰۃ، قربانی، فطرہ علیحدہ ادا کرنا واجب ہے یا نہیں؟

جواب: ... آپ نے جو صورت لکھی ہے، اس میں آپ کی سب لڑکیوں پر الگ الگ زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر لازم ہے، کیونکہ سونا اگرچہ نصاب سے کم ہے، مگر نقدی کے ساتھ سونے کی قیمت ملائی جائے تو ساڑھے باون تولے (۳۵.۶۱۲ گرام) چاندی کی قیمت بن جاتی ہے۔<sup>(۳)</sup>

زیور اور رقم ملا کر اگر ۹ ہزار روپے ہو جائیں تو زکوٰۃ اور قربانی واجب ہے

سوال: ... ہم لوگ غریب ہیں، جہیز اور مہر اس شخص نے واپس نہیں کیا، البتہ ایک ڈیڑھ تولے کا سیٹ میرے پاس ہے، اور

(۱) تعتبر القيمة يوم الوجوب إجماعاً... إلخ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۰، کتاب الزکاة، الباب الثالث فی زکاة العروض).

(۲) باب زکوٰۃ الذهب: ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقة لانعدام النصاب فإذا كانت عشرين مثقالاً شرعياً..... وحال عليها الحول ففيها ربع العشر. (اللباب للميداني ج: ۱ ص: ۱۲۳، باب زکاة الذهب).

(۳) وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة..... وفي المحيط لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير

قيمتها أقل من مائة تجب الزكاة عندهما..... فإن حاصله إعتبار القيمة من جهة كل من النقدين لا من جهة أحدهما

عينا فإنه إن لم يتم النصاب باعتبار قيمة الذهب بالفضة يتم باعتبار قيمة الفضة بالذهب... إلخ. (البحر الرائق ج: ۲

ص: ۲۳۷، باب زکاة المال)، نیز گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ ہو۔

کچھ ملا کر تقریباً ۹ ہزار کا سونا میرے پاس موجود ہے۔ میرا بیٹا ہے اس کے اخراجات میرے والدین برداشت کرتے ہیں، صرف اسکول فیس اس کے باپ کے ذمے ہے، میں اسکول میں جاب کرتی ہوں، ۵۰۰ روپے میری تنخواہ ہے، جو کہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ کیونکہ کچھ عرصے پہلے میں نے آپ کے کالم میں پڑھا تھا کہ (اگر آدمی کے پاس اتنی رقم ہو جو ساڑھے باؤن تو لے چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور تین ہزار روپے کی رقم اس مالیت کے برابر ہے)۔ میرے پاس چونکہ ۹ ہزار کا سونا ہے، اس لئے اس سال میں نے تین تین ہزار کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالی تھی، اب اس لئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر مجھ پر زکوٰۃ فرض نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے جب چھوٹ دی ہے تو اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو کیا قربانی بھی فرض ہے؟ کیونکہ قربانی کا بھی یہی حکم ہے، لیکن شاید میرے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں، سونے کے علاوہ اور کوئی رقم میرے پاس نہیں ہے۔

جواب: ... یہ نو ہزار روپے کا زیور اگر آپ کی ملکیت ہے تو آپ پر زکوٰۃ (پورے نو ہزار کی) فرض ہے، اور قربانی بھی۔<sup>(۱)</sup>

اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا اور تھوڑی سی چاندی ہو تو کیا یہ صاحبِ نصاب ہے؟

سوال: ... اگر کسی کے پاس نہ تو پوری مقدار چاندی کی ہے نہ سونے کی، بلکہ تھوڑی سی چاندی ہے اور چار پانچ تو لے سونا ہے، تو کیا ایسا شخص صاحبِ نصاب ہے؟

جواب: ... دونوں کو ملا کر اگر چاندی کا نصاب بن جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔<sup>(۲)</sup>

سونا بیچ کر کاروبار کر لیا تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی

سوال: ... اگر میں سونا بیچ کر اپنے کاروبار میں لگاؤں جس سے مجھے بہت فائدہ ہو، کیا ایسا کرنے سے مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ کاروبار میں پیسا چلتا رہتا ہے، ایک جگہ نہیں ہوتا، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کیا ایسا کر سکتا ہوں؟

جواب: ... مال تجارت پر زکوٰۃ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نفع عطا فرمائیں تو زکوٰۃ سے کیوں گھبرائیں...؟<sup>(۳)</sup>

(۱) ولو ضم أحد النصابين إلى الآخر حتى يؤدي كله من الذهب أو من الفضة لا بأس به لكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۹، کتاب الزکاة، الباب الثالث). ان أحد النقدين يضم إلى الآخر وان العروض للتجارة تضم إلى النقدين للجنسية باعتبار قيمتها. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۲۲، کتاب الزکاة، باب زکاة المال).

(۲) وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۹، کتاب الزکاة، الباب الثالث). ولو ضم أحد النصابين إلى الآخر حتى يؤدي كله من الذهب أو من الفضة لا بأس به لكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع للفقراء. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۹، البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۲۲، کتاب الزکاة)، ويضم الذهب إلى الفضة للمجانسة من حيث الثمنية. (هداية ج: ۱ ص: ۱۹۶، کتاب الزکاة، باب زکاة المال).

(۳) الزکوٰۃ واجبة في عروض التجارة كأنه ما كانت إذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق والذهب. (فتاویٰ عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۹، کتاب الزکاة، الباب الثالث في زکاة الذهب والفضة والعروض).

## کس رقم پر زکوٰۃ ہے؟

سوال: ...فرض کریں میں نے ایک لاکھ روپے سے کاروبار شروع کیا تھا، اور سال کے اختتام پر میرا کاروبار بڑھ کر پانچ لاکھ روپے تک ہو گیا، تو کیا کاروبار جس رقم سے شروع کیا تھا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا جو آخر میں موجود ہیں؟

جواب: ...سال کے بعد جب زکوٰۃ ادا کرنے کا موقع آئے تو جتنی رقم یا مالیت آپ کے پاس موجود ہے اس پر زکوٰۃ ادا کریں<sup>(۱)</sup>۔

## سوناساڑھے سات تولے سے کم ہو اور کچھ رقم بھی ہو تو زکوٰۃ واجب ہے

سوال: ...اس سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ آج کل بہت سی خواتین کی ملکیت میں دو تولے یا تین تولے یا چار تولے یا پانچ تولے یا چھ تولے سونا ہوتا ہے، ساڑھے سات تولے سے کم اور ساتھ ہی ان کی ملکیت میں کچھ مال تجارت یا کچھ نقد رقم ضرور ہوتی ہی ہے، کوئی عورت ایسی ملنا مشکل ہے جس کی ملکیت میں دو یا تین روپے یا ہزار سے بھی کم پیسے موجود نہ ہو، یقیناً موجود ہوتے ہیں، اور اکثر ایسی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ چونکہ ہماری ملکیت میں سونا ساڑھے سات تولے سے کم ہے، اس لئے ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور وہ اپنے ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچ یا چھ تولے سونے کی زکوٰۃ نہیں نکالتیں۔ حالانکہ مجھے ایک معتبر عالم دین سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ صورت میں بلاشبہ زکوٰۃ فرض ہے۔ برائے مہربانی آپ اس مسئلے پر تفصیل سے روشنی ڈالیں، تاکہ آپ کے جواب کے ذریعے بے شمار خواتین و حضرات زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے گناہ سے بچ سکیں، کیونکہ وہاں کا عذاب بہت سنگین ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے، آمین۔

جواب: ...آپ کو کسی نے مسئلہ صحیح بتایا ہے، جس شخص کے پاس ساڑھے سات تولے سے کم سونا ہو، لیکن اس کے ساتھ کچھ نقد روپیہ یا چاندی یا مال تجارت ہو، خواہ وہ کتنی ہی کم مقدار میں ہو، لیکن اس کو سونے کی قیمت کے ساتھ ملانے سے ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت بن جاتی ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، جس شخص نے ادا نہ کی ہو، وہ گزشتہ سالوں کا حساب کر کے ان کی بھی زکوٰۃ ادا کرے۔<sup>(۲)</sup>

## سونے کی زکوٰۃ سے بچنے کے لئے بیچ کر ٹی وی، پلنگ وغیرہ خریدنا

سوال: ...میرے پاس ۹ تولے سونا ہے، جس پر زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، وہ میں دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں سونا بیچ کر گھر کی ڈیکوریشن کروں، مثلاً ٹی وی، پلنگ وغیرہ وغیرہ ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟

جواب: ...ٹی وی کا خریدنا جائز ہے،<sup>(۳)</sup> باقی چیزوں کا خریدنا صحیح ہے، اور ان پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔<sup>(۴)</sup> لیکن بغیر ضرورت کے سونے کے بدلے یہ چیزیں لینا گھائے کا سودا ہے۔

(۱) ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۵)۔

(۲) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ فرمائیں۔

(۳) وقد منائمة معزيا للنهر أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما. (الدر المختار مع الرد ج: ۶ ص: ۳۹۱)۔

(۴) فليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل.... زکوٰۃ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۲، کتاب الزکاة)۔

## پورے مال تجارت پر زکوٰۃ ہے خواہ کم بکلتا ہو یا زیادہ

سوال: ... میں آگ بجھانے کے آلات خریدنے اور بیچنے کا کاروبار کرتا ہوں، ہمارا مالی سال رمضان سے شروع اور شعبان پر ختم ہوتا ہے۔ سال کے ختم پر مال کا حساب لگایا تو کل سامان کی مالیت دو کروڑ نکلی۔ بہت سا مال میرے پاس ایسا ہے جو میں بیچتا رہا، اور وہی مال خریدتا رہا، بہت سا مال ایسا ہے جو کہ پورا سال فروخت نہیں ہوا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ ہم زکوٰۃ کس مال کی نکالیں؟

۱: ... وہ جس کی پورے سال خرید و فروخت ہوتی رہی۔

۲: ... وہ جو پورا سال پڑا رہا اور فروخت نہیں ہوا۔

۳: ... اس پورے سال کے مال کی، جس کا حساب لگانے کے بعد دو کروڑ مالیت ہوئی۔

۴: ... زکوٰۃ مال کی قیمت خرید پر ادا کرنا ہوگی یا قیمت فروخت پر؟

جواب: ... زکوٰۃ تو پورے مال تجارت پر فرض ہے، خواہ وہ بکلتا ہو یا نہ بکلتا ہو، کم بکلتا ہو یا زیادہ بکلتا ہو، اور زکوٰۃ کے حساب کرنے میں نہ قیمت خرید کا اعتبار ہے، نہ قیمت فروخت کا، بلکہ جس دن زکوٰۃ ادا کرنی ہو، اس دن بازار کی قیمت کا اعتبار ہے، یعنی اس مال کی آج کے دن بازار میں کیا قیمت ہے؟ اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے گی، واللہ اعلم! (۱)

## ایک ہزار روپے ماہانہ جیب خرچ والے پر زکوٰۃ

سوال: ... میرے والد صاحب مجھے ماہوار ۱۰۰۰ روپے مکان کے کھاتے میں سے دیتے ہیں، جب میں نے دکان جانا شروع کیا تو انہوں نے یہ رقم مقرر کر دی، جیب خرچ کہہ لیں یا کام کی اجرت، کیا مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے؟

جواب: ... اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ نہیں۔ (۲)

## کیا نصاب سے زائد میں، نصاب کے پانچویں حصے تک چھوٹ ہے؟

سوال: ... میرے پاس صرف سونے کے تین زیورات ہیں، ایک کا وزن ۷۸ تولہ، دوسرے کا ۲ تولہ، تیسرے کا ایک تولہ ۵ ماشہ۔ کل ۸۱ تولہ ۵ ماشہ کے زیورات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ صرف چالیسواں کی شرح سے دو تولہ کی زکوٰۃ نکال دوں، اور وہ اس طرح کہ دو تولہ کا ایک زیور ہی اپنی غریب پھوپھی کو دے دوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ۷ ماشہ پر زکوٰۃ معاف ہے، کیونکہ نصاب کے پانچواں حصہ سے کم ہے، مگر ایک صاحب فرماتے ہیں کہ دور حاضر میں ڈھائی فیصد کی شرح زکوٰۃ کی ہو گئی ہے، چالیسواں کی اصطلاح منسوخ ہو گئی، اب مجھ کو ڈھائی فیصد کے حساب سے کل نو سو ستتر ماشے کا ڈھائی فیصد یعنی ۲۳۵۷ ماشہ دینا ہوگا

(۱) الزکوٰۃ واجبة فی عروض التجارة كأنه ما كانت إذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق والذهب. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۹، کتاب الزکاة، الباب الثالث فی زکاة الذهب والفضة والعروض)، لأن الواجب الأصلي عندهما هو ربع عشر العين وإنما له ولاية النقل إلى القيمة يوم الأداء فتعتبر قيمتها يوم الأداء. (بدائع ج: ۲ ص: ۲۲، کتاب الزکاة).

(۲) وأما شروط وجوبها... إلخ (منها كون المال نصاباً) فلا تجب في أقل منه. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۲).

نہ کہ صرف ۲۴ ماشہ یعنی ۲ تولہ؟ خلش دُور کریں۔

جواب: ... ڈھائی فیصد اور چالیسواں حصہ تو ایک ہی چیز ہے، اصطلاحیں بدلتی تو رہتی ہیں، منسوخ نہیں ہوا کرتیں، دراصل اس مسئلے میں حضرت امام ابوحنیفہ اور صاحبین (امام ابو یوسف اور امام محمد) کا اختلاف ہے کہ نصاب سے رقم کچھ زیادہ ہو تو زائد پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ حضرت امام کے نزدیک نصاب سے زائد جب پانچواں حصہ ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ ہے، نصاب اور پانچویں حصے کے درمیان کی مالیت پر ”چھوٹ“ ہے، اسی طرح پانچویں حصے سے پانچویں حصے تک ”چھوٹ“ ہے، جب مزید پانچواں حصہ ہو جائے گا تب اس پر زکوٰۃ آئے گی۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ نصاب سے زائد جتنی بھی مالیت ہو، خواہ کم یا زیادہ اس پر زکوٰۃ ہے۔ پس حضرت امام کے قول کے مطابق آپ کے ذمہ صرف اتنی تولہ پر زکوٰۃ ہے اور زائد مقدار جو سترہ ماشے کی ہے، وہ چونکہ نصاب کے پانچویں حصے سے کم ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں، جبکہ صاحبین کے نزدیک اس زائد سترہ ماشے پر بھی اس کے حساب سے زکوٰۃ ہے۔<sup>(۱)</sup>

عوام کے لئے زیادہ باریکی میں جانا مشکل ہے، ان کے لئے سیدھی سی بات یہ ہے کہ کل مالیت کا چالیسواں حصہ (یا ڈھائی فیصد) ادا کر دیا کریں، لہذا آپ دو تولے اپنی پھوپھی صاحبہ کو دے دیں، یہ اتنی تولے کی زکوٰۃ ہو گئی، اور ایک تولہ ۱۵ ماشے جو زائد ہیں، ان کی قیمت لگا کر اس کا چالیسواں حصہ ادا کر دیں۔

سوال: ... میں بزرگوں سے سنتا چلا آ رہا ہوں اور کتابوں میں پڑھتا ہوں کہ زکوٰۃ چاندی سونا پر ہے، اگر کسی کے پاس روپے ہوں یا نوٹ ہوں، تو ان کو بھی چاندی سونا میں حساب کر لو، اب پھر دیکھو ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا کے برابر ہوئے کہ نہیں؟ اگر ہو گئے تو صاحب نصاب ہو گئے اور اب اس کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ نکال دو، یعنی چالیس سے تقسیم کر دو اور اگر باقی کچھ بچ جائے تو اگر وہ نصاب کے پانچویں حصے سے کم ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس پر زکوٰۃ معاف ہے۔ میرے پاس مثلاً: ۱۲۰ تولہ چاندی کے زیورات ہیں، اور ۴۵۰ روپے بینک میں ہیں، جن پر ایک سال مکمل گزر گیا، اب ۴۵۰ روپے کا میں نے نو تولہ چاندی بشرح ۵۰ روپے فی تولہ بنالیا، گویا میرے پاس کل ایک سو انتیس تولے چاندی یا کل چھ ہزار چار سو پچاس روپے نقدی ہیں، اگر میں صرف ان کو چاندی سمجھ کر چالیسواں حصہ نکالتا ہوں تو صرف تین تولہ چاندی یعنی ایک سو پچاس روپے زکوٰۃ واجب ہے، ۹ تولہ بڑھتری پر جو نصاب کے پانچویں حصے سے کم ہے زکوٰۃ واجب نہیں، اگر میں دوسرے طریقے سے یعنی ۶۴۵۰ روپے پر ڈھائی فیصد کے حساب سے نکالتا ہوں تو اس پر ۱۶۱ روپے ۲۵ پیسے زکوٰۃ آئے گی، بتائیے کون سی رقم ۱۵۰ روپے یا ۱۶۱ روپے ۲۵ پیسے صحیح ہیں؟ شکوک رفع فرمائیں۔

(۱) قوله ثم في كل خمس بحسابه ..... أفاد المصنف أنه لا شيء فيما نقص عن الخمس فالعفو من الفضة بعد النصاب تسعة وثلاثون فإذا ملك نصاباً وتسعة وسبعين درهما فعليه ستة والباقي عفو وهكذا ما بين الخمس إلى الخمس عفو في الذهب وهذا عند أبي حنيفة وقالوا يجب فيما زاد بحسابه من غير عفو... إلخ. (البحر الرائق، باب زکوٰۃ المال ج: ۲ ص: ۲۴۳، طبع دار المعرفة بيروت).



جواب: ... جو سونا چاندی نصاب سے زائد ہو مگر نصاب کے پانچویں حصے سے کم ہو اس میں زکوٰۃ واجب ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے، احتیاط کی بات یہی ہے کہ اس کو بھی واجب سمجھ کر ادا کیا جائے، اس لئے آپ کی ذکر کردہ مثال میں ۱۶۱ روپے ۲۵ پیسے ہی ادا کرنا چاہئے۔<sup>(۱)</sup>

## نصاب سے زیادہ سونے کی زکوٰۃ

سوال: ... اگر کسی شخص کے پاس نصاب سے زیادہ سونا ہے، تو اس صورت میں کیا زکوٰۃ پوری مقدار پر فرض ہے یا نصاب سے زائد مقدار پر؟

جواب: ... پوری مقدار پر۔<sup>(۲)</sup> بعض لوگ زکوٰۃ کو انکم ٹیکس پر قیاس کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ نصاب سے کم مقدار پر چونکہ زکوٰۃ نہیں، اس لئے جب نصاب سے زیادہ ہو جائے تو صرف زائد پر زکوٰۃ ہے اور نصاب کی مقدار ”چھوٹ“ میں داخل ہے، مگر یہ خیال صحیح نہیں، بلکہ جتنا بھی سونا، چاندی یا روپیہ پیسہ ہو اس سب کی زکوٰۃ لازم ہے، جبکہ نصاب کو پہنچ جائے۔

## نوٹ پر زکوٰۃ

سوال: ... فی زمانہ تمام ممالک میں سکہ کے بجائے کاغذی نوٹ رائج ہیں، جن کی حیثیت وعدے یا اقرار نامے کی ہے، کیا یہ کاغذی نوٹ سکہ میں شمار ہو سکتا ہے؟ اگر سکے میں شمار نہیں ہو سکتا تو اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سکہ رائج الوقت پر زکوٰۃ لازم کی ہے۔

جواب: ... نوٹ یا تو خود سکہ ہے یا مالیت کی رسید ہے، اس لئے زکوٰۃ تو نوٹوں پر ہر حال میں لازم ہے، البتہ نوٹ سے زکوٰۃ کے ادا ہونے کا مسئلہ محل نظر رہا ہے، بہت سے اکابر کی رائے میں یہ خود سکہ نہیں، بلکہ رسید ہے، اس لئے زکوٰۃ اس سے ادا نہیں ہوتی، اور بعض اہل علم کے نزدیک اس کو دور جدید میں سکہ کی حیثیت حاصل ہے، اس لئے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، پہلے قول پر احتیاط زیادہ ہے اور دوسرے قول میں سہولت زیادہ ہے۔<sup>(۳)</sup>

## زکوٰۃ بچت کی رقم پر ہوتی ہے تنخواہ پر نہیں

سوال: ... فوجی سپاہی کو تنخواہ ملتی ہے، اس کے ساتھ مکان کا کرایہ، ٹرانسپورٹ کا کرایہ وغیرہ ملتا ہے، ۱۳۰۰ روپے تک نقد

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) تجب فی کل مانتی درہم خمسۃ درہم وفی کل عشرین مثقال ذہب نصف مثقال ..... وکذا فی حق الوجوب يعتبر أن يبلغ وزنها نصاباً ولا يعتبر فيه القيمة بالأجماع... الخ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۸، ۱۷۹، الباب الثالث)۔

(۳) دور حاضر کے اکثر مفتیان کرام کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ اب یہ نوٹ قرض کی دستاویز (مالیت کی رسید) کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ اس پر مروجہ سکوں کے احکام جاری ہوں گے، تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: فقہی مقالات ج: ۱ ص: ۳۰، طبع میمن اسلامک پبلشرز، قاموس الفقہ ج: ۳ ص: ۵۷ تا ۶۶۔

لے لیتے ہیں، کیا اس رقم پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ جبکہ روپے اکٹھے اس کے پاس آتے ہیں، لیکن بڑی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے۔

جواب: ... زکوٰۃ بچت کی رقم پر ہوتی ہے، جبکہ بچت کی رقم ساڑھے باون تو لے یعنی ۶۱۲ء ۳۵ گرام چاندی کی مالیت کو پہنچ

جائے، جب کچھ بچتا ہی نہیں تو اس پر زکوٰۃ کیا ہوگی...؟

زکوٰۃ ماہانہ تنخواہ پر نہیں، بلکہ بچت پر سال گزر جانے پر ہے

سوال: ... اپنی تنخواہ کی کتنی فیصد رقم زکوٰۃ میں دینی چاہئے؟ ہماری کل تنخواہ صرف پانچ سو ہے۔

جواب: ... اگر بچت نصاب کے برابر ہو جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو ۲ فیصد زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ نہیں۔<sup>(۱)</sup>

تنخواہ کی رقم جب تک وصول نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں

سوال: ... میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں، اس کمپنی پر میری کچھ رقم (تنخواہ کی مد میں) واجب ہے، موجودہ ظاہری صورت

حال کے مطابق اس کے ملنے کی کوئی خاص اُمید نہیں، لیکن اگر اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ رقم مل جاتی ہے تو احقر کا ارادہ ہے کہ اس

سے اپنی ذاتی ضرورت کے لئے ایک مکان یا فلیٹ خرید لے (میرے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے)، کیا مجھے اس رقم پر زکوٰۃ ادا کرنی

چاہئے؟ واضح رہے کہ یہ رقم کمپنی پر ایک سال سے زیادہ کے عرصے سے واجب الادا ہے۔

جواب: ... تنخواہ کی رقم جب تک وصول نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں۔<sup>(۲)</sup> تنخواہ کی رقم ملنے کے بعد اس پر سال پورا ہوگا تب اس پر

زکوٰۃ واجب ہوگی،<sup>(۳)</sup> اور اگر آپ پہلے سے صاحبِ نصاب ہیں تو جب نصاب پر سال پورا ہوگا اس کے ساتھ اس تنخواہ کی وصول شدہ رقم

پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔<sup>(۴)</sup>

زکوٰۃ کس حساب سے ادا کریں؟

سوال: ... یہ فرمائیں کہ زکوٰۃ جمع شدہ رقم پر ادا کی جاتی ہے، مثلاً: کسی ماہ ایک شخص کے پاس ۲ ہزار روپے ہیں، تیسرے یا

چوتھے ماہ میں وہ پندرہ سو روپے رہ جاتے ہیں، اور جب سال مکمل ہوتا ہے تو وہ رقم دو ہزار پانچ سو ہوتی ہے، تو اب کس حساب سے زکوٰۃ

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) کتاب الزکوٰۃ ..... وأما شروط وجوبها ..... ومنها الملك التام وهو ما اجتمع فيه الملك واليد وأما إذا وجد الملك دون اليد كالصداق قبل القبض ..... لا تجب فيه الزکوٰۃ. (فتاویٰ عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۲)۔

(۳) الزکوٰۃ ..... هي واجبة والمراد بالوجوب الفرض ..... على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابًا فارغًا عن دين له مطالب وعن حاجته الأصلية ناميًا ولو تقديرًا ملكًا تامًا وحال عليه الحول. (اللباب في شرح الكتاب للميداني، كتاب الزکوٰۃ ج: ۱ ص: ۱۳۶)، وفي الهندية: ومنها حولان الحول على المال العبرة في الزکوٰۃ للحول القمري كذا في القنية. (فتاویٰ ہندیہ ج: ۱ ص: ۱۷۵، كتاب الزکاۃ، الباب الأول في تفسيرها و صفتها)۔

(۴) ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه... إلخ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۵، وأيضًا في الجوهرة النيرة، باب زکوٰۃ الخيل ج: ۱ ص: ۱۲۳)۔

ادا کرنا ہوگی؟ تفصیل سے مطلع فرمائیں۔

جواب:.... پہلے یہ اصول سمجھ لیجئے کہ جس شخص کے پاس تھوڑی تھوڑی بچت ہوتی رہی، جب تک اس کی جمع شدہ پونجی ساڑھے باون تولہ (۶۱۲، ۳۵ گرام) چاندی کی مالیت کو نہ پہنچے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور جب اس کی جمع شدہ پونجی اتنی مالیت کو پہنچ جائے (اور وہ قرض سے بھی فارغ ہو) تو اس تاریخ کو وہ ”صاحبِ نصاب“ کہلائے گا، اب سال کے بعد اسی قمری تاریخ کو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اس وقت اس کے پاس جتنی جمع شدہ پونجی ہو (بشرطیکہ نصاب کے برابر ہو) اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی<sup>(۱)</sup>۔ سال کے دوران اگر وہ رقم کم و بیش ہوتی رہی اس کا اعتبار نہیں، بس سال کے اول و آخر میں نصاب کا ہونا شرط ہے۔<sup>(۲)</sup>

### کاروبار میں لگائی ہوئی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے

سوال:.... میں خود ایک کمپنی میں نوکری کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں نے کچھ پیسہ شراکت میں کاروبار میں لگایا ہوا ہے، جس سے کچھ آمدنی ہو جاتی ہے، جس سے ہمارا خرچ چلتا ہے، اور کچھ بچت (زیادہ سے زیادہ ۱۰، ۱۲ ہزار روپے سالانہ) ہو جاتی ہے، کیا کاروبار میں لگائے ہوئے پیسے پر زکوٰۃ دینا ہوگی جبکہ ہم بچت کی ہوئی رقم پر پورے سال کی زکوٰۃ دیتے ہیں؟

جواب:.... کاروبار میں لگے ہوئے روپے پر بھی زکوٰۃ ہے۔<sup>(۳)</sup>

### اصل رقم اور منافع پر زکوٰۃ

سوال:.... زید نے ۵ ہزار روپے ایک جائز تجارت میں لگائے ہیں، سال گزرنے کے بعد زید کتنی رقم زکوٰۃ میں دے گا؟ اصل رقم پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اس کل منافع پر جو سال بھر کمایا؟

جواب:.... سال گزرنے پر اصل رقم مع منافع کے جتنی رقم بنتی ہو، اس پر زکوٰۃ ہے۔<sup>(۴)</sup>

### قابل فروخت مال اور نفع دونوں پر زکوٰۃ واجب ہے

سوال:.... مجھے دکان چلاتے ہوئے تقریباً ۳ سال ہو گئے ہیں، دکان کھولے تو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن پہلے بچوں کا سامان وغیرہ تھا، میرا سوال یہ ہے میں نے زکوٰۃ کبھی نہیں دی، آپ مجھے بتلائیے کہ میں کس طرح سے زکوٰۃ دوں؟ دکان کے پورے

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) واذا كان النصاب كاملاً في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة كذا في الهداية. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۵، كتاب الزكاة، الباب الأول).

(۳) الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق والذهب كذا في الهداية. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۹، الباب الثالث في زكاة العروض).

(۴) ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالاً من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه سواء كان المستفاد من نمائه أو لا وبأى وجه استفاد ضمه سواء كان بميراث أو هبة أو غير ذلك. (الجوهرة النيرة ج: ۱ ص: ۱۲۳، كتاب الزكاة، وأيضاً في الفتاوى الهندية ج: ۱ ص: ۱۷۵، كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسيرها).

مال پر زکوٰۃ ہے یا اس سے جو سالانہ منافع ہوتا ہے؟ اور اس سے پہلے جو میں نے زکوٰۃ نہیں دی، اس کا کیا کروں؟ کیونکہ میرے والد صاحب کا حج کا بھی فارم بھروا دیا ہے، اس میں میں نے بھی کچھ رقم دی ہے۔

جواب: ... آپ کی دکان میں جتنا قابل فروخت سامان ہے، اس کا حساب لگا کر اور منافع جوڑ کر سال کے سال زکوٰۃ دیا کیجئے، اور اس کے ساتھ گھر میں جو قابل زکوٰۃ چیز ہو، اس کی زکوٰۃ بھی اس کے ساتھ ادا کر دیا کیجئے<sup>(۱)</sup>۔ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی آپ کے ذمہ واجب الادا ہے، اس کو بھی حساب کر کے ادا کیجئے<sup>(۲)</sup>۔ سال کے اندر جو رقم گھر کے مصارف اور دیگر ضروریات میں خرچ ہو جاتی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں<sup>(۳)</sup>۔

### کاروبار میں قرضہ کو منہا کر کے زکوٰۃ دیں

سوال: ... صورت حال یہ ہے کہ میں اسپتیر پارٹس کا کاروبار کرتا ہوں، میں کراچی سے مال لے کر آتا ہوں، اور آگے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں سپلائی کرتا ہوں، میں جن سے مال لیتا ہوں ان کا قرضہ میرے اوپر تقریباً ۳۰,۰۰۰ روپے ہے، اور دوسروں کے اوپر میرا قرضہ تقریباً ۱۸,۰۰۰ روپے ہے، اور میرے پاس تقریباً ۸۰,۰۰۰ روپے کا بال موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں کس طرح سے زکوٰۃ نکالوں؟ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ کل رقم میں سے قرض نکال کر جو بچے اس پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ رقم جو کہ دوسروں پر قرضہ ہو، اس کے لئے کیا حکم ہے؟ اور وہ رقم جو میں نے قرضہ دے رکھی ہو؟

جواب: ... جتنی مالیت آپ کے پاس موجود ہے، خواہ نقدی کی شکل میں ہو یا مال تجارت کی شکل میں، نیز آپ کے وہ قرضے جو لوگوں کے ذمہ ہیں، ان سب کو جمع کر لیا جائے، اس مجموعی رقم میں سے وہ قرضہ جات منہا کر دیئے جائیں جو آپ کے ذمہ ہیں، منہا کرنے کے بعد جتنی مالیت باقی رہے، اس کی زکوٰۃ ادا کر دیا کریں<sup>(۴)</sup>۔ صورت مسئولہ میں ۶۸ ہزار روپے کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ واجب ہے۔

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳، ۴ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) وسبب لزوم أدائها توجه الخطاب يعنى قوله تعالى اتوا الزكوة. أى الخطاب المتوجه إلى المكلفين بالأمر بالأداء. (شامی ج: ۲ ص: ۲۶۷)، أيضاً: وشرطه أى شرط افتراض أدائها حولان الحول وهو فى ملكه وثمانية المال كالدراهم والدنانير لتعيينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكوة كيفما امسكهما... إلخ. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۶۷، وأيضاً فتاوى دارالعلوم ديوبند ج: ۶ ص: ۴۴، طبع ديوبند).

(۳) وشرط فراغه عن الحاجة الأصلية، لأن المال المشغول بها كالمعدوم وفسرها فى شرح الجمع لابن الملك بما يدفع الهلاك عن الإنسان..... كالنفقة ودور السكنى... إلخ. (البحر الرائق، كتاب الزكوة ج: ۲ ص: ۲۲۲).

(۴) ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكوة عليه..... وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصاباً بالفراغ عن الحاجة والمراد به دين له مطالب من جهة العباد. (الهداية مع شرح البناية ج: ۴ ص: ۱۶، ۱۷، كتاب الزكاة، طبع مكتبة حقانيه، وهذا فى فتح القدير ج: ۱ ص: ۴۸۶، كتاب الزكاة، طبع دار صادر، بيروت).

## قابل فروخت مال کی قیمت سے قرض منہا کر کے زکوٰۃ دی جائے

سوال: ... زید نے قرض کے پیسوں سے ایک دکان کھولی، سال پورا ہونے پر حساب کر کے ۹۵,۰۰۰ روپے کا مال موجود ہے، جبکہ شروع میں ۱,۱۰,۰۰۰ کا مال ڈالا تھا، اور قرض جو دکان پر ۶۰,۰۰۰ روپے کا بقایا ہے، اور نقد دو ہزار روپے پڑے ہوئے ہیں، تو کیا ان پر زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر ہو سکتی ہے تو کتنی؟

جواب: ... جتنی مالیت کا سامان قابل فروخت ہے، اس کی قیمت میں سے قرض کی رقم منہا کر کے باقی ماندہ رقم میں دو ہزار روپے جمع کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیجئے۔<sup>(۱)</sup>

## صنعت کا ہر قابل فروخت مال بھی مال زکوٰۃ ہے

سوال: ... صنعت کے سلسلے میں کون سا مال زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے اور کون سے مال پر زکوٰۃ واجب ہے؟

جواب: ... صنعت کار کے پاس دو قسم کا مال ہوتا ہے، ایک خام مال، جو چیزوں کی تیاری میں کام آتا ہے، اور دوسرا تیار شدہ مال، ان دونوں قسم کے مالوں پر زکوٰۃ ہے، البتہ مشینری اور دیگر وہ چیزیں جن کے ذریعہ مال تیار کیا جاتا ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## سال کے دوران جتنی بھی رقم آتی رہے، لیکن زکوٰۃ اختتام سال پر موجود رقم پر ہوگی

سوال: ... زکوٰۃ کے لئے رقم یا مال پر پورا سال گزر جانا ضروری ہے، جبکہ مال تجارت میں فائدہ سے جو اضافہ ہوتا ہے اس تمام پر بارہ ماہ کا پورا عرصہ نہیں گزرتا، مثلاً: ایک شخص کے پاس جنوری ۸۴ء تک کل سرمایہ ۲۰ ہزار روپے تھا، جو تین ماہ تک اندازاً ۲۲ ہزار ہو گیا، چھ ماہ گزرنے پر ۲۵ ہزار روپے ہو گیا، نو ماہ گزرنے پر ۲۸ ہزار ہو گیا، اور بارہویں مہینے کے اختتام تک اس کی رقم بڑھ کر ۳۰ ہزار روپے ہو گئی، اب زکوٰۃ کس رقم پر واجب ہوگی؟ جبکہ وہ شخص ہمیشہ اپنی زکوٰۃ و دیگر آمدنی کے لئے حساب شمس سال کے اختتام پر کرتا ہے۔

جواب: ... یہاں دو مسئلے ہیں، ایک یہ کہ زکوٰۃ میں قمری سال کا اعتبار ہے، شمس سال کا اعتبار نہیں۔<sup>(۳)</sup> اب یا تو حساب قمری سال کے اعتبار سے کرنا چاہئے، اور اگر شمس سال کے اعتبار سے حساب کرنا ہی ناگزیر ہو تو دس دن کی زکوٰۃ مزید ادا کر دینی چاہئے۔

(۱) ومدیون العبد بقدر دینہ، فیزکی الزائد ان بلغ نصاباً... الخ۔ (قوله ومدیون العبد) الاولى: ومدیون بدین یطالبہ بہ العبد۔ (رد المختار مع الدر المختار، کتاب الزکوٰۃ ج: ۲ ص: ۲۶۳)، نیز گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۴ دیکھئے۔

(۲) الزکوٰۃ واجبة فی عروض التجارة کانت ما کانت إذا بلغت قیمتها نصاباً من الورق والذهب کذا فی الهدایة۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۵، کتاب الزکوٰۃ)، وكذلك (لا زکوٰۃ فی) آلات المحترفين إلا ما بقى أثر عينه كالعصفر لدبغ الجلد ففيه الزکوٰۃ۔ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۶۵)، وأيضاً: ومنها فراغ المال عن حاجته الأصلية فليس فی دور السكنى..... وسلاح الإستعمال زکوٰۃ..... وكذا..... آلات المحترفين، وهذا فی الآلات التي ينتفع بنفسها ولا يبقى أثرها فی المعمول۔ (الفتاوى العالمگیریة ج: ۱ ص: ۱۷۲، طبع رشیدیہ، وأيضاً فی البحر ج: ۲ ص: ۲۲۲، رد المختار ج: ۲ ص: ۲۶۵)۔

(۳) العبرة فی الزکوٰۃ للحول القمري کذا فی القنیة۔ (فتاوى عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۵، کتاب الزکوٰۃ)۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قمری سال کے ختم ہونے پر اس کے پاس جتنا مال ہو، اس سب پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ مثلاً: کسی کا سال زکوٰۃ یکم محرم سے شروع ہوتا ہے، تو اگلے سال یکم محرم کو اس کے پاس جتنا مال ہو، اس پر زکوٰۃ ادا کرے، خواہ اس میں سے کچھ حصہ دو مہینے پہلے ملا ہو یا دو دن پہلے۔ الغرض سال کے دوران جو مال آتا رہے اس پر سال گزرنے کا حساب الگ سے نہیں لگایا جائے گا، بلکہ جب اصل نصاب پر سال پورا ہوگا تو سال کے اختتام پر جس قدر بھی سرمایہ ہو، اس پورے سرمائے پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، خواہ اس کے کچھ حصوں پر سال پورا نہ ہوا ہو۔<sup>(۱)</sup>

## جب نصاب کے برابر مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی

سوال: ... عمر کا ایسا کاروبار ہے کہ اسے روزانہ سو روپے بچت ہوتی ہے، وہ یہ سو روپے بینک میں رکھتا ہے، مثلاً: دس رجب سے عمر نے یہ پیسے جمع کرنے شروع کئے، اور دوسرے سال دس رجب کو اس نے حساب کیا تو تقریباً ۳۶,۰۰۰ روپے تھے، اب ان پیسوں میں رمضان، شوال وغیرہ کے پیسے بھی ہیں، جن پر ابھی سال نہیں گزرا، اب سوال یہ ہے کہ آیا عمر دس رجب کو ۳۶ ہزار روپے کی زکوٰۃ اکٹھی نکالے گا یا دس رجب سے اڑھائی روپے روزانہ نکالے گا؟ کیونکہ اس کی روزانہ بچت سو روپیہ ہے، کیا اکٹھی زکوٰۃ نکالنے سے وہ دوسرے رجب تک زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہو جائے گا اور یوں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جب کہ مال زکوٰۃ پر سال گزرنا شرط ہے؟

جواب: ... جب نصاب پر سال پورا ہو جائے تو سال کے بعد جتنا روپیہ ہو سب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، خواہ کچھ روپیہ درمیان سال میں حاصل ہوا ہو۔ پورے سال کی زکوٰۃ کا حساب ایک ہی وقت کیا جاتا ہے، الگ الگ دنوں کا حساب نہیں کیا جاتا۔<sup>(۲)</sup> مثلاً: آپ نے جو صورت لکھی ہے ایک شخص نے دس رجب کو سو روپے روزانہ جمع کرنے شروع کئے، اگلے سال دس رجب کو اس کے پاس ۳۶,۰۰۰ روپے ہو گئے، اس کا سال اس وقت سے شروع ہوگا جب اس کی اتنی رقم جمع ہو جائے جو ساڑھے باون تولے (۳۵۶۱۲ گرام) چاندی کی مالیت کے برابر ہو، جس تاریخ کو اتنی مالیت جمع ہوگی اس سے اگلے سال اسی تاریخ کو جمع شدہ پوری رقم کی زکوٰۃ اس کے ذمہ واجب ہو جائے گی۔

## زکوٰۃ اندازاً دینا صحیح نہیں ہے

سوال: ... دکان کی زکوٰۃ اندازاً ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی اگر کپڑا ہے تو اس کو پورا ناپنا چاہئے یا اندازاً ادا کر دیا جائے؟

جواب: ... زکوٰۃ پورا حساب کر کے دینی چاہئے، اگر اندازہ کم رہا تو زکوٰۃ کا فرض ذمہ رہے گا، اگر پورے طور پر حساب کرنا

(۱) ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه سواء كان المستفاد من نعمته أو لا، وبأى وجه استفاد، ضمه سواء كان بميراث أو هبة أو غير ذلك. (الجوهرة النيرة ج: ۱ ص: ۱۲۳، كتاب الزكاة، وأيضاً الفتاوى الهندية ج: ۱ ص: ۱۷۵، كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسيرها و صفتها).

(۲) و شرط كمال النصاب ..... في طرفي الحول في الإبتداء للإلتعاد وفي الإلتقاء للجوب. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۰۲، كتاب الزكاة، وأيضاً في الحاشية الطحطاوي على الدر المختار ج: ۱ ص: ۴۰۹، طبع رشيدية). أيضاً: ومنها حولان الحول على المال، العبرة في الزكاة للحول القمري، كذا في القنية. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۵).

ممکن نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ کا اندازہ لگانا چاہئے۔<sup>(۱)</sup>

## کسی خاص مقصد کے لئے بقدر نصاب مال پر زکوٰۃ

سوال: ... اگر میں نے نصاب کے بقدر رقم کسی خاص مقصد، مثلاً: بہن وغیرہ کی شادی کے لئے جمع کر رکھی ہو تو بھی کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟

جواب: ... جی ہاں! واجب ہے۔<sup>(۲)</sup>

## اگر پانچ ہزار روپیہ ہو اور نصاب سے کم سونا ہو تو زکوٰۃ کا حکم

سوال: ... زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ اگر کسی شخص کے پاس پانچ ہزار روپیہ ہو اور نصاب سے کم سونا ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ اگر ہاں تو کتنی؟

جواب: ... چونکہ پانچ ہزار روپے اور سونا دونوں مل کر ساڑھے باون تولے یعنی ۶۱۲،۳۵ گرام چاندی کی مالیت سے بہت زیادہ ہیں، اس لئے اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔<sup>(۳)</sup> اس کو چاہئے کہ سونے کی ”آج کے بھاؤ“ سے قیمت لگالے اور اس کو پانچ ہزار میں جمع کر کے اڑھائی فیصد کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر دے۔<sup>(۴)</sup>

## زیور کی زکوٰۃ قیمت فروخت پر

سوال: ... واجب زکوٰۃ سونے کی قیمت پر کیسے لگائی جائے؟ آیا بازار کی موجودہ قیمت فروخت (جس پر سنا بیچتے ہیں) یا وہ قیمت لگائی جائے جو اگر ہم بیچنا چاہیں تو ملے (جو سنا ادا کریں)؟

(۱) المال الذی تجب فیہ الزکوٰۃ ان ادى زکوٰۃ من خلاف جنسہ ادى قدر قيمة الواجب اجماعاً. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۰، کتاب الزکاة، وأيضاً فتاوى دارالعلوم دیوبند ج: ۶ ص: ۳۳ طبع دیوبند). أيضاً: أنه يتحرى فى مقدار المؤدى كما لو شك فى عدد الركعات فما غلب على ظنه أنه آداه سقط عنه وأدى الباقي... الخ. (شامی ج: ۲ ص: ۲۹۵).

(۲) (وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرية)..... وملك نصاب حولى فارغ عن الدين وحواله الأصلية نام ولو تقديراً لأنه عليه السلام قدر السبب به وقد جعله المصنف شرط للوجوب مع قولهم ان سببها ملك مال معد مرصد للنماء والزيادة فاضل عن الحاجة الأصلية كذا فى المحيط. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۱۸، كتاب الزکاة، وكذا فى الهندية ج: ۱ ص: ۱۷۲، كتاب الزکاة، تبين الحقائق ج: ۲ ص: ۱۸، كتاب الزکاة).

(۳) وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة وكذا يضم بعضها إلى بعض وإن اختلفت أجناسها وكذلك الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة كما إذا كان معه مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة درهم فعليه الزکوٰۃ عند أبي حنيفة... الخ. (الجوهرة النيرة ج: ۱ ص: ۱۲۸، كتاب الزکاة، كذا فى الشامی ج: ۲ ص: ۳۰۳، باب زکاة المال).

(۴) وجاز دفع القيمة فى زکوٰۃ..... وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالوا يوم الأداء، وفى السوانم يوم الأداء اجماعاً وهو الأصح، ويقوم فى البلد الذى المال فيه (قوله وهو الأصح)..... وفى المحيط يعتبر يوم الأداء بالإجماع وهو الأصح، فهو تصحيح للقول الثانى الموافق لقولهما، وعليه فاعتبار يوم الأداء يكون متفقاً عليه عنده وعندهما. (درمختار مع رد المختار، كتاب الزکوٰۃ ج: ۲ ص: ۲۸۶، باب زکاة الغنم).

جواب:۔۔۔ جس قیمت پر زیور فروخت ہو سکتا ہے، اتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔<sup>(۱)</sup>

## زیورات کی زکوٰۃ کی شرح

سوال:۔۔۔ ۱: عورتوں کے پہننے کے زیور پر زکوٰۃ کی شرح کیا ہے؟

۲:۔۔۔ زیورات کی قیمت موجودہ بازار کے نرخ پر لگائی جائے گی یا جس قیمت پر خریدے گئے ہیں؟

۳:۔۔۔ سات تولہ سے زائد اگر سونے کے زیورات ہوں تو پورے زیورات پر زکوٰۃ لگے گی یا سات تولہ اس میں سے کم کر دیئے

جائیں گے؟

جواب:۔۔۔ سونے چاندی کے زیورات کی قیمت لگا کر اڑھائی فیصد کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے، قیمت کا حساب

زکوٰۃ واجب ہونے کے دن بازار کی قیمت سے ہوگا،<sup>(۲)</sup> پورے زیورات پر زکوٰۃ ہوگی، سات تولہ کم کر کے نہیں۔<sup>(۳)</sup>

## استعمال والے زیورات پر زکوٰۃ

سوال:۔۔۔ زیورات جو عموماً عورت کے استعمال میں رہتے ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کیونکہ استعمال میں رہنے والی

اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہے، میرے ایک عزیز جدہ میں رہتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ جدہ کے عرب لوگ زیور پر زکوٰۃ نہیں دیتے، اور کہتے ہیں کہ یہ روزمرہ استعمال کی چیز ہے، وغیرہ۔

جواب:۔۔۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ایسے زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے جو استعمال میں رہتے ہوں، عربوں کے مسلک میں

نہیں ہوگی۔<sup>(۴)</sup>

## زیورات اور اشرفی پر زکوٰۃ واجب ہے

سوال:۔۔۔ میرے پاس سونا چاندی کے زیورات ہیں، جو کہ زیر استعمال ہیں، اور کچھ سونا و چاندی اپنی اصل حالت پر یعنی

اشرفی کی صورت میں ہے، اب آیا زکوٰۃ دونوں اقسام کے سونا، چاندی پر ہے یا صرف اشرفی کی شکل کے سونے اور چاندی پر؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زیر استعمال زیورات پر زکوٰۃ نہیں، اصل صورت حال سے مطلع فرمائیں۔

(۱) المال الذی تجب فیہ الزکوٰۃ ان اذی زکوٰۃ من خلاف جنسہ اذی قدر قيمة الواجب إجماعاً۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۰، کتاب الزکاۃ، الباب الثالث فی زکاۃ الذهب والفضة)۔

(۲) وان اذی القيمة تعتبر قيمتها يوم الوجوب... الخ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۰، الباب الثالث فی زکاۃ الذهب)۔

(۳) تجب فی کل مائتی درہم خمسۃ درہم وفی کل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروباً کان أو لم یکن مصوغاً أو غیر مصوغ حلیاً کان للرجال أو للنساء تبراً کان أو سکہ کذا فی الخلاصۃ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۸، کتاب الزکاۃ، الباب الثالث، کذا فی الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۹۸، باب زکاۃ المال)۔

(۴) وفی تبر الذهب والفضة وحلیها والآنیۃ منہما زکوٰۃ التبر التي أخرجت من المعدن وهو غیر المضروب قوله وحلیها وقال الشافعی کل حلی معد للباس المباح لا تجب فیہ الزکوٰۃ۔ (الجوہرۃ النیرۃ ج: ۱ ص: ۱۲۶، کتاب الزکاۃ)۔



جواب:۔۔۔ زیر استعمال زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے، لہذا صورت مذکورہ میں زکوٰۃ دونوں پر واجب ہے، یعنی زیورات اور اشرفی دونوں پر۔<sup>(۱)</sup>

زیورات کے ننگ پر زکوٰۃ نہیں، لیکن کھوٹ سونے میں شمار ہوگا

سوال:۔۔۔ کیا زکوٰۃ خالص سونے پر لگائیں گے یا زیورات جس میں ننگ وغیرہ بھی شامل ہوں اس ننگ کے وزن کو شامل کرتے ہوئے زکوٰۃ لازم ہوگی؟ اور اس طرح سے کھوٹ کا کیا مسئلہ ہے؟

جواب:۔۔۔ سونے میں جو ننگ وغیرہ لگاتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں<sup>(۲)</sup> کیونکہ ان کو الگ کیا جاسکتا ہے، البتہ جو کھوٹ ملا دیتے ہیں وہ سونے کے وزن ہی میں شمار ہوگا،<sup>(۳)</sup> اس کھوٹ ملے سونے کی بازار میں جو قیمت ہوگی اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔<sup>(۴)</sup>

سونے کی زکوٰۃ

سوال:۔۔۔ زکوٰۃ جو مال کے چالیسویں حصے کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، اگلے سال اگر مال میں اضافہ نہیں ہوا تو کیا ادا کردہ مال کم کر کے دی جائے گی؟ مثلاً: ساڑھے سات تولہ سونا پر زکوٰۃ واجب ہے، موجودہ ریٹ کے حساب سے رقم کا اڑھائی فیصد ادا کر دیتی ہوں۔ فرض کریں سونے کی مالیت ۱۵,۰۰۰ ہے، اور اڑھائی فیصد کے حساب سے ۳۲۵ روپے بنتی ہے، اب اگلے سال جبکہ میرے پاس سونا ساڑھے سات تولہ سے زیادہ نہیں ہوا، کیا اس سونے پر زکوٰۃ ہوگی جو میں ۳۲۵ روپے کی صورت میں گزشتہ سال ادا کر چکی ہوں (کیونکہ مال کا چالیسواں حصہ تو نکل چکا ہے) یا اس سال بھی ساڑھے سات تولہ پر دوں گی؟ میری خالہ بیوہ ہے، اس کے پاس ساڑھے سات تولہ سے زائد سونا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ وہ زکوٰۃ کی رقم لے سکتی ہیں؟ کیا ان کی یتیم بیٹی (نابالغ) کو رقم دینا صحیح ہے؟

جواب:۔۔۔ سال پورا ہونے کے بعد آدمی کے پاس جتنی مالیت ہے، اس پر زکوٰۃ لازم آتی ہے۔<sup>(۵)</sup> آپ کی تحریر کردہ صورت میں آپ نے ساڑھے سات تولہ سونے پر ۳۲۵ روپے زکوٰۃ کے اس سال ادا کر دیئے، لیکن سونے کی یہ مقدار تو آپ کے پاس محفوظ

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۴ ملاحظہ ہو۔

(۲) لَا زَكْوَةَ فِي اللَّالِي وَالْجَوَاهِرِ وَإِنْ سَاوَتْ أَلْفًا بِتَفَاقُحًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتَّجَارَةِ وَالْأَصْلُ أَنْ مَا عَدَّ الْحَجْرِينَ وَالسَّوَانِمَ انْمَا يَزْكِي بِنِيَةِ التَّجَارَةِ... الخ۔ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۷۳، كتاب الزكاة، وأيضاً في الهندية ج: ۱ ص: ۱۸۰، كتاب الزكاة)۔

(۳) الدراهم إذا كانت مغشوشة فإن كان الغالب هو الفضة فهي كالدراهم الخالصة وإن غلب الغش فليس كالفضة كالسترة فينظر إن كانت رانجة أو نوى التجارة اعتبرت قيمتها فإن بلغت نصاباً من ادنى الدراهم التي تجب فيها الزكاة وهي التي غلبت فضتها وجبت فيها الزكاة۔ (فتاوى عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۹، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة)۔

(۴) أيضاً، نیز گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳، ۲ ملاحظہ فرمائیں۔

(۵) الزكاة واجبة على الحر المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصاباً فارغاً عن دين له مطالب وعن حاجته الأصلية نامياً ولو تقديراً ملكاً تاماً وحال عليه الحال... الخ۔ (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الزكاة ج: ۱ ص: ۱۳۶)۔

ہے اور سال پورا ہونے تک محفوظ رہے گی، اس لئے آئندہ سال بھی اس پوری مالیت پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔<sup>(۱)</sup> البتہ اگر آپ سونے ہی کا کچھ حصہ زکوٰۃ میں ادا کر دیتیں اور باقی ماندہ سونا بقدر نصاب نہ رہتا ہو تو اس صورت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سونے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہے، مثلاً: نقد روپیہ یا تجارتی مال یا کسی کمپنی کے حصص وغیرہ، پس اگر سونے کے علاوہ کوئی اور چیز بھی موجود ہو جس پر زکوٰۃ آتی ہے اور وہ سونے کے ساتھ مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔<sup>(۲)</sup> آپ کی خالہ کے پاس اگر ساڑھے سات تولہ سونا موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔<sup>(۳)</sup> یتیم نابالغ لڑکی اگر نصاب کی مالک نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔<sup>(۴)</sup>

## سونے کی زکوٰۃ کی سال بہ سال شرح

سوال: ... فرض کریں میرے پاس نصاب کا سونا ۸ تولہ ہے، میں نے آٹھ تولے کی زکوٰۃ ادا کی، آئندہ سال تک میں نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، اور پچھلے سال کی زکوٰۃ نکال کر اب یہ سونا نصاب سے کم ہے، یعنی موجودہ تو آٹھ تولے ہی ہے، لیکن چونکہ میں آٹھ تولے کا چالیسواں حصہ ادا کر چکا ہوں تو وہ چالیسواں حصہ نکال کر پھر نصاب بنے گا یا ہر سال آٹھ تولے پر ہی زکوٰۃ دینا ہوگی؟ وضاحت کر دیں۔

جواب: ... پہلے سال آپ کے پاس آٹھ تولے سونا تھا، آپ نے اس کی زکوٰۃ اپنے پاس کے پیسوں سے ادا کر دی، اور وہ سونا جوں کا توں آٹھ تولے محفوظ رہا، تو آئندہ سال بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔<sup>(۵)</sup> ہاں! اگر آپ نے سونا ہی زکوٰۃ میں دے دیا ہوتا اور سونے کی مقدار ساڑھے سات تولے سے کم ہو گئی ہوتی اور آپ کے پاس کوئی اور اثاثہ بھی نہ ہوتا، جس پر زکوٰۃ آتی ہو تو اس صورت میں آپ پر زکوٰۃ واجب نہ ہوتی۔<sup>(۶)</sup>

## زیورات پر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ

سوال: ... میرے پاس دس تولہ سونے کا زیور ہے، جو مجھے جہیز میں ملا تھا، اب ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی

(۱) و شرطه أى شرط افتراض أداها حولان الحول وهو فى ملكه و ثمنية المال كالدرهم و الدنانير لتعيينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزکوٰۃ كيفما أمسكهما... إلخ. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۶۷، كتاب الزكاة).

(۲) (قوله عكسه) وهو ضم الفضة إلى الذهب، وكذا يصح العكس فى قوله وقيمة العرض تضم إلى الثمنين. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۰۳، باب زكاة المال).

(۳) و لا (يصرف) إلى غنى يملك قدر نصاب فارغ عن حاجة الأصلية... إلخ. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۴۷).

(۴) و لا يجوز دفعها إلى ولد الغنى الصغير كذا فى التبيين. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹) و لا إلى طفله... إلخ أى الغنى فىصرف إلى البالغ ولو ذكراً صحيحاً قهستانى، فأفاد أن المراد بالطفل غير البالغ ذكراً كان أو أنثى فى عيال أبيه أو لآ على الأصح لما أنه يعد غنياً بغناه نهر. (شامى ج: ۲ ص: ۳۵۰، باب المصرف).

(۵) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۵ ملاحظہ ہو۔

(۶) و مدیون للعبد بقدر دينه فيزكى الزائد إن بلغ نصاباً (قوله و مدیون للعبد) الأولى و مدیون بدين يطالبه به العبد يشمل دين دين الزکوٰۃ و الخراج لأنه لله تعالى مع أنه يمنع لأن له مطالباً من جهة العباد. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ۱ ص: ۲۶۳).

زکوٰۃ ادا کریں، ہماری شادی کو بھی تقریباً بیس سال ہو گئے ہیں، اسی عرصے میں کسی سال ہم نے زکوٰۃ ادا کی اور کسی سال نہیں، اب میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ سونا اپنے دونوں لڑکوں کے نام پر پانچ پانچ تولہ تقسیم کر دوں، اس طرح پانچ تولہ پر زکوٰۃ ادا نہیں کرنی پڑے گی، اب اس بارے میں تفصیل سے جواب عنایت کریں کہ یہ جائز ہے کہ نہیں؟

جواب: ... گزشتہ جتنے سالوں کی زکوٰۃ آپ نے نہیں دی، وہ تو سونا فروخت کر کے ادا کر دیجئے۔<sup>(۱)</sup> آئندہ اگر آپ اپنے بیٹوں کو ہبہ کر دیں گی تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بیٹے اگر صاحبِ نصاب ہوئے تو ان پر ہوگی، ورنہ ان پر بھی نہیں ہوگی۔<sup>(۲)</sup> لیکن بیٹوں کو ہبہ کرنے کے بعد اس زیور سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

بچیوں کے نام پانچ پانچ تولہ سونا کر دیا، اور ان کے پاس چاندی اور رقم نہیں، تو کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں

سوال: ... اگر کوئی شخص اپنی بچیوں کے نام الگ الگ پانچ پانچ تولہ سونا رکھ دے تاکہ ان کے بیاہ شادی میں کام آسکے تو یہ شرعاً کیسا ہے؟ کیا مجموعہ پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا یہ الگ الگ ہونے کی صورت میں واجب نہ ہوگی؟

جواب: ... چونکہ زیور بچیوں کے نام کر دیا گیا ہے، اس لئے وہ اس کی مالک بن گئیں، اس لئے اس شخص کے ذمہ اس کی زکوٰۃ نہیں، اور ہر ایک بچی کی ملکیت چونکہ حدِ نصاب سے کم ہے، اس لئے ان کے ذمہ بھی زکوٰۃ نہیں۔<sup>(۳)</sup> البتہ جو لڑکی بالغ ہو اور اس کے پاس اس زیور کے علاوہ بھی کچھ نقد روپیہ پیسہ خواہ اس کی مقدار کتنی ہی کم ہو، اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس لڑکی پر زکوٰۃ لازم ہوگی، کیونکہ جب سونے چاندی کے ساتھ کچھ نقدی مل جائے اور مجموعہ کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔<sup>(۴)</sup> اور جو لڑکی نابالغ ہے اس کی ملکیت پر زکوٰۃ نہیں، جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتی۔<sup>(۵)</sup>

سابقہ زکوٰۃ معلوم نہ ہو تو اندازے سے ادا کرنا جائز ہے

سوال: ... اگر زکوٰۃ واجب الادا تھی، لیکن کم علمی کی بنا پر ادانہ کی جاسکی، زکوٰۃ کے واجب الادا ہونے کی مدت کا تو شمار ہے،

(۱) وسبب لزوم أدانها توجه الخطاب یعنی قوله تعالى اتوا الزكوة۔ أي الخطاب المتوجه إلى المكلفين بالأمر بالأداء۔ (شامی ج: ۲ ص: ۲۶۷، کتاب الزکاة)، أيضاً: وشرطه أي شرط افتراض أدانها حولان الحول وهو في ملكه وثمانية المال كالدراهم والدنانير لتعيينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكوة كيفما امسكهما... الخ۔ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۶۷، کتاب الزکاة، طبع ایچ ایم سعید، وأيضاً فتاوى دارالعلوم دیوبند ج: ۶ ص: ۴۴، طبع دیوبند)۔

(۲) أيضاً، نیز ص: ۹۶ کا حاشیہ نمبر ۵ ملاحظہ فرمائیں۔

(۳) باب زکوٰۃ الفضة: ليس فيما دون مائتي درهم صدقة لعدم بلوغ النصاب فإن كانت مائتي درهم شرعی..... وحال عليها الحول ففيها ربع العشر خمسة دراهم۔ (اللباب فی شرح الكتاب ج: ۱ ص: ۱۳۳، کتاب الزکاة)۔

(۴) حوالہ گزر چکا ہے، عنوان: "اگر پانچ ہزار روپیہ ہو اور نصاب سے کم سونا ہو تو زکوٰۃ کا حکم" کے تحت۔

(۵) وشرط افتراضها عقل وبلوغ (در مختار) (قوله وبلوغ) فلا تجب علی مجنون وصبی لأنها عبادة محضة وليسا مخاطبين بها۔ (فتاوى شامی ج: ۲ ص: ۲۵۸، کتاب الزکاة)۔

جبکہ زکوٰۃ کی رقم کا ٹھیک ٹھیک حساب کرنا دشوار ہے، کیونکہ اس مدت کے سونے کا بھار حاصل کرنا ناممکن تو نہیں مگر مشکل ضرور ہے، تو پھر زکوٰۃ کیونکر اور کس طرح ادا کی جائے؟ اگر یہ مدت ۱۹۷۰ء سے ہو تو۔

جواب:۔۔۔ اس صورت میں تخمینہ اور اندازہ ہی کیا جاسکتا ہے کہ قریباً اتنی رقم واجب الادا ہوگی، احتیاطاً اندازے سے کچھ

زیادہ دیں۔

کیا سسرال اور ماں باپ کی طرف سے دیئے گئے دونوں زیوروں پر زکوٰۃ ہوگی؟

سوال:۔۔۔ میرے پاس دس تولے سونا ہے، اس میں سے تقریباً پانچ تولے میرے والدین نے مجھے عنایت کیا ہے، اور باقی سسرال کا ہے۔ ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں، سسرال والوں نے جو پانچ تولے سونا دیا تھا، یہ معلوم نہیں کہ وہ میری ملکیت میں دے دیا ہے یا صرف استعمال کے لئے دیا ہے؟ براہ مہربانی مجھے بتائیے کہ اس سونے کی مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟

جواب:۔۔۔ یہ تو بہت آسان بات ہے، سسرال والوں سے دریافت کر لیا جائے کہ یہ سونا انہوں نے آپ کی ملکیت میں دیدیا ہے یا محض پہننے کے لئے آپ کو دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اگر پانچ تولے سونا آپ کے پاس ہو اور اس کے ساتھ کچھ نقد روپیہ پیسہ بھی رہتا ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، البتہ اگر صرف سونا ہو اور اس کے ساتھ روپیہ پیسہ نہ ہو تو پھر پانچ تولے سونے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔<sup>(۱)</sup>

نابالغ پر زکوٰۃ نہیں، جب ہو جائے گی تو زکوٰۃ دینی ہوگی

سوال:۔۔۔ میرے پاس ۱۰ گرام کی ۶ سونے کی چوڑیاں اور کوئی ۲۵۰۰ روپے کی بالیاں وغیرہ ہیں، عرصہ پانچ سال سے جب میری عمر بارہ سال تھی میری ملکیت میں ہیں، اس دوران ۲ یا ۳ ہزار کئی بار جمع ہونے پر سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو گئے، اب میرے پاس ایک ماہ سے ۲۵۰۰ روپے موجود ہیں، جن میں دو تین ماہ کے اندر اضافہ کر کے چار ہزار کی چھین بنوانا چاہتی ہوں، پوچھنا یہ ہے کہ مجھے پانچ سال کی کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ اور چار ہزار کی مالیت کے اضافے کے بعد ہر سال کتنی زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ اگر آدمی بچپن سے ملکیت کا مالک ہو تو کس عمر میں پہنچ کر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ میری کفالت میرے والد صاحب کرتے ہیں۔

جواب:۔۔۔ نابالغ بچے کے مال پر زکوٰۃ نہیں، ۹ برس کے بعد لڑکی اور ۱۲ برس کے بعد لڑکا بالغ ہو سکتا ہے، بشرطیکہ بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر ہو جائیں، اور اگر کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو ۱۵ برس پورے ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی دونوں شرعاً بالغ تصور کئے جائیں گے۔ پس اگر آپ ۱۵ برس کی عمر سے پہلے جوان ہو چکی تھیں (مثلاً: ایام شروع ہو چکے تھے) تو جوان ہونے کے وقت سے سال پورا ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ ۱۵ برس کے بعد تو ہر حال میں زکوٰۃ فرض ہوگی، جوان ہونے کے بعد جتنے سال گزرے ہوں اتنے

(۱) وأما شروط وجوبها منها كون المال نصاباً فلا تجب في أقل منه ومنها الملك التام وهو ما اجتمع فيه الملك واليد. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۳، کتاب الزکاة، الباب الأول فی تفسیرها و صفتها، طبع رشیدیہ کوئٹہ)۔

سالوں کی زکوٰۃ آپ کے ذمے فرض ہے۔<sup>(۱)</sup>

### ۱۳ تو لے سونا اگر تین بیٹیوں میں برابر تقسیم کر دوں تو کیا زکوٰۃ ہوگی؟

سوال: ... میرے پاس تقریباً ۱۲، ۱۳ تو لے سونا ہے، جو زیورات کی شکل میں ہے، اور میرے معاشی حالات اس قابل نہیں ہیں کہ میں زکوٰۃ ادا کر سکوں، لیکن اس کے باوجود میں بہت ہی پابندی سے زکوٰۃ ہر مہینے دیتی ہوں اپنے جیب خرچ سے، کیونکہ میں قرآن شریف ترجمے سے بھی پڑھتی ہوں اور اس میں نماز اور زکوٰۃ کا جگہ جگہ ذکر ہے، اس لئے مجھ پر ایک خوف رہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، مجھے زکوٰۃ دینی ہے۔ میرے شوہر زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیتے ہیں، بلکہ کبھی جو مجھے تھوڑے بہت پیسے بطور جیب خرچ کے دیتے ہیں، میں اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتی ہوں، اب میں نے یہ سوچا تھا کہ کچھ زیورات بیچ کر ان سے کچھ گھر کی ضرورت کی چیزیں خرید لیتی ہوں، لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میری تین بیٹیاں ہیں، جو جوان ہیں، سب نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ میں یہ زیورات تین تین حصے کر کے یا ایک ایک سیٹ اپنی بیٹیوں کے نام کر دوں، اس صورت میں تو میں زکوٰۃ سے بچ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے زیور پہننے کا اتنا شوق بھی نہیں ہے، میں صرف بالی اور دو عدد ہلکی چوڑیاں پہنے رہتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں استعمال کرتی۔ جناب عالی! اب آپ یہ بتائیں کہ میں اگر اپنی بیٹیوں کے نام کر دوں یا انہیں دے دوں اور پھر زکوٰۃ نہ دوں تو میں گنہگار تو نہیں ہوں گی؟

جواب: ... سونے کا نصاب ساڑھے سات تولے ہے،<sup>(۲)</sup> اس لئے ساڑھے سات تولے سے کم پر زکوٰۃ نہیں، بشرطیکہ اس کے ساتھ کچھ اور نقدی یا کوئی اور مال جس پر زکوٰۃ آتی ہے، موجود نہ ہو۔ اگر سونا ساڑھے سات تولے سے کم ہے مگر اس کے ساتھ کچھ چاندی بھی ہے، یا کچھ روپیہ پیسہ بھی پاس رہتا ہے، اور سونے کے ساتھ ملا کر ان سب کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تب بھی زکوٰۃ واجب ہے۔<sup>(۳)</sup> اور اگر سونے کے ساتھ کوئی دوسری نقدی نہیں، یا سونا اتنا کم ہے کہ سب کی مجموعی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر نہیں بنتی تو اس پر زکوٰۃ نہیں، لہذا اگر آپ یہ سونا بچیوں میں تقسیم کر دیں اور ان کے پاس کوئی اور روپیہ پیسہ نہ رہا کرے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔

(۱) بلوغ الغلام بالإحتلام والإحبال والإنزال والجارية بالإحتلام والحیض والحبل، فإن لم يوجد فيهما شيء فمتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى۔ (در مختار ج: ۲ ص: ۱۵۳)، وشرط إفتراضها عقل وبلوغ (قوله وبلوغ) فلا تجب على مجنون وصبي لأنها عبادة محضة وليسا مخاطبين بها۔ (رد المختار مع الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۵۸)، وشرطه أي شرط إفتراض أدائها حولان الحول وهو في ملكه وثمانية المال كالدراهم والدنانير لتعيينهما للتجارة بأصل الخلقه فتلزم الزکوٰۃ كيفما أمسكهما... إلخ۔ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۶۷، وأيضاً فتاوى دارالعلوم دیوبند ج: ۶ ص: ۴۴)۔

(۲) باب زکوٰۃ الذهب ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقة لانعدام النصاب، فإذا كانت عشرين مثقالاً شرعياً..... وحال عليها الحول ففيها ربع العشر وهو نصف مثقال۔ (اللباب ج: ۱ ص: ۱۴۴)، تجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۸، الباب الثالث في زكاة الذهب)۔

(۳) ويضم قيمة العروض التي للتجارة إلى الذهب والفضة للمجانسة من حيث الثمنية لأن القيمة من جنس الدراهم والدنانير وكذلك يضم الذهب إلى الفضة لجامع الثمنية بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة... إلخ۔ (اللباب في شرح الكتاب ج: ۱ ص: ۱۴۵، كتاب الزكاة، باب زكاة العروض)۔

## اگر زیور کی زکوٰۃ نہ دی ہو، اور رقم بھی نہ ہو تو کیا کریں؟

سوال: ... آج سے دس سال پہلے جب میری شادی ہوئی تو میرے شوہر زیر تعلیم تھے، عرصہ آٹھ برس سے میرے سر صاحب ہمارے تمام اخراجات اپنے ذمے لئے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کی مہربانی سے میرے چار بچے ہیں، میرے والدین اور سسرال کی طرف سے ملا کر تقریباً دس تو لے سونے کے زیور ملے۔ پہلا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ کیا (ان حالات میں مجھ پر زکوٰۃ فرض تھی؟) جبکہ ذاتی طور پر میرے پاس دس روپے بھی نہ تھے؟

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب میرے شوہر ملک سے باہر ہیں اور وہ مجھے صرف اتنا خرچ بھیجتے ہیں جن سے میرے بچوں کی تعلیم کے ضروری اخراجات پورے ہو پاتے ہیں، میں اپنی ذات پر کوئی خاص خرچہ نہیں کرتی، بہت کفایت سے میں نے دو سال میں کچھ رقم بچا کر رکھی ہے، اب مجھے ان بچت کئے ہوئے پیسوں سے زکوٰۃ دینی ہے؟ یا اپنے شوہر سے زکوٰۃ کے لئے الگ رقم لوں؟ اور گزرے ہوئے دس سال کی زکوٰۃ مجھ پر باقی ہے یا صرف ان دو برسوں کی؟

جواب: ... آپ کے میکے اور سسرال سے ملنے والا زیور اگر آپ کی ملکیت ہے تو آپ پر زکوٰۃ اسی وقت سے فرض ہے،<sup>(۱)</sup> اور گزشتہ دس سالوں کی زکوٰۃ آپ کے ذمے واجب الادا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو زیور کا چالیسواں حصہ ہر سال آپ کو ادا کرنا چاہئے تھا۔ بہر حال اب دس سال کی زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کیجئے۔

## کیا الگ الگ زیورات پر زکوٰۃ ہوگی یا اکٹھے؟

سوال: ... میرا اور میری امی کا تمام زیور ملا کر تقریباً نو تو لے سونا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمیں لوگوں نے کہا کہ شادی سے پہلے لڑکی کی ماں باپ کی ذمہ داری میں ہوتی ہے، اس لئے زکوٰۃ بھی ماں بیٹی کے زیور کو ملا کر دی جائے گی، جبکہ اپنے زیورات میں خود ہی استعمال کرتی ہوں اور الگ الگ میرے اور میرے والدہ کے زیورات کی مالیت اتنی نہیں بنتی کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو؟

جواب: ... اگر دونوں کا الگ الگ زیور ساڑھے سات تو لے سے کم ہے تو دونوں میں کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں، البتہ اگر زیور کے ساتھ دونوں کے پاس یا کسی ایک کے پاس کچھ روپیہ پیسہ بھی رہتا ہے اور زیور کی قیمت روپے کے ساتھ ملا کر ساڑھے باون تو لے

(۱) وفى كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال ..... كان للرجال أو للنساء. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۹، کتاب الزکاة). ومراده تملیک جزء من ماله وهو ربع العشر أو ما يقوم مقامه. (بحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۱۶، کتاب الزکاة). أيضًا: لم یختلفوا أن الحلی إذا كان فی ملک الرجل تجب فیہ الزکاة، فکذا لک إذا كان فی ملک المرأة کالدراهم والدنانیر، وأیضا لا یختلف حکم الرجل والمرأة فیما یلزمها من الزکاة فوجب ان لا یختلفا فی الحلی. (أحكام القرآن للجصاص ج: ۳ ص: ۱۵۸، باب زکاة الحلی، طبع قدیمی).

چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔<sup>(۱)</sup>

## زکوٰۃ کا سال شمار کرنے کا اصول

سوال: ... زکوٰۃ کب تک ادا کی جاتی ہے؟ یعنی عید کی نماز سے پہلے یا پھر بعد میں بھی ادا کی جاسکتی ہے؟

جواب: ... جس تاریخ کو کسی شخص کے پاس نصاب کے بقدر مال آجائے، اس تاریخ سے چاند کے حساب سے پورا سال

گزرنے پر جتنی رقم اس کی ملکیت ہو، اس کی زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ میں عید سے قبل و بعد کا سوال نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت

سوال: ... زکوٰۃ کیا صرف ماہ رمضان ہی میں نکالنا چاہئے یا اگر کسی ضرورت مند کو ہم زکوٰۃ کی مقررہ رقم ماہ شعبان میں دینا

چاہیں تو کیا نہیں دے سکتے؟ یہ اس لئے پوچھ رہی ہوں کہ کچھ لوگوں کو جن کو میں یہ رقم دیتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں تقریباً ہر چیز

مہنگی ہو جاتی ہے، اس لئے اگر رمضان سے پہلے مل جائے تو بچوں وغیرہ کے لئے چیزیں باسانی خریدی جاسکتی ہیں۔

جواب: ... زکوٰۃ کے لئے کوئی مہینہ مقرر نہیں، اس لئے شعبان میں یا کسی اور مہینے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کا جو

مہینہ مقرر ہو اس سے پہلے زکوٰۃ دینا بھی صحیح ہے۔<sup>(۳)</sup>

سوال: ... کاروباری آدمی زکوٰۃ کس طرح نکالے؟ فرض کر لیا کہ رمضان المبارک ۱۴۰۰ھ میں ہمارے پاس ایک لاکھ

روپیہ ہے، ۲۵۰۰ روپے زکوٰۃ دے دی، اب رمضان المبارک ۱۴۰۱ھ آنے والا ہے، ہمارے پاس ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہو گئے،

ایک سال میں بیس ہزار روپیہ نفع ہو گیا، تقریباً سوال کے ماہ میں پانچ ہزار، ذی الحجہ میں دس ہزار، اسی طرح ہر ماہ میں نفع ہوا اور سال کے

آخر میں بیس ہزار روپے خالص نفع ہو گیا، اب زکوٰۃ کتنی رقم پر نکالیں اور کس طرح نکالیں؟ سنا ہے کہ رقم کو ایک سال پورا ہونا چاہئے۔

جواب: ... سال کے ختم ہونے پر جتنی رقم ہو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، خواہ کچھ رقم چند روز پہلے ہی حاصل ہوئی ہو۔<sup>(۴)</sup> عوام کا

(۱) شرط وجوبها... الخ منها كون المال نصاباً فلا تجب في أقل منه. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۲، كتاب الزكاة)،

نصاب الذهب عشرون مثقالاً والفضة مائتا درهم. (حاشية رد المختار ج: ۲ ص: ۲۹۵، كتاب الزكاة). وقيمة العرض للتجارة تضم الى الثمنين. (حاشية رد المختار ج: ۲ ص: ۳۰۳، كتاب الزكاة).

(۲) و شرط كمال النصاب ..... في طرفي الحول في الإبتداء للإنعقاد وفي الإنتهاء للوجوب. (الدر المختار ج: ۲

ص: ۳۰۲، أيضاً حاشية الطحطاوى على الدر المختار ج: ۱ ص: ۳۰۹). العبرة في الزكاة للحول القمري كذا في القنية.

(عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۵، كتاب الزكاة، الباب الأول).

(۳) ويجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب ولا يجوز قبله كذا في الخلاصة. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۶).

(۴) ومن كان له نصاب فاستفاد في اثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه سواء كان المستفاد من نمائه أو لا وبأى

وجه استفاد ضمه سواء كان بميراث أو هبة أو غير ذلك. (الجوهرة النيرة ج: ۱ ص: ۱۲۳، الفتاوى العالمگیریة ج: ۱

ص: ۱۷۵، كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسيرها و صفتها).

خیال ہے کہ زکوٰۃ کا سال رمضان مبارک ہی سے شروع ہوتا ہے، اور بعض رجب کے مہینے کو ”زکوٰۃ کا مہینہ“ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے۔

شرعی مسئلہ یہ ہے کہ سال کے کسی مہینے بھی جس تاریخ کو کوئی شخص نصاب کا مالک ہو، ایک سال گزرنے کے بعد اسی تاریخ کو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، خواہ محرم کا مہینہ ہو یا کوئی اور، اور اس شخص کو سال پورا ہونے کے بعد اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، اور سال کے دوران جو رقم اس کو حاصل ہوئی، سال پورا ہونے کے بعد جب اصل نصاب کی زکوٰۃ فرض ہوگی اس کے ساتھ ہی دوران سال حاصل ہونے والی رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔

سوال: ... زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے سال کی ایک تاریخ کا تعین ضروری ہے یا اس مہینے کی کسی تاریخ کو حساب کر لینا چاہئے؟  
جواب: ... اصل حکم یہ ہے کہ جس تاریخ سے آپ صاحب نصاب ہوئے، سال کے بعد اسی تاریخ کو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، تاہم زکوٰۃ پیشگی ادا کرنا بھی جائز ہے<sup>(۱)</sup>، اور اس میں تاخیر کی بھی گنجائش ہے<sup>(۲)</sup>، اس لئے کوئی تاریخ مقرر کر لی جائے، اگر کچھ آگے پیچھے ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔

سوال: ... زکوٰۃ سن عیسوی کے سال پر یا سن ہجری کے سال پر نکالی جائے؟  
جواب: ... زکوٰۃ میں قمری سال کا اعتبار ہے، شمسی سال کا اعتبار نہیں<sup>(۳)</sup>، حکومت نے اگر شمسی سال مقرر کر لیا ہے تو غلط کیا ہے۔

سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا صحیح ہے

سوال: ... جناب ہم زکوٰۃ شبِ برأت یا رمضان المبارک میں نکالتے ہیں، شرعی نقطہ نظر سے معلوم کرنا ہے کہ مجبوری کے تحت زکوٰۃ قبل از وقت نکالی جاسکتی ہے؟

جواب: ... جب آدمی نصاب کا مالک ہو جائے تو زکوٰۃ اس کے ذمہ واجب ہو جاتی ہے، اور سال گزرنے پر اس کا ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے، اگر سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے یا آئندہ کے کئی سالوں کی اکٹھی زکوٰۃ ادا کر دے تب بھی جائز ہے۔<sup>(۴)</sup>

(۱) دیکھئے گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳۔

(۲) وتجب علی الفور عنہ تمام الحول حتی یأثم بتأخیرہ من غیر عذر وفي رواية علی التراخي حتی یأثم عند الموت۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۰، کتاب الزکاة، الباب الأول فی تفسیرها و صفتها)۔

(۳) العبرة فی الزکاة للحول القمري کذا فی القنیة۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۵، الباب الأول فی تفسیرها و صفتها)۔

(۴) ولو عجل ذو نصاب زکوٰۃ لسنين أو لنصب صح لوجود السبب۔ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۹۳، کتاب الزکاة)۔  
وفي الهندی: وکما يجوز التعجيل بعد ملک نصاب واحد عن نصاب واحد يجوز عن نصب كثيرة کذا فی فتاویٰ قاضی خان۔ (فتاویٰ عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۶، کتاب الزکاة)۔



## زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر سال کا شمار

سوال: ... گزشتہ سال کی زکوٰۃ جو کہ فرض تھی کسی وجہ سے ادا نہ کی جاسکی، دوسرا سال شروع ہو گیا تو نئے سال کا حساب کس طرح کیا جائے گا؟

جواب: ... جس تاریخ کو پہلا سال ختم ہوا، اس دن جتنی مالیت تھی اس پر پہلے سال کی زکوٰۃ فرض ہوگی، اگلے دن سے دوسرا سال شروع سمجھا جائے گا۔<sup>(۱)</sup>

## درمیان سال کی آمدنی پر زکوٰۃ

سوال: ... میں نے دس ہزار روپے تجارت میں لگائے، اور ایک سال کے بعد ستمبر میں زکوٰۃ کی مطلوبہ رقم نکال دی، زکوٰۃ نکالنے کے دو ماہ بعد نومبر میں ایک پلاٹ بیچ کر مزید پندرہ ہزار روپے تجارت میں لگا دیئے، اب میں مجموعی رقم پچتیس ہزار روپے پر آئندہ سال کس ماہ میں زکوٰۃ نکالوں؟ یا پھر الگ الگ رقم پر الگ الگ مہینے میں زکوٰۃ ادا کروں؟

جواب: ... زکوٰۃ انگریزی مہینوں کے حساب سے نہیں نکالی جاتی، بلکہ اسلامی قمری مہینوں کے حساب سے نکالی جاتی ہے، جب پہلی رقم پر سال پورا ہو جائے تو پوری رقم جو درمیان سال میں حاصل ہوئی اس کی زکوٰۃ بھی لازم ہو جاتی ہے، ہر ایک کے لئے الگ الگ حساب نہیں کیا جاتا، اس لئے جب آپ کے سال پورا ہونے کی تاریخ آئے تو آپ پچتیس ہزار روپے اور اس پر جو منافع حاصل ہوا اس سب کی زکوٰۃ ادا کیجئے۔<sup>(۲)</sup>

## گزشتہ سال کی غیر ادا شدہ زکوٰۃ کا مسئلہ

سوال: ... میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں باقاعدگی سے ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اس سال بھی میری نیت بالکل صاف تھی کہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی، چونکہ زکوٰۃ دینے کے لئے اولین شرط ہے کہ زکوٰۃ کے مہینے میں حساب ہر حال میں کر لیا جائے، مگر زکوٰۃ کے آخری دنوں میں یعنی مہینے کے آخری دس پندرہ دنوں میں ایک پولیس کیس مجھ پر ہو گیا، جس کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے زکوٰۃ کے مہینے میں حساب نہ کر سکا، اب آپ سے دریافت کرنا ہے کہ اب جبکہ زکوٰۃ کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، اب حساب ان دنوں میں کر کے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اور وہ زکوٰۃ قابل قبول ہوگی یا نہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ بہر حال ادا ہونی چاہئے یا اس کے علاوہ اگر دوسرا طریقہ کار قرآن اور سنت کی روشنی میں ہو، ویسا کیا جائے۔

(۱) الزکوٰۃ واجبة ..... إذا ملک نصاباً فارغاً عن دین ..... ملکاً تاماً وحال علیہ الحول۔ (الباب فی شرح الكتاب ج: ۱ ص: ۱۳۶)، وأيضاً: فإن استفاد بعد حولان الحول فإنه لا يضم ويستأنف له حول آخر بالاتفاق هكذا في شرح الطحاوی۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۵، کتاب الزکاة، الباب الأول)۔

(۲) ومنها (أى من شرائط وجوب الزکوٰۃ) حولان الحول على المال، العبرة فى الزکوٰۃ للحول القمري ..... ومن كان له نصاب فاستفاد فى أثناء الحول مالاً من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه سواء كان المستفاد من نمائه أو لا وبأى وجه استفاد ضمه۔ (الفتاوى الهندية ج: ۱ ص: ۱۷۵، کتاب الزکاة، الباب الأول، طبع رشیدیہ)۔

جواب: ... جب بھی موقع ملے حساب کر کے زکوٰۃ ادا کر دیجئے، ادا ہو جائے گی۔ اور زکوٰۃ کا کوئی معین مہینہ نہیں ہوتا، بلکہ قمری سال کے جس مہینے کی جس تاریخ کو آدمی صاحب نصاب ہو، آئندہ سال اسی تاریخ کو اس کا نیا سال شروع ہوگا۔ اور گزشتہ سال کی زکوٰۃ اس کے ذمہ لازم ہوگی،<sup>(۱)</sup> خواہ کوئی مہینہ ہو، بعض لوگ رمضان کو اور بعض لوگ رجب کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔

مال کی نکالی ہوئی زکوٰۃ پر اگر سال گزر گیا تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی؟

سوال: ... کسی نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی، لیکن اسے کسی مستحق کے حوالے نہیں کیا، اور ایک سال پڑی رہی، تو کیا اس رقم پر بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ یعنی زکوٰۃ پر زکوٰۃ نکالی جائے گی؟

جواب: ... زکوٰۃ پر زکوٰۃ نہیں،<sup>(۲)</sup> اس رقم کو تو زکوٰۃ میں ادا کر دے، اس کے بعد جو رقم باقی بچے اس کی زکوٰۃ ادا کر دے۔

کس پلاٹ پر زکوٰۃ واجب، کس پر نہیں؟

سوال: ... اگر خالی پلاٹ پڑا ہے اور وہ زیر استعمال نہیں ہے، تو زکوٰۃ اس پر عائد ہوتی ہے یا نہیں؟

جواب: ... اگر پلاٹ کے خریدنے کے وقت یہ نیت تھی کہ مناسب موقع پر اس کو فروخت کر دیں گے تو اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے،<sup>(۳)</sup> اور اگر ذاتی استعمال کی نیت سے خریدا تھا تو زکوٰۃ واجب نہیں۔<sup>(۴)</sup>

خرید شدہ پلاٹ پر زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟

سوال: ... اگر ایک پلاٹ (زمین) لیا گیا ہو اور اس کے لئے کچھ ارادہ نہیں کیا کہ آیا اس میں ہم رہیں گے یا نہیں تو اس سلسلے میں زکوٰۃ کے لئے کیا حکم ہے؟

جواب: ... پلاٹ اگر اس نیت سے لیا گیا تھا کہ اس کو فروخت کریں گے، تب تو وہ مال تجارت ہے، اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی،<sup>(۵)</sup> اور اگر ذاتی ضرورت کے لئے لیا گیا تھا تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔<sup>(۶)</sup> اور اگر خریدتے وقت تو فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن بعد

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) و شرط صحة أدائها ..... أو مقارنة بعزل ما وجب كله أو بعضه ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۷۰، کتاب الزکاة). ایضاً دیکھئے: کفایة المفتی ج: ۳ ص: ۲۵۸۔

(۳) وما اشتراه لها أى للتجارة كان لها لمقارنة النية بعقد التجارة... إلخ. لأن الشرط فى التجارة مقارنتها لعقدها وهو كسب المال بالمال بعقد شراء... إلخ. (شامی ج: ۲ ص: ۲۷۲، کتاب الزکاة)۔

(۴) ومنها (أى من شرائط وجوب الزکوة) فراغ المال عن حاجة الأصلية فليس فى دور السكنى ..... زکوة. (فتاوى عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۲، کتاب الزکاة، الباب الأول فى تفسیرها وصفتها)۔

(۵) ایضاً حاشیہ نمبر ۳ ملاحظہ ہو۔

(۶) ایضاً حاشیہ نمبر ۴ ملاحظہ ہو۔

میں فروخت کرنے کا ارادہ ہو گیا تو جب تک اس کو فروخت نہ کر دیا جائے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔<sup>(۱)</sup>

## رہائشی مکان کے لئے پلاٹ پر زکوٰۃ

سوال: ... میرے پاس زمین کا ایک پلاٹ ۱۵۰ گز کا ہے، جو کہ مجھے چند سال قبل والدین نے خرید کر دیا تھا، اس وقت پلاٹ مبلغ ۳۵,۰۰۰ روپے کا لیا تھا، مگر اب تک صرف قیمت فروخت چالیس ہزار سے زیادہ نہیں (جبکہ بیچنے کا ارادہ نہیں، بلکہ مکان کی تعمیر کا ارادہ ہے)، کیا اس پلاٹ پر زکوٰۃ واجب الادا ہے؟ کب سے اور کس حساب سے؟

جواب: ... جو پلاٹ رہائشی مکان کے لئے خریدا گیا ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## تجارتی پلاٹ پر زکوٰۃ

سوال: ... اگر مکانات کے پلاٹوں کی خرید و فروخت کی جائے تو کیا یہ مال تجارت کی طرح تصور ہوں گے، یعنی ان کی کل مالیت پر زکوٰۃ واجب ہے یا صرف نفع پر؟ اگر پلاٹ کئی سال بعد فروخت کیا گیا تو کیا ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی یا ایک دفعہ صرف سال فروخت میں؟

جواب: ... اگر پلاٹوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کیا جائے اور فروخت کرنے کی نیت سے پلاٹ خریدا جائے تو پلاٹوں کی حیثیت تجارتی مال کی ہوگی، ان کی کل مالیت پر زکوٰۃ ہر سال واجب ہوگی۔<sup>(۳)</sup>

سوال: ... کاروباری مقصد کے لئے اور اپنی رہائشی ضرورت کے علاوہ جو زمین اور مکانات خریدے اور قیمت بڑھنے پر فروخت کر دیئے، اس سلسلے میں زکوٰۃ کے کیا احکامات ہیں؟

جواب: ... جو زمین، مکان یا پلاٹ فروخت کی نیت سے خریدا ہو، اس پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہے، ہر سال جتنی اس کی قیمت ہو، اس کا چالیسواں حصہ نکال دیا کریں۔<sup>(۴)</sup>

(۱) لا یبقی للتجارة ما أی عبد مثلاً اشتراه لها فنوی بعد ذلك خدمته ثم ما نواه للخدمة لا یصیر للتجارة وان نواه لها ما لم یبعه بجنس ما فیہ الزکوٰۃ۔ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۷۲، کتاب الزکاة)۔

(۲) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳ ملاحظہ ہو۔

(۳) باب زکوٰۃ العروض وهو ما سوى النقدين ..... الزکوٰۃ واجبة فی عروض التجارة كائنة ما كانت أی كائنة أی شیء یعنی من جنس ما تجب فیہ الزکوٰۃ كالسوائم أو غيرها كالثياب إذا بلغت قیمتاً نصاباً من الورق أو الذهب یقومها صاحب بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما أی النصابین احتیاطاً لحق الفقراء۔ (اللباب فی شرح الكتاب، باب زکوٰۃ العروض ج: ۱ ص: ۱۳۵)۔

(۴) وما اشتراه لها أی للتجارة كان لها المقارنة النية لعقد التجارة ..... فتجب الزکوٰۃ لاقتران النية بالعمل۔ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۷۲، ۲۷۳)، وكذلك فی الأشباه والنظائر ج: ۱ ص: ۳۰ القاعدة الأولى: ..... قالوا وتشترب نية التجارة فی العروض ولا بد أن تكون مقارنة للتجارة... الخ۔ (طبع إدارة القرآن قديم)۔

## تجارت کے لئے مکان یا پلاٹ کی مارکیٹ قیمت پر زکوٰۃ ہے

سوال: ... جو مکان یا پلاٹ اپنے پیسوں سے یہ سوچ کر خریدا ہو کہ بعد میں سوچیں گے، اگر رہنا ہو تو خود رہیں گے ورنہ بیچ دیں گے، ان پلاٹ اور مکان کی تعداد اگر کئی ہو تو آیا زکوٰۃ واجب ہوگئی؟ اور اگر ہاں، تو قیمت خرید پر یا مارکیٹ ویلیو پر؟

جواب: ... جو زمین یا پلاٹ خریدا جائے خریدتے وقت اس میں تین قسم کی نیتیں ہوتی ہیں، کبھی تو یہ نیت ہوتی ہے کہ بعد میں ان کو فروخت کر دیں گے، اس صورت میں ان کی قیمت پر ہر سال زکوٰۃ فرض ہوگی<sup>(۱)</sup>، اور ہر سال مارکیٹ میں جو ان کی قیمت ہو اس کا اعتبار ہوگا، مثلاً: ایک پلاٹ آپ نے پچاس ہزار کا خریدا تھا، سال کے بعد اس کی قیمت ستر ہزار ہوگئی، تو زکوٰۃ ستر ہزار کی دینی ہوگی۔ اور دس سال بعد اس کی قیمت پانچ لاکھ ہوگئی تو اب زکوٰۃ بھی پانچ لاکھ کی دینی ہوگی، الغرض ہر سال جتنی قیمت مارکیٹ میں ہو، اس کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔<sup>(۲)</sup>

اور کبھی یہ نیت ہوتی ہے کہ یہاں مکان بنا کر خود رہیں گے، اگر اس نیت سے پلاٹ خریدا ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔<sup>(۳)</sup>

اسی طرح اگر خریدتے وقت نہ تو فروخت کرنے کی نیت تھی، اور نہ خود رہنے کی، اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ نہیں۔<sup>(۴)</sup>

## کاروبار کی نیت سے خرید کردہ پلاٹوں پر زکوٰۃ ہے

سوال: ... میرا جائیداد کی خرید و فروخت کا کاروبار ہے، میں نے جو پلاٹ خرید کر چھوڑ دیئے ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ دینا ہوگی؟ نیز جو پلاٹ بچوں کے لئے خرید کر چھوڑ دیئے ہیں، کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ اور زکوٰۃ قیمت خرید پر ہوگی یا آج جو زمین کی قیمت ہے اس پر؟

جواب: ... جو پلاٹ بیچنے کی نیت سے لے رکھے ہیں، ان پر زکوٰۃ ہے، اور جس دن زکوٰۃ ادا کرنی ہو، اس دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔<sup>(۵)</sup> جو پلاٹ بچوں کے لئے لے کر رکھے ہیں، اگر ان کو بیچنے کی نیت نہ ہو تو ان پر زکوٰۃ نہیں۔<sup>(۶)</sup>

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۴ ملاحظہ ہو۔

(۲) وجاز دفع القيمة فی الزکوٰۃ ..... وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالوا يوم الأداء ..... ويقوم في البلد الذي

المال فيه ..... وفي المحيط يعتبر يوم الأداء بالإجماع وهو الأصح. (الفتاوى الشامية ج: ۲ ص: ۲۸۶).

(۳) ومنها فراغ المال عن حاجة الأصلية فليس في الدور السكنى ..... زکوٰۃ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۲).

(۴) (كما) اشترى خادماً للخدمة وهو ينوي أنه لو أصاب ربها يبيعه فحال عليه الحول لا زکوٰۃ فيه. (فتاوى قاضی خان

علی ہامش الہندیہ ج: ۱ ص: ۲۵۰، أيضاً الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۷۲، کتاب الزکاة).

(۵) الزکوٰۃ واجبة فی عروض التجارة کائنہ ما كانت إذا بلغت قیمتہا نصاباً من الورق والذهب. (عالمگیری ج: ۱

ص: ۱۸۸)، وأيضاً: وجاز دفع القيمة فی الزکوٰۃ ..... وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالوا يوم الأداء ..... وفي

المحيط: يعتبر يوم الأداء بالإجماع وهو الأصح. (الدر المختار مع الرد المختار ج: ۲ ص: ۲۸۶، کتاب الزکاة).

(۶) فليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل زکوٰۃ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۲، الباب الأول).

## رہائش کے لئے خریدی گئی زمین اگر فروخت کر دی تو کیا اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟

سوال: ... میں نے اپنی ذاتی رہائش کے لئے دو سال قبل زمین خریدی تھی کہ اس پر تعمیر کر کے رہائش اختیار کروں گا، اس کے علاوہ میرا کوئی مکان یا زمین نہیں ہے، میں یکم رمضان کو زکوٰۃ نکالتا ہوں، اس زمین کا سودا میں نے یکم رمضان سے پہلے ہی کر لیا، اور بیعانہ کی رقم لے لی اور بقیہ رقم ایک ماہ کے وعدے پر مل گئی۔ زمین کی فروخت کے بیچ کے ۲۲ دن بعد میں نے رہائش کے لئے بنے ہوئے مکان کی خریداری کا سودا کر لیا، جو اس رقم سے جو کہ زمین کی فروخت سے حاصل ہوئی تھی، زیادہ رقم میں ہوا، اور اس کا بیعانہ خریداری مکان کے مالک کو دے دیا، اس شرط پر یہ کہ جو زمین کی فروخت کی رقم ملے گی، وہ آپ کو کل دے دوں گا، اور بقیہ چھ ماہ کا عرصہ ادائیگی کے لئے طے ہو گیا۔ اب دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ جو رقم میں نے بیعانہ کی اپنے پلاٹ کی فروخت کی لی، اس پر یا کل رقم پر جو پلاٹ کی فروخت سے ملی، اس پر زکوٰۃ دینا ہے یا میرا ہے؟

جواب: ... چونکہ وہ زمین فروخت کر دی، اس لئے پوری زمین کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے، واللہ اعلم! (۱)

## رہائش کے لئے خریدے ہوئے پلاٹ پر زکوٰۃ ہے؟

سوال: ... ہم نے چند سال پہلے ایک پلاٹ رہائش کی غرض سے لیا تھا، پیسے کی کمی کی وجہ سے ہم اس پر گھر نہیں بنوا سکے، اب ہم وہ پلاٹ بیچ کر ایک چھوٹا سا مکان لینا چاہ رہے ہیں، اس پلاٹ کے اچھے پیسے مل رہے ہیں، آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اس مکان پر بھی ہمیں زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں؟ جبکہ پلاٹ بیچ کر جو مکان لیں گے وہ رہنے کی غرض سے لیں گے۔

جواب: ... یہ پلاٹ اگر آپ نے رہائش کے لئے یعنی مکان بنانے کے لئے خریدا تھا تو جب تک آپ اس کو فروخت نہیں کر دیتے اس وقت تک اس پر زکوٰۃ نہیں، البتہ فروخت کرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی بشرطیکہ آپ کا زکوٰۃ کا سال جہاں شروع ہوتا ہے اس وقت آپ اس کو بیچیں، یعنی زکوٰۃ کی رقم میں یہ بھی شامل ہو جائے۔ (۲)

## جو مکان کرایہ پر دیا ہے، اس کے کرایہ پر زکوٰۃ ہے

سوال: ... میرے پاس دو مکان ہیں، ایک مکان میں، میں خود رہائش پذیر ہوں، اور دوسرا کرائے پر، تو آیا زکوٰۃ مکان کی مالیت پر ہے یا اس کے کرائے پر؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔

(۱) ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۵)۔

(۲) فليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب ..... زکوٰۃ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۲)۔

در مختار ج: ۲ ص: ۲۶۵)۔ ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه. (فتاویٰ

عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۵، كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسيرها و صفتها)۔

جواب: ... اس صورت میں زکوٰۃ مکان کی قیمت پر واجب نہیں، البتہ اس کے کرایہ پر جبکہ نصاب کو پہنچے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔<sup>(۱)</sup>

کیا مکان کے کرایہ پر زکوٰۃ ہے؟

سوال: ... زید نے اپنا ذاتی مکان ایک ہزار ماہانہ کرایہ پر اٹھادیا، اور خود پانچ سو ماہوار کرایہ پر رہتا ہے، تو کیا پانچ سو ماہانہ کی بچت پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟

جواب: ... اگر وہ صاحبِ نصاب ہو تو سال گزرنے پر اس بچت پر بھی زکوٰۃ ہوگی، بشرطیکہ سال بھر پڑی رہے، خرچ نہ ہو۔<sup>(۲)</sup>

کاروبار کرنے کی نیت سے خریدی گئی دکان پر زکوٰۃ

سوال: ... میں نے ایک دکان کاروبار کی نیت سے پگڑی پر خریدی تھی، پورا سال گزر گیا، لیکن کوئی کاروبار نہیں کیا، تو کیا جتنی رقم کی دکان ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟

جواب: ... اس پر زکوٰۃ نہیں، واللہ اعلم!<sup>(۳)</sup>

قرض میں لیا ہوا مکان کرائے پر چڑھا دیں تو کیا اس کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی؟

سوال: ... قرض لے کر مکان کرائے پر چڑھا دیا، کرایہ کی جو رقم ماہانہ ملتی ہے، اس سے قرض کی قسط ادا کی جاتی ہے، دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا اس شخص پر کرایہ کی آمدنی کی زکوٰۃ واجب ہے؟ جبکہ کرایہ کی پوری آمدنی قرض کی ادائیگی میں صرف ہو جاتی ہے۔

جواب: ... اس شخص پر زکوٰۃ نہیں، البتہ اگر زکوٰۃ کی مالیت کا سامان اس کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔<sup>(۴)</sup>

کرایہ پر دیئے ہوئے ایک سے زائد مکانات پر زکوٰۃ

سوال: ... ایک سے زیادہ رہائشی مکان وفلیٹ پر زکوٰۃ کا نصاب ہوگا یا نہیں؟ جو کرایہ پر دیئے گئے ہوں۔

(۱) إذا آجر داره أو عبده بمائتي درهم لا تجب الزكاة ما لم يحل الحول بعد القبض في قول أبي حنيفة فإن كانت الدار والعبد للتجارة وقبض أربعين درهماً بعد الحول كان عليه درهم بحكم الحول الماضي قبل القبض لأن اجرة دار التجارة وعبد التجارة بمنزلة ثمن مال التجارة في الصحيح من الرواية. (قاضى خان على هامش الهندية ج: ۱ ص: ۲۵۳)، وأيضاً: فلا زكاة على مكاتب ..... ولا في ثياب البدن المحتاج إليها لدفع الحر والبرد، وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها وكذلك الكتب وإن لم تكن لأهلها إذا لم تنو للتجارة... الخ. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۶۳، كتاب الزكاة).

(۲) (وأما شروط وجوبها) منها كون المال نصاباً فلا تجب في أقل منه ..... ومنها حولان الحول على المال. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۵، ۱۷۲، كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسيرها وصفقتها).

(۳) ليس في الدور السكنى وثياب البدن وأثاث المنزل ودواب الركوب ..... زكاة. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۳، كتاب الزكاة، الباب الأول).

(۴) من شروط وجوبها الخ منها الفراغ عن الدين ..... كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۲، كتاب الزكاة، الباب الأول في تفسيرها).

جواب: ... جو مکان فروخت کے لئے نہ ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں، البتہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی۔<sup>(۱)</sup>

## رہائشی مکان اور کاروبار کے دکان پر زکوٰۃ

سوال: ... میرے پاس رہائش کے لئے ایک مکان اور کاروبار کے لئے ایک دکان ہے، یہ دونوں میرے والد کے نام پر ہیں، جو کہ وفات پا چکے ہیں، میری چار بہنیں اور والدہ بھی حیات ہیں، جو ان دونوں میں حصے دار ہیں۔ اس پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے یا نہیں؟ جبکہ دکان میں جو کاروبار کرتا ہوں وہ رقم اور مال بھی ایک طرح سے ادھار ڈالتا ہوں، ہم کچھ لوگ کمیٹی (بیس) ڈالتے ہیں اور پہلی کمیٹی بھی میری نکلی ہے، پھر اس سامان سے روزانہ کی کمیٹی ادا کرتا ہوں۔ علاوہ تقریباً ستر ہزار کا قرض دار بھی ہوں۔ اس کے علاوہ میری بیوی کے پاس سونا آٹھ یادس تولے ہے، میں نے انہیں بھی کہا ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں، وہ کہتی ہیں اس میں آدھا میری بیٹی کا ہے۔ اس حال میں آپ بتائیں کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اسے کیسے ادا کروں؟ جبکہ میرے پاس رقم یکجا نہیں ہے، کیا قسطوں میں دے سکتا ہوں؟

جواب: ... رہائشی مکان اور ذاتی کاروبار کی دکان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔<sup>(۲)</sup> البتہ اس میں جو موجود مال اگر اتنا ہے کہ قرض اُتار کر اگر آپ کے حصے میں اتنا مال آتا ہے کہ آپ صاحبِ نصاب بن جاتے ہیں، تو آپ پر زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں۔<sup>(۳)</sup> اسی طرح بیوی کے زیور پر زکوٰۃ ہے، ظاہر ہے آپ خود ہی ادا کریں گے۔ لیکن اگر بیوی نے آدھا زیور بیٹی کے نام کر دیا ہے، اور اب استعمال بھی نہیں کرتی اور دونوں کو ساڑھے سات تولے سے کم ملتا ہے، تو دونوں پر زکوٰۃ نہیں۔<sup>(۴)</sup>

## کرائے پر دیئے گئے مکان کی زکوٰۃ

سوال: ... میرا ایک مکان کراچی میں ہے، وہ مکان میرے نام ہے، اگر میں اسے فروخت کروں تو اس کی قیمت اس وقت پچیس لاکھ یا اس سے زیادہ ہوگی، تیس لاکھ تک بھی ہو سکتی ہے۔ وہ میں نے کرائے پر دیا ہوا ہے، اسے کرائے پر دیئے ہوئے نو مہینے ہو گئے ہیں، اس کا کرایہ ساڑھے پانچ ہزار روپے ہے، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کرائے کے حساب سے مجھے کتنی زکوٰۃ دینی ہوگی یا مکان کی قیمت کے لحاظ سے؟ نیز کتنی زکوٰۃ سال بھر میں دینی چاہئے؟ مزید یہ کہ میری تین بیٹیاں ہیں، مکان کا کرایہ ان تینوں بیٹیوں کے پاس جاتا ہے، اس مکان کی زکوٰۃ مجھے دینی ہے یا بیٹیوں کو، کیونکہ مکان میرے نام ہے؟

(۱) فلیس فی دور السكنی واثاث المنزل ..... زکوٰۃ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۲، کتاب الزکاۃ، الباب الأول)۔  
 (۲) فلیس فی دور السكنی واثاث المنزل ..... زکوٰۃ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۳، کتاب الزکاۃ)۔  
 (۳) ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زکوٰۃ عليه ..... وان كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل اذا بلغ نصاباً بالفراغ عن الحاجة والمراد به دين له مطالب من جهة العباد۔ (الهداية مع شرح البناية ج: ۴ ص: ۱۶، طبع حقانيه، کتاب الزکاۃ، وكذا في الفتح ج: ۱ ص: ۴۸۶، کتاب الزکاۃ)۔  
 (۴) وأما شروط وجوبها... الخ منها كون المال نصاب فلا تجب في أقل منه۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۳)۔ وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۸، کتاب الزکاۃ، الباب الثالث في زکاۃ الذهب)۔

جواب: ... سال کے بعد چالیسواں حصہ زکوٰۃ ادا کر دیا کریں، یعنی جتنی سال میں آپ کو آمدنی ہوتی ہے، اس کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں دے دیا کریں۔ اور مکان کا کرایہ آپ ادا کر کے بیٹیوں کو حصہ دے دیا کریں، مکان کی زکوٰۃ بہر حال آپ کے ذمے ہے۔<sup>(۱)</sup>

### مکان کی خرید پر خرچ ہونے والی رقم پر زکوٰۃ

سوال: ... ایک ماہ قبل مکان کا سودا کر چکے ہیں، ہم نے دو ماہ کا وقت لیا تھا جو کہ رمضان میں ختم ہو رہا ہے، بیعناہ ایڈوانس ادا کر چکے ہیں، اب ادائیگی زکوٰۃ کس طرح ہوگی؟ کیونکہ رقم تو اب ہماری نہیں ہے، مالک مکان کی ہوگئی، اب ہمارا تو صرف مکان ہو گیا، کیا اس رقم سے زکوٰۃ ادا کریں جو کہ مالک کو دینی ہے؟

جواب: ... اگر زکوٰۃ ادا کرنے سے قبل مکان کی قیمت ادا کر دی تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں<sup>(۲)</sup>، اور اگر سال ختم ہو گیا اب تک مکان کے پیسے ادا نہیں کئے بلکہ بعد میں وقت مقررہ پر ادا کریں گے تو اس سے زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔<sup>(۳)</sup>

### حج کے لئے رکھی ہوئی رقم پر زکوٰۃ

سوال: ... ایک شخص کے پاس اپنی کمائی کی کچھ رقم تھی، انہوں نے حج کرنے کے ارادے سے درخواست دی اور رقم جمع کرائی، لیکن قرعہ اندازی میں ان کا نام نہیں آیا، اور حکومت وقت کی جانب سے ان کی رقم واپس مل گئی، وہ شخص پھر آئندہ سال حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور درخواست بھی دینے کا ارادہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ حج کرنے کے لئے جو رقم رکھی گئی ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے یا ایسی رقم سے کوئی زکوٰۃ نکالی نہیں جائے گی یا دوسری رقم کی طرح اس پر بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی؟

جواب: ... اس رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔<sup>(۴)</sup>

### چندے کی زکوٰۃ

سوال: ... ہم ایک برادری کے لوگ ایک مشترکہ مقصد کے لئے (یعنی خدانخواستہ اگر انہی لوگوں میں سے کسی کی موت واقع ہو جائے تو اس کی لاش کو اس کے ورثاء کے حوالے کرنے کے لئے جو اخراجات وغیرہ ہوتے ہیں) چندہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور یہی چندہ

(۱) وتجب علی الفور عند تمام الحول۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۰، کتاب الزکاة، الباب الأول)۔ ومراده تملیک جزء من ماله وهو ربع العشر أو ما يقوم مقامه۔ (بحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۱۶)۔

(۲) وأما شروط وجوبها فمنها..... کون المال نصاباً فلا تجب فی أقل منه، هنکذا فی العینی شرح الكنز۔ (فتاویٰ عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۲)، وإذا کان النصاب کاملاً فی طرفی الحول فنقصانه فیما بین ذلك لا یسقط الزکوٰۃ لأنه یشق اعتبار الکمال فی أثنائه أى یشق..... لأنه قد یزید وقد ینقص..... وأما لأبد منه أى من کمال النصاب فی ابتدائه فی ابتداء الحول للانعقاد أى لانعقاد السبب وتحقق الغنا۔ (البنایة فی شرح الهدایة ج: ۳ ص: ۱۰۶، کتاب الزکاة)۔

(۳) وسببه أى سبب افتراضها ملک نصاب حولی نسبة للحول لحوالانه علیه۔ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۵۹)۔

(۴) ایضاً حوالہ بالا۔



کسی کا زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم، لہذا اصل طلب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک سال اس چندہ کا گزر جائے اور مجموعی طور پر نصاب زکوٰۃ پر پورا اترے تو کیا زکوٰۃ واجب الادا ہوگی یا نہیں؟ اگر زکوٰۃ واجب الادا ہو تو اس کا طریقہ ادائیگی کیا ہوگا؟

جواب:۔۔۔ جو رقم کسی کار خیر کے چندے میں دے دی جائے، اس کی حیثیت مال وقف کی ہو جاتی ہے، اور وہ چندہ دینے والوں کی ملک سے خارج ہو جاتی ہے، اس لئے اس پر زکوٰۃ نہیں۔<sup>(۱)</sup>

### زیورات کے علاوہ جو چیزیں زیر استعمال ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں

سوال:۔۔۔ ایک آدمی کے پاس کچھ بھینسیں ہیں، کچھ کشتیاں ہیں جن میں وہ مچھلی کا شکار کرتا ہے، اور جال بھی ہے، جال کی قیمت ساٹھ ستر ہزار روپے ہے، اور تمام چیزوں کی مالیت تقریباً ۴ لاکھ بنتی ہے، ان پر زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟

جواب:۔۔۔ یہ چیزیں استعمال کی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں،<sup>(۲)</sup> البتہ زیورات پر زکوٰۃ ہے، خواہ وہ پہنے ہوئے رہتے ہوں۔<sup>(۳)</sup>

### زیورات کے علاوہ استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں

سوال:۔۔۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے؟ کیا آرام و آسائش کی چیزوں (مثلاً: ریڈیو، ٹی وی، فریج، واشنگ مشین، موٹر سائیکل، وغیرہ) پر بھی زکوٰۃ دینی چاہئے؟

جواب:۔۔۔ زیورات کے علاوہ استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں۔<sup>(۴)</sup>

### لابریری کی کتابوں پر زکوٰۃ نہیں

سوال:۔۔۔ کیا فرماتے ہیں علمائے احناف اس لابریری کے بارے میں جو آدمی کے لئے دارالمطالعہ ہوتی ہے، اور غالباً اس میں بیس ہزار روپے کی کتب موجود ہوں، کیا اس میں سے زکوٰۃ دینی لازمی ہے؟ جواب سے مشرف کریں عین نوازش ہوگی۔

(۱) وسببہ ای سبب افتراضها ملک نصاب حولی تام... الخ۔ (درمختار) (قوله ملک نصاب) لا زکوٰۃ فی سوانم الوقف والخیل المسبلة لعدم الملك۔ (درمختار مع رد المختار ج: ۲ ص: ۲۵۹، کتاب الزکاة)۔

(۲) (ولیس فی دور السکنی وثیاب البدن وأثاث المنزل ودواب الרכوب وعبید الخدمة وسلاح الإستعمال زکوٰۃ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضاً)۔ الحاجة الأصلية ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً أو تقدیراً..... (وآلات المحترفين لما قلنا) إشارة إلى ما قلنا من قوله لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية، وآلات المحترفين مثل قدر الطباخين والصباغين..... وظروف الأمتعة۔ (البنایة فی شرح الهدایة ج: ۳ ص: ۱۹، کتاب الزکاة)۔

(۳) واللازم..... فی مضروب کل منهما ومعموله ولو تبراً أو حلیاً مطلقاً مباح الإستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة لأنهما خلقا أثماناً فیزکیهما کیف كانا... الخ۔ (قوله أو حلیاً) ما تتحلّى به المرأة من ذهب أو فضة... الخ۔ (رد المختار مع الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۹۸، کتاب الزکاة، باب زکاة المال)۔

(۴) ایضاً حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ ہو۔

جواب: ... مطالعے کی کتابوں پر زکوٰۃ نہیں۔<sup>(۱)</sup>

## زکوٰۃ ادا کرنے کے دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا

سوال: ... قانون کے مطابق حصص پر زکوٰۃ کے لئے مالیت کا تعین حصص کی اصل مالیت پر کی جاتی ہے، مثلاً کسی کمپنی کے حصص دس روپے کی مالیت کے ہیں اور کسی کے پاس سو حصص ہیں تو اس کی مالیت ایک ہزار روپے ہوگی، اسی طرح زکوٰۃ ایک ہزار روپے پر ادا کی جائے گی، جبکہ مارکیٹ میں بھاؤ کا اتار چڑھاؤ رہتا ہے، کبھی دس روپے کے حصص چالیس روپے کے، اور کبھی دس روپے سے بھی کم ہو جاتے ہیں، کیا پہلی صورت درست ہے یا دوسری صورت کے مطابق مالیت کا تعین کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے۔

جواب: ... زکوٰۃ ادا کرنے کے دن حصص کی جو قیمت بازار میں ہو، اس کے مطابق زکوٰۃ دی جائے۔<sup>(۲)</sup>

## چھ لاکھ کی گاڑی تین ہزار روپے ماہانہ اقساط پر فروخت کرنے والے پر کتنی زکوٰۃ آئے گی؟

سوال: ... کیا فرماتے ہیں مفتیان و علمائے کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ آدمی چھ لاکھ کی گاڑی فروخت کرتا ہے، اور قیمت کی وصولی تین ہزار ماہانہ قسط کی صورت میں کرتا ہے، تو سال میں تقریباً چھتیس ہزار روپے وصول ہو جاتے ہیں، احتمال چھتیس ہزار سے کم کا رائج ہے بہ نسبت اس سے زائد کے، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ کس طرح دی جائے گی؟ کیا چھ لاکھ کی یا چھتیس ہزار کی یا چھتیس ہزار سے کم جتنی بھی سال میں وصول ہو جائے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ کبھی کبھار یہ چھ لاکھ ضائع بھی ہو جاتے ہیں، یعنی عموماً مل ہی جاتے ہیں لیکن ضائع ہونے کا بھی احتمال کچھ نہ کچھ ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔

جواب: ... چونکہ اس شخص نے چھ لاکھ کی گاڑی بیچی ہے تو گویا اس کا چھ لاکھ روپیہ خریدار کے ذمے ہے، ان میں سے چھتیس ہزار تو اس کو سالانہ وصول ہو رہے ہیں، اور باقی رقم بذمہ خریدار ہے، اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ جس شخص نے کسی کو ادھار رقم دی ہو، ایک سال کے لئے یا چند سالوں کے لئے، تو اس رقم کی زکوٰۃ ہر سال مالک کے ذمے یعنی ادھار دینے والے کے ذمے ہے، واللہ اعلم!<sup>(۳)</sup>

(۱) (اما شروط الوجوب) منها فراغ المال عن حاجة الأصلية ..... وكذا كتب العلم إن كان من أهله. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۲)۔ (وعلى هذا كتب العلم لأهلها) أى على ما ذكرنا من عدم وجوب الزکوٰۃ حكم كتب العلم لأهلها. (البنایة فی شرح الهدایة، كتاب الزکوٰۃ ج: ۳ ص: ۱۹، وكذا فی رد المختار ج: ۲ ص: ۲۶۵، كتاب الزکوٰۃ)۔

(۲) لأن الواجب الأصلي عندهما هو ربع عشر العين وأما له ولأية النقل إلى القيمة يوم الأداء فيعتبر قيمتها يوم الأداء. (بدائع ج: ۲ ص: ۲۲، وكذا فی رد المختار مع الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۸۶، باب زكاة الغنم)۔

(۳) واعلم ان الديون عند الإمام ثلاثة: قوى، ومتوسط، وضعيف، فتجب زكوتها إذا تم نصابًا وحال الحول لكن لا فورًا بل عند قبض أربعين درهما من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم وعند قبض مائتين منه لغيرها أى من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كضمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما ..... ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض فى الأصح. (قوله ويعتبر ما مضى من الحول) أى فى الدين المتوسط لأن الخلاف فيه ... الخ. (در مختار مع رد المختار ج: ۲ ص: ۳۰۵، مطلب فى وجوب الزكاة فى دين المرصد، وأيضًا خلاصة الفتاوى، الفصل السادس فى الديون ج: ۱ ص: ۲۳۸)۔

## دس لاکھ کی قسطوں پر فروخت شدہ گاڑی پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟

سوال:.... میں نے ایک گاڑی ساڑھے آٹھ سال کے اندر قسطوں کی ادائیگی کے معاہدے کے تحت مبلغ دس لاکھ میں فروخت کی، اس شرط پر کہ وہ لوگ مجھے ایک سال میں صرف ایک لاکھ بیس ہزار دیتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ آیا میں زکوٰۃ ہر سال دس لاکھ روپے کی ادا کروں یا ایک لاکھ بیس ہزار کی ادا کروں؟

جواب:.... جب آپ نے دس لاکھ میں گاڑی بیچ دی تو وہ رقم اس شخص کے ذمے قرض ہوگئی، اور قرض کی رقم پر ہر سال زکوٰۃ لازم ہے، اس لئے آپ ہر سال زکوٰۃ ادا کیا کریں۔<sup>(۱)</sup>

## استعمال کی کار، موٹر سائیکل پر زکوٰۃ نہیں

سوال:.... کار اور موٹر سائیکل جو ہمارے استعمال میں ہے، اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اگر دینی ہوگی تو قیمت کونسی شمار کی جائے گی؟

جواب:.... استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## استعمال کے برتنوں پر زکوٰۃ

سوال:.... ایسے برتن (مثلاً: دیگ، بڑے دیگچے وغیرہ) جو سال میں دو تین بار استعمال ہوں، ان کی بھی زکوٰۃ قیمت خرید موجودہ پر ہوگی (تانبے کی)، یا اس قیمت پر جس پر کہ دکاندار ہڈانے (غیر شکستہ) برتن خرید کر ادا کرتے ہیں؟

جواب:.... ایسے برتن جو استعمال کے لئے رکھے ہوں خواہ ان کے استعمال کی نوبت کم ہی آتی ہو، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں۔<sup>(۳)</sup>

(۱) واعلم ان الديون عند الإمام ثلاثة: قوی، ومتوسط، وضعیف، فتجب زكوتها إذا تم نصاباً وحال الحول لكن لا فوراً بل عند قبض أربعين درهماً من الدين القوی كقرض وبدل مال تجارة فكلما قبض أربعين درهماً يلزمه درهم وعند قبض مائتين منه لغيرهما أى من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كضمن سائمة وعبید خدمة ونحوهما ..... ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض فى الأصح (قوله ويعتبر ما مضى الخ) أى فى الدين المتوسط لأن الخلاف فيه، أما القوی فلا خلاف فيه لما فى المحيط من أنه تجب الزكوة فيه بحول الأصل- (رد المحتار مع الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۰۵، مطلب فى وجوب الزكاة فى دين المرصد، أيضاً خلاصة الفتاوى، كتاب الزكاة، الفصل السادس فى الديون ج: ۱ ص: ۲۳۸، طبع رشیدیہ).

(۲) من شرائط وجوبها... الخ- فراغ المال عن حاجة الأصلية فليس فى دور السكنى ..... ودواب الركوب ..... زكوة. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۲، كتاب الزكاة، الباب الأول فى تفسيرها و صفتها). وليس فى دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنزل ودواب الركوب وعبید الخدمة وسلاح الإستعمال زكوة لأنها مشغول بالحاجة الأصلية، والحاجة الأصلية ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً أو تقديراً... الخ- (البنایة فى شرح الهدایة ج: ۳ ص: ۱۹).

(۳) حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ ہو۔

## ادویات پر زکوٰۃ

سوال: ... دکان میں پڑی ادویات پر زکوٰۃ لازم ہے یا صرف اس کی آمدنی پر؟  
جواب: ... ادویات کی قیمت پر بھی لازم ہے۔<sup>(۱)</sup>

## واجب الوصول رقم کی زکوٰۃ

سوال: ... میں ایک ایسا کام کرتا ہوں کہ خدمات کی انجام دہی کی رقوم کافی لوگوں کی طرف واجب الوصول رہتی ہیں، اور وصولی بھی پانچ چھ مہینے بعد ہوتی ہے، کچھ لوگوں سے وصولی کی بہت کم امید ہوتی ہے، کیا ان واجب وصول رقوم پر زکوٰۃ دینی چاہئے یا جب وصول ہو جائیں اس کے بعد؟

جواب: ... کاریگر کو کام کرنے کے بعد جب اس کا حق الخدمت (أجرت، مزدوری) وصول ہو جائے تب اس کا مالک ہوتا ہے، پس اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو جب آپ کا زکوٰۃ کا سال پورا ہو، اس وقت تک جتنی رقوم وصول ہو جائیں ان کی زکوٰۃ ادا کر دیا کیجئے، اور جو آئندہ سال وصول ہوں گی ان کی زکوٰۃ بھی آئندہ سال دی جائے گی۔<sup>(۲)</sup>

## حصص پر زکوٰۃ

سوال: ... میرے پاس ایک کمپنی کے سات سو حصص ہیں، جن کی اصلی قیمت دس روپیہ فی حصص ہے، جبکہ موجودہ قیمت ۳۰ روپے فی حصص ہے، زکوٰۃ کون سی قیمت پر واجب ہوگی؟

جواب: ... حصص کی اس قیمت پر جو وجود زکوٰۃ کے دن ہو۔<sup>(۱)</sup>

سوال: ... جمعہ کی اشاعت میں حصص پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں مسئلہ پڑھا، لیکن سوال یہ ہے کہ تمام محدود کمپنیاں زکوٰۃ و عشر آرڈیننس مجریہ ۱۹۸۰ء کے تحت کمپنی کے اثاثہ جات پر زکوٰۃ منہا کرتی ہیں، اور یہ رقم اس آرڈیننس کی دفعہ ۷ کے مطابق قائم شدہ سنٹرل زکوٰۃ فنڈ کو منتقل کر دی جاتی ہیں، نیز یہ ادا شدہ زکوٰۃ حصص داران کے حصص کے تناسب کے حساب سے ان کے حاصل شدہ منافع میں سے کاٹ لی جاتی ہے۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ ایک مرتبہ اجتماعی کاروبار سے زکوٰۃ منہا ہو جانے کے بعد بھی دوبارہ ہر حصص دار

(۱) و شرطه أى شرط افتراض أدائها حولان الحول وهو فى ملكه و ثمنية المال ..... أو نية التجارة فى العروض اما صريحًا و لا بعد من مقارنتها لعقد التجارة كما سيجى. (الدر المختار على هامش الطحطاوى ج: ۱ ص: ۳۹۱).

(۲) واعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة قوى و متوسط و ضعيف، فتجب زكاتها ..... عن قبض مائتين مع حولان الحول بعد أى بعد القبض من دين ضعيف وهو بدل غير مال كمهر ودية و بدل كتابة و خلع إلا إذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف. و فى الشامية: (قوله إلا إذا كان الخ) استثناء من اشتراط حولان الحول بعد القبض ..... والحاصل أنه إذا قبض منه شيئاً و عنده نصاب يضم المقبوض إلى النصاب و يزكاه بحوله و لا يشترط له حول بعد القبض. (رد المختار مع الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۰۵، ۳۰۶، مطلب فى وجوب الزكاة فى دين المرصد).

(۳) و ان أدى القيمة تعتبر قيمتها يوم الوجوب ... الخ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۰، كتاب الزكاة، الباب الثالث).

کو اپنے ان حصص پر انفرادی طور پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟

جواب: ... اگر حصہ داروں کے حصص سے زکوٰۃ وصول کر لی گئی تو ان کو انفرادی طور پر اپنے حصص کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، البتہ اس میں گفتگو ہو سکتی ہے کہ حکومت جس انداز سے زکوٰۃ کاٹ لیتی ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں؟ اور اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بہت سے علماء، حکومت کے طریق کار کی تصویب کرتے ہیں، اور اس سے زکوٰۃ ادا ہو جانے کا فتویٰ دیتے ہیں، جبکہ بہت سے علماء کی رائے اس کے خلاف ہے، اور وہ حکومت کی کائی ہوئی زکوٰۃ کو ادا شدہ نہیں سمجھتے، ان حضرات کے نزدیک ان تمام رقوم کی زکوٰۃ مالکان کو خود ادا کرنی چاہئے جو حکومت نے وضع کر لی ہو۔<sup>(۱)</sup>

### خرید کردہ بیج یا کھاد پر زکوٰۃ نہیں

سوال: ... زمین کے لئے جن پیسوں سے بیج اور کھاد خرید کر رکھا ہے، کیا ان پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی چاہئے؟

جواب: ... جو کھاد اور بیج خرید کر رکھا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔<sup>(۲)</sup>

### پراویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ

سوال: ... میں ایک مقامی بینک میں ملازم ہوں، جہاں میرا فنڈ مبلغ ۲۹ ہزار روپے جمع ہو گیا ہے، اور اس میں سے میں نے کل ۲۷ ہزار روپے بطور لون لیا ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اگر دینی ہوگی تو کب سے اور کتنی؟

جواب: ... پراویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب وہ وصول ہو جائے، جب تک وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں،<sup>(۳)</sup> اس مسئلے پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب "کار سالہ لائق مطالعہ ہے۔"<sup>(۴)</sup>

### کمپنی میں نصاب کے برابر جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ واجب ہے

سوال: ... میں نے پیسے کسی کمپنی کو دیئے ہیں، جو کہ منافع و نقصان کی بنیاد پر ہر ماہ منافع ادا کرتی ہے، جس سے ہمارے گھر

(۱) تفصیل دیکھئے: أحسن الفتاوى ج: ۴ ص: ۳۰۳، طبع ایچ ایم سعید، وخیر الفتاوى ج: ۳، کتاب الزکاة، وجواهر الفتاوى۔

(۲) ومنها فراغ المال عن حاجة الأصلية فليس في دور السكنى ..... زکوٰۃ و کذا طعام أهله ... الخ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۲، کتاب الزکاة، الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرانطها)۔

(۳) الديون على ثلاثة مراتب: قوى ..... ووسط كبذل مال لم يكن للتجارة وغلة مال لم يكن للتجارة وانما يخاطب بأداء زكوته عند قبض مائتين منها، وضعيف كبذل ما ليس بما وهو المهر ..... وانما يخاطب بأداء زكوته إذا قبض مائتين وحال عليها الحول بعد القبض وهذا قول أبي حنيفة۔ (خلاصة الفتاوى، الفصل السادس في الديون ج: ۱ ص: ۲۳۸ طبع رشيدية كوئٹہ، وأيضاً في الشامية ج: ۲ ص: ۳۰۵، ۳۰۶، مطلب في وجوب الزکاة في دين المرصد)۔

(۴) دیکھئے: جواهر الفقہ ج: ۱ ص: ۳۸۵، از حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، طبع دارالعلوم کراچی۔ "پراویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ اور سود کا مسئلہ" حضرت مفتی محمد شفیع صاحب۔

کے اخراجات بمشکل پورے ہوتے ہیں۔ میری آمدنی کبھی اتنی نہیں ہوتی کہ بہت ہی ضروری گھر کے اخراجات کے بعد کچھ پس انداز کر لیا جائے، کیونکہ ہم کثیر الاولاد ہیں۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ زکوٰۃ کس طرح سے ادا ہو؟ اگر ماہانہ آمدنی سے ادا کرتے ہیں تو فاقہ کی صورت پیش آتی ہے، اور اگر اصل مال سے نکلواتے ہیں تو بھی آمدن مزید کم ہو جاتی ہے، اور ہاتھ تو پہلے ہی تنگ رہتا ہے، پھر قرض اٹھانے کی ضرورت پیش آئے گی، جس سے ہمیشہ بچتا ہوں، اور قرض کبھی نہیں لیتا، رہنمائی فرمائیں۔

جواب: جو رقم آپ نے کمپنی میں جمع کر رکھی ہے اگر وہ مالیتِ نصاب (ساڑھے باون تولہ چاندی) کے برابر ہے، تو اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ ہے۔<sup>(۱)</sup> زکوٰۃ ادا کرنے کی جو صورت بھی آپ اختیار کریں۔

### تجارتی کمپنیوں میں پھنسی ہوئی رقوم پر زکوٰۃ کا حکم

سوال: ... علمائے کرام سے سنتے ہیں کہ قرضہ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ایک مسلمان کا اگر کسی پر دس ہزار یا کم و بیش قرضہ ہو تو زکوٰۃ وصول ہونے پر ادا کرنے کا حکم ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کی اگر ساری جمع پونجی قرضہ میں ہو اور اس کا ملنا بھی دشوار ہو، جس کی کراچی میں کوآپریٹو اسکینڈل..... زندہ مثال موجود ہے کہ نہ تو جن بھائیوں کی رقمیں پھنس گئی ہیں ان کے ملنے کی امید ہے اور نہ ہی وہ ناامید ہو کر صبر کر سکتے ہیں، لہذا اب اگر ایک مسلمان کو اپنے قرضہ والی رقم چالیس سال تک نہیں ملتی تو ۴۰ سال اور بعد میں اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ اس طرح اڑھائی فیصد کے حساب سے تو زکوٰۃ کی مد میں جتنی بھی رقم لوگوں پر قرض ہو وہ زکوٰۃ کی مد میں منہا ہو کر ختم ہو جائے گی۔ اب اگر چالیس سال بعد بھی رقم نہیں ملتی تو کیا ۴۰ سال میں مذکورہ رقم جو زکوٰۃ کی مد میں ختم ہو چکی ہے زکوٰۃ میں منہا سمجھی جائے گی اور ۴۰ سال کے بجائے اگر ۵۴ سال کے بعد یہ رقم مل جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ ذرا تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں۔

جواب: ... ان تجارتی کمپنیوں میں لوگوں کی جو رقمیں پھنسی ہوئی ہیں ان کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے اس پر غور کر لینا مناسب ہوگا کہ شرعی نقطہ نظر سے ان رقوم کی نوعیت کیا ہے؟

یہ بات تو ہر خاص و عام کو معلوم ہے کہ جن لوگوں نے ان کمپنیوں میں اپنی پونجی جمع کرائی تھی یہ رقمیں ان کمپنیوں کو بطور قرض کے نہیں دی تھیں بلکہ کاروبار میں شراکت اور منافع میں حصہ داری کے لئے دی تھیں۔ چنانچہ ان کمپنیوں نے ان رقوم کو کاروبار میں لگایا اور اس کاروبار سے حاصل ہونے والے منافع میں ان رقموں کے مالکان کو شریک کیا۔

ان میں سے بعض کمپنیوں کے بارے میں لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ شریعت کے اصول مضاربت کے مطابق ان رقوم سے کاروبار کرتی ہیں، اور شریعت کے مطابق کھاتہ داروں کو منافع کا حصہ تقسیم کرتی ہیں۔ انہوں نے بعض لائق اعتماد اہل علم سے شرعی اصول مضاربت کے مطابق کام کرنے کا مکمل خاکہ تیار کرایا، اس کے اصول و قواعد وضع کئے اور پھر اس مرتبہ نقشے کے مطابق کاروبار شروع

(۱) و شرطه ای شرط افتراض أدائها حولان الحول وهو في ملكه و ثمنية المال كالدراهم والدنانير لتعنيهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكوة كيفما أمسكهما ولو للنفقة. (قوله و شرطه) ..... وما هنا شرط في نفس المال المزكى (قوله وهو في ملكه) أي التام فخرج الضمار. (الدر المختار مع الحاشية الطحطاوى، كتاب الزكوة ج: ۱ ص: ۳۹۳، طبع رشيدية).

کیا اور یہ حضرات شدت کے ساتھ اس امر کا لحاظ رکھتے تھے کہ کاروبار میں بھی اور منافع کی تقسیم میں بھی کوئی بات شریعت کے خلاف نہ ہونے پائے۔

الغرض! ایسی کمپنیاں جو کھاتہ داروں کے روپے سے شریعت کے اصول مضاربت کے مطابق کام کرتی تھیں جو رقمیں ان کو دی گئیں وہ قرض نہیں بلکہ ان کے ہاتھ میں امانت تھیں، اور یہ لوگ کھاتہ داروں کی جانب سے کاروبار کرنے کے لئے وکیل تھے اور ان کے ساتھ نفع میں شریک تھے، چنانچہ حضرات فقہاء لکھتے ہیں:

”مضارب، کام شروع کرنے سے پہلے رأس المال کی رقم کا امین ہوتا ہے، کام شروع کرنے کے بعد وہ اس کی جانب سے وکیل بن جاتا ہے، اور نفع حاصل ہو جانے کے بعد وہ اس کے ساتھ منافع میں شریک ہو جاتا ہے۔“<sup>(۱)</sup>

یہ کمپنیاں اپنے مرتب کردہ نقشے کے مطابق کاروبار کر رہی تھیں اور کھاتہ داروں کو بالالتزام منافع تقسیم کر رہی تھیں کہ یکا یک حکومت نے ان کی تمام املاک پر قبضہ کر کے ان کو کاروبار کرنے سے روک دیا، وہ دن اور آج کا دن کہ یہ تمام املاک اور اثاثے حکومت کے قبضہ و تحویل میں ہیں، ان کمپنیوں کے مالکان نے ہر چند حکومت سے اپیلیں کیں کہ حکومت ہمیں اپنی نگرانی میں کاروبار کی اجازت دیدے اور ہم سے ایک ایک پیسے کا حساب لے، یا کم از کم ہمیں اپنے املاک اور اثاثوں کو فروخت کرنے ہی کی اجازت دی جائے تاکہ ہم متاثرین کو ان کی رقمیں لوٹانے کے قابل ہو سکیں، مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ آیا کھاتہ داروں کی طرف سے حکومت کے سامنے ان کمپنیوں کی بدعنوانی کی کوئی شکایت آئی تھی؟ اور انہوں نے حکومت سے مداخلت کی کوئی درخواست کی تھی؟ یا حکومت نے اسکیئنڈل بنا کر ان کمپنیوں پر جبری قبضہ کر لیا؟ جہاں تک کھاتہ داروں کا تعلق ہے ان کی طرف سے ایسی کوئی شکایت منظر عام پر نہیں آئی، اور نہ یہ کہ انہوں نے حکومت سے مداخلت کی کوئی درخواست کی ہو، بلکہ اس کے برعکس ان کمپنیوں پر عوام کا اعتماد روز بروز بڑھ رہا تھا اور لوگ سرکاری اداروں اور بینکوں سے رقوم نکال کر ان نجی تجارتی اداروں میں اپنی رقمیں جمع کر رہے تھے، بلکہ بعض نے اپنے زیورات اور مکانات تک فروخت کر کے ان اداروں میں رقمیں جمع کرانا شروع کر دیں، ان اداروں کی یہ عوامی مقبولیت ہی ان اداروں کے لئے جان لیوا ثابت ہوئی:

”اے روشنی طبع تو بر من بلا شدی“

حکومت کے ”ماہرین معاشیات“ اور سرکاری و نیم سرکاری مالیاتی اداروں کے بزرگ مہروں کو بجا طور پر یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ان نجی اداروں کی ساکھ بڑھتی رہی اور ان پر عوام کے اعتماد کا یہی عالم رہا تو حکومت کے مالیاتی ادارے اور سرکاری و نیم سرکاری بینک (جو ان کمپنیوں کی وجہ سے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں) یکسر مفلوج ہو کر رہ جائیں گے اور حکومت کے سودی نظام سے عوام کا اعتماد بالکل ختم ہو جائے گا۔ سرکار کے مالیاتی اداروں کے اس درد کا مداوا حکومت نے یہ تجویز کیا کہ راتوں رات ان گستاخ نجی اداروں

(۱) ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده لأنه قبضه بأمر مالكة لا على وجه البدل والوثيقة وهو وکیل فيه لأنه يتصرف فيه بأمر مالكة إذا ربح فهو شریک فيه لتملكه جزء من المال۔ (هدایة ج: ۳ ص: ۲۵۷، کتاب البیوع، باب المضاربة)۔

پر قبضہ کر لیا اور اس کو اسکیٹنڈل بنا کر ان اداروں کے چلانے والوں کو جرم بے گناہی کے الزام میں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ جس سے سرکار عالی کو دو فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ حکومت کے جو ادارے جان کنی کی حالت میں دم توڑ رہے تھے، ان نجی اداروں کا گلا گھونٹ کر ان جاں بلب سرکاری اداروں کو آکسیجن مہیا کر دی گئی اور انہیں اپنی موت مرنے سے بچا لیا گیا۔ دوم یہ کہ ان نجی اداروں کو ان کی گستاخی کی ایسی سزا دی گئی کہ آئندہ دُوسروں کے لئے عبرت ہو۔ اور کوئی شخص حکومت کے سودی نظام کے جال سے نکل کر شریعت محمدیہ کے مطابق آزادانہ کاروبار کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ حکومت نے اپنے اس اقدام کے ذریعہ ان نجی کمپنیوں کا جو حشر کیا اس کو دیکھنے کے بعد انسان تو انسان، اگر بالفرض کوئی معصوم فرشتہ بھی آسمان سے نازل ہو جائے اور وہ عوام سے وعدہ کرے کہ وہ ان کی رقموں کو پوری دیانت و امانت کے ساتھ کاروبار میں لگائے گا، شریعت خداوندی کے عین مطابق کاروبار کرے گا، اور پوری دیانت داری کے ساتھ وہ حاصل شدہ منافع کو حصہ داروں پر تقسیم کرے گا، تب بھی عوام کو حوصلہ اور جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے اثاثے اس معصوم فرشتے کے حوالے کر دیں، کیونکہ حکومت کے جبری قبضے کی تلوار ان کے سر پر ہمیشہ لٹکتی رہے گی۔ اس کے مقابلے میں وہ حکومت کے سودی اداروں میں رقمیں جمع کرانے کو ترجیح دیں گے، اور ان سے سودی منافع لے کر اپنے دین و ایمان اور اپنے ضمیر کا قتل بہتر سمجھیں گے، شیخ سعدی کے ارشاد: ”سگہارا کشادہ و سگہارا بستہ“ کی کیسی اچھی تفسیر ہے...؟

ان کمپنیوں پر قبضہ جمانے کے بعد کئی سال سے حکومت، عوام کو رقمیں لوٹانے کے سہانے خواب دکھا رہی ہے، لیکن آج تک تو وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے، ان غصب شدہ کمپنیوں میں جو نقد اثاثے موجود تھے شنیدہ ہے سرکار دیار میں اثر و رسوخ رکھنے والے حضرات ان سے اپنا حصہ وصول کر چکے ہیں، باقی سامان گلٹا رہے، سڑتا رہے، برباد ہوتا رہے، اور غریب بوڑھے پنشنرز، بیوائیں، یتیم بچے اور نادار لوگ چیختے رہیں، چلاتے رہیں، بلبلا تے رہیں، حکومت کے کارپردازوں کو اس کی کیا پروا...؟

بنی اسرائیل کے مظلوموں کی صدائیں فرعون کے بلند وبالاحمات تک کب پہنچتی ہیں؟

دریا کو اپنی موج کی طغیانوں سے کام

کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے!

الغرض! عوام کی یہ رقمیں جو حکومت کے آہنی چنگل میں پھنسی ہوئی ہیں وہ ان کمپنیوں کے پاس امانت تھیں، اور حکومت نے ان کمپنیوں کو اپنی تحویل میں لے کر ان عوامی امانتوں پر قبضہ جمالیا ہے، اور ایسا مال جس کو حکومت نے زبردستی اپنی تحویل میں لے لیا ہو، وہ حضرات فقہاء کی اصطلاح میں ”مال ضمار“ کہلاتا ہے،<sup>(۱)</sup> اور ”مال ضمار“ کی زکوٰۃ کا حکم<sup>(۲)</sup> یہ ہے کہ جب تک وہ مال دوبارہ وصول نہ ہو جائے اس پر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں، اور جب وصول ہو جائے تو مالک اگر پہلے سے صاحب نصاب ہے تو جب اس کے نصاب پر سال پورا ہوگا، اس وقت اس رقم پر بھی صرف اسی سال کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر اس وصول ہونے والی رقم کا مالک پہلے

(۱) وهو كل ما بقى في ملكه ولكن زال عن يده زوالاً لا يرجع عوده في الغالب۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۴، کتاب الزکاة)۔

(۲) يشترط أن يتمكن من الاستملاء بكون المال في يده أو يد نائبه فإن لم يتمكن من الاستملاء فلا زكوة عليه۔ (عالمگیری

ج: ۱ ص: ۱۷۴، کتاب الزکاة، الباب الأول في تفسيرها و صفتها، ومنها كون النصاب نامياً)۔



سے صاحبِ نصاب نہیں تھا تو جب اس رقم پر سال پورا ہو جائے گا، تب اس پر اس سال کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔<sup>(۱)</sup>  
تاہم اگر کسی کو ان رقم کی وصول کا ظن غالب ہو، ان کو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہئے۔  
اس ناکارہ نے یہ مسئلہ اپنے علم و فہم کے مطابق لکھا ہے، اگر اس میں اس کو تاہم فہم سے غلطی ہوئی ہو تو اہل علم سے استدعا ہے کہ اس کی تصحیح فرما کر ممنون فرمائیں۔

## بینک جو زکوٰۃ کاٹتا ہے اس کا انکم ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں

سوال: ... ایک شخص کے پاس گھر میں دس ہزار ہیں، بینک میں بھی دس ہزار ہیں، بینک کی رقم سے حکومت زکوٰۃ کاٹتی ہے، اور وہ شخص انکم ٹیکس بھی ادا کرتا ہے، تو کیا وہ رقم جو بینک میں جمع ہے اس پر زکوٰۃ دوبارہ دے گا جبکہ انکم ٹیکس بھی حکومت کو دینا ہے یا صرف وہ رقم جو اس کے گھر میں موجود ہے، صرف اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟  
جواب: ... بینک جو زکوٰۃ کاٹتا ہے، بعض اہل علم کے نزدیک زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے،<sup>(۲)</sup> اور حکومت کو جو انکم ٹیکس دینا ہے اتنی مقدار کو چھوڑ کر باقی رقم کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔<sup>(۳)</sup>

## مقروض کو دی ہوئی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے، اور زکوٰۃ میں قیمتی کپڑے دے سکتے ہیں

سوال: ... میرا سوال یہ ہے کہ میں نے گھر خرچ میں سے بچا بچا کر پانچ ہزار روپے جمع کئے ہیں، اور ان میں سے چھ سو روپے تو ایک کو قرض دے دیئے، دو سال ہو گئے اس نے آج تک واپس نہیں کئے ہیں، اور نہ ہی ابھی واپس کرنے کا کوئی ارادہ ہے، باقی رقم بھی کسی ضرورت مند نے مانگی تو میں نے اسے دے دی، اسے بھی ایک سال ہو گیا ہے، اس نے بھی واپس نہیں دی۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس رقم پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ جواب ضرور دیں۔ اور جو کپڑے میں نے اپنے پہننے کے لئے بنائے ہیں، وہ کپڑے زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب: ... جو رقم کسی کو قرض دے رکھی ہو اس کی زکوٰۃ ہر سال ادا کرنا ضروری ہے، خواہ رقم کی واپسی سے پہلے ہر سال دیتے رہیں یا رقم وصول ہونے کے بعد گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ یکمشت ادا کریں۔<sup>(۴)</sup> کپڑوں کی قیمت لگا کر ان کو زکوٰۃ میں دے

(۱) الزکوٰۃ واجبة علی الحر العاقل البالغ إذا ملک نصاباً ملکاً تاماً وحال علیہ الحول۔ (ج: ۱ ص: ۱۸۵، کتاب الزکوٰۃ، ہدایۃ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا زکوٰۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول۔ رواہ ابن ماجہ عن عائشۃ۔ (ہدایۃ، کتاب الزکوٰۃ ج: ۱ ص: ۱۸۵)۔

(۲) وأما أخذاً ظلماً زماناً من الصدقات والعشر والخراج والجبايات والمصادرات فالأصح أنه يسقط جميع ذلك عن أرباب الأموال إذا نورا عند الدفع التصديق عليهم كذا في التتارخانية في الفصل الثامن من الزکوٰۃ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰، الباب السابع فی المصارف)۔

(۳) وإن كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصاباً... الخ۔ (ہدایۃ ج: ۱ ص: ۱۸۶، کتاب الزکاۃ)۔

(۴) الديون علی ثلاث مراتب: قوی كالقرض وبدل مال التجارة وفيهما الزکوٰۃ وانما يخاطب بالأداء إذا قبض أربعين منها... الخ۔ (خلاصۃ الفتاوى ج: ۱ ص: ۲۳۸، وأيضاً فی الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۰۵، مطلب فی وجوب الزکاۃ فی دين المرصد)۔

سکتے ہیں،<sup>(۱)</sup> لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ کپڑے لائق استعمال نہ رہنے کی وجہ سے آپ کے دل سے اتر گئے ہوں اور آپ سوچیں کہ چلو ان کو زکوٰۃ ہی میں دے ڈالو۔<sup>(۲)</sup>

## ٹیکسی کے ذریعہ کرایہ کی کمائی پر زکوٰۃ ہے، ٹیکسی پر نہیں

سوال: ... ایک شخص کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے، اس سے وہ ایک ٹیکسی خریدتا ہے، ایک سال بعد چالیس ہزار روپیہ کمائی ہوگئی، اب زکوٰۃ کتنی رقم پردے؟

جواب: ... اگر گاڑی فروخت کی نیت سے نہیں خریدی، بلکہ کمائی کے لئے خریدی ہے تو سال کے بعد صرف چالیس ہزار کی زکوٰۃ دیں گے، گاڑی کمانے کا ذریعہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔<sup>(۳)</sup>

اور اگر اس شخص کے پاس گاڑی کی کمائی کے علاوہ کچھ روپیہ پیسہ یا زیور نہ ہو تو اس کی زکوٰۃ کا سال اس دن سے شروع ہوگا جس دن گاڑی کی کمائی ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ گئی تھی۔<sup>(۴)</sup>

سوال: ... ایک ٹیکسی ہم نے ۴۸ ہزار کی لی تھی، مالک کو قسطوں کے ذریعہ ہم روپے دے چکے ہیں، پھر یہ ٹیکسی ہم نے ۵۵ ہزار روپے میں فروخت کر دی، جس میں ہم نے دس ہزار روپے نقد لئے اور ڈیڑھ ہزار روپے قسط ہم ان سے لے رہے ہیں، تقریباً ۳۲ ہزار روپے ہم وصول کر چکے ہیں اور ۱۳ ہزار روپے باقی ہیں۔ اس پہلے والی ٹیکسی کو فروخت کر کے ویسی ہی دوسری ٹیکسی اٹھانے کے ہزار پانچ سو (۹۸۵۰۰) روپے کی ادھار لی، تین ہزار روپے قسط واردیتے ہیں، ڈیڑھ ہزار روپے پہلے والی ٹیکسی کے اور ڈیڑھ ہزار اس نئی ٹیکسی پر کماتے ہیں اور قسط دیتے ہیں، اس ٹیکسی کے ۷۰ ہزار روپے کا حساب یعنی زکوٰۃ ہم کس طرح ادا کریں اور یہ کہ کتنے روپے ہمیں زکوٰۃ کے دینے ہوں گے؟

جواب: ... ان گاڑیوں سے جو منافع حاصل ہو جائے اور حد نصاب تک پہنچ جائے، تو سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ

(۱) المال الذی تجب فیہ الزکوٰۃ ان ادى زکوٰۃ من خلاف جنسہ ادى قدر قيمة الواجب اجماعاً۔ (عالمگیری ج: ۱

ص: ۱۸۰، کتاب الزکاة، الباب الثالث فی زکاة الذهب، الفصل الثانی فی العروض)۔

(۲) ”لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ“ (آل عمران: ۹۲)۔

(۳) وأصل هذا أنه ليس على التاجر زکوٰۃ فی مسکنه وخدمه ومركبه وكسوته..... أو متاع لم ينوبه التجارة... الخ۔

(خلاصة الفتاوى، الفصل الخامس فی زکوٰۃ المال ج: ۱ ص: ۲۳۷)۔ وليس فی دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنزل

ودواب الركوب وعبید الخدمة وسلاح الإستعمال زکوٰۃ لأنها مشغول بالحاجة الأصلية والحاجة الأصلية ما يدفع الهلاك

عن الإنسان تحقيقاً أو تقديرًا۔ (البنایة فی شرح الهدایة ج: ۴ ص: ۱۹، کتاب الزکاة)۔

(۴) وتعتبر القيمة عند حولان الحول بعد أن تكون قيمتها فی ابتداء الحول مائتي درهم من الدراهم الغالب عليها الفضة۔

(فتاوى عالمگیری، کتاب الزکوٰۃ ج: ۱ ص: ۱۷۹، الباب الثالث فی زکاة الذهب، الفصل الثانی فی العروض)۔

آئے گی،<sup>(۱)</sup> صرف گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ حصول نفع کے آلات ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں آتی۔<sup>(۲)</sup> لیکن یہ خیال رہے کہ بعض لوگ گاڑی اسی نیت سے خریدتے ہیں کہ جو نہی اس کے اچھے دام ملیں گے اس کو فروخت کر دیں گے، اور یہ ان کا گویا باقاعدہ کاروبار ہے، ایسی گاڑی درحقیقت مال تجارت ہے، اور اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے۔<sup>(۳)</sup>

(۱) لأبَد من ملك مقدار النصاب لأنه صلى الله عليه وسلم قدر السبب به ولأبَد من الحول لأنه لأبَد من مدة يتحقق فيها النماء وقدرها الشارع بالحول لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكوة في مال حتى يحال عليه الحول. (الهداية مع شرحه البنائة ج: ۳ ص: ۸).

(۲) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳ ملاحظہ ہو۔

(۳) وما اشتراه لها أى للتجارة كان لها لمقارنة النية لعقد التجارة... إلخ. لأن الشرط في التجارة مقارنتها لعقدها وهو كسب المال بالمال بعقد شراء... إلخ. (شامی ج: ۲ ص: ۲۷۲، کتاب الزکاة).

## زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ

### یک مشت کسی ایک کو زکوٰۃ بقدر نصاب دینا

سوال: ... ایک مسئلہ آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں زکوٰۃ کسی ایک شخص کو دے دیتا ہوں، اور اس کی رقم تقریباً ہزاروں روپے ہوتی ہے، یہ میں اس وجہ سے کرتا ہوں کہ کسی مستحق کا کوئی کام پورا ہو جائے، کیا ایسی صورت میں یہ زکوٰۃ دینا جائز ہے؟

جواب: ... زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، مگر کسی کو یک مشت اتنی زکوٰۃ دے دینا کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے، مکروہ ہے۔<sup>(۱)</sup>

### ایک شخص کو کتنی زکوٰۃ دی جاسکتی ہے؟

سوال: ... ایک شخص کو زیادہ سے زیادہ کتنی زکوٰۃ دی جاسکتی ہے؟ ساڑھے باون تولے چاندی اور ساڑھے سات تولے سونے کی قیمت میں بہت فرق ہے، چاندی کے حساب سے ۵,۵۰۰ روپے نصاب، اور سونے کے حساب سے ۳۰,۰۰۰ روپے نصاب بنتا ہے، فی زمانہ ۵,۵۰۰ روپے کی کیا حیثیت ہے۔ ایک غریب آدمی صاحب اولاد کو کس طرح رقم دیں؟ کیونکہ اگر دو تین ہزار ایک ساتھ دیں تو بمشکل ایک دو ماہ کا گزارہ ہوگا، اور اگر زیادہ دیں تو وہ صاحب نصاب بن جائے گا۔ نیز گائے یا بھینس کا نصاب ۳۰ مقرر ہے، کیا ایک صاحب نصاب آدمی کے پاس ۵ یا ۶ بھینسیں ہوں تو وہ زکوٰۃ دے گا؟ جس طرح سونے چاندی اور نقدی سب کی کل قیمت ملا کر آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس طرح کسی جگہ اس کا ذکر نہیں آتا سونے اور چاندی کے ساتھ گائے اور بھینس کی قیمت ملا کر نصاب مکمل کیا جائے۔

جواب: ... سونے اور چاندی کی قیمت میں فرق کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ سونے کا نصاب نہ بنے اور چاندی کا نصاب بن جائے، بہر حال اگر چاندی کا نصاب بن جائے تو آدمی صاحب نصاب ہوگا اور زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر اس سے کم ہو تو زکوٰۃ اس کو لینا جائز ہے۔ گائے اور بھینس ہمارے یہاں اتنی نہیں ہوتیں کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہو سکے۔<sup>(۲)</sup>

(۱) وكره إعطاء فقير نصاباً أو أكثر، إلا إذا كان المدفوع إليه مديوناً أو كان صاحب عيال... إلخ. (الدر المختار، باب المصرف ج: ۲ ص: ۳۵۳)، ويكره أن يدفع إلى رجل مائتي درهم فصاعداً وإن دفعه جاز. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۸).  
 (۲) وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۹). الزکوٰۃ واجبة في عروض التجارة كائناً ما كانت أي كائناً أي شيء..... إذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق أو الذهب يقومها صاحبها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما أي النصابين احتياطاً لحق الفقراء، حتى لو وجبت الزکوٰۃ إن قومت بأحدهما دون الآخر قومت بما تجب فيه دون الآخر... إلخ. (اللباب في شرح الكتاب ج: ۱ ص: ۱۲۵، كتاب الزكاة، طبع قديمی).

## مستحق کی اجازت سے اس کی طرف سے حج کی رقم پر زکوٰۃ سے جمع کروادینا

سوال: ... اگر کسی شخص کی طرف سے اس کی اجازت سے بینک میں حج فارم کے ساتھ اس کے نام سے رقم جمع کرادی جائے اور ہماری نیت زکوٰۃ دینے کی ہے، تو کیا یہ طریقہ مناسب ہے؟ کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہوگئی؟

جواب: ... اگر وہ مستحق ہے اور آپ نے اس کے نام رقم جمع کراتے ہوئے اس کو مالک بنا دیا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔<sup>(۱)</sup>

## زکوٰۃ کی رقم سے حج کرانا

سوال: ... زکوٰۃ کی رقم سے کسی ایسے شخص کو جو زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے، حج کرانا جائز ہے؟ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ یہ افضل ہے کیونکہ اس طرح زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے اور کسی کو حج کرانے کا ثواب بھی ملتا ہے۔

جواب: ... اگر وہ مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن اتنی رقم یکمشت دے دینا کہ وہ صاحبِ نصاب بن جائے مگر وہ ہے۔<sup>(۲)</sup>

## صاحبِ مال کے حکم کے بغیر زکوٰۃ ادا کرنا

سوال: ... ایک صاحبِ زکوٰۃ نے اپنی زکوٰۃ کے پیسے کسی کو وکیل نہیں بنایا اور دوسرا وکیل صاحبِ مال کی اجازت کے بغیر ادا کر دے تو ادا ہوگی یا نہیں؟

جواب: ... اگر دوسرا آدمی، صاحبِ مال کے حکم یا اجازت سے اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔<sup>(۳)</sup>

## زکوٰۃ کب ادا کی جائے؟

سوال: ... زکوٰۃ دین کا اہم رکن اور فرض ہے، اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے؟ اور یہ کتنی مدت میں دے دینی چاہئے؟

جواب: ... سال ختم ہونے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کو اول فرصت میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اور سال ختم ہونے سے پہلے اگر آدمی وقتاً فوقتاً دیتا رہے اور سال کے اختتام پر حساب کرے تو بھی ٹھیک ہے۔<sup>(۴)</sup>

(۱) أما تفسیرھا فھي تمليک المال من فقير مسلم غير هاشمی ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملک من کل وجه لله تعالى هذا فی الشرح کذا فی التبيين۔ (فتاویٰ عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۰، کتاب الزکاة، الباب الأول فی تفسیرھا و صفتھا)۔

(۲) ويکره أن يدفع إلى الرجل مائتي درهم فصاعداً وان دفعه جاز۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۸، الباب السابع)۔

(۳) وليس لكل واحد من الشريكين ان يؤدي زکوٰۃ مال الآخر إلا بإذنه۔ (الجوهرة النيرة، کتاب الوکالة ص: ۲۹۲)۔

(۴) وتجب على الفور عند تمام الحول ..... وأما شرط أدائها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۰، کتاب الزکاة، الباب الأول فی تفسیرھا و صفتھا)۔

## مختلف اوقات میں زکوٰۃ کی مد میں ادا شدہ رقم کو منہا کر کے باقی زکوٰۃ ادا کریں

سوال: ... میں نے مختلف اوقات میں تھوڑی تھوڑی رقم زکوٰۃ کی نیت سے دی، مثلاً: کبھی دو سو روپے، کبھی چار سو روپے اور کبھی سو روپے، ماہ رمضان میں حساب کی رو سے میرے ذمے دو ہزار پانچ سو روپے کی زکوٰۃ تھی۔ میں نے پہلے سے ادا کردہ رقم کاٹ کر باقی بچنے والی رقم زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دی، معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟

جواب: ... جتنی زکوٰۃ وقتاً فوقتاً ادا کر چکی ہیں، اس کو منہا کر کے جتنی باقی ہے اتنی زکوٰۃ ادا کر دیں۔<sup>(۱)</sup>

## غلطی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کر دی تو آئندہ سال میں شمار کر سکتا ہے؟

سوال: ... اگر کسی نے دُگنی زکوٰۃ غلطی سے ادا کر دی، یعنی ڈھائی فیصد کے بجائے پانچ فیصد ادا کر دی تو کیا وہ شخص اگلے سال نئی زکوٰۃ کی رقم سے زائد ادا کی زکوٰۃ کی رقم منہا کر سکتا ہے؟

جواب: ... کر سکتا ہے۔<sup>(۲)</sup>

## بغیر بتائے زکوٰۃ دینا

سوال: ... معاشرے میں بہت اصحاب ایسے ہیں جو زکوٰۃ لینا باعثِ شرم سمجھتے ہیں، اگرچہ یہ نظریہ غلط ہے، تو کیا ایسے اصحاب کو بغیر بتائے اس مد میں سے کسی دوسرے طریقے سے ادا کی جاسکتی ہے؟ مثلاً: ان کے بچوں کے کپڑے بنوادیئے جائیں، ان کے بچوں کی تعلیم میں امداد کی جائے، اس صورت میں جبکہ زکوٰۃ دینے والے پر اور رقم ممکن نہ ہو۔

جواب: ... زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، ہدیہ یا تحفہ کے عنوان سے ادا کی جائے اور ادا کرتے وقت نیت زکوٰۃ کی کر لی جائے، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔<sup>(۳)</sup>

سوال: ... کسی دوست احباب کی ہم زکوٰۃ کی رقم سے مدد کریں اور اس کو احساس ہو جانے کی وجہ سے ہم بتائیں نہیں، تو زکوٰۃ ہو جائے گی؟

جواب: ... مستحق کو یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اسے کسی بھی عنوان سے زکوٰۃ دے دی جائے اور نیت زکوٰۃ کی کر لی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔<sup>(۴)</sup>

(۱) وأما شرط أدائها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۰، کتاب الزکاة، الباب الأول).

(۲) وكما يجوز التعجيل بعد ملك نصاب واحد من نصاب واحد يجوز عن نصب كثيرة. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۶).

(۳) وشرط صحة أدائها نية مقارنة له أى للأداء... الخ. وفي شرحه: قوله نية أشار إلى أنه لا إعتبار للتسمية فلو سماها هبة أو قرضاً تجزيه في الأصح. (شامی ج: ۲ ص: ۲۶۸، کتاب الزکاة).

(۴) ایضاً۔

## ادائے زکوٰۃ کی ایک صورت

سوال: ... اگر زکوٰۃ کے روپے ہمارے پاس گھر پر رکھے ہیں، گھر کے باہر اگر کوئی ضرورت مند مل جائے، ہم جیب کے پیسوں میں سے کچھ دے دیں، اور اتنے پیسے ہم گھر آ کر زکوٰۃ کے پیسوں میں سے لے لیں تو زکوٰۃ ہو جائے گی؟

جواب: ... ادا ہو جائے گی۔<sup>(۱)</sup>

## صاحب مال کے حکم کے بغیر، وکیل زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا

سوال: ... ایک صاحب زکوٰۃ نے اپنی زکوٰۃ کے پیسے کسی کو وکیل نہیں بنایا اور دوسرا کوئی صاحب مال کی اجازت کے بغیر ادا کر دے تو ادا ہوگی یا نہیں؟

جواب: ... اگر دوسرا آدمی، صاحب مال کے حکم یا اجازت سے اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی ورنہ نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## زکوٰۃ کی تشہیر

سوال: ... ”جنگ“ میں ایک فوٹو شائع ہوا ہے کہ بیواؤں میں مشینیں تقسیم کر رہے ہیں، زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اس طرح زکوٰۃ کی تشہیر کی جائے؟

جواب: ... فوٹو چھاپنا تو آج کل نمائش اور ریاکاری کا محبوب مشغلہ ہے، جن بیواؤں کو سلامتی مشینیں تقسیم کی گئیں اگر وہ زکوٰۃ کی مستحق تھیں تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ نہیں۔<sup>(۳)</sup> زکوٰۃ کی تشہیر اس نیت سے تو درست ہے کہ اس سے زکوٰۃ دہندگان کو ترغیب ہو، اور ریاکاری اور نمود و نمائش کی غرض سے زکوٰۃ کی تشہیر جائز نہیں،<sup>(۴)</sup> بلکہ اس سے ثواب باطل ہو جاتا ہے۔

## تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دینا

سوال: ... اگر کوئی عورت اپنی کل رقم یا سونا جو اس کے پاس ہے اس پر سالانہ زکوٰۃ نہ نکالتی ہو، بلکہ ہر مہینہ کچھ نہ کچھ کسی

(۱) و شرط صحة أدائها نية مقارنة له. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۶۸، کتاب الزکاة).

(۲) و شرط صحة أدائها نية مقارنة له ..... أو نوى عند الدفع للوكيل ثم دفع الوكيل بلا نية... الخ. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۶۸). رجل أدى زکوٰۃ غیره عن مال ذلك الغير فأجازہ المالك فإن كان المال قائماً في يد الفقير جاز وآلاً فلا. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۱، کتاب الزکاة، الباب الأول في تفسيرها وصفتها).

(۳) إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ ... الآية. (التوبة: ۶۰). أيضاً: أما تفسيرها فهي تملك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى. (فتاویٰ ہندیہ ج: ۱ ص: ۱۷۰).

(۴) إذا أراد الرجل أداء الزکوٰۃ الواجبة قالوا الأفضل الإعلان والإظهار وفي التطوعات الأفضل هو الإخفاء والأسرار. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۱). إذا أراد الرجل أداء الزکوٰۃ فالأفضل هو الإظهار وفي التطوع الإخفاء. (خلاصة الفتاوى، کتاب الزکاة، الفصل الثامن في أداء الزکوٰۃ ج: ۱ ص: ۲۴۱، طبع رشیدیہ کوئٹہ).

ضرورت مند کو دے دیتی ہو، کبھی نقد رقم، کبھی اناج وغیرہ اور وہ اس کا حساب بھی اپنے پاس نہ رکھتی ہو تو اس کا ایسا کرنا زکوٰۃ دینے میں شمار ہوگا یا نہیں؟

جواب: ... زکوٰۃ کی نیت سے جو کچھ دیتی ہے اتنی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔<sup>(۱)</sup> لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس کی زکوٰۃ پوری ہوگئی یا نہیں؟ اس لئے حساب کر کے جتنی زکوٰۃ نکلتی ہو وہ ادا کرنی چاہئے، البتہ یہ اختیار ہے کہ اکٹھی دے دی جائے یا تھوڑی تھوڑی کر کے سال بھر میں ادا کر دی جائے، مگر حساب رکھنا چاہئے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے، جو چیز زکوٰۃ کی نیت سے نہ دی جائے اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ اگر زکوٰۃ کی نیت کر کے کچھ رقم الگ رکھ لی، اور پھر اس میں سے وقتاً فوقتاً دیتے رہے، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔<sup>(۲)</sup>

سوال: ... اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ سال کے آخر میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے ہر ماہ کچھ رقم زکوٰۃ کے طور پر نکالتا رہے تو کیا یہ عمل درست ہے؟ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس طرح صدقہ نکالنا چاہئے۔

جواب: ... ہر مہینے تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ نکالتے رہنا درست ہے۔<sup>(۳)</sup>

سوال: ... عرض ہے کہ میرا وسیع کاروبار ہے، لیکن میں جو سالانہ زکوٰۃ حساب کر کے آہستہ آہستہ مختلف مدارس یا غرباء میں تقریباً آٹھ نو مہینوں میں زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ زکوٰۃ رمضان کے ماہ میں پوری پوری ادا کر دینی چاہئے۔ برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل بتائیں کہ زکوٰۃ کی رقم کس ماہ میں یا پھر آہستہ آہستہ دے دیں تو کوئی حرج تو نہیں؟ تفصیل کے ساتھ لکھیں۔

جواب: ... آپ جب سے صاحبِ نصاب ہوئے اس تاریخ (قمری تاریخ مراد ہے) کے آنے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے،<sup>(۴)</sup> خواہ وہ رمضان ہو یا محرم۔ بہتر تو یہی ہے کہ حساب کر کے زکوٰۃ کی رقم الگ کر لی جائے، لیکن اگر تھوڑی تھوڑی کر کے سال بھر میں ادا کی جائے تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور جب سال شروع ہو اسی وقت سے تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ پیشگی ادا کرتے رہیں، تو یہ بھی

(۱) و شرط صحة أدائها نية مقارنة له أى للأداء ولو ..... حکماً ..... أو مقارنة بعزل ما وجب كله أو بعضه ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء۔ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۷۰، کتاب الزکاة)۔

(۲) وأما شرط أدائها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب، فإذا نوى أن يؤدي الزکوة ولم يعزل شيئاً فجعل يتصدق شيئاً فشيئاً إلى آخر السنة ولم تحضره النية لم يجز عن الزکوة كذا في التبيين۔ إذا كان في وقت التصديق بحال لو سئل عما إذا تؤدي يمكنه أن يجيب من غير فكرة فذلك يكون نية منه ولو قال ما تصدقت إلى آخر السنة فقد نويت عن الزکوة لم يجز كذا في السراجية۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۱، کتاب الزکاة، الباب الأول في تفسيرها و صفتها)۔

(۳) ایضاً۔

(۴) والمراد بكونه حولياً ان يتم الحول عليه وهو في ملكه ..... وفي الفنية العبرة في الزکوة للحول القمري۔ (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۱۹، کتاب الزکاة، طبع دار المعرفة، بيروت)۔



دُرست ہے۔<sup>(۱)</sup> تاکہ سال کے ختم ہونے پر زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ بہر حال جتنی مقدار زکوٰۃ کی واجب ہو اس کا ادا ہو جانا ضروری ہے۔

سوال: ... اگر کوئی زکوٰۃ مہینہ وار قسطوں میں ادا کرنا چاہتا ہے تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، فرض کریں وہ پچھلی زکوٰۃ ادا کر چکا ہے، اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ ۱: پہلی صورت میں وہ ایک سال گزرنے کے بعد حساب لگائے کہ اس پر کتنی زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، اور اس رقم کو مہینہ وار قسطوں میں ادا کرنا شروع کر دے، لیکن اگر اس دوران وہ مر گیا تو زکوٰۃ کا بوجھ اس پر رہ جائے گا۔ ۲: دوسری صورت میں وہ حساب لگائے کہ سال کے آخر تک اس پر کتنی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور قسط وار ادا کرنا شروع کر دے جو کمی بیشی ہو وہ آخر مہینے میں برابر کرے، ایسی صورت میں جب وہ مرے گا تو اس پر زکوٰۃ کا بوجھ نہیں ہوگا، لیکن کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟

جواب: ... پیشگی زکوٰۃ دینا صحیح ہے، اس لئے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔<sup>(۲)</sup>

سوال: ... میں نے رمضان کے مہینے میں جتنی زکوٰۃ نکلتی تھی، وہ رقم الگ کر کے رکھ دی، اب ایک دو گھروں کو جن کو میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں ان کو ہر مہینے اس میں سے نکال کر دے دیتا ہوں، کیونکہ اگر ایک ساتھ دے دیئے جائیں تو یہ لوگ خرچ کر دیتے ہیں اور پھر پریشان رہتے ہیں۔ آپ شرعی نقطہ نظر سے بتا دیجئے کہ میرا یہ فعل دُرست ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں ایڈوانس زکوٰۃ دینے کے متعلق بھی بتادیں تو عنایت ہوگی۔

جواب: ... آپ کا یہ فعل دُرست ہے کہ زکوٰۃ کی رقم نکال کر الگ رکھے، اور حسبِ موقع نکالتا رہے۔<sup>(۳)</sup> اور جو شخص صاحبِ نصاب ہو اگر وہ سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دے یا کئی سال کی پیشگی زکوٰۃ ادا کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔<sup>(۴)</sup>

## مجوزہ پیشگی زکوٰۃ کی رقم سے قرض دینا

سوال: ... میں ہر مہینے زکوٰۃ کے روپے نکالتی ہوں، اور رمضان شریف میں دے دیتی ہوں، اگر کوئی عام دنوں میں مجھ سے یہ روپے قرض مانگے تو کیا میں دے سکتی ہوں؟

جواب: ... جب تک وہ رقم آپ کے پاس ہے، آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کا جو چاہیں کر سکتی ہیں۔<sup>(۵)</sup>

(۱) ولو عجل ذو نصاب زکوٰۃ لسنین أو نصب صح لوجود السبب (درمختار) قوله وكذا لو عجل ..... وهي التعجيل لسنة أو لسنين لأنه إذا ملك نصاباً وأخرج زکوٰۃ قبل أن يحول الحول كان ذلك تعجيلاً بعد وجود السبب... الخ. (شامی ج: ۲ ص: ۲۹۳، ایضاً خلاصۃ الفتاویٰ ج: ۱ ص: ۲۴۱).

(۲) ایضاً حوالہ بالا۔

(۳) صفحہ: ۱۲۷ کا حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ ہو۔

(۴) ایضاً حاشیہ نمبر ۱ دیکھیں۔

(۵) ولا يخرج المزكى عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء. (درمختار ج: ۲ ص: ۲۷۰، کتاب الزکاۃ، وفي البحر ج: ۲ ص: ۳۶۸ طبع رشیدیہ).

## گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ

سوال: ... ایک شخص پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کچھ عرصے کے بعد وہ خدا کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے، اور آئندہ زکوٰۃ ادا کرنے کا اپنے خدا سے وعدہ کرتا ہے، پچھلی زکوٰۃ کے بارے میں اس پر کیا حکم ہے؟ کیا وہ پچھلی زکوٰۃ بھی ادا کرے؟ مثلاً: دس سال تک زکوٰۃ ادا نہیں کی جبکہ اس کے پاس ذاتی مکان بھی نہیں ہے، اور تنخواہ بھی صرف گزارے کی ہو، ایسے شخص کے لئے زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب: ... نماز، زکوٰۃ، روزہ سب کا ایک ہی حکم ہے، اگر کوئی شخص غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے ان فرائض کو چھوڑتا رہا تو صرف توبہ، استغفار سے یہ فرائض معاف نہیں ہوں گے، بلکہ حساب کر کے جتنے سالوں کی نمازیں اس کے ذمہ ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرنا شروع کر دے، مثلاً: ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لیا کرے، بلکہ نفلوں کی جگہ بھی قضا نمازیں پڑھا کرے، یہاں تک کہ گزشتہ سالوں کی ساری نمازیں پوری ہو جائیں، اسی طرح زکوٰۃ کا حساب کر کے وقتاً فوقتاً ادا کرتا رہے، یہاں تک کہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ پوری ہو جائے، اسی طرح روزے کا حکم سمجھ لیا جائے، الغرض ان قضا شدہ فرائض کا ادا کرنا بھی ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ ادا فرض کا۔<sup>(۱)</sup>

## گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟

سوال: ... میری شادی تیرہ سال پہلے ہوئی تھی، اس پر میں نے اپنی بیوی کو چھ تولہ سونا اور بیس تولہ چاندی تحفے کے طور پر دی تھی۔ الف: اس مالیت پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ ب: دو سال بعد اس مالیت میں سونا ایک تولہ کم ہو گیا، یعنی بعد میں ۵ تولہ سونا اور ۲۰ تولہ چاندی رہ گئی ہے، اس کو تقریباً گیارہ سال ہو گئے ہیں، جس کی کوئی زکوٰۃ نہیں دی گئی، اب اس کی کتنی زکوٰۃ دیں حساب کر کے بتائیں، اگر سونا دیں تو کتنا دینا ہے؟

سوال: ... میری بہن کے پاس ۹ تولہ سونا ہے اور ۲۰ تولہ چاندی ہے، اور یہ سترہ سال سے ہے، آپ بتائیں کہ اس کو اب کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟

جواب: ... دونوں مسئلوں کا ایک ہی جواب ہے، آپ کی بیوی اور آپ کی بہن کی ملکیت میں جس تاریخ کو سونا اور چاندی

(۱) باب قضاء الفوائت (القضاء لغة الأحكام) ..... الأولى ان يقول (اسقاط الحكم الواجب بمثل ما عنده) اعلم ان القضاء واجب بالسبب الذي وجب به الأداء فكل من الأداء والقضاء تسليم عين الواجب إلا ان الأداء تسليم عن الواجب في وقته والقضاء تسليم عين الواجب بعد خروج الوقت وهذا هو الراجح ..... والتأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة ..... وأفاد بذكره الترتيب في الفوائت والوقفية لزوم القضاء وهو ما عليه الجمهور - (حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح، باب قضاء الفوائت ص: ۲۳۹ طبع مير محمد كتب خانہ، وأيضاً تيسير الوصول إلى علم الأصول ص: ۳۰)۔

آئے، ہر سال اس قمری تاریخ کو ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی رہی،<sup>(۱)</sup> جو انہوں نے ادا نہیں کی، اس لئے تمام گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ان کے ذمہ لازم ہے۔<sup>(۲)</sup>

گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سال سونے اور چاندی کی جو مقدار تھی اس کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں دیا جائے، پھر دوسرے سال اس چالیسویں حصے کی مقدار منہا کر کے باقی ماندہ کا چالیسواں حصہ نکالا جائے، اسی طرح سترہ سال کا حساب لگایا جائے، اور ان باقی تمام سالوں کی زکوٰۃ کا مجموعہ جتنی مقدار سونے اور چاندی کی بنے وہ زکوٰۃ میں ادا کر دی جائے۔<sup>(۳)</sup> آپ کی بہن کے پاس سترہ سال پہلے ۹ تولے سونا اور ۲۰ تولے چاندی تھی۔ میں نے سترہ سال کی زکوٰۃ کا حساب لگایا تو سونے کی زکوٰۃ کی مجموعی مقدار ۷۳۶ گرام بنی، اور چاندی کی زکوٰۃ کی مجموعی مقدار ۶۰۱۸۱ گرام بنی، لہذا ۹ تولے سونے اور ۲۰ تولے چاندی کی زکوٰۃ میں مندرجہ بالا مقدار کا ادا کرنا آپ کی بہن کے ذمہ لازم ہے، اور آپ کی بیوی کے ذمہ گیارہ سال کی زکوٰۃ میں ۷۹۵،۱۳ گرام سونا اور ۵۰۹،۲۵ گرام چاندی کا ادا کرنا لازم ہے۔

### دکان کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے؟

سوال: ... میں ایک دکان کا مالک ہوں، جو کہ آج سے تقریباً چار سال قبل ۲۰ ہزار روپے میں خریدی تھی، اور تقریباً ایک سال قبل میں نے اس میں ۵۰ ہزار روپے کا سامان خرید کر بھرا تھا، جس میں سے تقریباً ۲۰ ہزار روپے کا سامان قرض لیا تھا جو اب میں نے ادا کر دیا ہے، اس دکان سے مجھ کو جو آمدنی ہوتی ہے، میں وہ پوری دکان میں ہی لگا دیتا ہوں، مارکیٹ کے حساب سے میری دکان کی قیمت ایک لاکھ روپے سے زیادہ ہے، اور اس میں جو سامان ہے اس کی قیمت بھی ۶۰ یا ۶۵ ہزار روپے بنتی ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، آپ سے سوال یہ ہے کہ میں اس پر زکوٰۃ کس حساب سے ادا کروں؟ دکان کی آمدنی سے میں کچھ خرچ نہیں کرتا۔

جواب: ... دکان میں جتنی مالیت کا سامان ہے اس کی قیمت لگا کر، آپ کے ذمہ اگر کچھ قرض ہو اس کو منہا کر دیا جائے، اور باقی جتنی رقم بچے اس کا چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں ادا کر دیا کریں، دکان کی عمارت، بارदानہ اور فرنیچر وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں، صرف قابل فروخت مال پر زکوٰۃ ہے۔<sup>(۴)</sup>

(۱) و شرطه أى شرط الفراض أدائها حولان الحول وهو فى ملكه و ثمنية المال كالدراهم والدنانير لتعيينهما للتجارة باصل الخلقة فتلزم الزكوة كيفما أمسكهما... إلخ. (الدر المختار مع الشامى ج: ۲ ص: ۲۶۷).

(۲) ..... وفى القنية العبرة فى الزكاة للحول القمري. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۱۹، كتاب الزكاة).

(۳) وذكر فى المنتقى: رجل له ثلث مائة درهم دين حال عليها ثلاثة أحوال فقبض مائتين، فعند أبى حنيفة يزكى للسنة الأولى خمسة وللثانية والثالثة أربعة أربعة من مائة وستين... إلخ. (فتاوى شامى ج: ۲ ص: ۳۰۵، كتاب الزكاة).

(۴) الزكوة واجبة فى عروض التجارة كائنة ما كانت أى كائنة أى شىء يعنى من جنس ما تجب فيه الزكوة كالسوانم أو غيرها كالثياب إذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق أو الذهب... إلخ. (اللباب فى شرح الكتاب ج: ۱ ص: ۱۳۵، كتاب الزكاة). وإن كان حاله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصاباً بالفراغ عن الحاجة الأصلية والمراد به دين له مطالب من جهة العباد. (الهداية مع شرح البناية ج: ۳ ص: ۱۷، ۱۷۰).

## استعمال شدہ چیز زکوٰۃ کے طور پر دینا

سوال: ... ایک شخص ایک چیز چھ ماہ استعمال کرتا ہے، چھ ماہ استعمال کے بعد وہی چیز اپنے دل میں زکوٰۃ کی نیت کر کے آدھی قیمت پر بغیر بتائے مستحق زکوٰۃ کو دے دیتا ہے، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟

جواب: ... اگر بازار میں فروخت کی جائے اور اتنی قیمت مل جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔<sup>(۱)</sup>

## نہ فروخت ہونے والی چیز زکوٰۃ میں دینا

سوال: ... ایک دکان دار سے ایک چیز نہیں بکتی، وہ چیز زکوٰۃ میں دی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اور قبول ہوگی یا نہیں؟

جواب: ... ردی چیز زکوٰۃ میں دینا اخلاص کے خلاف ہے، تاہم اس چیز کی جتنی مالیت بازار میں ہو، اس کے دینے سے اتنی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔<sup>(۲)</sup>

## اشیاء کی شکل میں زکوٰۃ کی ادائیگی

سوال: ... کیا زکوٰۃ کی رقم مستحقین کو اشیاء کی شکل میں بھی دی جاسکتی ہے؟

جواب: ... دی جاسکتی ہے،<sup>(۳)</sup> لیکن اس میں یہ احتیاط ملحوظ رہے کہ ردی قسم کی چیزیں زکوٰۃ میں نہ دی جائیں۔

## زکوٰۃ کی رقم سے مستحقین کے لئے کاروبار کرنا

سوال: ... زکوٰۃ کی امداد کی تقسیم کے بارے میں ایک نظریہ یہ سامنے آیا ہے کہ یہ رقم مستحقین کو دینے کے بجائے اس سے مستحقین کے حق میں کسی ذمہ دار فرد کی نگرانی میں صنعتی نوعیت کا کوئی کاروبار کر دیا جائے تاکہ اس سے منافع حاصل ہو اور غرباء کو روزگار بھی فراہم کر کے مستحقین کو جلد یا بدیرا نہیں صاحب نصاب لوگوں کے برابر لاکھڑا کیا جائے۔ جبکہ میں نے ایک دینی اور دنیوی دونوں علوم میں کافی دسترس رکھنے والے گوشہ نشین بزرگ سے یہ سنا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مخیر افراد سے مستحقین کو براہ راست ملنی چاہئے، کسی تیسرے فرد کو ان دونوں کے درمیان نہ تو حائل ہونے کی اجازت ہے اور نہ اس رقم کو مستحق آدمی کے پاس پہنچنے سے پہلے اس سے کسی قسم کا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا اختیار ہے، خواہ وہ مستحقین کے حق میں ہی کیوں نہ ہو؟ ان دونوں نظریوں کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں ضروری وضاحت فرمائیں۔

جواب: ... اس بزرگ کی یہ بات صحیح ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کا جب تک کسی فقیر محتاج کو مالک نہیں بنا دیا جائے گا، زکوٰۃ ادا

(۱) المال الذی تجب فیہ الزکوٰۃ ان ادى زکوٰۃ من خلاف جنسه ادى قدر قيمة الواجب اجماعاً. (فتاویٰ عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۰، الباب الثالث فی زکاة الذهب والفضة، الفصل الثانی فی العروض، کتاب الزکاة).

(۲) ایضاً حوالہ بالا۔

(۳) المال الذی تجب فیہ الزکوٰۃ ان ادى زکوٰۃ من خلاف جنسه ادى قدر قيمة الواجب اجماعاً. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۰). لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. (آل عمران: ۹۱).

نہیں ہوگی،<sup>(۱)</sup> ان کو اس کا مالک بنادینے کے بعد اگر ان کی اجازت سے و توکیل سے ایسا کوئی انتظام کیا جائے جو آپ نے لکھا ہے، تو درست ہے۔

### زکوٰۃ کی رقم سے غرباء کے لئے صنعت لگانا

سوال: کیا زکوٰۃ کی رقم سے مل اور صنعتی کارخانے لگائے جاسکتے ہیں؟ تاکہ غرباء و نادار مستحقین زکوٰۃ کو بہترین اور مستقل طور پر مدد کی جاسکے۔

جواب: زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے فقیر کو مالک بنانا شرط ہے۔<sup>(۲)</sup> صنعتی کارخانے لگانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔<sup>(۳)</sup> ہاں! اگر کارخانہ لگا کر ایک فقیر کو یا چند فقراء کو آپ اس کا مالک بنادیتے ہیں، جتنی مالیت کا وہ کارخانہ ہے اتنی مالیت کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔

### قرض دی ہوئی رقم میں زکوٰۃ کی نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی

سوال: ہم نے کسی غریب اور پریشان حال و ضرورت مند کی مالی مدد کی، اس نے ادھار رقم مانگی تھی، اس کی خستہ حالی کے پیش نظر ہم نے مالی اعانت کی، اب وہ مقررہ میعاد میں قرض لی ہوئی رقم کو آج تک واپس نہیں کر سکا، نہ ہی صورت دکھائی، اب کیا ہم اس کو قرض دی ہوئی رقم کو زکوٰۃ کی نیت کر کے چھوڑ دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جبکہ ہم نے اسے رقم ادھار دی تھی، تو زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، نہ ہی یہ خیال تھا کہ وہ رقم ہم کو واپس نہیں کرے گا اور ہضم کر جائے گا۔

جواب: جو صورت آپ نے لکھی ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کرنا شرط ہے۔<sup>(۴)</sup>

### مستحق شخص کو زکوٰۃ دے کر کہنا کہ وہ کسی کو حج کروادے

سوال: کسی بھی مستحق شخص کو زکوٰۃ دی گئی اور اس کو کہا گیا کہ تم کسی کو حج کرا دینا، تو کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہوگئی؟

جواب: جس مستحق کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ اس کا مالک ہے، آپ کو یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ وہ کسی کو حج

کرائے؟<sup>(۵)</sup>

(۱) أما تفسیرھا فھي تمليک المال من فقير مسلم غير هاشمی ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملک من کل وجه لله تعالى هذا فی الشرع، کذا فی التبيين۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۰، کتاب الزکاة، الباب الأول فی تفسیرھا و صفتھا)۔

(۲) ایضاً حوالہ بالا۔

(۳) ولا يجوز أن یسني بالزکوة المسجد وكذا القناطر والسقايات واصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل مالا تمليک فيه۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۸، الباب السابع فی المصارف)۔

(۴) وأما شرائط أدانها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب هكذا فی الكنز۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۰)۔ وفي الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۷۰: وشرط صحة أدانها نية مقارنة له أى للأداء ولو ..... حکماً ..... أو مقارنة بعزل ما وجب كله أو بعضه ولا یخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقير۔ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۷۰، کتاب الزکاة)۔

(۵) کتاب الزکوة ..... ہی تمليک جزء مال عينه الشارع وهو ربع عشر نصاب حولی ..... من مسلم فقير غير هاشمی ولا مولاه ..... مع قطع المنفعة عن المملک من کل وجه ..... لله تعالى۔ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۵۶-۲۵۸)۔

## گھر والوں کو پسند نہ آنے والا نیا کپڑا زکوٰۃ میں دینا

سوال: ... ایک کپڑا گھر والوں کے لئے خریدا گیا، لیکن وہ گھر والوں کو پسند نہیں آیا، اور دکان دار بھی واپس نہیں کرتا، اس کپڑے کو رکھ دیا گیا اور سوچا گیا کہ اسے زکوٰۃ کے طور پر دے دیں گے، آیا وہ کپڑا زکوٰۃ کے طور پر دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟

جواب: ... جو کپڑا گھر والوں کو پسند نہیں آیا، کیا اس میں کوئی نقص تھا؟ بہر حال کچھ قیمت کم کر کے اس کو زکوٰۃ میں دینا جائز ہے۔

## زکوٰۃ اسکول کے بچوں پر خرچ کرنا

سوال: ... ہماری جماعت اپنی برادری کی فلاح و بہبود کے لئے ممبران سے زکوٰۃ جمع کرتی ہے، تاکہ حق داروں میں تقسیم کی جاسکے، اس سلسلے میں کچھ سوالات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، جو اختلاف کا سبب بھی بنتے ہیں۔

کیا زکوٰۃ کی رقم اسکول کے بچوں کی تعلیم ان کی کتابوں، یونیفارم اور بس کے کرائے کے لئے استعمال کی جاسکتی ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دنیاوی تعلیم کے لئے زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جاسکتی، جبکہ چند لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، اور چین میں چونکہ اسلام، اسلامی حکومت نہ تھی، لہذا علم کے حوالے سے چین کا سفر دنیاوی علم حاصل کرنے کے لئے ہی ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ غزوہ بدر کے بعد قیدیوں کو رقم لے کر چھوڑ دیا گیا تھا جبکہ وہ کافر قیدی جو تعلیم یافتہ تھے انہیں پابند کیا گیا کہ وہ مدینے کے دس بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کریں۔ اب مدینہ منورہ میں دینی علم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بہتر کون دے سکتا تھا! یہ کافر قیدی یقیناً مدینے کے نو مسلم لوگوں کے بچوں کو دنیاوی علم ہی سے آراستہ کرنے پر مامور ہوں گے۔

جواب: ... زکوٰۃ کی رقم کا کسی مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے، اسکول کے بچے جو مسلمان ہوں اور مستحق زکوٰۃ بھی ہوں، ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔<sup>(۱)</sup> یہ الگ بحث ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف اچھے سے اچھا تلاش کرنا چاہئے۔

یہ حدیث کہ علم حاصل کرو خواہ چین میں ہو، صحیح نہیں۔ علم حدیث کے ماہرین نے اس کو موضوع اور من گھڑت کہا ہے۔<sup>(۲)</sup>

کافر قیدیوں سے یہ شرط کرنا کہ وہ صحابہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، اس سے آج کل کی اسکول اور کالجی تعلیم کا ذکر کیسے نکل آیا؟ جو ۹۹ فیصد بچوں کو بے دین بناتی ہے۔ اور یہ بچے نہ نماز کے رہتے ہیں، نہ دین کے۔ دنیاوی علم حاصل کرنا جائز بلکہ ضروری ہے، مگر شرط یہ ہے کہ پڑھنے والے بچوں کا دین برباد نہ ہو۔ جو تعلیم مسلمان بچوں کو دین سے بے بہرہ کرے، جائز نہیں، بلکہ حرام ہے

(۱) کتاب الزکوٰۃ: أما تفسیرھا فھي تملیک المال من فقیر مسلم غیر ہاشمی ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملک

عن کل وجه لله تعالیٰ هذا فی الشرع۔ (فتاویٰ ہندیہ ج: ۱ ص: ۱۷۰، کتاب الزکاۃ، فتاویٰ شامی ج: ۲ ص: ۲۵۷)۔

(۲) اطلبوا العلم ولو بالصین ..... قال ابن حبان: باطل لا أصل له ... الخ۔ (اللآلی المصنوعۃ فی الأحادیث الموضوعۃ

ج: ۱ ص: ۱۹۳، طبع دار الفکر بیروت)۔

اور اس کی اعانت کرنے والے فعل حرام کے مرتکب ہیں۔<sup>(۱)</sup>

کسی غریب بچی کی شادی کے لئے زکوٰۃ کی رقم سے دو تو لے یا اس سے کم سونا خرید کر دینا

سوال: کیا زکوٰۃ کی رقم سے کسی نہایت غریب رشتہ دار بچی کے لئے دو تو لے یا اس سے کم سونا خرید کر شادی کے لئے دیا جاسکتا ہے؟ اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟

جواب: اگر وہ بچی صاحب نصاب نہیں (یعنی پہلے سے اس کے پاس زیور یا نقدی کی شکل میں اتنا سرمایہ نہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہو) تو بچی کو زکوٰۃ کی رقم سے زیور بنا دینا صحیح ہے۔<sup>(۲)</sup>

زکوٰۃ کی رقم سے جہیز خرید کر دینا

سوال: میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری نند کی پانچ بیٹیاں ہیں، اور دو بیٹے ہیں۔ ایک بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، دوسری بیٹی کی شادی گزشتہ مہینے انجام پائی ہے، تین لڑکیاں باقی ہیں۔ لڑکیوں کے والد صاحب گھر میں ان کے کہنے کے مطابق بالکل خرچہ وغیرہ نہیں دیتے، بھائی ملازم پیشہ ہیں، والدہ بھی اکثر بیمار رہتی ہیں۔ سنا ہے کہ بھائی دو ہزار روپے ماہانہ دیتے ہیں۔ آج کل گو مہنگائی میں بیماری میں دو ہزار سے گزارہ مشکل ہے۔ لڑکیوں کی شادی میں جہیز وغیرہ دینے کے لئے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، بھائی بہت معمولی قسم کا جہیز دینے کے لائق ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میرے شوہر بھی قرض دار ہیں، ان کی بھی اتنی حیثیت نہیں کہ ان کی مالی مدد کر سکیں۔ میں ٹیوشن پڑھا کر بی سی ڈال کر زکوٰۃ دیتی ہوں، کیونکہ میرے پاس میکے کا ملا ہو از یور ہے، لہذا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس سالانہ زکوٰۃ میں سے ان کی لڑکیوں کے جہیز کے لئے سالانہ کچھ رقم ان کو دے سکتی ہوں کہ نہیں؟ تاکہ وہ جہیز بنا سکیں اپنی لڑکیوں کا۔ کہاں تک جائز ہے؟ مولانا صاحب! رمضان المبارک سے پہلے میرے خط کا جواب دیجئے، میں بہت شکر گزار ہوں گی۔ ویسے ایک بات اور عرض کر دوں کہ پہلی لڑکی کی شادی میں زکوٰۃ میں سے ان کو دو ہزار روپے دے چکی ہوں، میری وہ زکوٰۃ قبول ہوئی کہ نہیں؟ آپ میرے خط کا جواب ضرور دیں۔

جواب: اگر ان لڑکیوں کے پاس اتنا سونا نہ ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو ان کو جہیز کا سامان خرید کر دے سکتی ہیں، یا نقد پیسے دے سکتی ہیں کہ وہ جہیز خرید لیں۔<sup>(۳)</sup>

(۱) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ (المائدة: ۲)۔

(۲) "إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ" الْآيَةُ (التوبة: ۶۰)۔ الْمَصَارِفُ... بِإِلْحَاقِ مِنْهَا الْفَقِيرَ وَهُوَ مَنْ لَهُ أَدْنَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ مَا دُونَ النَّصَابِ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۷، الباب السابع في المصارف)۔

(۳) الْمَصَارِفُ... بِإِلْحَاقِ (مِنْهَا الْفَقِيرَ) وَهُوَ مَنْ لَهُ أَدْنَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ مَا دُونَ النَّصَابِ أَوْ قَدْرَ النَّصَابِ غَيْرِ نَامٍ وَهُوَ مُسْتَفْرَقٌ فِي الْحَاجَةِ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۷، الباب السابع في المصارف)۔

## قرض دی ہوئی رقم پر زکوٰۃ سالانہ دیں، چاہے قرض کی وصولی پر یک مشت

سوال: ... میں نے کچھ رقم ایک دوست کو قرضِ حسنہ کے طور پر دی ہوئی ہے، کیا میں اس پر ہر سال زکوٰۃ دوں یا جب وہ وصول ہو جائے تب دوں؟ واضح ہو کہ رقم کو دیئے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، اور اب اس دوست کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، میرے دو چار دفعہ مانگنے پر بھی اس نے رقم واپس نہیں کی، ٹال دیتا ہے کہ ابھی نہیں ہے، ایک بل پھنسا ہوا ہے جب مل گیا تو فوراً ادا کر دوں گا۔

جواب: ... اس قرض کی رقم پر زکوٰۃ تو آپ کے ذمہ ہر سال واجب ہے، البتہ یہ آپ کو اختیار ہے کہ سہل کے سال ادا کر دیا کریں یا جب وہ قرض وصول ہو تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ وقت پر ادا کریں۔<sup>(۱)</sup>

## مقروض سونے کی زکوٰۃ کس طرح ادا کرے؟

سوال: ... میرے پاس زیور ۹ تولے ہے، اس کی زکوٰۃ کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، زکوٰۃ کتنے تولے پر لاگو ہوتی ہے اور کتنے تولے کے بعد زکوٰۃ دینی پڑتی ہے؟ فرض کرو کہ ۵ تولے پر زکوٰۃ ہے تو مجھے بقایا ۴ تولے کی زکوٰۃ دینی پڑے گی یا ٹول ۹ تولے کی دینی ہوگی؟ میں سرکاری ادارے میں ملازم ہوں اور میں نے کافی قرضہ بھی دینا ہے، اس صورت میں زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے؟ جبکہ میری تنخواہ بھی زیادہ نہیں ہے، مشکل سے گزارہ ہوتا ہے۔

جواب: ... آپ کے ذمہ جو قرض ہے اس کو منہا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس ساڑھے سات تولے سونا باقی رہ جاتا ہے تو آپ پر اس باقی ماندہ کی زکوٰۃ واجب ہے۔<sup>(۲)</sup>

## زکوٰۃ سے ملازم کو تنخواہ دینا جائز نہیں، امداد کے لئے زکوٰۃ دینا جائز ہے

سوال: ... میرے ہاں ایک ملازم ہے جس نے تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ کیا، تو میں نے زکوٰۃ کی نیت سے اضافہ کر دیا، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ تنخواہ میں اضافہ ہوا، اسی کے بدلے میں کام کر رہا ہوں، کیا اس طرح دی ہوئی میری زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟

جواب: ... ملازم کی تنخواہ تو اس کے کام کا معاوضہ ہے، اور جب آپ نے تنخواہ بڑھانے کے نام پر اضافہ کیا تو وہ بھی کام کے معاوضے میں ہوا، اس لئے اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔<sup>(۳)</sup> جو تنخواہ اس کے ساتھ ملے ہو وہ ادا کرنے کے علاوہ اگر اس کو ضرورت مند اور

(۱) ولو كان الدين على مقر ملى أو على معسر أو مفلس ..... فوصل إلى ملكه لزم زکوٰۃ ما مضى۔ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۶۷)۔ وفي خلاصة الفتاوى (ج: ۱ ص: ۲۳۸) الديون على ثلاث مراتب: قوى كالقرض وبدل مال التجارة وفيهما الزکوٰۃ وانما يخاطب بالأداء... الخ۔ (شامی ج: ۲ ص: ۲۰۶، مطلب فى وجوب الزكاة فى دين المرصد)۔

(۲) ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زکوٰۃ ..... وان كان ماله أكثر من دينه زكى الفاضل إذا بلغ نصاباً بالفراغة عن الحاجة۔ (هداية ج: ۱ ص: ۱۸۶، كتاب الزكاة)۔

(۳) ولو نوى الزکوٰۃ بما يدفع المعلم إلى الخليفة ولم يستأجره إن كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان أيضاً أجزاءه وآلافه وكذا ما يدفعه إلى الخدم من الرجال والنساء فى الأعياد وغيرها بنية الزکوٰۃ كذا فى معراج الدراية۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰، كتاب الزكاة، الباب السابع فى المصارف)۔



محتاج سمجھ کر زکوٰۃ دے دی جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔<sup>(۱)</sup>

## ملازم کو ایڈوانس دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ کی نیت درست نہیں

سوال: ... میں نے اپنے ملازم کو کچھ رقم بطور ایڈوانس واپسی کی شرط پر دی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ رقم ادا نہیں کر سکے گا، اگر میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں تو کیا ادا ہو جائے گی؟

جواب: ... زکوٰۃ کی نیت دیتے وقت کرنی ضروری ہے، بعد میں کی ہوئی نیت کافی نہیں، اس لئے آپ رقم کو زکوٰۃ کی مد میں منہا نہیں کر سکتے۔<sup>(۲)</sup> ہاں! یہ کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی نیت سے اس کو اتنی رقم دے کر پھر خواہ اسی وقت اپنا قرض وصول کریں۔<sup>(۳)</sup>

## آئندہ کے مزدوری کے مصارف زکوٰۃ سے منہا کرنا درست نہیں

سوال: ... ایک شخص مکان بنوا رہا ہے، مزدور کام کر رہے ہیں، اس دوران زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے، کیا وہ ان مزدوروں کی اجرت الگ رکھ کر زکوٰۃ نکالے گا؟ یعنی اگر فرض کیا ۵۰ ہزار بننے کا اندازہ ہے، تو ۵۰ ہزار الگ رہنے دے اور اس کی زکوٰۃ نہ نکالے، کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ اگر نوکر ہیں کسی کے تو وہ ان کی تنخواہ انہیں دے کر پھر زکوٰۃ دے۔

جواب: ... جتنا خرچ مکان پر اٹھ چکا ہے، اور اس کے ذمہ مزدوروں کی مزدوری واجب الادا ہو گئی ہے، اس کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر سکتا ہے، لیکن آئندہ جو مصارف انھیں گے یا مزدوری واجب ہوگی اس کو منہا کرنا درست نہیں۔<sup>(۴)</sup>

## زکوٰۃ کی رقم سے مسجد کا جزیئر خریدنا جائز نہیں

سوال: ... ایک آدمی اپنی زکوٰۃ کی رقم سے مسجد کا جزیئر خرید سکتا ہے یا نہیں؟

جواب: ... زکوٰۃ کی رقم سے مسجد کا جزیئر نہیں خریدا جاسکتا،<sup>(۵)</sup> البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غریب آدمی قرض لے کر جزیئر خرید کر مسجد کو دے دے اور زکوٰۃ کی رقم اس کو قرضہ ادا کرنے کے لئے دے دی جائے۔

(۱) ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب وإن كان صحيحاً مكتسباً. (عالمگیری ص: ۱۸۹، فی المصارف).

(۲) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳ ملاحظہ ہو۔

(۳) وحيلة الجواز أن يعطى مديونه الفقير زكوته ثم يأخذها عن دينه اهـ. (درمختار علی الشامیة ج: ۲ ص: ۳۷۱).

(۴) قوله وملک نصاب حولی فارغ عن الدين وحوانجه الأصلية نام ولو تقدیراً)..... والمراد بكونه حولياً أن يتم

الحول عليه وهو فی ملكه لقوله عليه السلام لا زكوة فی مال حتى يحول عليه الحول... إلخ. (البحر الرائق ج: ۲

ص: ۲۱۹). وإذا كان النصاب كاملاً فی طرفی الحول فنقصانه فيما بین ذلك لا يسقط الزكوة لأنه يشق اعتبار الكمال فی

أثنائه اما لا بد منه فی ابتدائه..... وفي انتهائه... إلخ. (هدایة ج: ۱ ص: ۱۹۶).

(۵) ولا يجوز أن يبني بالزكوة المسجد..... وكل ما لا تملك فيه. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۸، كتاب الزكاة،

الباب السابع فی المصارف، طبع رشیدیہ کونہ).

## پیسے نہ ہوں تو زیور بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے

سوال: ... زکوٰۃ دینا صرف بیوی پر فرض ہے، وہ تو کما کر نہیں لاتی، پھر وہ کس طرح زکوٰۃ دے؟ جبکہ شوہر اس کو صرف اتنی ہی رقم دیتا ہے جو گھر کی ضروریات کے لئے ہوتی ہے۔

جواب: ... اگر پیسے نہ ہوں تو زیور فروخت کر کے زکوٰۃ دیا کرے، یا زیور ہی کا چالیسواں حصہ دینا ممکن ہو تو وہ دے دیا کرے۔<sup>(۱)</sup>

سوال: ... زید کی بیوی کے پاس سونے کے زیورات ہیں جس کا وزن نہیں کرایا ہے، کیا اس کی زکوٰۃ بیوی کو دینی ہے یا شوہر کو؟ جبکہ شوہر تمام ضروریات خود پوری کرتا ہے، اور بیوی کو بہت کم رقم جیب خرچ کے لئے دیتا ہے۔ بعض اوقات شوہر کے پاس سال کے آخر میں اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے، شوہر کی آمدنی اسکول کے استاد کی تنخواہ اور ٹیوشن وغیرہ پر ہے، شوہر کی کچھ رقم نفع و نقصان کے کاروبار میں لگی ہوئی ہے، جس پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، کیا پھر بھی سونے کے زیورات پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟

جواب: ... سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ ہے، اگر زید کی بیوی کے پاس اتنا سونا ہے جس کی وہ خود مالک ہے تو زکوٰۃ اس پر فرض ہے، اگر پیسے نہ ہوں تو زیور فروخت کر کے زکوٰۃ دی جائے۔<sup>(۲)</sup>

## بیوی خود زکوٰۃ ادا کرے چاہے زیور بیچنا پڑے

سوال: ... میرے تمام زیورات کی تعداد تقریباً آٹھ تولہ سونا ہے، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس نہ تو قربانی کے لئے اور نہ ہی زکوٰۃ کے لئے کچھ رقم ہے، لہذا میں نے ایک سیٹ اپنی بچی کے نام رکھ چھوڑا ہے، وہ اب زیر استعمال بھی نہیں، اور شوہر زکوٰۃ دینے پر راضی نہیں، اور کہتا ہے تمہارا زیور ہے تم جانو، مگر اس میں میری صرف اتنی ملکیت ہے کہ پہن سکوں تبدیل یا فروخت بھی نہیں کر سکتی، اب بچی والے زیور کی زکوٰۃ کون دے گا؟ بھائی کے دیئے ہوئے ڈھائی ہزار روپے پر زکوٰۃ نکال دیتی ہوں۔

جواب: ... جو زیور آپ نے بچی کی ملک کر دیا ہے، وہ جب تک نابالغ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں۔<sup>(۳)</sup> لیکن اس کی ملکیت کر دینے

(۱) تجب فی کل مائتی درہم خمسة درہم وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروباً كان أو لم يكن... الخ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۸، کتاب الزکاة، الباب الثالث)۔ لأن الواجب الأصلي عندهما هو ربع عشر العين وإنما له ولاية النقل إلى القيمة يوم الأداء۔ (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۲۲، کتاب الزکاة)۔

(۲) لم يختلفوا ان الحلبي إذا كان في ملك الرجل تجب فيه الزكاة، فكذلك إذا كان في ملك المرأة كالدرهم والدنانير، وأيضاً لا يختلف حكم الرجل المرأة فيما يلزمها من الزكاة، فوجب أن لا يختلفا في الحلبي۔ (أحكام القرآن للجصاص ج: ۳ ص: ۱۵۸ باب زكاة الحلبي، طبع قديمي)۔ ايضاً حوالہ بالا۔

(۳) (وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام) أي شرط افتراضها لأنها فريضة محكمة قطعية..... وخرج المجنون والصبي فلا زكاة في مالهما... الخ۔ (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۱۷)۔ وأيضاً فليس الزكاة على صبي ومجنون... الخ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۲، کتاب الزکاة، طبع مکتبه رشيديه كونثه)۔

کے بعد آپ کے لئے اس کا استعمال جائز نہیں<sup>(۱)</sup>۔ باقی زیور اگر نقدی ملا کر حد زکوٰۃ تک پہنچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر نقد روپیہ نہ ہو تو زیور فروخت کر کے زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اگر شوہر آپ کے کہنے پر آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔<sup>(۲)</sup> مگر اس کے ذمہ فرض نہیں۔ فرض آپ کے ذمہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی گنجائش نہ ہو تو اتنا زیور ہی نہ رکھا جائے جس پر زکوٰۃ فرض ہو، یہ جواب تو اس صورت میں ہے کہ یہ زیور آپ کی ملکیت ہو، لیکن آپ نے جو یہ لکھا ہے کہ: ”اس میں میری صرف اتنی ملکیت ہے کہ پہن سکوں، تبدیل یا فروخت بھی نہیں کر سکتی“ اس فقرے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زیور دراصل شوہر کی ملکیت ہے، اور آپ کو صرف پہننے کے لئے دیا گیا ہے، اگر یہی مطلب ہے تو اس زیور کی زکوٰۃ آپ کے شوہر پر فرض ہے، آپ پر نہیں۔

### غریب والدہ نصاب بھرسونے کی زکوٰۃ زیور بیچ کر دے

سوال: ... والدہ صاحبہ کے پاس قابل زکوٰۃ زیور ہے، ان کی اپنی کوئی آمدنی نہیں، بلکہ اولاد پر گزر اوقات ہے، اس صورت میں زکوٰۃ ان کے زیور پر واجب ہے یا نہیں؟

جواب: ... زکوٰۃ واجب ہے، بشرطیکہ یہ زیور نصاب کی مالیت کو پہنچتا ہو، زیور بیچ کر زکوٰۃ دی جائے۔<sup>(۳)</sup>

### شوہر کے فوت ہونے پر زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟

سوال: ... ہماری ایک عزیزہ ہیں، ان کے شوہر فوت ہو گئے ہیں، اور ان پر بارہ ہزار کا قرضہ ہے، جبکہ ان کے پاس تھوڑا بہت سونا ہے، آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ان کو زکوٰۃ دینی چاہئے؟ اگر دینی ہے تو کتنی؟

جواب: ... شوہر کا چھوڑا ہوا ترکہ صرف اس کی اہلیہ کا نہیں، بلکہ سب سے پہلے اس کے شوہر کا قرضہ ادا کیا جائے، پھر اسے شرعی حصوں پر تقسیم کیا جائے،<sup>(۴)</sup> اور پھر ان وارثوں میں سے جو بالغ ہوں ان کا حصہ نصاب کو پہنچتا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔<sup>(۵)</sup>

### اگر نقدی نہ ہو تو سابقہ اور آئندہ سالوں کی زکوٰۃ میں زیور دے سکتے ہیں

سوال: ... اگر کوئی لڑکی جہیز میں اپنے ساتھ اتنا زیور لائے جس کی زکوٰۃ کی رقم اچھی خاصی بنتی ہو اور شوہر کی آمدنی سے سال

(۱) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه ص: ۱۱۰)۔

(۲) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۲، ملاحظہ فرمائیں۔

(۳) وتعتبر نية الموكل في الزكوة دون الوكيل كذا في معراج الدراية. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۱، كتاب الزكاة)۔

(۴) گزشتہ صفحہ حاشیہ نمبر ۲، ملاحظہ ہو۔

(۵) يبدأ عن تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير ..... بتجهيزه ..... تم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ويقدم دين الصحة ..... ثم يقسم الباقي بعد ذلك بين ورثته اي الذين يثبت ارثهم بالكتاب أو السنة ... الخ. (درمختار، كتاب الفرائض ج: ۶ ص: ۷۵۹ تا ۷۶۲)۔

(۶) وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرية ..... وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحواله الأصلية ... الخ. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۱۷، ۲۱۸، كتاب الزكاة)۔

میں اتنی رقم پس انداز نہ ہو سکتی ہو تو بتایا جائے زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے؟

جواب: ... ان زیورات کا کچھ حصہ فروخت کر دیا جائے یا کئی سال کی زکوٰۃ میں دے دیا جائے، یعنی اس کی قیمت لگائی جائے، اور زیورات کی زکوٰۃ جتنے سال کی اس کے برابر ہوا تھے سال کی نیت کر کے وہ زیور زکوٰۃ میں دے دیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

## دکان میں مال تجارت پر زکوٰۃ اور طریقہ ادائیگی

سوال: ... میں کتابوں اور اسٹیشنری کی دکان کرتا ہوں، سامان کی مالیت تقریباً بارہ تا پندرہ ہزار ہوگی، دکان کرایہ کی ہے، آیا یہ دکان کا سامان قابل ادائیگی زکوٰۃ ہے؟ یعنی اس مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہے؟

جواب: ... دکان کا جو بھی مال فروخت کیا جاتا ہے، اگر اس مال کی مالیت ساڑھے باون تو لے چاندی کی مالیت کو پہنچتی ہو تو اس مال پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔<sup>(۲)</sup>

سوال: ... اگر اس مال پر زکوٰۃ فرض ہے تو چونکہ اسٹیشنری کا سامان بہت ساری اشیاء پر مشتمل ہے اور میں روزانہ خریداری اور فروخت بھی کرتا ہوں، اس لئے اس کا حساب کتاب ناممکن سا ہو جاتا ہے، تو کیا انداز اس کی قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں؟

جواب: ... روزانہ کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں، سال میں ایک تاریخ مقرر کر لیجئے، مثلاً: یکم رمضان کو پوری دکان کے قابل فروخت سامان کا جائزہ لے کر اس کی مالیت کا تعین کر لیا جائے، اور اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کر دیا کیجئے، جس تاریخ کو آپ نے دکان شروع کی تھی، ہر سال اس تاریخ کو حساب کر لیا کیجئے۔<sup>(۳)</sup>

## انکم ٹیکس ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی

سوال: ... ایک شخص صاحب نصاب ہے، اگر وہ شرع کے مطابق اپنی جائیداد، رقم وغیرہ سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو کیا شرعاً وہ ملکی نظام دولت کا وضع کردہ انکم ٹیکس ادا کرنے سے بری ہو جاتا ہے؟ اگر وہ صرف انکم ٹیکس ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟ نیز موجودہ نظام میں وہ کیا طریقہ اختیار کرے؟

(۱) الفصل الأول فی زکوٰۃ الذهب والفضة، تجب فی کل مائتی درہم خمسة درہم و فی کل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروباً کان أو لم یکن مصوغاً أو غیر مصوغ حلیا کان للرجال أو للنساء ..... ويعتبر فیہا أن یكون المؤدی قدر الواجب وزناً ولا یعتبر فیہ القيمة ..... وتوادی من خلاف جنسہ یعتبر القيمة بالإجماع۔ (الفتاویٰ الہندیہ ج: ۱ ص: ۱۷۸، ۱۷۹، کتاب الزکاة، الباب الثالث فی زکاة الذهب)۔

(۲) واللازم ..... فی مضروب کل منہما ومعمولہ ولو تبراً أو حلیاً مطلقاً ..... أو فی عرض تجارة قيمة نصاب۔ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۹۸، کتاب الزکاة، باب زکاة المال)۔

(۳) الزکوٰۃ واجبة فی عروض التجارة کائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق والذهب ..... وتعتبر القيمة عند حولان الحول بعد أن تكون قيمتها فی ابتداء الحول مائتی درہم من الدراہم الغالب علیہا الفضة۔ (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الزکاة، الباب الثالث فی زکوٰۃ الذهب والفضة ج: ۱ ص: ۱۷۹، طبع رشیدیہ)۔

جواب: ... انکم ٹیکس ملکی ضروریات کے لئے گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہے، جبکہ زکوٰۃ ایک مسلمان کے لئے فریضہ خداوندی اور عبادت ہے، انکم ٹیکس ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ کا الگ ادا کرنا فرض ہے۔<sup>(۱)</sup>

مالک بنائے بغیر فلیٹ رہائش کے لئے دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی

سوال: ... دریافت طلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مد سے تعمیر کئے گئے فلیٹ حسب ذیل شرائط پر مستحقین زکوٰۃ کو دیئے گئے ہیں، تو زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟

شرائط:

- ۱: ... یہ فلیٹ کم از کم پانچ سال تک آپ کسی کے ہاتھ بیچ نہیں سکیں گے (زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں)۔
- ۲: ... متعلقہ فلیٹ آپ کو اپنے استعمال کے لئے دیا جا رہا ہے، اس میں آپ کرایہ دار نہیں رکھیں گے، پگڑی پر نہیں دے سکیں گے، اور کسی دوسرے شخص کو استعمال کے لئے بھی نہیں دے سکیں گے۔
- ۳: ... آپ نے فلیٹ اگر کسی کو پگڑی پر دیا یا کرایہ دار رکھا تو اس کی اطلاع جماعت کو ملنے پر آپ کے فلیٹ کا حق منسوخ کر دیا جائے گا۔

- ۴: ... فلیٹ کے میٹریئل کی رقم جو جماعت مقرر کرے وہ ہر ماہ ادا کر کے اس سے رسید حاصل کرنی پڑے گی۔
- ۵: ... فلیٹ کی وساطت کسی دوسرے فلیٹ کے قبضہ دار سے بدلی نہیں کیا جاسکے گا۔
- ۶: ... اس عمارت کی چھت جماعت کے قبضے میں رہے گی۔
- ۷: ... مستقبل میں فلیٹ بیچنے یا چھوڑنے کی صورت میں جماعت سے نوآ بجکشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد مزید کارروائی ہو سکے گی۔

۸: ... اوپر بیان کی گئی شرائط کے علاوہ جماعت کی جانب سے عمل میں آنے والے نئے احکامات اور شرائط کو مان کر ان پر عمل کرنا ہوگا، ان بیان کی گئی شرائط اور پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے والے ممبر سے جماعت فلیٹ خالی کرا سکے گی اور فلیٹ میں رہنے والے کو اس پر عمل کرنا اور قانونی حق چھوڑنا ہوگا۔

(مذکورہ بالا اقرار نامہ کی تمام شرائط اور ہدایت پڑھ کر سمجھ کر منظور کرتا اور راضی خوشی سے اس پر اپنے دستخط کر دیتا ہوں)

براہ مہربانی جواب بذریعہ اخبار جنگ عنایت فرمائیں، تاکہ سب جماعتوں کو پتا چل جائے، کیونکہ یہ سلسلہ سکھر، حیدرآباد اور کراچی کی میمن برادری میں عام چل پڑا ہے، اور اس میں کروڑوں روپے زکوٰۃ کی مد میں لوگوں سے وصول کر کے لگائے جا رہے ہیں۔

(۱) فالذلیل علی فرضیتها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى واتوا الزکوٰۃ وقوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّیهم بها... الخ۔ (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۲، کتاب الزکاة، طبع سعید)۔

جواب: ... زکوٰۃ تب ادا ہوتی ہے جب محتاج کو مال زکوٰۃ کا مالک بنا دیا جائے، اور زکوٰۃ دینے والے کا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہ رہے۔<sup>(۱)</sup> آپ کے ذکر کردہ شرائط نامے میں جو شرطیں ذکر کی گئی ہیں وہ عاریت کی ہیں، تملیک کی نہیں، لہذا ان شرائط کے ساتھ اگر کسی کو زکوٰۃ کی رقم سے فلیٹ بنا کر دیا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے ادا ہونے کی صورت یہی ہے کہ جن کو یہ فلیٹ دیئے جائیں ان کو مالک بنا دیا جائے، اور ملکیت کے کاغذات سمیت ان کو مالکانہ حقوق دے دیئے جائیں کہ یہ لوگ ان فلیٹس میں جیسے چاہیں مالکانہ تصرف کریں، اور جماعت کی طرف سے ان پر کوئی پابندی نہ ہو۔ اگر ان کو مالکانہ حقوق نہ دیئے گئے تو زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور ان پر لازم ہوگا کہ اپنی زکوٰۃ دوبارہ ادا کریں۔

### زکوٰۃ کی رقم سے مکان بنوانا

سوال: ... ایک شخص عموماً ایک رفاہی ادارے کو زکوٰۃ کی رقم دے دیتا ہے، رفاہی ادارے کے عمائدین کے مشورے سے اس نے زکوٰۃ سے مکان بک کرائے اور یہ مکان اسی رفاہی ادارے کو دے دیئے، یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ رقم پہلے ادارے کو ادا کر کے اس کے بعد ادارہ کسی ٹھیکیدار سے تعمیر کرواتا، مگر ادارے نے اس قسم کی پیچیدگیوں سے بچنے کے لئے متذکرہ بالا امر کو ترجیح دی، یعنی مال کی صورت حال میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی، کیا ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہوگی؟

جواب: ... یہ مکان جب کسی محتاج کو دے دیئے جائیں گے (مالکانہ حقوق کے ساتھ) تب زکوٰۃ ادا ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔<sup>(۲)</sup>

### زکوٰۃ کی رقم سے قرض دینا

سوال: ... میں نے زکوٰۃ اکاؤنٹ (بغیر سود) کھول رکھا ہے، اس میں سال بہ سال رقم جمع ہوتی رہتی ہے، اور میں حسب ضرورت رقم لوگوں کو اور اداروں کو دیتا رہتا ہوں، سوال یہ ہے: کیا اس اکاؤنٹ سے قرض حسنہ دے سکتا ہوں؟

(۱) أما تفسیرھا فہی تملیک المال من فقیر مسلم غیر ہاشمی ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملک من کل وجه لله تعالیٰ هذا فی الشرع کذا فی التبیین۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۰)۔ ہی لغة الطهارة والنماء وشرعا تملیک ..... جزء مال خرج المنفعة فلو أسکن فقیراً داره سنة ناویاً لا یجزیه... الخ۔ (الدر المختار مع رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۵۷)۔ وأما رکن الزکوٰۃ فرکن الزکوٰۃ هو إخراج جزء من النصاب إلی الله تعالیٰ وتسليم ذلك إلیه یقطع المالك یده عنه بتملیکه من الفقیر وتسليمه إلیه أو إلی ید من هو نائب عنه وهو المصدق والملک للفقیر یثبت من الله تعالیٰ وصاحب المال نائب عن الله تعالیٰ فی التملیک والتسليم إلی الفقیر۔ (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۳۹)۔ ولو دفع إلیه داراً یسکنها من الزکوٰۃ لا یجوز ..... إذا دفع الزکوٰۃ إلی الفقیر لا یتم الدفع ما لم یقبضها... الخ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰، کتاب الزکاة)۔

(۲) ولو دفع إلیه داراً لیسکنها عن الزکوٰۃ لا یجوز ..... إذا دفع الزکوٰۃ إلی الفقیر لا یتم الدفع ما لم یقبضها۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰، کتاب الزکاة، الباب السابع فی المصارف)۔

۲: کیا اس اکاؤنٹ سے ضرورت مندوں کو قرض دے سکتا ہوں؟ وہ اگر وعدہ کے مطابق قرض واپس کر دیں تو اکاؤنٹ میں رقم واپس جمع ہو جائے گی، اگر وہ واپس نہ کریں تو کیا اتنی ہی رقم زکوٰۃ کی مجھ پر واجب الادا رہے گی یا قرض لینے والے پر (میری) زکوٰۃ واجب الادا ہوگی؟ یا ہم دونوں پر؟ شریعت کے مطابق جو بھی جواب ہو، عطا فرمائیں۔

جواب: ... آپ یہ رقم فقراء و مساکین کو مالک بنا کر دے سکتے ہیں<sup>(۱)</sup>، لیکن اس رقم کو قرض کے طور پر دیتے رہنا صحیح نہیں۔<sup>(۲)</sup>

(۱) ”إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ“ (التوبة: ۶۰)۔

(۲) وأما رکن الزکاة ہو إخراج جزء من النصاب إلی اللہ تعالیٰ وتسلیم ذالک إلیہ یقطع المالك یدہ عنہ بتملیکہ من الفقیر وتسلیمہ إلیہ أو إلی ید من ہو نائب عنہ وهو المصدق والملک للفقیر یثبت من اللہ تعالیٰ وصاحب المال نائب عن اللہ تعالیٰ فی التملیک والتسلیم إلی الفقیر۔ (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۳۹، کتاب الزکاة)۔

## کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ (مصارفِ زکوٰۃ)

### زکوٰۃ کے مستحقین

سوال: ...کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور کن کن کو ناجائز؟

جواب: ...اپنے ماں باپ، اور اپنی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اسی طرح شوہر بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔<sup>(۱)</sup> جو لوگ خود صاحبِ نصاب ہوں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔<sup>(۲)</sup> آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان (ہاشمی حضرات) کو زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں،<sup>(۳)</sup> بلکہ اگر وہ ضرورت مند ہوں تو ان کی مدد غیر زکوٰۃ سے لازم ہے۔<sup>(۴)</sup> اپنے بھائی، بہن، چچا، بھتیجے، ماموں، بھانجے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔<sup>(۵)</sup> مزید تفصیل خود پوچھئے یا کسی کتاب میں پڑھ لیجئے۔

سوال: ...زکوٰۃ کی تقسیم کن کن قوموں پر حرام ہے؟ جبکہ ہمارے علاقے تحصیل پلندری بلکہ پورے آزاد کشمیر میں سید، ملک، اعوان اور لوہار، ترکھان، قریشی وغیرہ ان کے لئے زکوٰۃ حرام قرار دے کر بند کر دی گئی، البتہ سید حضرات کے لئے تو زکوٰۃ لینا جائز نہیں، دیگر دو قومیں جن میں قریشی کہلانے والے ترکھان، لوہار اور اعوان، ملک شامل ہیں زکوٰۃ کے حق دار ہیں یا نہیں؟ براہ کرم اس کی بھی وضاحت کریں کہ سید گھرانے کے علاوہ حاجت مند لوگ مثلاً: یتیم، بیوہ، معذور زکوٰۃ لینے کے حق دار ہیں؟

(۱) وَلَا إِلَىٰ مِنْ بَيْنَهُمَا وَلَا دَوْلُو مَمْلُوكًا لِفَقِيرٍ أَوْ بَيْنَهُمَا زَوْجِيَّةٌ... إلخ. (الدر المختار، كتاب الزكاة، باب المصروف ج: ۲ ص: ۳۳۶، هداية ج: ۱ ص: ۲۰۶)۔

(۲) وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ مِنْ يَمْلِكُ نَصَابًا أَيْ مَالٍ كَانَ دَنَانِيرًا أَوْ دِرَاهِمًا أَوْ سَوَانِمًا أَوْ عَرُوضًا لِلتَّجَارَةِ أَوْ لغيرِ التَّجَارَةِ فَاضْلًا عَنْ حَاجَتِهِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ هَكَذَا فِي الزَّاهِدِي. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹، كتاب الزكاة، الباب السابع)۔

(۳) وَلَا إِلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ إِلَّا مَنْ أَبْطَلَ النَّصَّ قَرَابَتَهُ وَهُمْ بَنُو لَهَبٍ... إلخ. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۵۰، باب المصروف)۔

(۴) هَذَا فِي الْوَأَجِبَاتِ كَالزَّكَاةِ وَالنَّذْرِ وَالْعَشْرِ وَالْكَفَّارَةِ فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَيَجُوزُ الصَّرْفُ إِلَيْهِمْ كَذَا فِي الْكَافِي. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف)۔

(۵) وَالْأَفْضَلُ فِي الزَّكَاةِ وَالْفِطْرِ وَالنَّذْرِ وَالصَّرْفِ أَوْلًا إِلَى الْإِخْوَةِ وَالْأَخْوَاتِ ثُمَّ إِلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ إِلَى الْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ ثُمَّ إِلَى أَوْلَادِهِمْ ثُمَّ إِلَى الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ... إلخ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰، كتاب الزكاة، الباب السابع)۔



جواب: ... زکوٰۃ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لئے حلال نہیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مراد ہیں: آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث بن عبدالمطلب<sup>(۱)</sup>۔ پس جو شخص ان پانچ بزرگوں کی نسل سے ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی، اگر وہ غریب اور ضرورت مند ہو تو دوسرے فنڈ سے ان کی خدمت کرنی چاہئے۔<sup>(۲)</sup>

## سید اور ہاشمیوں کی اعانت غیر زکوٰۃ سے کی جائے

سوال: ... اسلام دین مساوات ہے اور دین عدل و حکمت ہے، اسلام غیر مسلموں سے جزیہ وصول کرتا ہے تو انہیں اپنے زیر سایہ تحفظ فراہم کرتا ہے، اسلام زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ انہیں اُمت (ہاشمی کے علاوہ) کے غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کیا جائے، یہ اسلام کا ایک حکم ہے، جس پر عمل کرنا واجب ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا مذہب ہاشمی اُمت کے غریبوں، بیواؤں، یتیموں، ناداروں، مسکینوں اور محتاجوں، غریب طالب علموں کے لئے کیا مالی تحفظ فراہم کرتا ہے؟

جواب: ... ہاشمی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے اور اپنے متعلقین کے لئے زکوٰۃ کو ممنوع قرار دیا ہے۔<sup>(۳)</sup> یہ حضرات اگر ضرورت مند ہوں تو غیر زکوٰۃ فنڈ سے ان کی خدمت کرنی چاہئے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی خدمت کرنا بڑے اجر کا موجب ہے۔<sup>(۴)</sup>

## سادات کو زکوٰۃ کیوں نہیں دی جاتی؟

سوال: ... مولانا صاحب! میں نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہے اور سنا بھی ہے کہ سادات لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہئے، ایسا کیوں ہے؟

جواب: ... زکوٰۃ، لوگوں کے مال کا میل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اس سے ملوث کرنا مناسب نہ تھا، وہ اگر ضرورت مند ہوں تو پاک مال سے ان کی مدد کی جائے۔<sup>(۵)</sup> نیز اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہوتا تو ایک ناواقف کو سوسہ ہو سکتا تھا کہ یہ خوبصورت نظام اپنی اولاد ہی کے لئے تو... معاذ اللہ... جاری نہیں فرمائے؟ نیز اس کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے، اور

(۱) وَلَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْجِعُوا الْوَيْلَ عَلَى الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْتَحْيُوا الْقُلُوبَ الْيَتِيمَ وَالَّذِينَ يَسْقُونَ كَأَن يَسْقُونَ زَكَاةً وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ الْقُرْآنَ لَعَلَّكُمْ أَتَقْوُونَ (البقرہ: ۱۸۹)۔  
(عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹، کتاب الزکاۃ، الباب السابع فی المصارف)۔

(۲) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۴ ملاحظہ فرمائیں۔

(۳) قوله وبنی ہاشم وموالبہم اى لا يجوز الدفع لهم لحديث البخارى نحن اهل بيت لا تحل لنا الصدقة۔ (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۶۵، کتاب الزکاۃ، باب المصارف)۔

(۴) وقال المصنف فى الكافى وهذا فى الواجبات كالزكاة والنذر والعشر والكفارة أما التطوع والوقف فيجوز الصرف اليهم لأن المؤدى فى الواجب يطهر نفسه باسقاط الفرض فيتدنس المؤدى كالماء المستعمل وفى النفل تبرع بما ليس عليه فلا يتدنس به المؤدى كمن تبرد بالماء اهـ۔ (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۶۵، کتاب الزکاۃ، باب المصارف)۔

(۵) ايضاً۔

وہ یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو زکوٰۃ دینا جائز ہوتا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی بنا پر انہی کو ترجیح دیتے، غیر سید کو زکوٰۃ دینے پر ان کا دل مطمئن نہ ہوتا، اس سے دوسرے فقراء کو شکایت پیدا ہوتی۔

سوال: ... سنی فقہ میں سیدوں پر زکوٰۃ، خیرات اور صدقہ کے استعمال کی ممانعت ہے، سوال یہ ہے کہ آیا اس فقہ میں غریب سید نہیں ہوتے؟ اور اگر ہوتے ہیں تو ان کی حاجت روائی کے لئے فقہ سنی میں کون سا طریقہ ہے؟ اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان کے زکوٰۃ و عشر میں کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟

جواب: ... یہ مسئلہ سنی فقہ کا نہیں، بلکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمودہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لئے زکوٰۃ اور صدقہ حلال نہیں<sup>(۱)</sup>، کیونکہ یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اللہ تعالیٰ نے اس کثافت سے پاک رکھا ہے۔ سید اگر غریب ہوں تو ان کی خدمت میں عزت و احترام سے ہدیہ پیش کرنا چاہئے۔ حکومت کو بھی چاہئے کہ سیدوں کی کفالت غیر صدقاتی فنڈ سے کرے۔

### سید کی بیوی کو زکوٰۃ

سوال: ... ہمارے ایک عزیز جو کہ سید ہیں، جسمانی طور پر بالکل معذور ہونے کے باعث کمانے کے قابل نہیں ہیں، ان کے گھر کا خرچہ ان کی بیوی جو کہ غیر سید ہیں، بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اور کچھ قریبی عزیزوں کی مدد سے چلاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ چونکہ ان کی بیوی غیر سید ہیں اور گھر کی کفیل ہیں تو باوجود اس کے کہ شوہر اور بچے سید ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے؟

جواب: ... بیوی اگر غیر سید ہے اور وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔<sup>(۲)</sup> اس زکوٰۃ کی مالک ہونے کے بعد وہ اگر چاہے تو اپنے شوہر اور بچوں پر خرچ کر سکتی ہے۔<sup>(۳)</sup>

### سادات لڑکی کی اولاد کو زکوٰۃ

سوال: ... ہندہ کی شادی زید کے ساتھ ہوئی تھی، جس سے اس کے دو بچے ہیں، کچھ عرصہ بعد زید نے ہندہ کو طلاق دے دی، بچے ہندہ کے پاس ہیں جو محنت کر کے ان کی پرورش کرتی ہے، زید بچوں کی پرورش کے لئے اس کو کچھ نہیں دیتا، ہندہ خاندان سادات

(۱) عن عبدالمطلب بن ربیعہ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. (مشکوٰۃ ص: ۱۶۱، باب من لا تحل له الصدقة).

(۲) ويجوز الدفع إلى من عداهم من بن هاشم. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹، کتاب الزکاة، الباب السابع).

(۳) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريدة ثلاث سنن احدى السنن انها عتقت فخيرت في زوجها ..... ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وادم من ادم البيت فقال: الم اربمة فيها لحم! قالوا: بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريدة وأنت لا تأكل الصدقة، قال: هو عليها صدقة ولنا هدية متفق عليه. (مشکوٰۃ ص: ۱۶۱، باب من لا تحل له الصدقة، الفصل الأول).

سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے یہ بچے صدیقی ہیں، ہندہ کے عزیز، اقربا، بہن بھائی یا ماں باپ ان بچوں کی پرورش وغیرہ کے لئے زکوٰۃ کا پیسہ ہندہ کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ کہ وہ صرف بچوں کے صرف میں لائے، کیونکہ ہندہ کے لئے تو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، شرعی اعتبار سے اس مسئلے پر روشنی ڈالیں۔

جواب:.... یہ بچے سید نہیں، بلکہ صدیقی ہیں، اس لئے ان بچوں کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے، اور ہندہ اپنے ان بچوں کے لئے زکوٰۃ وصول کر سکتی ہے،<sup>(۱)</sup> اپنے لئے نہیں۔<sup>(۲)</sup>

### علوی (اعوان) کو زکوٰۃ دینا

سوال:.... ”بہشتی زیور“ میں ہے کہ بنو عبدالمطلب، بنو ہاشم کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں، سوال یہ ہے کہ علوی جو عام طور پر اعوان کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب:.... بنو ہاشم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اور اعوان بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں، اس لئے وہ بھی ہاشمی ہیں۔<sup>(۳)</sup>

### سیدہ کی اولاد جو غیر سید سے ہو اُسے زکوٰۃ دینا

سوال:.... بیوی سید ہے اور شوہر غیر سید، جس کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے بچوں کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے یا نہیں؟

جواب:.... دے سکتے ہیں۔<sup>(۴)</sup>

### غریب سید بہنوئی کو زکوٰۃ دینا

سوال:.... میری شادی ایک سید گھرانے کی خاتون سے ہوئی ہے، ایک بہن کی شادی بھی سید مرد سے ہوئی ہے، بہنوئی کی

مالی حالت خراب ہے، کیا میں اپنی زکوٰۃ کی رقم سے اپنی بہن یا اس کی اولاد کی مدد کر سکتا ہوں؟

جواب:.... بہن کو دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ سید نہیں۔<sup>(۵)</sup> اور ان کی اولاد کو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ سید ہیں۔<sup>(۶)</sup>

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) فإن تحريم الصدقة حکم يختص بالقرابة من بني هاشم... الخ۔ (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۶۵، کتاب الزکاة)۔

(۳) وبنو هاشم الذي تحرم عليهم الصدقات آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبدالمطلب كذا ذكره الكرخي۔ (بدائع ج: ۲ ص: ۴۹، کتاب الزکاة، فصل وأما الذي يرجع إلى المؤدى إليه)۔

(۴) ويجوز الدفع إلى من عداهم من بني هاشم۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹)، المصارف... الخ منها الفقير وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۷، کتاب الزکاة، الباب السابع)۔

(۵) الأفضل في الزکوة..... الخ إلى الإخوة والأخوات۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰، کتاب الزکاة)۔

(۶) ولا يدفع إلى بني هاشم۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹، کتاب الزکاة، الباب السابع في المصارف)۔

## زکوٰۃ کا صحیح مصرف

سوال: ... کیا زکوٰۃ اور عشر کی رقوم کو ملکی دفاع پر یا انڈسٹری لگانے پر خرچ کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ آج تک ہم لوگ یہی سنتے آئے ہیں کہ زکوٰۃ و عشر کی رقوم کو ان چیزوں پر نہیں خرچ کیا جاسکتا، لیکن میاں... صاحب کے ایک اخباری بیان نے ہمیں حیران ہی نہیں بلکہ پریشان بھی کر دیا، میاں صاحب فرماتے ہیں: ”شرعی نقطہ نگاہ سے حکومت زکوٰۃ و عشر کی رقوم کو ملکی دفاع پر خرچ کرنے کا حق رکھتی ہے، زکوٰۃ و عشر کے مصارف کے متعلق نمائندہ جنگ کے سوال پر انہوں نے کہا کہ مذہبی نقطہ نگاہ سے ملکی دفاع کی ضرورت پوری کرنے کے لئے اگر وسائل موجود نہ ہوں یا کم ہوں تو پھر اس مقصد کے لئے زکوٰۃ و عشر کو استعمال کیا جاسکتا ہے، اسی طرح تبلیغ دین اور اشاعت دین کے لئے زکوٰۃ و عشر کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس سلسلے میں ”فی سبیل اللہ“ کی مدد موجود ہے، انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کی رقوم سے ملک میں انڈسٹری بھی لگائی جاسکتی ہے، جس میں غریبوں، یتیموں اور مستحق افراد کو ملازمتیں ملنی چاہئیں، لیکن اس انڈسٹری کے قیام کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ کھاتے پیتے افراد کو اس میں ملازمت نہ دی جائے۔“ بحوالہ روزنامہ جنگ کراچی ۱۰ دسمبر ۱۹۸۳ء۔ کیا میاں صاحب کا یہ نقطہ نظر قرآن و سنت اور فقہ حنفی کے مطابق ہے؟ دلائل سے اس کی وضاحت فرمائیں۔

جواب: ... زکوٰۃ، فقراء و مساکین کے لئے ہے، قرآن کریم نے ”فی سبیل اللہ“ کی جو مذکر کی ہے اس میں ”فقر“ بطور شرط ملحوظ ہے، یعنی جو مجاہد نادر ہو اس کو اس کی ضروریات زکوٰۃ کی مد میں سے دی جاسکتی ہیں، جن کا وہ مالک ہو جائے۔<sup>(۱)</sup> مطلقاً ملکی دفاع، تعلیم، صحت اور رفاہ عامہ کی مدد پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا صحیح نہیں،<sup>(۲)</sup> جو لوگ اس قسم کے فتوے صادر کرتے ہیں ان کے مطابق زکوٰۃ اور ٹیکس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔

## زکوٰۃ لینے والے کے ظاہر کا اعتبار ہوگا

سوال: ... اعزہ، احباب و اقارب جو بظاہر مستحق زکوٰۃ نظر آتے ہیں، یہ کس طرح تصدیق کی جائے کہ یہ صاحب نصاب ہیں؟  
جواب: ... ظاہر کا اعتبار ہے، پس اگر ظاہر حال کے مطابق دل مانتا ہے کہ یہ مستحق ہوگا، اس کو دے دی جائے۔<sup>(۳)</sup>

## معمولی آمدنی والے رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا جائز ہے

سوال: ... میری ایک قریبی عزیزہ ہیں، ان کے شوہر ایک معمولی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، آمدنی اتنی نہیں کہ گھر کے

(۱) أما تفسیرھا فہی تملیک المال من فقیر مسلم غیر ہاشمی ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملک من کل وجہ لله تعالیٰ هذا فی الشرع کذا فی التبین۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۰، کتاب الزکاة)۔

(۲) ولا يجوز أنه یبني بالزکوٰۃ المسجد و کذا القناطر والسقیات و اصلاح الطرقات و کرى الأنهار والحج والجهاد و کل ما لا تملیک فیہ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۸، کتاب الزکاة، الباب السابع فی المصارف)۔

(۳) إذا شک و تحری فوق فی أكبر رأیه أنه محل الصدقة فدفع إلیه أو سأل منه فدفع أو رآه فی صف الفقراء فدفع فإن ظهر أنه محل الصدقة جاز بالإجماع۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰، کتاب الزکاة، الباب السابع فی المصارف، طبع رشیدیہ)۔

اخراجات بہ احسن چل سکیں، رہائشی مکان بھی کرایہ کا ہے، جو اب طلب امر یہ ہے کہ ان حالات میں، میں زکوٰۃ و صدقات کی رقم انہیں دے سکتا ہوں؟

جواب: ... اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو زکوٰۃ کی مد سے ان کی مدد ضرور کرنی چاہئے۔<sup>(۱)</sup>

کم آمدنی والے خاندان کے بچوں کو عید پر زکوٰۃ سے کپڑے لے کر دینا

سوال: ... ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں جو کہ ملازمت کرتے ہیں، ماہانہ تنخواہ دو ہزار روپے ہے، مکان اپنا ذاتی ہے، سات آٹھ بچے دو میاں بیوی ہیں، یعنی دس گیارہ افراد کا خاندان ہے، بیوی اکثر بیمار رہتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں دو ہزار کی ویلو کیا ہے۔ کیا ایسے خاندان کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے جبکہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے؟ ان کو بتا کر زکوٰۃ نہ دی جائے، یہ کہا جائے کہ آپ عید پر بچوں کے کپڑے لے لیں، یا بچوں کی کتابیں خرید لیں، بل ہم ادا کر دیں گے، تفصیل سے روشنی ڈال دیں۔  
جواب: ... دے سکتے ہیں۔<sup>(۲)</sup>

پگڑی پر لئے ہوئے گھر میں رہنے والے کو زکوٰۃ دینا

سوال: ... میری بہن کا بیٹا دونوں آنکھوں سے معذور ہو چکا ہے، آنکھوں کے علاج پر ہزاروں روپے خرچ ہونے سے ممکن ہے بینائی واپس آجائے۔ گھر کا زیور وغیرہ بظاہر فروخت ہو چکے ہیں، کیا اس کے علاج دوائی پر زکوٰۃ کی رقم خرچ ہو سکتی ہے؟ اپنا گھر ہے جس میں رہتا ہے، اور جس کی پگڑی تین لاکھ روپے مالک جائیداد کو واپس کر کے مل سکتی ہے، اور اس وقت کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے۔

جواب: ... اگر وہ مستحق ہو تو ہو سکتی ہے۔<sup>(۳)</sup>

مستحق کا تعین کس طرح ہوگا؟

سوال: ... فی زمانہ کسی کے متعلق فیصلہ کر لینا کہ یہ شخص مستحق زکوٰۃ ہے، بڑا مشکل اور ناممکن ہے۔ معلوم کرنا کہ کیسا آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں؟ نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ برائے کرم ارشاد فرمائیے کہ اس بات کا تعین کس طرح کیا جائے کہ فلاں شخص مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں؟

جواب: ... کون شخص مستحق زکوٰۃ ہے کون نہیں؟ اس کا فیصلہ تو زکوٰۃ دینے والا ہی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں ٹی وی

(۱) ویجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب وإن كان صحيحاً مكتسباً كذا في الزاھدی۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹، کتاب الزکاة، الباب السابع فی المصارف)۔

(۲) (منها الفقیر) وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۷)، دفع الزکوٰۃ إلى صبيان أقرابه برسم عید أو إلى مبشر أو مهدى الباكورة جاز۔ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۵۶، قبیل باب صدقة الفطر)۔

(۳) (منها الفقیر) وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۷)۔

ہے، یا ایسا اور لغویات کا سامان ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ جو شخص کہ ضروریاتِ اصلیہ سے زائد رقم بقدر نصاب رکھتا ہو وہ مستحق زکوٰۃ نہیں۔<sup>(۱)</sup>

## عثمانی کو زکوٰۃ دینا

سوال: ... میرے شوہر عثمانی ہیں اور صاحبِ نصاب نہیں ہیں، کیا میرے والدین یا بھائی بہن میرے شوہر کے علم میں لائے بغیر انہیں زکوٰۃ کی رقم بطور قرض یا عطیہ دے سکتے ہیں؟

جواب: ... اگر شوہر زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو آپ کے والدین ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، واللہ اعلم!<sup>(۲)</sup>

## غریب خاندان کو مکان کی مرمت کے لئے زکوٰۃ دینا

سوال: ... اس خاندان نے ابھی اپنے مکان میں کھڑکی وغیرہ لگوانی ہے کیونکہ گرمی بہت ہے، مکان کی چھت پر فرش لگانا ہے، تاکہ پانی نیچے نہ آئے، کیا ہم ان کو اس تعمیر کے لئے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ ان کو کہہ دیں کہ یہ کام آپ کروالیں بل ہم ادا کر دیں گے؟

جواب: ... جی ہاں! کام کرائیں، پھر بل ادا کرنے کے لئے ان کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں۔<sup>(۳)</sup>

## زکوٰۃ کی رقم سے مستحق رشتہ دار کی شادی کرانا

سوال: ... کیا میں اپنی بھتیجی کی شادی پر زکوٰۃ کی رقم لگا سکتی ہوں؟

جواب: ... اگر اس لڑکی کے پاس یا اس کے والدین کے پاس اتنا روپیہ نہیں ہے کہ اس کی شادی کر سکیں تو زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی شادی جائز ہے، لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ کسی سے قرض لے کر اس کی شادی کے مصارف برداشت کئے جائیں، بعد میں زکوٰۃ کی رقم سے اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔<sup>(۴)</sup>

(۱) ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصاباً أي مال كان دنائير أو دراهم أو سوائم أو عروضاً للتجارة أو لغير التجارة فاضلاً عن حاجته في جميع السنة هكذا في الزاھدی۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹، کتاب الزكاة، الباب السابع)۔

(۲) المصارف الخ منها الفقير وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۷)، ويجوز دفعها لزوجة أبيه وابنه وزوج ابنته تاترخانية۔ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۳۶)۔

(۳) ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹)۔ والغارم من لزمه دين ولا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه۔ (هداية ج: ۱ ص: ۲۰۵)۔ المراد بالغارم في الآية وهو في اللغة من عليه دين ولا يجد قضاء كما ذكره القتيبي وإنما لم يقيد المصنف لأن الفقر شرط في الأصناف كلها..... وفي الفتاوى الظهيرية والدفع إلى من عليه الدين أولى من الدفع إلى الفقير۔ (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۶۰، کتاب الزكاة، باب المصروف)۔

(۴) ولو قضى دين الفقير بزكاة ماله ان كان يأمره جاز وان كان بغير أمره لا يجوز وسقط الدين... الخ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰)۔ وفي الفتاوى الظهيرية والدفع إلى من عليه الدين أولى من الدفع إلى الفقير۔ (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۶۰)۔

اگر پوتے، پوتی کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی تو بہو کو کیسے دی جاسکتی ہے؟

سوال: ... اگر پوتے پوتی کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی تو پھر بہو کو کیسے دی جاسکتی ہے؟ جبکہ بہو کو ضرورت ہی اپنی اولاد کے لئے ہوتی ہے۔

جواب: ... بہو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور وہ مالک ہونے کے بعد جس کو چاہے دیدے۔<sup>(۱)</sup>

بہن بھائی کی صدقہ فطر اور زکوٰۃ سے مدد کرنا

سوال: ... زید ایک شخص بوجہ نقاہت و زائد العمری دو تین سال سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو صدقہ فطر کے مطابق سال گزشتہ دو سو دس روپیہ بطور فدیہ صوم غرباء میں تقسیم کراتے تھے، اس سال آٹھ روپیہ صدقہ فطر بتایا جاتا ہے، تیس روزوں کے دو چالیس روپے ہوتے ہیں، زید مذکورہ بالا شخص کی حقیقی بہن سخت بیمار ہے، بیوہ ہے، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، ایک لڑکا ہے جو بیکار قسم کا کھٹو قسم کا ہے، اس لئے یہ شخص زید جو زائد العمری کے سبب روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اگر فدیہ صوم کے بطور ۲۴۰ روپے اپنی بیوہ بہن جو سخت ضرورت مند اور علاج معالجے کی بھی حاجت مند ہے، اگر بہن کو دیدے تو زید کی طرف سے فدیہ صوم ادا ہو جائے گا یا نہیں؟

جواب: ... زکوٰۃ، صدقہ فطر اور روزوں کے فدیہ کی رقم بھائی بہن کو دینا جائز ہے،<sup>(۲)</sup> بشرطیکہ وہ محتاج ہوں۔<sup>(۳)</sup>

غریب بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا

سوال: ... کیا زکوٰۃ اپنے مستحق غریب بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو دی جاسکتی ہے؟ اور ان کو یہ بتانا کیا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟

جواب: ... بہن بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے،<sup>(۴)</sup> بلکہ اس میں دو اجر ہیں، ایک ادائے فریضہ کا، اور دوسرا صلہ رحمی کا۔<sup>(۵)</sup> البتہ والدین اپنی اولاد کو، اور اولاد کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح اولاد اپنے والدین کو، دادا، دادی کو، اور نانا،

(۱) يجوز دفع الزکوٰۃ الی من سوی الوالدین والمولودین من الأقارب ومن الإخوة والأخوات وغيرهم لانقطاع منافع الأملاك. (بدائع ج: ۲ ص: ۵۰، کتاب الزکاة، فصل وأما الذی یرجع الی المؤدی الیه).

(۲) والأفضل فی الزکوٰۃ والفطر والنذر الصرف أولاً الی الإخوة والأخوات... الخ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰).

(۳) ويجوز دفعها الی من یملك أقل من النصاب. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹، کتاب الزکاة، الباب السابع).

(۴) والأفضل فی الزکوٰۃ..... أولاً الی الإخوة والأخوات..... ثم الی الأعمام والعمات... الخ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰، کتاب الزکاة، الباب السابع فی المصارف).

(۵) روى ان امرأة عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصدقة علی زوجها عبدالله فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لك اجران، اجر الصدقة وأجر الصلة. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۴۰، کتاب الزکاة، طبع ایچ ایم سعید). وعن سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الصدقة علی المسکین صدقة وعلی ذوی الرحم ثنتان: صدقة وصله. رواه النسائی والترمذی. (الترغیب والترہیب ج: ۲ ص: ۳۷).

نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔<sup>(۱)</sup> جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو بتانا ضروری نہیں، البتہ دیتے وقت دل میں نیت ہونا ضروری ہے۔<sup>(۲)</sup>

## زکوٰۃ کا بتائے بغیر بیوہ بہن کی زکوٰۃ سے مدد کرنا

سوال: ... زید کی ایک بہن بیوہ ہے، شوہر کی پنشن پر گزارہ ہے، بہو اور پوتوں اور دو بیٹوں کا ساتھ ہے، ایک برس روزگار ہے، دوسرا جو اولاد والا ہے بے روزگار ہے، زندگی کی گاڑی کسی طرح چل رہی ہے، لیکن مالی تنگی رہا کرتی ہے، شوہر کی پنشن اور بیٹے کی کمائی کفالت نہیں کرتی، تو ایسی صورت میں زید اگر اپنی بیوہ بہن کو فدیہ، زکوٰۃ یا فطرے کی رقم سے مالی امداد کرے تو شرعی اعتبار سے کیا یہ جائز ہوگا؟ جبکہ بہن کو اس کا علم نہ ہو کہ امداد اس صورت سے کی جا رہی ہے۔

جواب: ... بہن اگر نادر ہے تو اس کو زکوٰۃ وغیرہ دینا جائز ہے۔ دیتے وقت دل میں نیت کر لی جائے، ان کو بتانا ضروری نہیں، واللہ اعلم!<sup>(۳)</sup>

## یتیم بھائیوں، بہنوں اور والدہ پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا

سوال: ... کیا اپنے یتیم بھائیوں، بہنوں اور والدہ پر زکوٰۃ کی رقم بغیر ان کو بتائے خرچ کی جاسکتی ہے یا ان کو بغیر بتائے کہ یہ زکوٰۃ ہے دے سکتے ہیں؟

جواب: ... والدہ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔<sup>(۴)</sup> بھائی بہن اگر محتاج ہوں تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔<sup>(۵)</sup> لیکن آپ کے یتیم بھائی بہن چونکہ خود آپ کی کفالت میں ہیں، اس لئے ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔<sup>(۶)</sup>

(۱) وَلَا يَدْفَعُ الْمَرْكُؤُا زَكَاةَ مَالِهِ إِلَىٰ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَإِنِ عَلَا وَلَا إِلَىٰ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنِ سَفَلَ..... وَلَا تَدْفَعُ الْمَرْأَةُ إِلَىٰ زَوْجِهَا. (هداية ج: ۱ ص: ۲۰۶، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقات إليه).

(۲) نوى الزكاة بما يدفع لصبيان أقربانه أو لمن يأتيه بالبشارة أو يأتي بالباكورة أجزاء..... وكذا ما يدفعه إلى الخدم من الرجال والنساء فى الأعياد وغيرها بنية الزكاة، كذا فى معراج الدراية. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰، كتاب الزكاة، الباب السابع فى المصارف). وفى شرح الحموى: العبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه. (الأشباه والنظائر مع شرح الحموى ج: ۱ ص: ۲۲۱).

(۳) والأفضل فى الزكاة..... الصرف إلى الإخوة والأخوات. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰)، نوى الزكاة إلا أنه سماه قرصًا جاز فى الأصح لأن العبرة للقلب لا للسان. (الدر المختار مع رد المختار ج: ۶ ص: ۷۳۳).

(۴) لا يصرف..... إلى من بينهما ولأد. (تنوير الأبصار ج: ۲ ص: ۳۳۶، طبع سعيد).

(۵) والأفضل فى الزكاة..... الصرف أولًا إلى الإخوة والأخوات. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰).

(۶) وفى رد المختار: قلت والظاهر أنه إذا احتسبه من الزكاة تسقط عنه النفقة المفروضة لا كتفاء اليتيم بها لما صرحوا به أن نفقة الأقارب تجب باعتبار الحاجة..... قال فى التارخانية عن المحيط إذا كان يعول يتيما ويجعل ما يكسوه ويطعمه من زكاة ماله ففى الكسوة لا شك فى الجواز لوجود الركن وهو التملك وأما الطعام فما يدفعه إليه بيده يجوز أيضًا لما قلنا بخلاف ما يأكله بلا دفع إليه. (رد المختار ج: ۲ ص: ۲۵۷، كتاب الزكاة).



## بھائی کو زکوٰۃ دینا

سوال: ... علمائے دین بیچ اس مسئلے کے کیا فرماتے ہیں کہ اگر اپنا حقیقی بھائی معذور اور بیمار ہو اور ذریعہ آمدنی بھی نہ ہو تو کیا اس کو دوسرا بھائی زکوٰۃ دے سکتا ہے؟

جواب: ... بہن، بھائی اور چچا، ماموں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔<sup>(۱)</sup>

## بھائی اور والد کو زکوٰۃ دینا

سوال: ... اگر کوئی شخص حساب کتاب میں اپنے والد اور بھائیوں سے الگ ہو اور صاحب حیثیت بھی ہو، اب اگر یہ بیٹا والد صاحب کو زکوٰۃ اس طرح دینا چاہے کہ پہلے اپنے غریب مستحق بھائی کو دے دے اور بھائی سے کہہ دے کہ یہ رقم آپ اور والد دونوں استعمال میں لائیں یا بھائی سے کہہ دے کہ یہ رقم قبول کر کے والد کو دینا، جبکہ والد مستحق بھی ہو، کیا یہ صحیح ہے یا ایسی کوئی صورت ہے کہ یہ رقم والد کو دے دی جائے اور زکوٰۃ ادا ہو جائے؟

جواب: ... بھائی کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے،<sup>(۲)</sup> مگر اس سے یہ فرمائش کرنا کہ وہ فلاں شخص (مثلاً: والد صاحب) پر خرچ کرے، غلط ہے۔ جب اس نے بھائی کو زکوٰۃ دے دی تو وہ اس کی ملکیت ہو گئی، اب وہ اس کا جو چاہے کرے۔ اور اگر بھائی کو زکوٰۃ دینا مقصود نہیں، بلکہ والد کو دینا مقصود ہے اور بھائی محض وکیل ہے، تو بھائی کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔<sup>(۳)</sup>

## نادار بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دینا

سوال: ... میرے والد صاحب عرصہ ڈیڑھ سال سے فوت ہو چکے ہیں، اور میں گھر میں بڑا ہوں، اور شادی شدہ ہوں، فی الحال سارے گھر کی کفالت بھی خود کر رہا ہوں، گھر کے افراد کچھ یوں ہیں: ایک والدہ ماجدہ صاحبہ، ایک ہمشیرہ صاحبہ اور تین عدد چھوٹے بھائی ہیں، جن میں ایک برسر روزگار ہے، اور دو ابھی پڑھ رہے ہیں، میرے ذمہ زکوٰۃ بھی واجب ہے، کیا میں وہ زکوٰۃ اپنے بھائیوں کو دے سکتا ہوں اور ہمشیرہ صاحبہ کو؟ کیونکہ ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ رہا مسئلہ والدہ صاحبہ والا تو وہ میرا فرض ہے، اور سب ذمہ داری میں قبول کروں گا۔

جواب: ... زکوٰۃ بہن بھائیوں کو دینا جائز ہے۔<sup>(۴)</sup>

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۵ ملاحظہ ہو۔

(۲) والأفضل فی الزکوٰۃ ..... الصرف أولاً إلى الإخوة والأخوات... الخ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰)۔

(۳) وتعتبر نية الموكل في الزکوٰۃ دون الوكيل كذا في معراج الدراية. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۱، کتاب الزکاۃ)۔

(۴) ایضاً حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ ہو۔

صاحب حیثیت آدمی کا اپنے والدین کی مالی مدد نہ کرنا، نیز اپنے بھائی کو چھوڑ کر دوسروں کو زکوٰۃ دینا

سوال: ... ایک شخص صاحب جائیداد اور صاحب حیثیت ہے، اچھی تنخواہ پر ملازم ہے، ویسے تو نیک ہی ہے، مگر دو مسائل ہیں۔ اس خوش حالی اور مالی طور پر مستحکم ہونے کے باوجود وہ اپنے والدین پر جو انتہائی غربت کا شکار ہیں، کچھ خرچ نہیں کرتا، اور نہ ہی ان کی مالی معاونت کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب: ... یہ شخص جو خود تو خوش حال زندگی گزارتا ہے لیکن بوڑھے والدین کا خیال نہیں کرتا، گناہگار ہے، مرنے کے بعد عذاب میں مبتلا ہوگا۔<sup>(۱)</sup>

سوال: ... اس کا دوسرا بھائی عیال دار اور غریب ہے، اتنا غریب کہ فاقے تک ہوتے ہیں، اور کچھ احباب ساتھ دیتے ہیں۔ بھائی جو زکوٰۃ نکالتا ہے، مگر دوسرے لوگوں کو دیتا ہے، بھائی کو نہیں دیتا، نہ ہی کسی طرح اس کی کچھ مدد کرتا ہے، بھائیوں میں تعلقات تو بہتر ہیں، مگر کسی طرح اس کی مدد نہیں کرتا، اسلامی فقہ کے مطابق یہ فعل کس حد تک درست ہے؟

جواب: ... آدمی کی زکوٰۃ کا مستحق سب سے پہلے اس کا بھائی، بھتیجے اور عزیز واقارب ہیں، جو شخص جتنا زیادہ نزدیک ہو، اتنا زیادہ مستحق ہے۔ یہ شخص جو اپنے بھائی اور اس کے کنبے کو چھوڑ کر، دوسروں کو زکوٰۃ دیتا ہے، غلط کرتا ہے۔<sup>(۲)</sup>

بیوہ بہن کو زکوٰۃ دینا

سوال: ... ہماری بہن بیوہ ہے، اور بیمار ہے، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے، کیا اسے علاج کے لئے زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے؟

جواب: ... بہن کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے۔<sup>(۳)</sup>

چچا کو زکوٰۃ

سوال: ... ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور ہم سات بھائی بہنیں ہیں، والدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے زکوٰۃ

(۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعاً لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة، وإن كان واحداً فواحداً، ومن أصبح عاصياً لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار، إن كان واحداً فواحداً، قال رجل: وإن ظلما؟ قال: وإن ظلما! وإن ظلما! وإن ظلما! (مشکوٰۃ ص: ۳۲۱، باب البر والصلة).

(۲) والأفضل في الزكاة ..... الصرف إلى الإخوة والأخوات ثم إلى أولادهم ..... ثم إلى ذوى الأرحام ثم إلى الجيران. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

(۳) والأفضل في الزكاة والفطر والنذر الصرف أولاً إلى الإخوة والأخوات. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰).

ہم پر فرض ہے، اور ہم زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، کیا زکوٰۃ کی کچھ رقم اپنے چچا کو دے دیں، چچا کے مالی حالات صحیح نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ چچا کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا چچا کو علم بھی نہ ہو۔

جواب:.... چچا کو زکوٰۃ دینا جائز ہے،<sup>(۱)</sup> اور جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، صرف زکوٰۃ کی نیت کر لینا کافی ہے۔<sup>(۲)</sup>

### بھتیجے یا بیٹے کو زکوٰۃ دینا

سوال:.... میرے پاس میری یتیم بھتیجی رہتی ہے، کیا میں زکوٰۃ کی رقم اس پر خرچ کر سکتی ہوں؟ دوسرا سوال یہ کہ میں اپنے بیٹے کو بھی زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ وہ معمولی ملازم ہے۔

جواب:.... بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، اور نواسی نواسے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، بھتیجی کو دینا درست ہے۔

### بیوی کا شوہر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں

سوال ۱:.... عام طور پر بیوی کی کل کفالت شوہر کے ذمہ ہے، اگر بد نصیبی سے شوہر غریب ہو جائے اور بیوی مال دار ہو تو شرعاً شوہر کے بیوی پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں؟

۲:.... مذکورہ شوہر کو بیوی سے زکوٰۃ لے کر کھانا کیا درست ہوگا؟

جواب ۱:.... عورت پر شوہر کے لئے جو حقوق ہیں، وہ شوہر کی غربت اور مال داری دونوں میں یکساں ہیں، شوہر کے غریب ہونے پر بیوی پر شرعاً یہ حق ہے کہ شوہر کی غربت کے پیش نظر صرف اس قدر نان و نفقہ کا مطالبہ کرے جس کا شوہر متحمل ہو سکے۔<sup>(۳)</sup> البتہ اخلاقاً بیوی کو چاہئے کہ وہ اپنے مال سے شوہر کی امداد کرے یا اپنے مال سے شوہر کو کوئی کاروبار وغیرہ کرنے کی اجازت دے۔<sup>(۴)</sup>

۲:.... چونکہ شوہر اور بیوی کے منافع عادتاً مشترک ہیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کی چیزوں سے عموماً استفادہ کرتے رہتے

(۱) والأفضل في الزكاة..... ثم إلى الأعمام والعمات ثم إلى أولادهم... إلخ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰)۔

(۲) نوى الزكاة بما يدفع لصبيان أقربائه أو لمن يأتيه بالبشارة أو يأتي بالباكورة أجزاءه... إلخ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰)۔ وفي شرح الحموى: العبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه. (الأشباه والنظائر مع شرح الحموى ج: ۱ ص: ۲۲۱، طبع إدارة القرآن)۔

(۳) النفقة واجبة للزوجة على زوجها..... وتعتبر في ذلك حالهما جميعاً..... وعليه الفتوى وتفسيره انهما إذا كانا موسرين تجب نفقة اليسار وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار. (هداية ج: ۲ ص: ۴۳۷)۔

(۴) عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فآته فاسئله فإن كان ذلك يجزىء عني وآل صرفتها إلى غيركم..... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. (مشکوٰۃ ص: ۱۷۱، باب أفضل الصدقة)۔

ہیں، اس لئے شوہر اور بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔<sup>(۱)</sup>

## مال دار بیوی کے غریب شوہر کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے

سوال: ... زید کی بیوی کے پاس چار ہزار روپے کا سونا اور چاندی ہے، جبکہ مقروض اس سے زائد ہے، (یاد رہے سونا چاندی زید کی بیوی کی ملکیت ہیں) اور زید کے والدین نے اسے گھر سے حصہ دینے سے انکار کر دیا ہے، تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں کہ زید زکوٰۃ لے سکتا ہے یا نہیں؟ مقروض خود زید ہے، مال زید کی بیوی کے پاس ہے۔

جواب: ... زید دوسروں سے زکوٰۃ لے سکتا ہے،<sup>(۲)</sup> مگر اس کی بیوی اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔<sup>(۳)</sup> بہر حال شوہر اگر غریب ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، بیوی کے مال دار ہونے کی وجہ سے وہ مال دار نہیں کہلائے گا۔

## شادی شدہ عورت کو زکوٰۃ دینا

سوال: ... ایک عورت جس کا خاوند زندہ ہے، لیکن وہ لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، کیا ان کو خیرات صدقہ یا زکوٰۃ دینا جائز ہے؟

جواب: ... اگر وہ غریب اور مستحق ہیں تو جائز ہے۔<sup>(۴)</sup>

## مال دار اولاد والی بیوہ کو زکوٰۃ

سوال: ... ایک عورت جو کہ بیوہ ہے، لیکن اس کے چار پانچ لڑکے برس روزگار ہیں، اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے، اگر وہ لڑکے ماں کی بالکل امداد نہیں کرتے تو کیا اس عورت کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ اگر بالفرض اولاد تھوڑی بہت امداد دیتی ہے جو اس کے لئے ناکافی ہے، تب اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: ... اس خاتون کے اخراجات اس کے صاحب زادوں کے ذمہ ہیں،<sup>(۵)</sup> لیکن اگر وہ نادار ہے اور لڑکے اس کی مالی مدد اتنی نہیں کرتے جو اس کی روزمرہ ضروریات کے لئے کافی ہو، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔<sup>(۶)</sup>

(۱) وَلَا يَدْفَعُ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ لِشُرَاكٍ فِي الْمَنَافِعِ عَادَةً وَلَا تَدْفَعُ الْمَرْأَةُ إِلَىٰ زَوْجِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹، کتاب الزکاة، الباب السابع فی المصارف).

(۲) مِنْهَا الْفَقِيرُ وَهُوَ مَنْ لَهُ أَدْنَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ مَا دُونَ النَّصَابِ أَوْ قَدْرُ نَصَابٍ غَيْرِ نَامٍ وَهُوَ مُسْتَفْرَقٌ فِي الْحَاجَةِ فَلَا يُخْرِجُهُ عَنِ الْفَقْرِ مَلِكٌ نَصَبٌ كَثِيرَةٌ غَيْرُ نَامِيَةٍ إِذَا كَانَتْ مُسْتَفْرَقَةً بِالْحَاجَةِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۷).

(۳) اَيْضًا حَاشِيَةٌ نَمْبَرًا مَلَا حَظَّهُ هُوَ.

(۴) اَيْضًا حَاشِيَةٌ نَمْبَرًا ۲ وَيَكْفِي.

(۵) وَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَنْفِقَ عَلَىٰ أَبِيهِ وَأَجْدَادِهِ وَجَدَاتِهِ إِذَا كَانُوا فَقَرَاءً وَإِنْ خَالَفُوهُ فِي دِينِهِ أَمَّا الْأَبْوَانُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. (هِدَايَةٌ ج: ۲ ص: ۴۲۵، باب النِّفْقَةِ، فَصْلٌ فِي مَنْ يَجِبُ النِّفْقَةُ وَمَنْ لَا يَجِبُ).

(۶) اَيْضًا حَاشِيَةٌ نَمْبَرًا ۲ مَلَا حَظَّهُ هُوَ.

## زکوٰۃ کی مستحق

سوال: ... میری بیوہ بھاوج ہیں، ان کے پاس تقریباً ۱۵ تو لے سونے کا زیور ہے، جبکہ ان کی کوئی آمدنی نہیں ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی ذریعہ آمدنی ہے، ان کو کیا زکوٰۃ دی جاسکتی ہے؟ یہ واضح رہے کہ یہ زیور ان کے پاس وہ ان کے شوہر اور ان کے والدین نے دیا تھا، ہمارے ساتھ رہتی ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے جو ابھی پڑھ رہا ہے، اور کمانے کے قابل نہیں ہے۔

جواب: ... آپ کی بھاوج کے پاس اگر ۱۵ تو لے سونا ان کی اپنی ملکیت ہے تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں<sup>(۱)</sup>، بلکہ خود ان پر زکوٰۃ فرض ہے<sup>(۲)</sup>، ہاں ان کے بیٹے کے پاس اگر کچھ نہیں تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔<sup>(۳)</sup>

بیوہ اور بچوں کو ترکہ ملنے پر زکوٰۃ

سوال: ... ایک بیوہ عورت ہے جس کی اولاد نرینہ تین ہیں، اسے اپنے شوہر کے ترکہ میں تقریباً چالیس ہزار روپے ملے، اس نے وہ رقم بینک میں فلکسڈ ڈیپازٹ رکھوا دی، اور اس پر جو سود یا اب منافع جو بھی ملتا ہے اس سے اس کا گزرا وقت ہوتا ہے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ (یاد رہے کہ اس کے علاوہ ان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں)۔

جواب: ... اس رقم کو شرعی حصوں پر تقسیم کیا جائے<sup>(۴)</sup>، ہر ایک کے حصے میں جو رقم آئے اگر وہ نصاب (ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت) کو پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے<sup>(۵)</sup>، نابالغ بچوں کے حصے پر نہیں۔<sup>(۶)</sup>

سوال: ... جب حکومت پاکستان نے زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کیا اور زکوٰۃ کاٹ لی، اس کے بعد اعلیٰ افسران سے رُجوع کیا گیا تو جواب میں انہوں نے محلہ کمیٹی کو زکوٰۃ فنڈ سے زکوٰۃ وظیفہ دینے کے لئے کہا، کیا وہ زکوٰۃ لینے کی حقدار ہے، جبکہ وہ اپنی آمدنی سے گزارہ کر رہی ہے اور زکوٰۃ لینا نہیں چاہتی؟

جواب: ... صاحب نصاب زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔<sup>(۷)</sup>

ضرورت مند لیکن صاحب نصاب بیوہ کی زکوٰۃ سے امداد کیسے؟

سوال: ... ایک ضرورت مند خاتون جو اب بیوہ ہیں، ان کے شوہر کا ایک ہفتہ قبل انتقال ہو گیا، ان خاتون کا کوئی ذریعہ

(۱) وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى مَنْ يَمْلِكُ نَصَابًا... إلخ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹)۔

(۲) الزكوة واجبة على الحر العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصاباً ملكاً تاماً وحال عليه الحال۔ (هداية ج: ۱ ص: ۱۸۵)۔

(۳) ان الطفل يعد غنياً بغنى أبيه بخلاف الكبير فإن لا يعد غنياً بغنى أبيه ولا الأب بغنى ابنه ولا الزوجة بغنى زوجها ولا الطفل بغنى أمه۔ (رد المحتار ج: ۲ ص: ۳۵۰، مطلب في الحوائج الأصلية)۔

(۴) يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين۔ (النساء: ۱۱)۔ "فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم" (النساء: ۱۲)۔

(۵) ایضاً حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ ہو۔

(۶) ومنها العقل والبلوغ فليس الزكوة على صبي ومجنون۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۲)۔

(۷) ایضاً حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ ہو۔

معاش نہیں، مرحوم کی ایک بچی کی عمر ۹ سال ہے، کرایہ کے مکان میں رہتی ہیں، ماہانہ کرایہ ۵۰۰ روپے ہے، ان بیوہ خاتون کے پاس ایک سیٹ سونے کا شادی کے وقت کا ہے، وزن تقریباً دس تولے ہے، موجود ہے، بیوہ اس کو بیٹی کے لئے مخصوص کرنا چاہتی ہیں، یعنی اس زیور کی ملکیت ۹ سال کی بچی کے نام کرنا چاہتی ہیں، ان حالات میں کیا مذکورہ بیوہ کو شرعاً مستحق زکوٰۃ قرار دیتی ہے؟ یعنی ان کی ضرورت بہ زکوٰۃ ماہانہ وظیفہ کی شکل میں پوری کی جاسکتی ہے؟

جواب:۔۔۔ اگر سونے کا سیٹ اپنی لڑکی کے نام بہہ کر دیا تو بیوہ مذکورہ زکوٰۃ کی مستحق ہے، اور اس کی امداد زکوٰۃ سے کی

جاسکتی ہے۔<sup>(۱)</sup>

### مفلوک الحال بیوہ کو زکوٰۃ دینا

سوال:۔۔۔ ہمارے محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کی ایک نوجوان بیٹی بھی ہے، جو کہ مقامی کالج میں پڑھتی ہے، اس بیوہ عورت کا ایک بھائی ہے جو انج کی دلالی کرتا ہے، اور مہینے کے دو ہزار روپے کماتا ہے، لیکن اپنی بیوہ بہن اور ماں کو کچھ بھی نہیں دیتا، اس بیوہ عورت کی ماں بالکل ضعیف اور بیمار ہے، ان سب کا خرچ عورت کا بھتیجا اٹھاتا ہے، اور اس بھتیجے کی بھی شادی ہو گئی ہے، اور اس کی ایک بچی بھی ہے، اب وہ بھتیجیہ کہتا ہے کہ میں سب کا خرچ نہیں اٹھا سکتا، اب وہ بیوہ عورت بالکل اکیلی ہو گئی ہے، اور اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، تو کیا اس صورت حال میں اس کا زکوٰۃ لینا جائز ہے؟ اور کیا ہم سب برادری والے مل کر بیوہ عورت کے بھائی کو روپے نہ دینے پر اس سے زبردستی کر سکتے ہیں؟

جواب:۔۔۔ بھائی کو اگر مقدور ہے تو اسے چاہئے کہ اپنی بہن کے اخراجات برداشت کرے، اگر وہ نہیں کرتا یا استطاعت نہیں رکھتا اور بیوہ کے پاس بھی نصاب کی مقدار سونا چاندی یا روپیہ پیسہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نادار بھی ہے اور بے سہارا بھی، اس صورت میں اس کو زکوٰۃ و صدقات دینا ضروری ہے۔<sup>(۲)</sup>

### برسر روزگار بیوہ کو زکوٰۃ دینا

سوال:۔۔۔ ہمارے علاقے میں ایک بیوہ عورت ہے، جو محکمہ تعلیم حکومت پاکستان میں ملازم ہے، تنخواہ ماہانہ پانچ سو روپے ہے، ان کا ایک جوان لڑکا بھی سرکاری ملازم ہے، دونوں ایک ساتھ حکومت کے فراہم کردہ سرکاری کوارٹر میں رہتے ہیں، ہمارے علاقے کی زکوٰۃ کمیٹی نے اس بیوہ عورت کے لئے زکوٰۃ فنڈ سے پچاس روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا ہے اور ہر ماہ ادا کیا جاتا ہے، کیا بیوہ ہونے کی وجہ سے جبکہ سرکاری ملازمہ ہو تو زکوٰۃ کی مستحق ہے؟

جواب:۔۔۔ اگر وہ مقروض نہیں برسر روزگار ہے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں لینا چاہئے، تاہم اگر وہ صاحب نصاب نہیں تو اس کو دینے

(۱) قوله هو الفقير والمسكين ..... أى المصرف الفقير والمسكين ..... والأولى أن يفسر الفقير بمن له ما دون النصاب... الخ۔ (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۵۸، كتاب الزكاة)۔

(۲) والأفضل فى الزكاة ..... الصرف أولاً إلى الإخوة والأخوات... الخ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰)۔

سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔<sup>(۱)</sup>

## شوہر کے بھائیوں اور بھتیجیوں کو زکوٰۃ دینا

سوال: ... میرے شوہر کے چار بھائی ایک بہن ہے، جو سابقہ خاوند سے طلاق لینے کے بعد دوسری جگہ شادی شدہ ہے، مگر سابقہ خاوند سے تین بچے ہیں، جو میرے دوسرے دیور کے ہاں رہتے ہیں، اور زیر تعلیم ہیں، اتنی مہنگائی میں جہاں گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا وہاں ان کو خرچہ دینا بھی ایک مسئلہ ہے، علاوہ ازیں میرے بڑے دیور کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان کے بچے بھی زیر تعلیم ہیں۔ دریافت طلب یہ ہے کہ کیا ہم ان بچوں کی تعلیم یا شادی بیاہ پر زکوٰۃ کی مد میں خرچ کر سکتے ہیں اور ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن ان بچوں کو علم نہ ہو کہ زکوٰۃ ہے؟

جواب: ... آپ اپنے شوہر کے بھائیوں اور بھتیجیوں کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں، آپ کے شوہر بھی دے سکتے ہیں،<sup>(۲)</sup> زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے ان کو بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، خود نیت کر لینا کافی ہے، ان کو خواہ ہدیے، تحفے کے نام سے دی جائے تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔<sup>(۳)</sup>

## غیر مستحق کو زکوٰۃ کی ادائیگی

سوال: ... صدقہ خیرات یا زکوٰۃ کسی شخص کو مستحق سمجھ کر دی جائے، حقیقتاً وہ مستحق نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو مسکین ظاہر کرتا ہو، جیسے آج کل کے اکثر گداگر، تو صدقہ، خیرات یا زکوٰۃ دینے والا ثواب پائے گا؟

جواب: ... زکوٰۃ ادا کرتے وقت اگر گمان غالب تھا کہ یہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو زکوٰۃ ادا ہو گئی،<sup>(۴)</sup> مگر بھیک منگوں کو نہیں دینا چاہئے۔<sup>(۵)</sup>

(۱) ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن كان صحيحا مكتسبا لأنه فقير والفقراء هم المصارف، ولأن حقيقة

الحاجة لا يوقف عليها فادير الحكم على دليلها وهو فقد النصاب. (هداية ج: ۱ ص: ۲۰۷، كتاب الزكاة، باب المصارف).

(۲) ولأب إلى من بينهما ولأب... إلخ. وفي الشرح: وقيد بالولاد لجوازه لبقية الأقارب كالأخوة والأعمام ولأحوال الفقراء

بل هم أولى لأنه صلة وصدقة. (شامی ج: ۲ ص: ۳۳۶). والأفضل في الزكاة..... الصرف أولاً إلى الأخوة

والأخوات ثم إلى أولادهم... إلخ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰، كتاب الزكاة، الباب السابع).

(۳) دفع الزكاة إلى صبيان أقاربه برسم عيد أو إلى مبشر أو مهدى الباكورة جاز. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۵۶، قبيل

باب صدقة الفطر).

(۴) أما لو تحرى فدفعت لمن ظنه غير مصرف أو شك ولم يتحرى لم يجز حتى يظهر أنه مصرف فيجزيه في الصحيح خلافاً

لمن ظن عدمه وتماه في النهر. وفيه: واعلم أن المدفوع إليه لو كان جالساً في صف الفقراء يصنع صنعهم أو كان عليه زبهم

أو سأل فاعطاه كانت هذه الأسباب بمنزلة التحرى... إلخ. (رد المختار ج: ۲ ص: ۳۵۲، مطلب في الحوائج الأصلية).

(۵) ولا يحل أن يسأل شيئاً من القوت من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحاله

لإعانتة على المحرم. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۵۳، ۳۵۵، طبع ايج ايم سعيد).

## کام کاج نہ کرنے والے آدمی کی کفالت زکوٰۃ سے کرنا جائز ہے

سوال: ... ایک شخص جان بوجھ کر کام نہیں کرتا، ہڈ حرام ہے، رشتہ داروں سے دھوکا دہی کرتا ہے، وہ مجبوراً اس کی کفالت کرتے ہیں، کیا زکوٰۃ سے اس کی کفالت جائز ہے اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟  
جواب: ... زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی۔<sup>(۱)</sup>

## کام کاج نہ کرنے والے آدمی کے بچوں اور بیوی کو زکوٰۃ دینا

سوال: ... ایک آدمی ہے، وہ جان بوجھ کر کام نہیں کرتا، گھر پر پڑا رہتا ہے، جبکہ اس کے تین بچے ایک بیوی ہے، اپنا ذاتی مکان بھی نہیں ہے، اس کے بیوی بچوں کا کیا قصور ہے؟ مکان کرایہ کا ہے، کیا ایسے تنگ دست بچوں کو، بیوی کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے؟ یہ بھی ہے کہ جب ہم اس کے بیوی بچوں کو رقم دیں گے تو وہ بھی وہیں سے کھائے گا جبکہ صحت مند ہونے کے باوجود بے کار پھرتا ہے، بیوی بچے بچارے تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس صورت میں آپ واضح فرمائیں کہ زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جاسکتی ہے؟ بچوں کا اس میں کیا قصور ہے؟  
جواب: ... اس کی بیوی بچوں کو زکوٰۃ دے دی جائے۔<sup>(۲)</sup>

## نہ کمانے والے کو زکوٰۃ دینا

سوال: ... میرے سر کا انتقال ہو گیا ہے، اور میرے سالے اگرچہ جوان ہیں مگر کماتے نہیں، حالانکہ ان کے پاس زمین وغیرہ موجود ہے، لیکن نقدی کی صورت میں روپیہ نہیں ہے، کیا میں ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟  
جواب: ... اگر ان کے پاس اتنی مالیت نہیں کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، لیکن ان کو اپنی محنت سے کمانا چاہئے۔<sup>(۳)</sup>

## صاحبِ نصاب مقروض پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟

سوال: ... اگر صاحبِ نصاب مقروض ہو تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ قرض دار پر کسی صورت میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے، چاہے اس کے پاس اتنا روپیہ ہو کہ وہ قرض ادا کر سکتا ہے، مگر نادہند ہے۔  
جواب: ... اصول یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال بھی ہو اور وہ مقروض بھی ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ قرض وضع کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب کے برابر مالیت بچتی ہے یا نہیں؟ اگر قرض وضع کرنے کے بعد نصاب کے برابر مالیت بچ رہتی ہو تو اس پر اس بچت

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱، ۴ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) (منہا الفقیر) وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب. (عالمگیری، باب المصارف ج: ۱ ص: ۱۸۷)۔

(۳) ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب وإن كان صحيحاً مكتسباً. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹)۔



کی زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ قرض ادا کرے یا نہ کرے، اور قرض وضع کرنے کے بعد نصاب کے برابر مالیت نہیں بچتی تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں<sup>(۱)</sup>۔ اس اصول کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔

ایضاً

سوال: ... زید و بکر دو بھائی ہیں، زید نے بکر کو بغرض کاروبار مختلف اوقات میں اچھی خاصی رقم بطور قرض دی، ناگزیر وجوہات کی بنا پر کاروبار میں گھانا ہوتا چلا گیا، زید کافی عرصے سے اپنی رقم کا طلب گار ہے، لیکن بکر کے لئے رقم کی فراہمی ممکن نظر نہیں آتی، اور کاروبار بھی صرف نام کا ہے، تو کیا اب اس کے لئے زکوٰۃ لے کر قرض کی مد میں ادا کرنا شرعاً مناسب ہے؟ نیز اپنوں میں سے کسی کو اتنی یا تھوڑی سی رقم زکوٰۃ کی نکال کر بکر کو دینی چاہئے تاکہ وہ اپنا قرض چکا سکے تو آیا ان کے لئے بھی شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

جواب: ... اگر بکر کا اثاثہ اتنا نہیں کہ وہ قرضہ ادا کر سکے تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے۔<sup>(۲)</sup>

### مقروض کو زکوٰۃ دے کر قرض وصول کرنا

سوال: ... ایک شخص پر ہمارے ۳۳۰۰ روپے قرض تھے، وہ شخص بہت غریب ہے، ہم نے اس شخص کو اتنی رقم بطور زکوٰۃ ادا کر دی اور اس نے وہ رقم ہمیں قرضے میں واپس کر دی، کیا اس طرح ہماری زکوٰۃ ادا ہوگئی؟

جواب: ... آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگئی، اور اس کا قرض ادا ہو گیا۔<sup>(۳)</sup>

### مقروض آدمی کو زکوٰۃ دینا جبکہ اس کے بیٹے کماتے ہوں

سوال: ... ایک آدمی نے باہر ملک جا کر کسی کے ساتھ شراکت پر کاروبار کیا تھا، یہاں اس نے اپنا مکان فروخت کیا اور زیور فروخت کیا ہے اور لوگوں سے پانچ لاکھ قرض لے کر کاروبار میں لگایا، اور جہاں کاروبار کیا وہ اس کے دوسرے ساتھی کے نام دکان تھی، جب کام چل گیا تو اس ساتھی نے کہا کہ تمہارا اس دکان میں کچھ بھی نہیں ہے، تم پاکستان واپس چلے جاؤ، کوئی لکھا پڑھی تحریر نامہ نہیں تھا، دکان ساتھی کے اپنے نام تھی، اس آدمی کو واپس پاکستان آنا پڑا، جبکہ اس کے ذمے لاکھوں روپیہ قرضہ ہے، لینے والے دن رات پریشان اور بے عزت کرتے ہیں، جبکہ ان کا ایک بیٹا حال ہی میں ملازم ہوا ہے اور تین بیٹے معمولی دکان داری کرتے ہیں، اور وہ خود بھی ایک دکان پر جو کسی کی ہے کام کرتے ہیں، مکان کرایہ کا ہے، جو تھوڑا بہت لاتے ہیں وہ قرض والے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، کیا ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے؟ ان کی دکان اپنی ذاتی ہے، جس میں بچے کاروبار کرتے ہیں، جو کہ لاکھوں روپے کی فروخت

(۱) ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكوة ..... وان كان ماله اكثر من دينه زكى الفاضل اذا بلغ نصاباً بالفراغة عن الحاجة. (هداية ج: ۱ ص: ۱۸۶، كتاب الزكاة).

(۲) ومنها الغارم وهو من لزمه دين ولا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه كذا في التبيين. والدفع إلى من عليه الدين أولى من الدفع إلى الفقير كذا في المصمرات. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۸).

(۳) وحيلة الجواز ان يعطى مديونه الفقير زكوة ثم يأخذها عن دينه. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۷۱).

ہو سکتی ہے، اس لئے نہیں کرتے کہ پھر بچوں کے کاروبار کا کیا بنے گا، ایسے خاندان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟  
جواب: ... قرض ادا کرنے کے لئے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

### مقروض کو زکوٰۃ دے کر اُس سے اپنا قرض واپس لینا

سوال: ... میری خالہ جو کہ امریکا میں مقیم ہیں، انہوں نے مجھے ۷۰۰۰ روپے زکوٰۃ کی مد میں بھیجے کہ کسی مستحق کو ادا کر دوں۔ کچھ عرصہ پہلے کسی خاتون نے کچھ رقم مجھ سے اُدھار لی تھی، لیکن اب وہ اس حالت میں نہیں ہیں کہ میری رقم مجھے واپس کر سکیں۔ آپ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کہ اگر میں اپنے اُدھار کی رقم واپس نہ لوں (جبکہ اُن کی حالت دینے کے قابل نہیں ہے) اور اپنی خالہ کی بھیجی ہوئی رقم میں تبدیل کر لوں تو کیا یہ مناسب رہے گا جبکہ وہ خاتون زکوٰۃ بھی لیتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ان پر سے قرضے کا بوجھ بھی ختم ہو جائے اور میں بھی اپنے قرض کو ادا کر دوں، یعنی خالہ کی امانت کو مستحق تک پہنچا دوں۔

جواب: ... ان کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں، اور پھر ان سے اپنے قرض میں وصول کر لیں۔<sup>(۲)</sup> زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت سے دی جائے۔<sup>(۳)</sup> اگر رقم بطور قرض کے دی ہو تو بعد میں زکوٰۃ کی نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جس خاتون نے آپ سے رقم اُدھار لی ہے، اس کا حل یہ ہے کہ آپ کسی عورت کے ذریعے اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دیں، (بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے) جب وہ آپ کے سامنے اس کو زکوٰۃ کی رقم دیدے تو آپ خاتون سے کہیں کہ وہ آپ کا قرض ادا کر دے۔

### کسی قرض دار کا قرض زکوٰۃ سے ادا کرنا

سوال: ... زکوٰۃ کی رقم سے اپنی سہیلی کے شوہر کا قرض یا کسی اور کا کسی عزیز رشتہ دار کا قرض اُتار سکتے ہیں؟  
جواب: ... اگر وہ محتاج ہو تو ان کو قرض ادا کرنے کے لئے زکوٰۃ کی رقم دینا صحیح ہے۔<sup>(۴)</sup>

### کیا اُدھار دی ہوئی رقم میں زکوٰۃ کی نیت ہو سکتی ہے؟

سوال: ... کچھ لوگ اُدھار لے کر چلے جاتے ہیں، کافی وقت گزرنے کے بعد ملنے کی اُمید نہیں ہوتی، کیا ہم ان قرض کے پیسوں کی زکوٰۃ کی نیت کر لیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے تو ہم اس کو زکوٰۃ میں نیت کے مطابق کسی غریب کو دے دیں؟  
جواب: ... زکوٰۃ ادا ہو جانے کی شرط یہ ہے کہ رقم دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کی جائے،<sup>(۵)</sup> یا جب تک فقیر کے پاس وہ رقم بعینہ

(۱) ومنها الغارم وهو من لزمه دين ولا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه. (عالمگیری، باب المصارف ج: ۱ ص: ۱۸۸)۔

(۲) حيلة الجواز ان يعطى المديون الفقير خمسة زكوة ثم يأخذها منه قضاء عن دينه. (بحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۲۸)۔

(۳) و شرط أدائها نية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب... الخ. (بحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۲۶، كتاب الزكاة)۔

(۴) فإن كان مديوناً فدفع إليه مقدار ما لو قضى به دينه لا يبقى له شيء أو يبقى دون المائتين لا بأس به. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۸، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف)۔

(۵) وأما شرط أدائها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۰، كتاب الزكاة)۔

محفوظ ہو اس وقت تک نیت کی جاسکتی ہے، لیکن اگر قرض کی نیت سے رقم دی اور قرض لینے والے نے وہ رقم خرچ کر لی، اب زکوٰۃ کی نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اگر مقرض محتاج ہو تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دی جائے، اور دینے کے بعد اپنے قرض میں وصول کر لی جائے۔<sup>(۱)</sup>

## پگڑی کا مکان اور گھر میں پندرہ بیس ہزار اشیاء والے کو بچی کی شادی کے لئے زکوٰۃ دینا

سوال: ... ایک فرد نے زکوٰۃ کی رقم سے بچی کی شادی کے لئے مدد کی درخواست دی ہے۔ اس کے گھر میں پندرہ بیس ہزار روپے کی اشیاء ہیں، اور پگڑی کا مکان بھی ہے، لیکن آج کل کے دور میں شادی کے لئے جو کم از کم ضروریات ہیں وہ شخص نہیں پورا کرنے سے قاصر ہے۔ مثلاً فرنیچر، برتن، کچھ کپڑے، باہر سے باراتیوں کی آمد پر ان کے لئے طعام و قیام کا بندوبست وغیرہ، کیا یہ شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے؟

جواب: ... استعمال کی اشیاء کے علاوہ اگر اس کے پاس ساڑھے باون تو لے چاندی مالیت کی پونجی ہو، خواہ زیور اور روپے پیسے کی شکل میں، وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں، یہ شخص جو بچی کی شادی کرنا چاہتا ہے کسی سے قرض لے کر خرچ کر لے، بعد میں قرض ادا کرنے کے لئے اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے۔<sup>(۲)</sup>

## مستحق کو زکوٰۃ میں مکان بنا کر دینا اور واپسی کی توقع کرنا

سوال: ... بحمد اللہ! آج کل زکوٰۃ و عشر کے نفاذ اور سود کے خاتمے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں قوانین شرعی کا نفاذ عمل میں لایا جا رہا ہے۔

بلسلسہ زکوٰۃ و عشر کی تقسیم، مستحقین کے ضمن میں صاحب صدر و وزیر خزانہ نے گزشتہ دنوں مختلف موقعوں پر فرمایا تھا کہ زکوٰۃ کی تقسیم کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ یہ مستحق کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور اس کو اس طرح تقسیم کیا جائے کہ مستقبل میں وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہ رہے، یعنی قلیل صورت میں نہیں، بلکہ ایسی معاونت ہو کہ مستحق کا مستقبل سنور جائے۔

لہذا کیا ایسے افراد میں بھی زکوٰۃ تقسیم کی جاسکتی ہے جو ”غریب الوطنی“ کی زندگی گزر رہے ہیں؟ یعنی جن کے پاس ابھی تک مستقل رہائش کا کوئی مکان ذاتی نہیں، قطعہ زمین ہے، لیکن ملازمانہ زندگی کی نہایت قلیل آمدنی میں صرف کھانے پہننے کے لئے ہی مشکل سے ہوتا ہو، یا اور کسی وجہ سے نہایت مفلوک الحالی کے سبب ذاتی رہائش مکان اپنے حاصل کردہ قطعہ زمین میں موجودہ دور کی شدید گرانی میں تعمیر کرانے کا عملاً تصور بھی نہ کر سکتے ہوں۔

کیا ایسی صورت میں تعمیر مکان کے لئے تعمیراتی تخمینے کے مطابق یک مشت رقم زکوٰۃ سے دی جاسکتی ہے تاکہ ایک کنبہ اور

(۱) حيلة الجواز أن يعطى مديونه الفقير زكوته ثم يأخذها عن دينه. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۷۱)۔

(۲) المصارف: بلخ منها الفقير وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة فلا يخرج عن الفقر. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۷، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف)۔

خاندان کا سرچھپ جائے؟ علاوہ ازیں کیا زکوٰۃ لینے والا ایسا مستحق، تعمیراتی مراحل مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ کی رقم واپس اقساط میں رضا کارانہ طور پر ادا کر سکتا ہے؟

جواب: ... ایسے غریب اور نادار لوگ جو نصاب کے بقدر اثاثہ نہ رکھتے ہوں ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے،<sup>(۱)</sup> اور اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے مکان بنا کر ان کو مکان کا مالک بنا دیا جائے، ایسے غریب و ناداروں سے رقم کی واپسی کی توقع رکھنا عبث ہے، اس لئے رضا کارانہ واپسی کا سوال خارج از بحث ہے۔

### صاحبِ نصاب کے لئے زکوٰۃ کی مد سے کھانا

سوال: ... میں مدرسہ میں قرآن مجید حفظ کر رہا ہوں، اور میری عمر تقریباً بیس سال ہو چکی ہے، اور ہمارے گھریلو حالات بھی بہت اچھے ہیں، اور گھر کی ساری آمدنی اور اخراجات مجھ سے تین بڑے بھائیوں کے ہاتھوں میں ہے، جبکہ میرا مدرسہ میں کھانا پینا اور رہنا سہنا ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ دینی مدارس کا گزارہ اکثر زکوٰۃ، خیرات اور چرم قربانی سے ہوتا ہے، مہربانی فرما کر یہ بتائیں کہ مدرسہ کا یہ کھانا مجھ پر جائز ہے یا ناجائز؟

جواب: ... اگر والدین کی جائیداد سے آپ کو اتنا حصہ ملا ہے کہ آپ صاحبِ نصاب ہیں تو زکوٰۃ کی مد سے کھانا آپ کے لئے جائز ہی نہیں۔<sup>(۲)</sup>

### معذور لڑکے کے باپ کو زکوٰۃ دینا

سوال: ... ایک سرکاری ملازم گریڈ نمبر ۱ کا ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً دس سال ہے، دماغی عارضہ میں مبتلا ہے، اور اس کا باپ اس کی کفالت کرتا ہے، اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے، دوا علاج بھی کرتا ہے، اس لڑکے کے دماغی عارضے کی بنا پر ہماری زکوٰۃ کمیٹی نے زکوٰۃ فنڈ سے ماہانہ وظیفہ مقرر کر رکھا ہے، اور ہر ماہ دیا جا رہا ہے۔ مریض لڑکے کا باپ سرکاری ملازمت کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے فراہم کردہ کوارٹرز میں رہتا ہے، کیا ایسی حالت میں لڑکے کا باپ زکوٰۃ کا مستحق ہے؟

جواب: ... اگر اس لڑکے کا باپ نادار ہے تو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔<sup>(۳)</sup> بعض عیال دار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صاحبِ نصاب نہیں ہوتے، ان کا روزگار بھی ان کے مصارف کے لئے کافی نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔<sup>(۴)</sup>

(۱) دیکھئے ص: ۱۵۸ کا حاشیہ نمبر ۱۔

(۲) دیکھئے ص: ۱۵۶ کا حاشیہ نمبر ۱۔

(۳) دیکھئے ص: ۱۵۸ کا حاشیہ نمبر ۱۔

(۴) وكذا لو كان له حوانيت أو دار غلة تساوي ثلاثة آلاف درهم وغلته لا تكفي لقوته وقوت عياله يجوز صرف الزكاة في قول محمد رحمه الله تعالى. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

## نادار کو زکوٰۃ دینا اور نیت

سوال: ... ہمارے جاننے والوں میں ایک سفید پوش سے آدمی ہیں، مگر مالی اعتبار سے بہت کمزور ہیں، ریڑھی لگاتے ہیں، بیوی ٹی بی کی مریض ہے، وہ گھر سے کچھ پنے کباب وغیرہ بنا دیتی ہے، اور وہ جا کر فروخت کر آتے ہیں، دو تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا ذاتی مکان ہے، کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے؟ اور اگر وہ زکوٰۃ لینا پسند نہ کرے تو ان کو بغیر بتائے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟

جواب: ... ذاتی مکان اور ریڑھی لگانے کے باوجود اگر وہ نادار اور ضرورت مند ہیں تو ان کی زکوٰۃ دینا صحیح ہے۔<sup>(۱)</sup> زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے اس کو یہ بتانا شرط نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، تحفہ اور ہدیہ کہہ کر دے دیا جائے اور نیت زکوٰۃ کی کر لی جائے تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔<sup>(۲)</sup>

## کیا نصاب کی قیمت والی بھینس کا مالک زکوٰۃ لے سکتا ہے؟

سوال: ... اگر ایک آدمی کے پاس ایک گھڑی ہے، یا ایک گائے ہے یا بھینس ہے جس کی قیمت نصاب کے برابر ہے، اس آدمی کے لئے زکوٰۃ کی رقم، فطرانہ کی رقم لینا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: ... یہ چیزیں جو سوال میں ذکر کی ہیں، حوائجِ اصلیہ میں شامل ہیں، اس لئے یہ شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے۔<sup>(۳)</sup>

## امام کو زکوٰۃ دینا

سوال: ... امام مسجد کے لئے زکوٰۃ جائز ہے؟

جواب: ... اگر وہ محتاج اور فقیر ہے تو جائز ہے، ورنہ نہیں، محض امام مسجد ہونے کی وجہ سے تو کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہو جاتا،<sup>(۴)</sup> امامت کی اجرت کے طور پر زکوٰۃ دینا بھی صحیح نہیں۔<sup>(۵)</sup>

## امام مسجد کو تنخواہ زکوٰۃ کی رقم سے دینا جائز نہیں

سوال: ... ہمارے علاقے میں یہ دستور ہے کہ جب ایک عالم کو اپنا پیش امام بناتے ہیں تو اس کے لئے کسی قسم کی تنخواہ یا نفقہ

(۱) ویجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب وان كان صحيحاً مكتسباً كذا في الزاھدی۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹، کتاب الزکاة، الباب السابع فی المصارف)۔

(۲) قوله فيه أشار إلى أنه لا إعتبار للتسمية فلو سماها هبة أو قرضاً تجزیه۔ (رد المختار ج: ۲ ص: ۲۶۸)۔

(۳) وفارغ عن حاجته الأصلية وهي ما يدفع الهلال من الإنسان تحقيقاً كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والسياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد..... وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب... إلخ۔ (شامی ج: ۲ ص: ۲۶۲)۔

(۴) منها الفقير وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة فلا يخرج عن الفقر ملك نصب كثيرة غير نامية إذا كانت مستغرقة بالحاجة كذا في فتح القدير۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۷)۔

(۵) ولا تحسب أجره العمال ونفقة البقر وكري الأنهار وأجرة الحافظ وغير ذلك... إلخ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۷، کتاب الزکاة، الباب السادس فی زکاة الزرع والثمار)۔

مقرر نہیں کرتے، بلکہ علاقے کی رسم یہ ہے کہ لوگ یعنی محلے والے اس امام کو زکوٰۃ دیتے ہیں، پہلے سے یہ طے نہیں ہوتا کہ میں امامت کروں گا تو تم مجھ کو زکوٰۃ دینا، اس لئے پیش امام کو زکوٰۃ دینا امام کو بھی معلوم ہے کہ رسم کی وجہ سے ہے اور قوم کو بھی۔ کیا اس طرح امامت کرنے سے قوم کی زکوٰۃ نکلتی ہے یا نہیں؟ اور پیش امام کے لئے اس طرح امامت کرنے میں کچھ قباحت ہے یا نہیں؟

جواب: ... اگرچہ امام صاحب سے یہ بات طے نہیں ہوئی کہ ان کو زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ دی جائے گی، لیکن چونکہ ”المعروف کا مشروط“ کے اصول کے مطابق کہ جو چیز پہلے سے ذہن میں طے شدہ ہے، وہ ایسی ہے جیسے کہ اس کی شرط لگائی جائے۔ چنانچہ جب امام صاحب اور زکوٰۃ دینے والوں کے ذہنوں میں یہ بات پہلے سے ہے کہ اس امام کی کوئی تنخواہ مقرر نہیں کی جائے گی اور اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جاتی رہے گی، لہذا زکوٰۃ کی رقم سے امام کو تنخواہ یا بالفاظ دیگر اس کی امامت کی اجرت دینا جائز نہیں<sup>(۱)</sup>۔ البتہ اگر اس کو امامت کی اجرت الگ دی جاتی ہو، پھر غریب، محتاج ہونے کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ دے دی جائے تو صحیح ہے۔<sup>(۲)</sup>

## جیل میں زکوٰۃ دینا

سوال: ... جیل کے اندر نماز جمعہ اور زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا جیل کے اندر مستحق قیدی کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب: ... جیل میں نماز تو باجماعت پڑھنی چاہئے، مگر جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز پڑھنی چاہئے۔<sup>(۳)</sup> جیل کے قیدیوں میں جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہوں ان کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔<sup>(۴)</sup>

## بھیک مانگنے والوں کو زکوٰۃ دینا

سوال: ... رمضان المبارک میں کراچی میں ملک کے مختلف حصوں سے بڑے پیمانے پر خانہ بدوش آتے ہیں، یہ لوگ کراچی کے علاقوں میں زکوٰۃ، خیرات مانگتے ہیں، شرعی نقطہ نظر سے بتائیے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ دینا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: ... بہت سے بھیک مانگنے والے خود صاحب نصاب ہوتے ہیں، اس لئے جب تک یہ اطمینان نہ ہو کہ یہ واقعی محتاج ہے، اس کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا صحیح نہیں۔<sup>(۵)</sup>

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۵ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) ولو نوى الزكوة بما يدفع المعلم الى الخليفة ولم يستاجرہ ان كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان أيضا أجزاءه والآفلا۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰، کتاب الزکاة، الباب السابع فى المصارف)۔

(۳) ومنها الإذن العام وهو أن تفتح أبواب الجامع فيؤذن للناس كافة حتى ان جماعة لو اجتمعوا فى الجامع وأغلقوا أبواب المسجد على أنفسهم وجمعوا لم يحز... الخ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۴۸، کتاب الصلاة، الباب السادس عشر)۔

(۴) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۵ ملاحظہ فرمائیں۔

(۵) ولا يحل أن يسأل شيئاً من القوت من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانتة على الحرم۔ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۵۴، ۳۵۵، طبع ایچ ایم سعید)۔

## مدرسے کا چندہ مانگنے والوں کو بغیر تحقیق کے زکوٰۃ دینا

سوال: ... یہ جوگلیوں میں مدرسے کا چندہ مانگتے پھرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ وغیرہ یا کوئی پیسہ دینا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: ... مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ جب تک تحقیق نہ ہو، کیا کہہ سکتا ہوں...؟

## ساڑھے چار ہزار روپے مالیت کے سونے کے مالک کو زکوٰۃ دینا

سوال: ... اگر نصاب کی مالیت مثلاً: ۳,۵۰۰ روپے ہو، تو کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جس کے پاس اتنی رقم یا اس

سے زیادہ کا زیور وغیرہ ہو؟ علاوہ ازیں فریج، وی سی آر، ٹی وی وغیرہ بھی ہو؟

جواب: ... اس شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔<sup>(۱)</sup>

## جس گھر میں ٹی وی، وی سی آر ہو، اُس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں

سوال: ... آج کل عام طور پر جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، ان کے گھروں میں ٹی وی، فریج، وی سی آر، وغیرہ اور بہت سی

چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ صرف ٹی وی ہی چار سے پانچ ہزار تک کا ہوتا ہے، جو کہ ساڑھے باون تو لے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، ایسی

صورت میں ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے؟

جواب: ... جن کے گھروں میں ٹی وی، وی سی آر ہو، ان کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں

سوال: ... کیا غیر مسلم یعنی عیسائی عورتیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں، زکوٰۃ، خیرات یا صدقہ کی مستحق ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ یہ

لوگ بھی غریب ہی ہوتی ہیں، محنت سے اپنا گزارہ بمشکل کرتی ہیں۔

جواب: ... غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا درست نہیں، نقلی صدقہ دے سکتے ہیں۔<sup>(۳)</sup> مگر اجرت میں نہ دیا جائے۔<sup>(۴)</sup>

(۱) المصارف إلخ منها الفقير وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة.

(عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۷، کتاب الزکاة، الباب السابع فی المصارف).

(۲) ولا يجوز دفع الزکوٰۃ إلى من يملك نصاباً أي مال كان ..... فاضلاً عن حاجته. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹،

کتاب الزکاة، الباب السابع فی المصارف).

(۳) وأما أهل الذمة فلا يجوز صرف الزکوٰۃ إليهم بالإتفاق ويجوز صرف صدقة التطوع إليهم بالإتفاق ..... وأما

الحربی المستامن فلا يجوز دفع الزکوٰۃ والصدقة الواجبة إليه بالإجماع ويجوز صرف التطوع إليه كذا في السراج الوهاج.

(عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۸، کتاب الزکاة، الباب السابع فی المصارف).

(۴) ص: ۱۶۳ کا حاشیہ نمبر ۵ ملاحظہ کیجئے۔

## غیر مسلم کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا درست نہیں

سوال: ... عرصہ دراز سے عیدین کے قریب ترین دنوں میں قافلے کے قافلے غیر مسلم خانہ بدوشوں کے کراچی و دیگر شہروں کی طرف زکوٰۃ و فطرانہ وصول کرنے پہنچ جاتے ہیں، ان خانہ بدوشوں میں اکثریت غیر مسلموں کی ہوتی ہے، کیا غیر مسلموں کو زکوٰۃ و فطرانہ دیا جاسکتا ہے؟ اور کیا یہ مسلمان فقراء کا حق نہیں ہے؟ اور اگر یہ مسلمان مسکین و فقراء کا حق ہے تو جو لوگ ان غیر مسلموں کو زکوٰۃ و فطرانہ دیتے ہیں، کیا ان کی زکوٰۃ و فطرانہ ادا ہو جاتا ہے؟

جواب: ... زکوٰۃ و صدقہ فطر صرف مسلمان فقراء کو دیا جاسکتا ہے،<sup>(۱)</sup> جن لوگوں نے غیر مسلموں کو دیا ہو، وہ دوبارہ ادا کریں۔

## غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا

سوال: ... کیا غیر مسلم کو خیرات دی جاسکتی ہے؟ کیونکہ آج کل جمعہ اور عیدین میں غیر مسلم بھی مانگنے والے ہوتے ہیں؟

جواب: ... غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، صدقہ خیرات دینا جائز ہے۔<sup>(۲)</sup>

## زکوٰۃ سے کرایہ، ڈاکٹر کی فیس ادا کرنے سے زکوٰۃ کی ادائیگی

سوال: ... ایک مفت ڈسپنسری کھولنے کا ارادہ ہے، جس میں تمام ادویات، کرایہ اور ڈاکٹر کی تنخواہ زکوٰۃ کی مد سے دی جائے، صرف ڈسپنسری پر لکھ دیا جائے گا کہ یہاں سے وہی لوگ دوائی لے سکتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، کیا صرف اتنا لکھ دینا کافی ہے؟ ڈسپنسری میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کیا اس طرح کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟

جواب: ... جو دوائیاں غریب مستحق افراد کو دی جائیں، ان میں زکوٰۃ کی نیت صحیح ہے۔ کرایہ اور ڈاکٹر کی فیس مقرر کر دی جائے، اور غریبوں کو فیس کی رقم زکوٰۃ میں نقد دے دی جائے، وہ ڈاکٹر کو دے دیں، یہ جائز ہے، واللہ اعلم!<sup>(۳)</sup>

## اگر ڈاکٹر کی فیس زکوٰۃ سے ادا کر دی جائے تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟

سوال: ... اگر کسی کا علاج کرایا جائے اور ہسپتال کا بل اور ڈاکٹر کی فیس ہسپتال میں جمع کرادی جائے، اور مریض کو ملکیت میں نہ دی جائے تو کیا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی؟

جواب: ... جی نہیں! مریض کو مالک بنا دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ نہیں، بشرطیکہ مریض مستحق زکوٰۃ ہو۔<sup>(۴)</sup>

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمی ويدفع إليه ما سوى ذلك من الصدقة. (هدایة ج: ۱ ص: ۱۸۵، کتاب الزکاة).

(۳) إذا دفع الزكاة إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضه. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰، کتاب الزکاة، الباب السابع).

(۴) ولا يجوز أن يبني بالزكاة المسجد ..... وكل ما لا تملك فيه. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۸، کتاب الزکاة).



## زکوٰۃ فنڈ سے مریضوں کو دوائی خرید کر دینا

سوال: ... انجمن دہلی راعیان کے زیر اہتمام ایک میڈیکل سینٹر نئی کراچی میں رفاہی بنیادوں پر کام کر رہا ہے، یہاں پر غریب مریضوں کو دوائی زکوٰۃ فنڈ سے دی جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ ہر مریض سے نوکن منی کے طور پر ۵ روپے لئے جاتے ہیں، کیا اس پیسے سے ڈاکٹر اور کمپاؤنڈر کی تنخواہ دی جاسکتی ہے؟

جواب: ... جو غریب غرباء زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ کی رقم سے دوائی خرید کر دی جاسکتی ہے، اور ڈاکٹر اور کمپاؤنڈر کی فیس کے لئے ان کو نقد رقم دے دی جائے، اور وہ ڈاکٹر، کمپاؤنڈر کو فیس ادا کر دیں۔<sup>(۱)</sup>

## غیر مسلموں کو زکوٰۃ

سوال: ... کیا غیر مسلم (ہندو، سکھ، عیسائی، قادیانی، پارسی وغیرہ) کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، جبکہ سینکڑوں مستحقین مسلمان موجود ہوں؟

سوال: ... حکومت بینکوں میں جمع شدہ رقوم سے صرف مسلمانوں کے اکاؤنٹوں سے زکوٰۃ منہا کرتی ہے، جبکہ اس زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ کالجز کے طلبہ کو بطور اعانت دیا جاتا ہے، ان طلبہ میں مسلمان طلبہ کے علاوہ قادیانی، ہندو سبھی شامل ہوتے ہیں، آپ سے یہ دریافت کرنا ہے کہ آیا زکوٰۃ کا یہ مصرف اسلام کے عین مطابق ہے یا اس میں اختلاف ہے؟

جواب: ... زکوٰۃ کا مصرف صرف مسلمان ہیں، کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں،<sup>(۲)</sup> اگر حکومت زکوٰۃ کی رقم غیر مسلموں کو دیتی ہے اور صحیح مصرف پر خرچ نہیں کرتی تو اہل زکوٰۃ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔

## زکوٰۃ اور کھالیں ان تنظیموں کو دیں جو صحیح مصرف میں خرچ کریں

سوال: ... مختلف تنظیمیں زکوٰۃ اور قربانی کی کھالیں جمع کرتی ہیں، جبکہ یہ ان کے ذریعے جو رقوم حاصل ہوتی ہیں اس کا حساب بھی پیش نہیں کرتیں، نہ ہی اخراجات کا، تو کیا اس صورت میں ان کو زکوٰۃ اور قربانی کی کھالیں دینے سے زکوٰۃ اور قربانی ادا ہو جاتی ہے؟

جواب: ... زکوٰۃ اور چرم قربانی کی رقم کا کسی محتاج کو مالک بنانا ضروری ہے، اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی،<sup>(۳)</sup> اور قربانی کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ پس جن اداروں اور تنظیموں کے بارے میں پورا اطمینان ہو کہ وہ زکوٰۃ کی رقم کو ٹھیک طریقے سے صحیح مصرف پر

(۱) إذا دفع الزکوٰۃ إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰، کتاب الزکاة، الباب السابع فی المصارف)، ولا يجوز أن يبنى بالزکوٰۃ المسجد..... وكل ما لا تملك فيه۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۸)۔

(۲) ص: ۱۶۶ کا حاشیہ نمبر ۳ ملاحظہ ہو۔

(۳) أما تفسیرها فهي تملك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاہ بشرط قطع المنفعة عن المملك من كله وجه لله تعالى هذا فی الشرع کذا فی التبيين۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۰، کتاب الزکاة)۔

خرچ کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینی چاہئے اور جن کے بارے میں یہ اطمینان نہ ہو ان کو دی گئی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، ان لوگوں کو چاہئے کہ اپنی زکوٰۃ دوبارہ ادا کریں۔

## دینی مدارس کو زکوٰۃ دینا بہتر ہے

سوال: ...مدارس عربیہ میں زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: ... زکوٰۃ دینا جائز ہی نہیں بلکہ بہتر ہے<sup>(۱)</sup>، کیونکہ غرباء و مساکین کی اعانت کے ساتھ ہی ساتھ علوم دینیہ کی سرپرستی

بھی ہوتی ہے۔

## کیا زکوٰۃ اور چرم قربانی مدرسہ کو دینا جائز ہے؟

سوال: ... مال زکوٰۃ اور چرم قربانی تعمیر مدارس عربیہ و تنخواہ مدرسین وغیرہ میں صرف کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ چونکہ یہاں کے

کسی خطیب صاحب نے جمعہ کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ تعمیر مدارس و تنخواہ مدرسین میں یہ مال صرف کرنا جائز ہے،

جس کی وجہ سے لوگوں کو شبہ ہوا، کیونکہ عرصہ دراز سے لوگ مال زکوٰۃ یا چرم قربانی، بوجہ خدمت دین مدارس میں دیتے تھے، اور اب

انہوں نے دوسرے مساکین کو دینا شروع کیا، جس کی وجہ سے مدارس کو ظاہری طور پر نقصان ہوا، اس لئے براہ کرم وضاحت فرمادیں

تاکہ عوام الناس کے دلوں سے شکوک رفع ہو جائیں، اور مہتممین حضرات بھی صحیح طریقے سے یہ مال صرف کریں۔

جواب: ... زکوٰۃ، چرم قربانی اور صدقات واجبہ سے نہ مدرسہ کی تعمیر ہو سکتی ہے<sup>(۲)</sup>، اور نہ مدرسین کی تنخواہ میں دینا درست

ہے<sup>(۳)</sup>، مگر چونکہ مدارس عربیہ کی زیادہ آمدنی اسی مد سے ہوتی ہے، اس لئے بذریعہ تملیک یہ رقم استعمال کی جاتی ہے، تملیک کی صحیح

صورت کسی صاحب علم سے دریافت کر لیں۔

## زکوٰۃ کی رقم سے مدرسہ اور مطب چلانے کی صورت

سوال: ... ہمارے ایک دوست اورنگی ٹاؤن میں ایک دینی مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں، جس میں مقامی بچوں کو حفظ و ناظرہ

تعلیم قرآن دی جائے گی اور بعدہ اس میں رعایتی مطب کھولنے کا ارادہ ہے، دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا مدرسہ کی توسیع اور تعمیر اور

معلم کی تنخواہ زکوٰۃ، صدقات سے ادا کی جاسکتی ہے؟ کیا مطب کی مد میں زکوٰۃ، صدقات، عطیات کی رقم لی جاسکتی ہے؟

جواب: ... بغیر تملیک کے زکوٰۃ کی رقم مسجد، مدرسہ اور مدرسین کی تنخواہ میں استعمال نہیں ہو سکتی، اس کی تدبیر یہ ہے کہ کوئی

(۱) التصدق علی الفقیر العالم أفضل من التصدق علی الجاهل کذا فی الزاہدی۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۷)۔

(۲) ولا یجوز أن یبني بالزکوٰۃ المسجد و کذا القناطر و السقايات و اصلاح الطرقات و کرى الأنهار و الحج و الجهاد و کل ما

لا تملیک فیہ... الخ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۸، کتاب الزکاۃ، الباب السابع فی المصارف)۔

(۳) ص: ۱۶۷ کا حاشیہ نمبر ۴ ملاحظہ ہو۔

محتاج آدمی قرض لے کر مدرسہ میں دے دے، اور زکوٰۃ کی رقم سے اس کا قرض ادا کر دیا جائے، یعنی زکوٰۃ کی رقم اس کو دے دی جائے، جس سے وہ اپنا قرض ادا کرے۔ مطب کا بھی یہی حکم ہے۔<sup>(۱)</sup>

## زکوٰۃ کی رقم سے لحاف خرید کر طلباء کو صرف استعمال کے لئے دینا

سوال: ... ایک دینی مدرسے کے سفیر میرے پاس تشریف لائے، اور اپنے مدرسے میں سردی کے لئے لحاف کی ضرورت بیان کی، اور اس کے لئے زکوٰۃ کی رقم مانگی۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ زکوٰۃ کی رقم لحافوں کے لئے کس طرح استعمال کریں گے؟ تو انہوں نے وضاحت کی کہ زکوٰۃ کی رقم سے لحاف بنا کر مدرسے میں رکھ لیتے ہیں، سردی کے موسم میں طالب علموں کو استعمال کے لئے دے دیئے جاتے ہیں، پھر واپس لے لئے جاتے ہیں۔ جب طالب علم مدرسے سے فارغ ہو جائے تو اسے اپنے ساتھ لحاف لے جانے کی اجازت بھی نہیں۔

محترم مولانا صاحب! آپ وضاحت فرمائیں کہ کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت کسی کو مالک بنانا ضروری ہے۔

جواب: ... جی ہاں! زکوٰۃ کی رقم کا فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اس لئے لحافوں کی جو صورت آپ نے لکھی ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، البتہ اگر نادر طلبہ کو ان لحافوں کا مالک بنا دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔<sup>(۲)</sup>

## زکوٰۃ سے شفا خانے کا قیام

سوال: ... ایک برادری کے لوگ زکوٰۃ وصول کر کے اس فنڈ سے ڈسپنری قائم کرنا چاہتے ہیں، دوایاں زکوٰۃ فنڈ کی رقم سے خریدی جائیں گی، ڈاکٹروں کی فیس، جگہ کا کرایہ اور دیگر اخراجات زکوٰۃ سے خرچ کئے جائیں گے، جبکہ ڈسپنری سے ہر شخص امیر و غریب دوائی لے سکے گا۔

ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جیسا کہ ادارہ زکوٰۃ وصول کرتا ہے تو وہ زکوٰۃ مستحقین میں تقسیم کرنے کے بعد بیچ جاتی ہے، آیا ادارہ اس زکوٰۃ کو اسی سال ختم کر دے یا اسے آئندہ سال بھی تقسیم کر سکتا ہے؟ برائے کرم اس کا جواب بھی ضروری لکھیں۔

جواب: ... زکوٰۃ کی رقم کا مالک کسی مستحق کو بنانا ضروری ہے۔<sup>(۳)</sup> اس لئے نہ تو اس سے ڈسپنری کی تعمیر جائز ہے، نہ

(۱) ولو قضی دین الفقیر بزکوٰۃ مالہ ان کان بامرہ جاز وان کان بغير امرہ لا يجوز وسقط الدين۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰)۔ وفي الفتاوى الظهيرية: والدفع الى من عليه الدين أولى من الدفع الى الفقير۔ (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۶۰)۔

وحيلة التكفين بها التصديق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمیر المسجد... الخ۔ قوله لیكن الثواب لهما أى ثواب الزکوٰۃ للمزكى وثواب التكفين للفقير۔ (شامی ج: ۲ ص: ۲۷۱، مطلب فی زكاة ثمن المبيع وفاء)۔

(۲) إذا دفع الزکوٰۃ الى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰، كتاب الزكاة، الباب السابع)۔

(۳) ایضاً۔

(۴) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ ہو۔

ڈاکٹروں کی فیس،<sup>(۱)</sup> نہ آلات کی خرید،<sup>(۲)</sup> نہ صاحب حیثیت لوگوں کو اس میں سے دوائیاں دینا جائز ہے،<sup>(۳)</sup> البتہ مستحق لوگوں کو دوائیاں دے سکتے ہیں۔<sup>(۴)</sup>

جہاں تک سال ختم ہونے سے پہلے زکوٰۃ کی رقم خرچ کر دینے کا سوال ہے، تو یہ اصول ذہن میں رہنا چاہئے کہ جب تک آپ یہ رقم مستحقین کو نہیں دے دیں گے، تب تک مالکان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لئے جہاں تک ممکن ہو اس رقم کو جلدی خرچ کر دینا چاہئے۔

### مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ لگانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی

سوال: ... ایک مسجد ہے جو کمیٹی کے ماتحت چل رہی ہے، تو اس کمیٹی کا مال زکوٰۃ قبضہ کر کے اس زکوٰۃ کے مال کو مسجد میں خرچ کرنا کیسا ہے؟

جواب: ... زکوٰۃ کا روپیہ مسجد میں لگانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔<sup>(۵)</sup>

### تبلیغ کے لئے بھی کسی کو مالک بنائے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی

سوال: ... زکوٰۃ کی رقم سے تبلیغ کے کاموں میں کسی قسم کی معاونت ہو سکتی ہے؟

جواب: ... زکوٰۃ کی رقم میں تملیک شرط ہے،<sup>(۶)</sup> یعنی جو شخص زکوٰۃ کا مستحق ہو اسے اتنی رقم کا مالک بنا دیا جائے، تملیک کے بغیر کارخیر میں خرچ کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔

### زکوٰۃ کی رقم سے کیڑوں مکوڑوں اور پرندوں کو دانہ ڈالنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی

سوال: ... کیا زکوٰۃ کی رقم سے پرندوں، چڑیوں وغیرہ کو دانہ ڈال سکتے ہیں؟ کیا کیڑے مکوڑوں کو کھانے کی چیزیں زکوٰۃ کی رقم سے خرید کر ڈال سکتے ہیں؟ ایسا کرنے سے کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟

جواب: ... اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا ہونے کی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کا کسی محتاج مسلمان کو مالک بنا دیا جائے۔<sup>(۷)</sup> اگر زکوٰۃ کی رقم کا کھانا پکا کر غریبوں، محتاجوں کی دعوت کر دی جائے کہ جس کی جتنی خواہش ہو کھائے، مگر ساتھ لے جانے کی

(۱) ص: ۱۶۹ کا حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) ایضاً۔

(۳) وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَىٰ مَنْ يَمْلِكُ نَصَابًا أَوْ مَالًا كَان... إلخ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹، کتاب الزکاة)۔

(۴) وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَىٰ مَنْ يَمْلِكُ أَقْلًا مِنَ النَّصَابِ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹، کتاب الزکاة، الباب السابع)۔

(۵) ص: ۱۶۹ کا حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ فرمائیں۔

(۶) ص: ۱۶۸ کا حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ فرمائیں۔

(۷) ایضاً۔

اجازت نہیں، اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔<sup>(۱)</sup>

## حکومت کے ذریعہ زکوٰۃ کی تقسیم

سوال: ... موجودہ حکومت زکوٰۃ کے نام سے جو رقم تقسیم کر رہی ہے، شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ بعض اوقات صاحبِ نصاب لوگ بھی خود کو مسکین ظاہر کر کے یہ رقم حاصل کر لیتے ہیں، ان کے لئے کیا حکم ہے؟ جناب عالی! مہربانی فرما کر یہ بتائیں کہ یہ رقم کس کے لئے جائز ہے اور کس کے لئے نہیں؟

جواب: ... صاحبِ نصاب لوگ زکوٰۃ کا مصرف نہیں<sup>(۲)</sup>، ان کو زکوٰۃ لینا حرام ہے، اگر کسی کو فقیر سمجھ کر زکوٰۃ دے دی گئی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غنی تھا تو زکوٰۃ ادا ہوگئی۔<sup>(۳)</sup>

## وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ میں زکوٰۃ دینا

سوال: ... وزیر اعظم صاحب کے ریلیف فنڈ میں زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے؟

جواب: ... اگر اس بات کا اطمینان ہو کہ زکوٰۃ کی رقم مستحقین تک پہنچ جائے تو صحیح ہے، ورنہ خود ادا کرنا ضروری ہے۔

## زکوٰۃ کی رقم ملکی قرض اتارو مہم میں دینا

سوال: ... مقروض کا قرض اتارنے کے لئے زکوٰۃ سے مدد کی جاسکتی ہے، تو کیا نواز شریف کی ”قرض اتارو ملک سنوارو“

مہم میں زکوٰۃ کی رقم سے عطیہ دیا جاسکتا ہے؟

جواب: ... اس کے لئے غیر زکوٰۃ کی رقم دی جائے، اور زکوٰۃ کی رقم غریبوں، محتاجوں کے لئے چھوڑ دی جائے۔<sup>(۵)</sup>

## مالِ زکوٰۃ دینی جماعتوں کو دینا

سوال: ... کوئی شخص مالِ زکوٰۃ دینی جماعتوں کو دے سکتا ہے؟

(۱) قوله تملیگًا فلا یکفی فیہا الإطعام إلا بطریق التملیک ولو أطعمہ عندہ ناویا الزکوٰۃ لا تکفی۔ (شامی ج: ۲ ص: ۳۳۴، کتاب الزکاۃ، باب المصرف)۔

(۲) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳ ملاحظہ کیجئے۔

(۳) قوله فادفع عن حاجتہ ..... فان کان له فضل عن ذلك تبلغ قیمتہ مائتی درہم حرم علیہ أخذ الصدقة۔ (شامی ج: ۲ ص: ۳۳۷، کتاب الزکاۃ، باب المصرف)۔

(۴) إذا شک وتحری فوق فی أكبر رأیہ أنه محل الصدقة فدفع إلیہ أو سأل منه فدفع أو رآه فی صف الفقراء فدفع فإن ظهر أنه محل الصدقة جاز بالإجماع وكذا ان لم يظهر حاله عنده وأما إذا ظهر أنه غنی أو هاشمی ..... فإنه يجوز وتسقط عنه الزکوٰۃ... الخ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰، کتاب الزکاۃ، الباب السابع فی المصارف)۔

(۵) المصارف الخ منها الفقیر ..... وهو ما دون النصاب ومنها المسکین وهو من لا شیء له... الخ۔ ولا يجوز أن ینى بالزکوٰۃ المسجد ..... وكل ما لا تملیک فیہ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۷، ۱۸۸، کتاب الزکاۃ)۔

جواب: ... زکوٰۃ کے لئے ضروری ہے کہ کسی محتاج کو اس کا مالک بنا دیا جائے، جن اداروں کے بارے میں اطمینان ہو کہ وہ زکوٰۃ کی رقم صحیح مصرف پر خرچ کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور جن کے بارے میں یہ اطمینان نہیں، ان کو دینا جائز نہیں۔<sup>(۱)</sup>

### زکوٰۃ اور تعمیر مدرسہ

سوال: ... ایک صاحبہ کی دلی آرزو اور خواہش تھی کہ وہ ایک دینی مدرسہ برائے طالبات حیدرآباد شہر میں قائم کریں، جس میں لڑکیاں قرآن شریف حفظ اور ناظرہ پڑھیں۔ صاحبہ موصوفہ نے اپنے ذاتی خرچ پر ایک پلاٹ حاصل کر کے اور مدرسے کی تعمیر کے واسطے اپنے دست مبارک سے سنگ بنیاد رکھا اور مدرسہ تاحال زیر تعمیر ہے۔ کچھ مخیر حضرات اس مدرسے میں اپنی زکوٰۃ وغیرہ کی رقم سے اعانت کرنا چاہتے ہیں، دریافت طلب امور یہ ہیں کہ نگران مدرسہ زکوٰۃ کی یہ رقم کس طریقے پر قبول کرے اور کس طرح اس رقم کو مدرسے کی مزید تعمیر پر خرچ کرے، تاکہ زکوٰۃ دہندہ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور مدرسے کی تعمیر بھی مکمل ہو جائے؟

جواب: ... زکوٰۃ کی رقم کا کسی محتاج کو مالک بنانا ضروری ہے۔<sup>(۲)</sup> تعمیر کی مد میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تعمیرات کی مد میں غیر زکوٰۃ کی رقم وصول کی جائے۔<sup>(۳)</sup>

### زکوٰۃ کی رقم سے کنویں کی تعمیر

سوال: ... کچے علاقے میں ایک مسجد ہے، مسجد کے لئے کنویں کی تعمیر کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ سہولت سے وضو کر سکیں، کیا زکوٰۃ کی رقم سے یہ کنواں تعمیر کرنا جائز ہے؟

جواب: ... زکوٰۃ کی رقم سے کنواں بنانا جائز نہیں۔<sup>(۴)</sup>

### مستحقین کو زکوٰۃ کی رقم سے عینکیں بنوا کر دینا

سوال: ... طارق نے اپنی زکوٰۃ کی رقم الف. ب. ج کمپنی کو دے دی کہ یہ رقم مستحقین زکوٰۃ کے علاج پر صرف کر دینا، یا مستحقین زکوٰۃ کو عینکیں بنوا کر دے دینا۔ الف. ب. ج کمپنی نے اپنے کارندوں سے یہ کام کروایا۔ آزرہ کرم مطلع فرمائیے کہ کیا زکوٰۃ ادا ہوگئی؟

جواب: ... جس ادارے کے سپرد یہ زکوٰۃ کی رقم کی گئی ہے، اگر وہ واقعی مستحقین کو ادا کر دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور

(۱) إذا دفع الزکوٰۃ إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها أو يقبضها للفقير من له ولاية عليه. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰)۔

(۲) إذا دفع الزکوٰۃ إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰، کتاب الزکاۃ)۔

(۳) ولا يجوز أن ينسى بالزکوٰۃ المسجد وكذا القناطر والسقايات واصلاح الطرقات وكري الأنهار ..... وكل ما لا تملك فيه. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۸، کتاب الزکاۃ، الباب السابع في المصارف)۔

(۴) أيضا۔

جب تک مستحقین کو ادا نہیں کی جاتی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔<sup>(۱)</sup>

## صدقاتِ واجبہ غلط مصارف پر خرچ کرنا

سوال: ... کراچی میں آج کل عذابِ الہی آیا ہوا ہے، قرآن مجید میں کئی مقامات پر گزشتہ کئی قوموں پر آئے ہوئے عذابِ وقہرِ الہی کے تذکرے موجود ہیں۔ جب تو میں خدا کی نافرمانی کرتی ہیں تو ان پر عذاب بھیجا جاتا ہے۔ ہم بھی نافرمان ہیں اور دن رات خالق کی نافرمانی میں مصروف رہتے ہیں، لیکن گزشتہ کئی سالوں سے ہم اجتماعی نافرمانی میں مصروف ہو گئے ہیں۔ گزشتہ کچھ سالوں سے مختلف سیاسی پارٹیوں نے اپنے حامیوں سے چندے کے ساتھ ساتھ فطرہ، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ بھی وصول کرنا شروع کر دیا، اور اس کا کچھ حصہ مستحقین کو اور بڑا حصہ اپنی شاہ خرچیوں اور اسلحہ وغیرہ کی خریداری پر صرف کرنا شروع کر دیا۔ کراچی کے وہ لوگ جو دیارِ غیر یعنی دُبی، سعودی عرب، مسقط میں ہیں، انہوں نے بھی اس فعل کو کارِ خیر سمجھ کر اس میں حصہ لیا اور اب بھی اس پر عمل کر رہے ہیں۔ جبکہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے باقاعدہ احکامات واضح طور پر دیئے ہیں۔ اس فعل پر کسی عالم نے کبھی توجہ نہ کی، آپ سے درخواست ہے، آپ اس کی بابت واضح طور پر بتائیں اور گزشتہ کئے گئے عمل پر توبہ استغفار کا کیا طریقہ ہوگا؟ نیز وہ زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، فطرہ کیا دوبارہ دیا جائے گا؟

جواب: ... صدقہ، زکوٰۃ، چرم قربانی کی رقوم اگر صحیح مصرف پر خرچ نہ کیا جائے تو وہ زکوٰۃ اور صدقاتِ واجبہ ادا ہی نہیں ہوتے، اور صدقے کا ثواب نہیں ملتا۔

آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ کچھ عرصے سے زکوٰۃ و صدقات اور چرم قربانی کی رقوم کو نا اہل ہاتھوں میں دے دیا جاتا ہے، اور وہ بڑی بے دردی و بے پروائی کے ساتھ بے موقع خرچ کر ڈالتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کو علاماتِ قیامت میں شمار کیا گیا ہے۔<sup>(۲)</sup> ظاہر ہے کہ اس بے احتیاطی کے نتیجے میں عذابِ الہی تو نازل ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی بُرائیاں اور گناہ ہیں جس میں ہم لوگ اجتماعی طور پر مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس سے بطور خاص توبہ کریں۔

## زکوٰۃ کی رقم جماعت خانے کی تزئین و آرائش پر خرچ کرنا

سوال: ... میں ایک برادری کے جماعت خانے کا انچارج ہوں، جماعت خانے میں برادری کی شادی و غمی کی تقریبات ہوتی ہیں، اس میں ایک جزوقتی ناظرہ قرآن مدرسہ بھی قائم ہے، قوم کے لوگ چندے کے علاوہ زکوٰۃ، صدقات، قربانی کی کھالیں بھی اس میں دیتے ہیں، جو اس کے لئے اکثر علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اس رقم کا استعمال جماعت خانے کی تزئین و آرائش میں صرف ہوتا ہے، مجھے اخراجات کرنے کی پوری طرح اجازت ہے، اور جس طرح چاہے خرچ کروں، یہ قوم کا اعتماد ہے۔ میں چاہتا ہوں

(۱) إذا دفع الزکوٰۃ إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰، کتاب الزکوٰۃ)۔

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفنى دولا والأمانة مغنما والزکوٰۃ مغرما... الخ۔ (مشکوٰۃ، باب اشراط الساعة ص: ۴۷۰، طبع قدیمی کتب خانہ)۔

زکوٰۃ وغیرہ کی رقم مسکین اور مستحق لوگوں کو مدد کے طور دوں۔ مگر قوم مجھے اس سلسلے میں اجازت نہیں دے گی، کیا میں اپنے طور پر بغیر قوم کو مطلع کئے یہ رقم مستحق لوگوں کو دے سکتا ہوں؟

جواب: ... زکوٰۃ اور قربانی کی کھالیں جماعت خانے کی تزئین و آرائش پر استعمال کرنا صحیح نہیں۔ لوگوں کی زکوٰۃ اور قربانیاں صحیح نہیں ہوں گی۔ آپ اپنی برادری کو مسئلہ بتادیں، اگر وہ نہ مانیں تو جماعت خانے کے کام سے استعفاء دے کر سبکدوش ہو جائیں، تاکہ جماعت کے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن آپ بھی نہ پکڑے جائیں۔<sup>(۱)</sup>

### زکوٰۃ سے خریدے گئے پلاٹ پر فلیٹ بنا کر کچھ غریبوں کو دینا اور کچھ بیچ دینا

سوال: ... ہماری جماعت نے آج سے تین سال قبل ایک پلاٹ گیارہ لاکھ روپے میں خریدا، جس میں رجسٹری خرچہ اور مزید دی گئی رقم ملا کر تقریباً ۱۹ سے ۲۰ لاکھ روپے ہیں جو کہ ٹوٹل رقم زکوٰۃ فنڈ سے دی گئی تھی خریدا گیا، آج اس پلاٹ کی قیمت ۴۰ سے ۴۵ لاکھ تک ہے۔

اب اس پلاٹ پر ہماری جماعت ایک پلازہ تعمیر کر رہی ہے، جس میں کل ۹۰ فلیٹ بنائے جائیں گے، جس میں سے ۴۰ فلیٹ زکوٰۃ کے مستحق افراد کو زکوٰۃ کی مد میں جمع شدہ رقم سے بنا کر دیئے جائیں گے، جبکہ ۵۰ فلیٹ ایسے افراد کو دیئے جائیں گے جو ہر ماہ قسطوں کی صورت میں جماعت کو رقم ادا کریں گے، اور ان کی اس رقم سے ہی ان کے ۵۰ فلیٹ تعمیر ہوں گے۔

محترم! آپ سے یہ آگاہی حاصل کرنی ہے کہ جو پلاٹ ٹوٹل زکوٰۃ کی رقم سے خریدا گیا ہے اور اس کی قیمت بھی ڈگنی سے زائد ہو چکی ہے، تین سال قبل ۱۹ سے ۲۰ لاکھ میں خریدا گیا پلاٹ آج ۴۰ سے ۴۵ لاکھ روپے سے زائد کا ہے، ایسی صورت میں ان ۵۰ فلیٹ کا جن کی رقم مالکان ادا کر کے پھر قبضہ حاصل کریں گے، زکوٰۃ سے حاصل شدہ رقم کی زمین ان کی تعمیر کا مسئلہ اور لاگت کا مسئلہ کہ آیا (پلاٹ کی تین سال قبل کی رقم لگے گی یا آج کی رقم لگے گی) کیونکہ زمین کی خریداری زکوٰۃ کی رقم سے ہوئی ہے، اس صورت میں ۵۰ فلیٹ مالکان کے ذمے کیا رقم ہوگی؟ جبکہ جماعت کے عہدیداران ۴۰ فلیٹ زکوٰۃ کی مد میں اور ۵۰ فلیٹ رقم ادا نیگی کرنے والوں کو دیں گے۔

جواب: ... زکوٰۃ کی رقم سے خریدی ہوئی چیز کا محتاجوں کو مالک بنا دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ آپ کی جماعت نے ۱۹-۲۰ لاکھ کا جو پلاٹ زکوٰۃ کی رقم سے خریدا ہے، چونکہ محتاجوں کو اس کا مالک نہیں بنایا گیا، اس لئے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔<sup>(۲)</sup>

### رفاہی انجمن کے ذریعے زکوٰۃ کی تقسیم

سوال: ... ہماری ایک چھوٹی سی خاندانی انجمن ہے، ہم اپنے ممبران سے زکوٰۃ وصول کر کے خاندان کے ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، بیشتر افراد رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور ان کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ زکوٰۃ اسی ماہ ضرورت

(۱ و ۲) وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَ بِالزَّكَاةِ الْمَسْجِدَ وَكَذَا الْقَنَاظِرَ وَالسَّقَايَاتِ ..... وَكُلُّ مَا لَا تَمْلِكُ فِيهِ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۸، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).



مندوں کو پہنچادی جائے۔ تا حال یہی طریقہ اختیار کیا جاتا رہا ہے، لیکن بعض افراد یہ چاہتے ہیں کہ بجائے یک مشت رقم کے ان کے لئے ماہانہ مقرر کر دیا جائے۔

پہلا سوال قرآن کریم اور شرع کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ کی مد میں جمع شدہ رقم کو اپنے پاس یعنی انجمن کے پاس روک کر پورے سال میں تقسیم کر دیں تو اس طرح رمضان المبارک میں ملنے والے ثواب پر تو اثر نہیں پڑے گا؟ کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے والے نے تو یک مشت رقم رمضان المبارک میں ہی ادا کر دی ہے۔

جواب: ... زکوٰۃ ادا کرنے والوں نے زکوٰۃ نکال کر انجمن کو وکیل بنا دیا ہے، اس لئے ان کو تو ثواب مل گیا، آگے انجمن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح خرچ کرے۔<sup>(۱)</sup>

## زکوٰۃ کی رقم کو کاروبار میں لگا کر اس کے منافع سے غریبوں کی مدد کرنا

سوال: ... کیا یہ صحیح اور مطابق شرع ہوگا کہ زکوٰۃ کی رقم کو کسی مناسب جگہ کاروبار میں لگا دیا جائے، یا این آئی ٹی یونٹس خرید لئے جائیں اور حاصل ہونے والے منافع سے مستحقین زکوٰۃ کی مدد کر دی جائے؟

جواب: ... کسی شخص کی زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب وہ رقم مستحقین پر تقسیم کر دی جائے گی۔<sup>(۲)</sup> پس زکوٰۃ کی رقم اگر کسی ادارے میں رکھوادی جائے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک کہ مستحقین پر تقسیم نہیں کر دی جاتی۔ اور اگر یہ شخص زکوٰۃ کے تقسیم ہونے سے پہلے مر جائے تو زکوٰۃ اس کے ذمے رہے گی، اور بعد میں وارثوں کی اجازت کے بغیر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی جاسکتی۔ البتہ وارث اگر عاقل، بالغ ہوں تو اس کی تقسیم کی اجازت دے سکتے ہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ بہت نازک ہے، اس لئے میرے خیال میں فریضہ زکوٰۃ سے عہدہ برآ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مستحقین کو فوراً دے دی جائے۔

## زکوٰۃ، صدقات وصول کرنے والی ویلفیئر شاپ سے سید کو اشیاء خریدنا

سوال: ... ہمارے علاقے میں ایک ویلفیئر شاپ ہے جہاں کھانے پینے اور ضروریات زندگی کی دوسری چیزیں فروخت ہوتی ہیں، یہ اشیاء بازار میں جو عام دکان دار فروخت کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں نہایت ہی کم منافع پر فروخت ہوتی ہیں، یوں سمجھا جائے کہ یہ لوگ اس مہنگائی کے دور میں نہایت ہی کم منافع پر اشیاء فروخت کر کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ان ویلفیئر والوں کو فنڈ، ڈونیشن، خیرات اور زکوٰۃ بھی ملتی ہے، مسئلہ زکوٰۃ کا بھی ہے، اور میرا تعلق چونکہ سید گھرانے سے ہے تو کیا ہم بھی اس ویلفیئر شاپ سے سامان خرید سکتے ہیں؟ زیادہ سامان خریدا جائے تو عام دکان داروں کی نسبت کافی بچت ہو جاتی ہے۔ ہم نے بھی اسی نیت سے رمضان المبارک میں سامان خریدا، جبکہ والد صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اس ویلفیئر شاپ سے سامان خرید سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس مال کی قیمت ادا کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ ویلفیئر والے اسی قیمت میں مال فروخت کرتے جس قیمت کا انہوں نے خود خریدا ہے تو پھر ہم یہ مال

(۱) فلو دفع الزکوٰۃ الی رجل وامرأة ان یدفع الی الفقراء فدفع ولم ینو عند الدفع جاز۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۱)۔

(۲) اذا دفع الزکوٰۃ الی الفقیر لا یتیم الدفع مال لم یقبضها۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰، کتاب الزکاۃ)۔

خریدنے کے مستحق نہیں تھے۔ مجھے آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ ہم بھی اس ویلفیئر شاپ سے سامان خرید سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو جو مال خرید کر ہم گناہگار ہوئے، اس کا کفارہ کس طرح ادا کریں؟

جواب:۔۔۔ زکوٰۃ اور صدقاتِ واجبہ کی مد میں اگر اس ادارے میں رقمیں جمع کرائی جاتی ہیں، تو سیدوں کو وہاں سے چیز خریدنا صحیح نہیں<sup>(۱)</sup> اور خود ایسے ادارے میں رقم جمع کروانا بھی صحیح نہیں، یعنی زکوٰۃ اور صدقاتِ واجبہ کی رقم ایسے ادارے میں جمع کروانا صحیح نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## فلاحی ادارے اور زکوٰۃ کی رقم

سوال:۔۔۔ بہت سے فلاحی ادارے زکوٰۃ، صدقات کی ملنے والی رقمات کو بینکوں میں جمع کرتے ہیں، اور ان رقوم میں سود کا اضافہ بھی ہوتا ہے، یہ بات ہم کو اس طرح معلوم ہوئی کہ اخبارات میں یہ خبر آئی کہ ان اداروں کے بینک کھاتوں میں جو سود ملتا ہے ان پر حکومت نے انکم ٹیکس نافذ کر دیا ہے، اس کے بعد معلوم ہوا کہ بات چیت ہونے پر انکم ٹیکس ختم کر دیا۔ کیا ایسے اداروں کو زکوٰۃ و صدقات کی رقوم دینا درست ہے، جبکہ یہ فلاحی ادارے رقوم کو بینک میں رکھ کر سود سے یہ فلاحی ادارے چلاتے ہیں؟

جواب:۔۔۔ یہاں چند مسائل کا سمجھ لینا ضروری ہے۔

۱:۔۔۔ زکوٰۃ کے لئے تملیک شرط ہے، کہ زکوٰۃ کی رقم کا کسی محتاج کو مالک بنا دیا جائے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ مالک کے ذمے باقی رہے گی۔ چنانچہ اگر کوئی شخص مقروض مر جائے تو مرنے کے بعد اس کا قرضہ زکوٰۃ کی رقم سے ادا نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ میت مالک بننے کی اہل نہیں۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ کی رقم سے ہسپتال بنا دیا، کوئی عمارت بنا دی، یا کسی رفاہی ادارے کو گاڑی خرید کر دی، یا کچھ اور سامان اس کو خرید کر دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔

۲:۔۔۔ جن رفاہی اداروں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، وہ اس رقم کے خود مالک نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے وکیل ہیں، اگر یہ ادارے محتاج اور مستحق افراد کو اس رقم کا مالک بنا دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اور اگر وہ فقیر اور محتاج لوگوں کو یہ رقم نہیں دیتے، بلکہ اپنی صوابدید پر کسی رفاہی کام میں خرچ کر دیتے ہیں، مثلاً: رفاہی ادارے کے لئے گاڑی یا ایمبولنس خرید لی، کہیں ہسپتال بنا دیا، کسی جگہ کوئی مکان بنا لیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ زکوٰۃ دہندگان کے ذمے بدستور واجب رہے گی۔

۳:۔۔۔ اسی طرح اگر رفاہی ادارے نے زکوٰۃ کی رقم بینک میں رکھوا دی تو جب تک وہ رقم بینک میں ہے تب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، زکوٰۃ تب ادا ہوگی جب یہ رقم بینک سے وصول کر کے کسی مستحق محتاج کے حوالے کر دی جائے گی۔<sup>(۳)</sup>

(۱) وَلَا يَدْفَعُ إِلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹، کتاب الزکاة، الباب السابع فی المصارف)۔

(۲) وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَ بِالزَّكَاةِ الْمَسْجِدَ..... وَكُلُّ مَا لَا تَمْلِكُ فِيهِ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۸)۔

(۳) إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى الْفَقِيرِ لَا يَتِمُّ الدَّفْعُ مَا لَمْ يَقْبُضْهَا۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰)۔ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَ بِالزَّكَاةِ الْمَسْجِدَ وَكَذَا الْقَنَاظِرَ..... وَكُلُّ مَا لَا تَمْلِكُ فِيهِ وَلَا يَقْضِي بِهَا دِينَ الْمَيْتِ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۸)۔

## زکوٰۃ کی رقم کارفاہی امور میں استعمال

سوال: ...تقریباً ۱۰۰ سے زائد افراد نے مل کر ایک ویلفیئر سوسائٹی قائم کی ہے، یہ قریش و شیخ برادران پر مشتمل ہے، یہ خالصتاً سماجی تنظیم ہے اور برادری ہی کے ان افراد کے لئے جو معذور، نادار، بیوہ، یتیم ہوں، زکوٰۃ، صدقات، چرم قربانی، فطرہ وغیرہ لیتی ہے اور ماہانہ وظیفے کے طور پر مستحقین کے گھروں پر پہنچاتی ہے۔ علاج معالجہ بھی کرواتا ہے، اور شادی کے موقع پر مالی امداد بھی کرتی ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ عہدے داران گھر گھر جا کر یہ عطیات وصول کرتے ہیں اور اس طرح محتاط اندازے کے مطابق ستر ہزار روپے بینک میں ان مدت میں جمع ہیں، اور جب کسی مستحق کی درخواست آتی ہے تو باقاعدہ زکوٰۃ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور تحقیق کرنے کے بعد درخواست پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ اب نئی صورت یہ درپیش ہے کہ لوگ ہم سے مکان خریدنے کے لئے یا چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کے لئے زکوٰۃ کمیٹی کے اراکین پر برادری کے بااثر افراد کا دباؤ بھی ڈالتے ہیں، کیا ہم زکوٰۃ کی رقم سے تجارت، کاروبار یا مکان خریدنے کے لئے قرض حسنہ ماہانہ قسط واجب الادا دے سکتے ہیں؟

جواب: ... زکوٰۃ کی رقم قرض میں نہ دی جائے بلکہ جس شخص کو دینی ہو اور وہ ضرورت مند ہو، اس کو زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنا دیا جائے۔ اگر چھوٹا موٹا مکان خرید کر اس کو مالک بنا دیا جائے تو بھی صحیح ہے، بہر حال زکوٰۃ کی رقم قرض میں نہ دی جائے، واللہ اعلم! (۱)

## فلاحی ادارے زکوٰۃ کے وکیل ہیں، جب تک مستحق کو ادا نہ کریں

سوال: ... کوئی ”خدمتی ادارہ“ یا کوئی ”وقف ٹرسٹ“ اور ”فاؤنڈیشن“ کو زکوٰۃ دینے سے کیا زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟

جواب: ... جو فلاحی ادارے زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کی رقم کے مالک نہیں ہوتے، بلکہ زکوٰۃ دہندگان کے وکیل اور نمائندے ہوتے ہیں، جب تک ان کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ جمع رہے گا، وہ بدستور زکوٰۃ دہندگان کی ملک ہوگا، (۲) اگر وہ صحیح مصرف پر خرچ کریں گے تو زکوٰۃ دہندگان کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ نہیں۔ اس لئے جب تک کسی فلاحی ادارے کے بارے میں یہ اطمینان نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ کی رقم شریعت کے اصولوں کے مطابق ٹھیک مصرف میں خرچ کرتا ہے، اس وقت تک اس کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔

سوال: ... اس طرح زکوٰۃ جمع کرنے والے ادارے جمع کی ہوئی زکوٰۃ کی رقم کے خود مالک بن جاتے ہیں یا نہیں؟ اور اس طرح جمع کی ہوئی زکوٰۃ کی رقم کو وہ چاہیں اس طرح لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں، مثلاً: اس رقم میں سے صاحب زکوٰۃ شخص کو اور درمیانی طبقے کے صاحب مال شخص کو مکان خریدنے یا کاروبار کرنے کے لئے بنا منافع آسان قسطوں میں واپس ہونے

(۱) وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْنَىٰ بِالزَّكَاةِ الْمَسَاجِدَ وَكَذَا الْقِنَاطِرَ ..... وَكُلُّ مَا لَا تَمْلِكُ فِيهِ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۸)۔ وَلَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ دَارٌ لَيْسَ كُنْهًا عَنِ الزَّكَاةِ لَا يَجُوزُ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰، كتاب الزكاة)۔

(۲) وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ الْآخِذُ وَكَيْلًا عَنْهُمْ فَتَجْزَىٰ وَإِنْ بَلَغَ الْمَقْبُوضُ نَصَبًا كَثِيرًا لِأَنَّهُمْ لَمْ يَمْلِكُوا شَيْئًا مِمَّا فِي يَدِهِ. (شامی ج: ۲ ص: ۲۶۹، كتاب الزكاة، باب المصرف)۔

والے قرض کے طور پر دے سکتے ہیں؟ کیونکہ درمیانی طبقے کے صاحب مال زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے، اور زکوٰۃ لینا بھی نہیں چاہتے، اس کے مطابق اس کو زکوٰۃ کی رقم قرض کے طور پر دینا مناسب ہے؟

جواب:۔۔۔ یہ ادارے اس رقم میں مالکانہ تصرف کرنے کے مجاز نہیں، بلکہ صرف فقراء اور محتاجوں کو بانٹنے کے مجاز ہیں، اس لئے اس رقم کو قرض پر اٹھانے کے مجاز نہیں<sup>(۱)</sup>۔ البتہ اگر مالکان کی طرف سے اجازت ہو تو درست ہے۔ کسی صاحب نصاب کو مکان خریدنے کے لئے رقم دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی<sup>(۲)</sup>۔ البتہ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی شخص سے قرض لے کر مکان خرید لے، اب اس کو قرضہ ادا کرنے کے لئے زکوٰۃ دینا صحیح ہوگا۔<sup>(۳)</sup>

### زکوٰۃ سے چندہ وصول کرنے والے کو مقررہ حصہ دینا جائز نہیں

سوال:۔۔۔ دینی مدارس کے چندے کے لئے بعض بچے چھوٹے چھوٹے صندوقچے لے کر دوسرے شہروں میں جا کر چندہ مانگتے ہیں، ان میں اکثر افراد چندہ رقم سے حصہ مقررہ پر چندہ مانگتے ہیں، بعض کی تنخواہ ہوتی ہے، اگر کوئی زکوٰۃ کی رقم ان کو دے تو کیا زکوٰۃ کا فرض ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ چندہ مانگنے والوں میں بعض کا حصہ: ۱، ۲، ۳، ۴ ہوتا ہے، تو پوری رقم مدرسہ میں نہیں پہنچتی، اس لئے براہ کرم تفصیل سے اس مسئلے پر روشنی ڈالیں۔

جواب:۔۔۔ چندہ کے حصے پر سفیر مقرر کرنا جائز نہیں<sup>(۴)</sup>، مدارس کو جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اگر وہ صحیح مصرف پر خرچ کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ نہیں، اس لئے زکوٰۃ صرف انہی مدارس کو دی جائے جن کے بارے میں اطمینان ہو کہ وہ ٹھیک مصرف پر خرچ کرتے ہیں۔ جن مدارس کے نام پر بچے چندے مانگتے ہیں، وہ زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اس لئے ایسے مدارس کو چندہ میں زکوٰۃ نہ دی جائے۔

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَىٰ مَنْ يَمْلِكُ نَصَابًا أَيْ مَالِ كَان... الخ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹، کتاب الزکاة)۔

(۳) وَمِنْهَا الْغَارِمُ وَهُوَ مَنْ لَزِمَهُ دِينَ وَلَا يَمْلِكُ نَصَابًا فَاضْلًا عَنْ دِينِهِ أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى النَّاسِ لَا يُمْكِنُهُ أَخْذُهُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۸، کتاب الزکاة، الباب السابع فی المصارف)۔

(۴) دیکھئے: نظام الفتاویٰ ج: ۲ ص: ۳۶۱ طبع مکتبہ رحمانیہ۔

## پیداوار کا عشر

## عشر کی تعریف

سوال: ۱... عشر کی تعریف کیا ہے؟ ۲: کیا زکوٰۃ کی طرح اس کا بھی نصاب ہوتا ہے؟ ۳: کیا عشر سب زمین داروں پر برابر ہوتا ہے؟ ۴: یہ کن لوگوں کو ادا کیا جاتا ہے؟ ۵: ایک آدمی اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو کیا عشر بھی دینا ہوگا؟ ۶: کیا یہ سال میں ایک مرتبہ دیا جاتا ہے یا ہر نئی فصل پر؟ ۷: کیا مویشیوں کے چارے کے لئے کاشت کی گئی فصل پر بھی عشر ہوگا؟

جواب: ... عشر، زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔<sup>(۱)</sup> اگر زمین بارانی ہو کہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، تو پیداوار اٹھنے کے وقت اس پر دسواں حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا واجب ہے،<sup>(۲)</sup> اور اگر زمین کو خود سیراب کیا جاتا ہے تو اس کی پیداوار کا بیسواں حصہ صدقہ کرنا واجب ہے۔<sup>(۳)</sup>

۲: ... ہمارے امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس کا کوئی نصاب نہیں، بلکہ پیداوار کم ہو یا زیادہ، اس پر عشر واجب ہے۔<sup>(۴)</sup>

۳: ... جی ہاں! جو شخص بھی زمین کی فصل اٹھائے اس کے ذمہ عشر واجب ہے۔<sup>(۵)</sup>

(۱) الباب السادس في زكاة الزرع والثمار، وهو فرض وسببه الأرض النامية بالخارج حقيقة... الخ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۵، کتاب الزکاة، الباب السادس في زكاة الزرع والثمار).

(۲) وما سقى بالدولاب والدالية ففيه نصف العشر، وإن سقى سيحاً وبدالية يعتبر أكثر السنة... الخ. (فتاویٰ عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۶، کتاب الزکاة، الباب السادس). وأيضاً: وما سقى بغرب أو دالية أو سافية ففيه نصف العشر، الدالية الدولاب والسانية ابعير الذي يستقى به الماء. (الجوهرة النيرة ج: ۱ ص: ۱۵۴، باب العشر).

(۳) يجب العشر في مسقى سماء وسيح ونصفه في مسقى غرب ودالية. (شامی ج: ۲ ص: ۳۲۷، باب العشر، أيضاً ج: ۲ ص: ۳۲۵). أيضاً: ثم ماء العشرى ماء السماء والآبار والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد. (هداية مع فتح القدير ج: ۲ ص: ۱۹۹، باب زكاة الزرع والثمار، وكذا في رد المحتار ج: ۲ ص: ۳۳۰، باب العشر).

(۴) ويجب العشر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كل ما تخرجه الأرض من الحنطة والشعير... قل أو كثير... الخ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۶). والحجة لأبي حنيفة في إيجاب الحق في جميع الأصناف خلا ما ذكرنا، قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ. وعمومه يوجب الحق في كل خارج إلا ما قام دليله، ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: والنخل والزرع مختلفاً أكله... وأتوا حقه يوم حصاده، وذلك عام في كل ثمرة في جميع ما يقع فيه الحصاد، والدليل أن هذا لحق هو العشر، اتفاق الجميع من فقهاء الأمصار على أنه لا حق يجب في الخارج من الأرض عند الحصاد إلا العشر. (شرح مختصر الطحاوي ج: ۲ ص: ۲۸۸، ۲۸۹، باب زكاة الثمار والزرع).

(۵) أن ملك الأرض ليس بشرط لوجوب العشر وإنما الشرط ملك الخارج لأنه يجب في الخارج لا في الأرض فكان ملكه لها وعدمه سواء بدائع. (شامی ج: ۲ ص: ۳۲۶، باب العشر).

- ۴: عشر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔<sup>(۱)</sup>
- ۵: عشر پیداوار کی زکوٰۃ ہے، اس لئے دوسرے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود پیداوار پر عشر واجب ہوگا۔<sup>(۲)</sup>
- ۶: سال میں جتنی فصلیں آئیں، ہر نئی فصل پر عشر واجب ہے۔<sup>(۳)</sup>
- ۷: جی ہاں! مویشیوں کے چارے کے لئے کاشت کی گئی فصل پر بھی حضرت امامؑ کے نزدیک عشر واجب ہے۔<sup>(۴)</sup>

### زمین کی ہر پیداوار پر عشر ہے، زکوٰۃ نہیں

سوال: عشر کا نصاب کیا ہے؟ اور کن کن چیزوں کا عشر دیا جاتا ہے؟ زرعی پیداوار میں ۵ فیصد زکوٰۃ دی جاتی ہے تو کیا زرعی پیداوار میں عشر اور زکوٰۃ دونوں ادا کرنے ہوں گے؟

جواب: حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک عشری زمین کی ہر پیداوار پر عشر واجب ہے، خواہ کم ہو یا زیادہ۔<sup>(۵)</sup> اگر زمین بارانی ہو تو اس کی پیداوار میں دسواں حصہ واجب ہے، اور اگر کنویں کے پانی سے سیراب کی جاتی ہو، یا نہری پانی خرید کر لگایا جاتا ہو تو اس میں بیسواں حصہ واجب ہے۔<sup>(۶)</sup> حضرت امامؑ کے نزدیک پھلوں، سبزیوں، ترکاریوں اور مویشیوں کے چارے میں بھی، جس کو کاشت کیا جاتا ہو، عشر واجب ہے۔ زرعی پیداوار میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، صرف عشر واجب ہے، جس کی تفصیل اوپر ذکر کر دی گئی۔

(۱) مصرف الزکوٰۃ والعشر ..... هو فقير وهو من له أدنى شيء أى دون نصاب ... إلخ. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۳۹ باب مصرف).

(۲) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ملاحظہ فرمائیں۔

(۳) بلا شرط نصاب ..... وبلا شرط بناء وحولان حول ... إلخ. وفى الشرح: حتى لو أخرجت الأرض مرارًا ورجب فى كل مرة لإطلاق النصوص عن قيد الحول ... إلخ. (شامی ج: ۲ ص: ۳۲۶، باب العشر).

(۴) وفى الخضروات التى لا تبقى وهذا قول الإمام وهو الصحيح كما فى التحفة. (شامی ج: ۲ ص: ۳۲۶)، أما الحطب والقصب والحشيش لا تستتبت فى الجنان عادة بل تنقى عنها حتى لو اتخذها مقصبة أو مشجرة أو منبتًا يجب فيها العشر. (هداية ج: ۱ ص: ۲۰۱، كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والثمار).

(۵) قال أبو جعفر: كان أبو حنيفة يقول: فى قليل الثمار والزروع، وفى كثيرها الصدقة، فإن كانت مما سقته السماء أو سقى فتحًا، فالعشر، وإن سقى بدالية أو سانية: فنصف العشر ..... والحجة لأبى حنيفة فى إيجاب الحق فى جميع الأصناف خلا ما ذكرنا، قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وعمومه يوجب الحق فى كل خارج إلا ما قام دليله وبدل عليه أيضًا قول الله تعالى: والنخل والزروع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبهًا وغير متشابهه كلوا من ثمره إذا أثمر وآثروا حقه يوم حصاده، وذلك عام فى كل ثمرة فى جميع ما يقع فيه الحصاد. (شرح مختصر الطحطاوى ج: ۲ ص: ۲۸۷، ۲۸۸ كتاب الزكاة).

(۶) ويجب العشر عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى كل ما تخرجه الأرض من الحنطة والشعير والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان والعصفر وأشباه ذلك مما له ثمرة باقية أو باقية قل أو كثر هكذا فى فتاوى قاضى خان. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۶، كتاب الزكاة، الباب السادس فى زكاة الزروع والثمار).

## عشر کتنی آمدنی پر ہے؟

سوال: ...گزارش یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا ہے کہ: ”جو شخص بھی زمین کی فصل اٹھائے خواہ کم ہو یا زیادہ، اس کے ذمہ عشر واجب ہے“ اس سلسلے میں یہ بھی وضاحت فرمادیں کہ اگر کسی شخص کے پاس تھوڑی سی زمین ہے اور وہ اس پر کاشت کرتا ہے، فصل اچھی نہیں ہوتی، کھاد، پانی اور کیڑے مار دوائیوں کے اخراجات بھی بمشکل پورے ہوتے ہیں، جو فصل آتی ہے وہ اس کی ضروریات سے بہت کم ہے، اس طرح وہ صاحب نصاب نہیں ہے اور مستحق زکوٰۃ ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ اپنی فصل کا عشر خود استعمال کر سکتا ہے؟

جواب: ... اس کی ذاتی پیداوار کا عشر اس کے ذمہ واجب ہے، اس کو خود استعمال نہیں کر سکتا۔<sup>(۱)</sup>

## عشر کس کے ذمہ؟

سوال: ... اگر مالک زمین اپنی زمین کو بیٹے پر دیدے تو عشر کس کے ذمہ واجب الادا ہوگا؟ اگر مالک کے ذمہ ہوگا تو کس وقت؟

جواب: ... عشر اس شخص کے ذمہ ہے جس کے گھر پیداوار جائے، اس لئے بیٹے پر دی گئی زمین کا عشر مستأجر کے ذمہ ہوگا۔<sup>(۲)</sup>

## پیداوار کا عشر کتنا ہوتا ہے؟

سوال: ... زمین سے پیدا ہونے والی فصل پر کتنی عشر فرض ہے؟

جواب: ... اگر زمین کو پانی سے سیراب کیا جاتا ہے تو بیسواں حصہ فرض ہے، اور اگر بارانی ہے تو دسواں حصہ فرض ہے۔<sup>(۳)</sup>

سوال: ... فصل پر جو خرچ ہوتا ہے وہ خرچ نکال کر عشر ادا کی جائے یا بغیر خرچ نکالے؟

جواب: ... بغیر خرچ نکالے ادا کی جائے۔<sup>(۴)</sup>

## پیداوار کے عشر کے بعد اس کی رقم پر زکوٰۃ کا مسئلہ

سوال: ... باغ بیچنے کے ایک ماہ بعد کسی نے اپنی سالانہ زکوٰۃ نکالنی ہے، آیا اس باغ کی رقم پر، جس کا اس نے عشر دے دیا

(۱) گزشتہ صفحے کے حاشیہ نمبر ۳، ۴، ۵ دیکھیں۔ ایضاً: وَلَا يَأْكُلُ شَيْئًا مِنْ طَعَامِ الْعَشْرِ حَتَّى يُوَدِيَ عَشْرَةَ كَذَا فِي الظَّهْرِيَّةِ.

(عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۷، کتاب الزكاة، الباب السادس في زكاة الزرع والشمار).

(۲) ایضاً، نیز گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳، ۴ ملاحظہ ہو۔

(۳) قوله يجب العشر ثبت ذلك بالكتاب والسنة والأجماع والمعقول: أي يفترض لقوله تعالى: واتوا حقه يوم حصاده، فإن عامة المفسرين على أنه العشر أو نصفه وهو مجمل بينه قوله صلى الله عليه وسلم: ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۳۲۵، باب العشر).

(۴) وَلَا تَرْفَعُ الْمَوْنَ أَى لَا تَحْسَبُ أَجْرَةَ الْعَمَالِ وَنَفَقَةَ الْقَبْرِ وَكِرَى الْأَنْهَارِ وَأَجْرَةَ الْحَافِظِ وَغَيْرِهِ ذَلِكَ. (البحر الرائق

ج: ۲ ص: ۲۵۶).

ہے، زکوٰۃ آئے گی یا نہیں؟

جواب:۔۔۔ اس رقم پر بھی زکوٰۃ آئے گی، جب دوسری رقم کی زکوٰۃ دے تو اس کے ساتھ اس کی بھی دے۔<sup>(۱)</sup>

## غلہ اور پھل کی پیداوار پر عشر کی ادائیگی

سوال:۔۔۔ کیا غلہ یا پھل کے بدلے اس کی قیمت زکوٰۃ کی شکل میں وصول کی جاسکتی ہے یا جنس ہی وصول کرنا ضروری ہے؟ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ اگر جنس کی قیمت دے دی گئی تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، حالانکہ عشر کے آرڈیننس میں قیمت ہی وصول کی جاتی ہے۔

دوسری بات یہ کہ کیا زرعی پیداوار میں بھی کچھ نصاب ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نصاب کی قید نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کم سے کم ایک وسق ہونا ضروری ہے، ایک وسق کا کیا وزن ہوتا ہے، ہم لوگوں کو معلوم نہیں، براہ کرم فقہ حنفی کی رو سے جواب سے سرفراز فرمائیں، تاکہ شکوک دور ہوں۔

جواب:۔۔۔ عشری پیداوار اگر بارانی ہو تو اس پر عشر (یعنی دسواں حصہ واجب ہے) اگر اس پیداوار پر پانی وغیرہ کے مصارف آتے ہوں تو بیسواں حصہ واجب ہے۔<sup>(۲)</sup> اصل واجب تو پیداوار ہی کا حصہ ہے، لیکن یہ بھی اختیار ہے کہ اتنے غلے کی قیمت دے دی جائے۔<sup>(۳)</sup> حکومت جو فی ایکڑ کے حساب سے عشر وصول کرتی ہے یہ صحیح نہیں، ہو یا یہ چاہئے کہ جتنی پیداوار ہو اس کا دسواں یا بیسواں حصہ لیا جائے، پورے علاقے کے لئے عشر کافی ایکڑ ریٹ مقرر کر دینا غلط ہے۔<sup>(۴)</sup>

## عشر ادا کر دینے کے بعد تا فروخت غلہ پر نہ عشر ہے، نہ زکوٰۃ

سوال:۔۔۔ دھان سے بروقت عشر نکالا ہے، غلہ سال بھر رکھا رہا، یعنی نہ اپنی کسی ضرورت میں استعمال ہوتا ہے اور نہ مارکیٹ میں اس کی کھپت ہے، کیا سال گزرنے پر اس میں سے عشر دیا جائے گا یا چالیسواں حصہ زکوٰۃ؟

جواب:۔۔۔ ایک بار عشر ادا کر دینے کے بعد جب تک اس کو فروخت نہیں کیا جاتا اس پر نہ دوبارہ عشر ہے، نہ زکوٰۃ،<sup>(۵)</sup> اور جب عشر ادا کرنے کے بعد غلہ فروخت کر دیا تو اس سے حاصل شدہ رقم پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب اس پر سال گزر جائے گا، یا اگر یہ

(۱) ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه سواء كان المستفاد من نعمته أو لا وبأى وجه استفاد ضمه سواء كان بميراث أو هبة أو غير ذلك. (الجوهرة النيرة ج: ۲ ص: ۱۲۳، باب زكاة الإبل).

(۲) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳ ملاحظہ ہو۔

(۳) المال الذي تجب فيه الزكاة إن أدى زكاته من خلاف جنسه أدى قدر قيمة الواجب إجماعاً. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۰، کتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض).

(۴) لأنه يجب في الخارج لا في الأرض. (شامی ج: ۲ ص: ۳۲۶، باب العشر).

(۵) ووقته وقت خروج الزرع وظهور الثمر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في البحر الرائق. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۶، کتاب الزكاة، الباب السادس في زكاة الزرع والثمار).



شخص پہلے سے صاحبِ نصاب ہے تو جب اس کے نصاب پر سال پورا ہوگا، اس وقت اس رقم کی بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔<sup>(۱)</sup>

## مزارعت کی زمین میں عشر

سوال: ... میں ایک زمین دار کی زمین کاشت کرتا ہوں، اور اس سال کل زمین میں دس ہزار کی کپاس ہوئی ہے، اور میرے حصے میں پانچ ہزار آیا ہے، اب کیا میں پورے دس ہزار کا عشر یا زکوٰۃ نکالوں یا اپنے حصے پانچ ہزار کا عشر یا زکوٰۃ نکالوں؟

جواب: ... آپ اپنے حصے کی پیداوار کا عشر نکالنے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ زمین کی پیداوار جس کے گھر آئے گی زمین کا عشر بھی اسی کے ذمہ ہوگا، پس مزارع کے حصے میں جتنی پیداوار آئے اس کا عشر اس کے ذمہ ہے، اور مالک کے حصے میں جتنی جائے اس کا عشر اس پر لازم ہے۔<sup>(۲)</sup>

## ٹریکٹر وغیرہ چلانے سے زراعت کا عشر بیسواں حصہ ہے

سوال: ... پہلے زمانے میں لوگ کاشت کاری کرتے تھے، تو صرف ہل چلا کر اور پانی لگا کر پیداوار حاصل کرتے تھے، لیکن موجودہ دور میں ٹریکٹروں کے ذریعے سے ہل چلائے جاتے ہیں، اور پھر زمین میں کھاڈا لینی پڑتی ہے، اور دوسری گوڈی وغیرہ کرائی جاتی ہے، تو ایسی زمین کا عشر ادا کرنا ہو تو زمین پر جو خرچہ ہوتا ہے اس کو نکال کر عشر ادا کیا جائے یا کل پیداوار کا بغیر خرچہ نکالے عشر ادا کرنا ہوگا؟ نیز عشر ادا کرتے وقت بیج نکال کر عشر ادا کریں یا بیج نکالے بغیر ادا کریں؟

جواب: ... ایسی زمین کی پیداوار میں نصف عشر یعنی پیداوار کا بیسواں حصہ واجب ہے،<sup>(۳)</sup> اخراجات کو وضع نہیں کیا جائے گا، بلکہ پوری پیداوار کا بیسواں حصہ ادا کرنا ہوگا، بیج کو بھی اخراجات میں شمار کیا جائے گا۔<sup>(۴)</sup>

## قابل نفع پھل ہونے پر باغ بیچنا جائز ہے، اس کا عشر مالک کے ذمہ ہوگا

سوال: ... ایک شخص نے اپنا باغ ثمر قابل نفع ہونے کے بعد بیچ دیا، آیا وہ عشر دے یا خریدنے والے پر عشر آئے گا؟

جواب: ... اس صورت میں خریدنے والے پر عشر نہیں، بلکہ باغ کے فروخت کرنے والے پر عشر ہے۔<sup>(۵)</sup>

(۱) گزشتہ صفحہ حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) دیکھئے ص: ۱۸۱ کا حاشیہ نمبر ۳، ۴۔

(۳) حوالہ کے لئے دیکھئے ص: ۱۸۲ کا حاشیہ نمبر ۳، اور ص: ۱۸۱ کا حاشیہ نمبر ۵۔

(۴) قوله بلا رفع مؤن أى يجب العشر فى الأول ونصفه فى الثانى بلا رفع أجره العمال ونفقة البقر وكرى الأنهار وأجرة الحافظ ونحو ذلك ..... بل يجب العشر فى الكل... إلخ. (شامی ج: ۲ ص: ۳۲۸، باب العشر).

(۵) وإذا باع الأرض العشرية وفيها زرع قد أدرك مع زرعها أو باع الزرع خاص فعشره على البائع دون المشتري. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۷، كتاب الزكاة، الباب السادس فى زكاة الزرع والثمار).

عشر کی رقم رفاہ عامہ کے لئے نہیں، بلکہ فقراء کے لئے ہے

سوال: ... حکومت پاکستان نے جو زکوٰۃ و عشر کمیٹیاں بنائی ہیں، ان کے پاس عشر کی کافی رقم جمع ہے، کیا رقم عشر رفاہ عامہ پر خرچ کی جاسکتی ہے؟ مثلاً: اسکول کی عمارت یا چار دیواری یا گلیاں وغیرہ؟

جواب: ... زکوٰۃ اور عشر کی رقم صرف فقراء و مساکین کو دی جاسکتی ہے،<sup>(۱)</sup> رفاہ عامہ پر خرچ کرنا جائز نہیں۔<sup>(۲)</sup>

قرض دار کو قرض کی رقم عشر و زکوٰۃ میں چھوڑنا

سوال: ... کیا قرض دار کو قرض کے روپے (اُدھار دیئے ہوئے روپے) عشر و زکوٰۃ میں چھوڑے جاسکتے ہیں یا نہیں؟

جواب: ... عشر و زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے، اس لئے قرضہ جو پہلے دیا تھا اس کو عشر و زکوٰۃ میں نہیں چھوڑا جاسکتا۔<sup>(۳)</sup> البتہ یہ ہو سکتا کہ اس کو زکوٰۃ دے کر یہ رقم اپنے قرضے میں اس سے واپس کر لی جائے۔

گورنمنٹ نے اگر کم عشر لیا ہو تو بقیہ کا کیا کریں؟

سوال: ... زید پر دس ہزار روپے عشر بنتی ہے، جبکہ حکومت کے قوانین کے مطابق تین ہزار روپے عشر بنتی ہے، زید نے حکومت کو تین ہزار روپے ادا کر دیئے، اب زید باقی سات ہزار روپے ادا کرے گا یا دس ہزار؟ اور حکومت کو جو عشر ادا کی وہ جائز ہے یا ناجائز؟

جواب: ... جتنا باقی ہے وہ خود اپنے طور پر ادا کر دے۔<sup>(۴)</sup>

عشر کی ادائیگی سے متعلق متفرق مسائل

سوال: ... کیا عشر کا زکوٰۃ کی طرح نصاب ہے؟ کیونکہ حکومت نے ایک مقدار مقرر کی ہوئی ہے، اگر فصل اس مقدار سے زیادہ ہو تو عشر دینا لازمی ہے، ورنہ نہیں۔

جواب: ... حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک عشر کا نصاب نہیں، بلکہ ہر قلیل و کثیر میں عشر واجب ہے،<sup>(۵)</sup> حکومت ایک خاص

(۱) مصرف الزکاة والعشر ..... (هو فقير وهو من له ادنى شىء) أى دون نصاب ..... (ومسكين، من لا شىء

له) على المذهب... الخ. (در مختار ج: ۲ ص: ۲۳۹ باب مصرف، أيضاً: اللباب فى شرح الكتاب ج: ۱ ص: ۱۳۸).

(۲) ولا يجوز أن يبنى بالزکوٰۃ المسجد وكذا القناطر والسقايات... الخ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۸).

(۳) وأما ركنه فالتملك كالزکوٰۃ وشرائط الأداء ما قدمناه فى الزکوٰۃ. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۵۵، باب العشر).

(۴) فيجب إخراج الواجب من جميع ما أخرجته الأرض عشراً أو نصفاً. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۵۶، باب العشر).

(۵) كان أبو حنيفة يقول: فى قليل الثمار والزروع، وفى كثيرها الصدقة..... والحجة لأبى حنيفة فى إيجاب الحق

فى جميع الأصناف خلا ما ذكرنا، قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وعمومه يوجب الحق فى كل خارج... الخ. (شرح مختصر الطحاوى ج: ۲ ص: ۲۸۷). قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى:

فى قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر... الخ. (اللباب فى شرح الكتاب ج: ۱ ص: ۱۳۶، باب زكاة الزروع).

مقدار پر عشر وصول کرتی ہے، اس سے کم کا عشر مالک کو خود ادا کرنا چاہئے۔

سوال: ... حکومت کو عشر، زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ تصرف بہت مشکوک ہے۔

جواب: ... اعتماد نہ ہو تو نہ دیا جائے، لیکن کیا ایسا ممکن بھی ہے کہ حکومت عشر وصول کرے اور کسان ادا نہ کرے...؟

سوال: ... بارانی زمین کی فصل پر عشر دسواں حصہ ہے، اور نہری، چاہی وغیرہ پر بیسواں حصہ، کیا بیسواں حصہ اس لئے مقرر ہے کہ مؤخر الذکر پر اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اگر یہ صحیح ہے تو آج کل کیڑے مارا سپرے اور کیمیائی کھاد کا اضافہ خرچ کا شکار کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کیا اسپرے وغیرہ کا خرچ فصل کی آمدنی سے کم کر کے عشر دینا ہوگا یا کل پیداوار پر عشر دینا ہوگا؟

جواب: ... شریعت نے اخراجات پر نصف عشر (یعنی دسویں حصے کے بجائے بیسواں حصہ) کر دیا ہے، اس لئے اخراجات کو منہا کر کے عشر نہیں دیا جائے گا، بلکہ تمام پیداوار کا عشر دیا جائے گا۔<sup>(۱)</sup>

سوال: ... فرض کریں ڈھائی ایکڑ زمین سے ۱۰۰ من گندم پیدا ہوتی ہے، اس گندم کی کٹائی کا خرچ تقریباً ۵ من ہوگا، گندم کی کٹائی دو من فی ایکڑ کے حساب سے کرتے ہیں، اور تھریشر (گہائی) کا خرچ تقریباً ۱۵ من ہوگا، بچت آمدنی ۸۰ من ہوگی، کیا عشر ۱۰۰ من پر دینا ہوگا یا ۸۰ من پر؟

جواب: ... عشر سو من پر آئے گا۔<sup>(۲)</sup>

سوال: ... گندم کی فصل کی کٹائی کی مزدوری گندم میں دینا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ گندم کی فصل کی کٹائی کی مزدوری صرف گندم کی صورت میں لیتے ہیں۔

جواب: ... صاحبین کے نزدیک جائز ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔<sup>(۳)</sup>

(۱) وکل شیء أخرجه الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المونة فلا معنى لرفعها. (هداية ج: ۱ ص: ۲۰۳، كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والشمار، أيضاً: فتاوى شامی ج: ۲ ص: ۳۲۸ باب العشر). نیز دیکھئے ص: ۱۸۳ کا حاشیہ نمبر ۳ و ص: ۱۸۱ کا حاشیہ نمبر ۵۔

(۲) بلا رفع مؤن ..... بلا رفع أجرة العمال ونفقة البقر وكري الأنهار وأجرة الحافظ ونحو ذلك ..... بل يجب في الكل... الخ. (شامی، باب العشر ج: ۲ ص: ۳۲۸). وکل شیء أخرجه الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المونة فلا معنى لرفعها. (هداية ج: ۱ ص: ۲۰۳، كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والشمار).

(۳) ولا تصح عند الإمام لأنها كقفيز الطحان وعندهما تصح وبه يفتى للحاجة وقياساً على المضاربة. (الدر المختار ج: ۶ ص: ۲۷۵، كتاب المزارعة، طبع سعيد).

## زکوٰۃ کے متفرق مسائل

### زکوٰۃ دہندہ جس ملک میں ہو اسی ملک کی کرنسی کا اعتبار ہوگا

سوال: ...چند دوست مل کر اپنے وطن کے مستحقین کے لئے زکوٰۃ کی مد سے رقم بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں کی کرنسی اور ہماری کرنسی میں فرق ہے، مثلاً: یہاں سے ۵۰,۰۰۰ روپے بھیجیں گے تو ان کو ۴۰,۰۰۰ روپے ملیں گے، اب یہ پوچھنا ہے کہ زکوٰۃ ۵۰,۰۰۰ روپے کی ادا ہوگی یا ۴۰,۰۰۰ روپے کی ادا ہوگی؟ کیونکہ وہاں کے اور یہاں کے دام میں یہی فرق چلتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے دیس میں زکوٰۃ بھیجیں جہاں کی کرنسی کی قیمت یہاں کی کرنسی کی قیمت سے کم ہو، یعنی اگر ہم یہاں سے ۵۰,۰۰۰ روپے بھیجیں تو وہاں ۶۰,۰۰۰ روپے ملیں، تو اس صورت میں زکوٰۃ ۵۰,۰۰۰ روپے کی ادا ہوگی یا ۶۰,۰۰۰ روپے کی؟ دونوں مسئلوں کا جواب بہت ضروری ہے، کیونکہ دونوں دیس میں ہماری برادری کے کچھ آدمی بستے ہیں، اس کو اگر اخبار ”جنگ“ میں شائع کرادیں تو بہتوں کا بھلا ہوگا، کیونکہ کئی لوگ اس طرح پیسے بھیجتے رہتے ہیں تو ان کو بھی مسئلے کا پتا چل جائے گا۔

جواب: ... زکوٰۃ دہندہ نے جس ملک کی کرنسی سے زکوٰۃ ادا کی ہے وہاں کی کرنسی کا اعتبار ہوگا، اس ملک کی کرنسی سے جتنے مال کی زکوٰۃ ادا کی اتنے مال کی زکوٰۃ شمار ہوگی، دوسرے ملک کی کرنسی خواہ کم ہو یا زیادہ۔

دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ جو رقم کسی محتاج یا محتاجوں کو دی گئی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے مال کا چالیسواں حصہ ہونا چاہئے، جس کرنسی میں زکوٰۃ ادا کی گئی ہو اس کرنسی کے حساب سے چالیسویں حصے کا اعتبار ہوگا۔<sup>(۱)</sup>

### امریکا والے کس کرنسی سے زکوٰۃ ادا کریں؟

سوال: ... امریکا میں رہنے والے کس کرنسی سے زکوٰۃ ادا کریں؟

جواب: ... وہ ڈالر کے حساب سے زکوٰۃ کا تعین کریں گے، چاہے اس کے بعد اس مالیت کو پاکستانی روپے میں تبدیل کر کے زکوٰۃ دے دیں۔<sup>(۲)</sup>

(۱) المال الذی تجب فیہ الزکوٰۃ ان ادى زکاتہ من خلاف جنسہ اى قدر قيمة الواجب اجماعاً. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۰، کتاب الزکاة، الباب الثالث فی زکاة الذهب والفضة والعروض، طبع رشیدیہ کوئٹہ).

(۲) ایضاً حوالہ بالا۔

زکوٰۃ کی مد میں رکھے ہوئے پیسوں میں سے کھلا کرنا، ضرورت کے لئے لینا

سوال: کیا زکوٰۃ کی مد کے رکھے ہوئے الگ پیسے میں سے پیسے کھلے کر سکتے ہیں؟ یا عارضی ضرورت کے لئے اس میں سے پیسے نکال سکتے ہیں؟

جواب: جو پیسے آپ نے زکوٰۃ کی مد میں الگ رکھ دیئے ہیں، وہ جب تک فقیر کو ادا نہیں کئے جاتے، وہ پیسے آپ ہی کی ملکیت ہیں، ان کو بدل بھی سکتی ہیں، خرچ بھی کر سکتی ہیں، لیکن جب فقیر کو دینے ہوں گے تو زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہوگا۔<sup>(۱)</sup>

زکوٰۃ کے لئے نکالی ہوئی رقم یا سود کا استعمال

سوال: ایک شخص نے زکوٰۃ کی رقم یا سود کی رقم مستحق کو دینے کے لئے نکالی، لیکن عین وقت پر اسے کچھ رقم کی ضرورت پڑ گئی، تو کیا وہ زکوٰۃ یا سود کی رقم سے بطور قرض لے سکتا ہے؟

جواب: زکوٰۃ کی رقم تو اس کی ملکیت ہے جب تک کسی کو ادا نہیں کر دیتا، اس لئے اس کا استعمال کرنا صحیح ہے۔<sup>(۲)</sup> سود کی رقم کا استعمال صحیح نہیں۔<sup>(۳)</sup>

سود کی رقم پر زکوٰۃ

سوال: ایک شخص کا بینک میں اکاؤنٹ ہے، اور سال کے آخر میں اپنے اکاؤنٹ میں جتنا منافع ملتا ہے، ٹھیک اتنے ہی کا چیک کاٹ کر نکال لیتا ہے، اور پھر غریبوں میں یہ سب کچھ کر بانٹ دیتا ہے کہ ثواب ملے گا یا زکوٰۃ بانٹ دیتا ہے تو کیا واقعی ثواب ملے گا یا نہیں؟ اسلامی شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟

جواب: سود کی رقم صدقے کی نیت سے کسی کو نہیں دینی چاہئے، بلکہ ثواب کی نیت کے بغیر کسی محتاج کو دے دینی چاہئے۔<sup>(۴)</sup> صدقہ تو پاک چیز کا دیا جاتا ہے، سود کا نہیں۔ پس سود کی رقم سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاسکتی۔<sup>(۵)</sup>

(۱) إذا دفع الزکوٰۃ إلى الفقير لا يتم الدفع ما لم يقبضها. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۰، کتاب الزکاة، الباب السابع فی المصارف)، وأما شرط أدائها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۷۰، شامی ج: ۲ ص: ۲۷۰).  
(۲) ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء للفقراء. قوله ولا يخرج..... فلو ضاعت لا تسقط عنه الزکوٰۃ... الخ. (شامی ج: ۲ ص: ۲۷۰، مطلب فی زکاة ثمن المبيع وفاء، کتاب الزکاة).

(۳) عن جابر رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله و كاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم. (مشکوٰۃ ص: ۲۳۳، طبع قديمی). أيضاً: أن ما وجب التصدق بکله لا يفيد التصدق ببعضه لأن المغصوب إن علمت أصحابه أو ورثتهم وجب رده عليهم وإلا وجب التصدق به. (شامی ج: ۲ ص: ۲۹۱، باب زکاة الغنم).

(۴) إنما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعي، أي مع رجاء الثواب الناشئ استحلاله. (شامی ج: ۲ ص: ۲۹۲).

(۵) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً... الخ. (مشکوٰۃ ص: ۲۳۱)، أيضاً: في القنية لو كان الخبيث نصاباً لا يلزمه الزکوٰۃ لأن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه اهد ومثله في البزازية. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۹۱، باب زکاة الغنم).

## صدقہ فطر

### صدقہ فطر کے مسائل

سوال: ...صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں؟

جواب: ...صدقہ فطر کے مسائل حسب ذیل ہیں:

۱: ...صدقہ فطر ہر مسلمان پر جبکہ وہ بقدر نصاب مال کا مالک ہو، واجب ہے۔<sup>(۱)</sup>

۲: ...جس شخص کے پاس اپنی استعمال اور ضروریات سے زائد اتنی چیزیں ہوں کہ اگر ان کی قیمت لگائی جائے تو ساڑھے باون تولے چاندی کی مقدار ہو جائے تو یہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا، اور اس کے ذمہ صدقہ فطر واجب ہوگا (چاندی کی قیمت بازار سے دریافت کر لی جائے)۔<sup>(۲)</sup>

۳: ...ہر شخص جو صاحب نصاب ہو اس کو اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اور اگر نابالغوں کا اپنا مال ہو تو اس میں سے ادا کیا جائے۔<sup>(۳)</sup>

۴: ...جن لوگوں نے سفر یا بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، صدقہ فطر ان پر بھی واجب ہے، جبکہ وہ کھاتے پیتے صاحب نصاب ہوں۔<sup>(۴)</sup>

۵: ...جو بچہ عید کی رات صبح صادق طلوع سے پہلے پیدا ہوا، اس کا صدقہ فطر لازم ہے، اور اگر صبح صادق کے بعد پیدا ہوا تو لازم نہیں۔

۶: ...جو شخص عید کی رات صبح صادق سے پہلے مر گیا، اس کا صدقہ فطر نہیں، اور اگر صبح صادق کے بعد مرے تو اس کا صدقہ فطر

(۱) وہی واجبة علی الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلاً عن حوائجہ الأصلية۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۱)۔

(۲) ولا يعتبر فيه وصف النماء ويتعلق بهذا النصاب وجوب الاضحية۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۱، کتاب الزکاة، الباب الثامن فی صدقة الفطر)۔ ذی نصاب فاضل عن حاجته الأصلية كدينه وحوائج عياله... الخ۔ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۶۰)۔

(۳) وتجب عن نفسه وطفله الفقير كذا فی الكافي..... ثم إذا كان للولد الصغير أو الجنون مال..... يخرج صدقة فطر..... من مالهما... الخ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۲، کتاب الزکاة، الباب الثامن فی صدقة الفطر)۔

(۴) حاشیہ نمبر ۱ دیکھیں۔

(۱) واجب ہے۔

۷: ... عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا بہتر ہے،<sup>(۲)</sup> لیکن اگر پہلے نہیں کیا تو بعد میں بھی ادا کرنا جائز ہے، اور جب تک ادا نہیں کرے گا اس کے ذمہ واجب الادا رہے گا۔<sup>(۳)</sup>

۸: ... صدقہ فطر ہر شخص کی طرف سے پونے دو سیر گندم یا اس کی قیمت ہے، اور اتنی قیمت کی اور چیز بھی دے سکتا ہے۔<sup>(۴)</sup>

۹: ... ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک سے زیادہ فقیروں، محتاجوں کو دینا بھی جائز ہے، اور کئی آدمیوں کا صدقہ ایک فقیر، محتاج کو بھی دینا درست ہے۔<sup>(۵)</sup>

۱۰: ... جو لوگ صاحب نصاب نہیں، ان کو صدقہ فطر دینا درست ہے۔<sup>(۶)</sup>

۱۱: ... اپنے حقیقی بھائی، بہن، چچا، پھوپھی کو صدقہ فطر دینا جائز ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، اسی طرح ماں باپ اولاد کو اور اولاد ماں باپ، دادا دادی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتی۔<sup>(۷)</sup>

۱۲: ... صدقہ فطر کا کسی محتاج، فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، اس لئے صدقہ فطر کی رقم مسجد میں لگانا یا کسی اور اچھائی کے کام میں لگانا درست نہیں۔<sup>(۸)</sup>

## محتاج چچی کو صدقہ فطر دینا

سوال: ... دوسری بات یہ ہے کہ عید الفطر جو کہ گزر گئی اس عید پر مجھے جو فطرہ دینا تھا، وہ میں نے اپنی چچی کو دے دیا، اب گاؤں والے کہتے ہیں کہ یہ دیا ہوا فطرہ تمہارا نا جائز ہے، کیونکہ اس کا شوہر زندہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کو شوہر بالکل کچھ بھی نہیں دیتا، اب آپ بتائیں کہ یہ دیا ہوا فطرہ جائز ہے یا نا جائز؟

(۱) ووقت الوجوب بعد طلوع الفجر الثانی من یوم الفطر فمن مات قبل ذلك لم تجب علیه الصدقة ومن ولد أو أسلم قبله وجبت ومن ولد أو أسلم بعده لم تجب... الخ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۲، کتاب الزکاة، الباب الثامن)۔

(۲) والمستحب للناس أن يخرجوا الفطرة بعد طلوع الفجر يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلی کذا فی الجوهرۃ النيرة۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۲، کتاب الزکاة، الباب الثامن فی صدقة الفطر)۔

(۳) وأما وقت أدائها فجميع العمر عند عامة مشايخنا رحمهم الله کذا فی البدائع۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۲)۔

(۴) وهي نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر ودقيق الحنطة والشعير وسويقهما مثلهما والخبز لا يجوز إلا باعتبار القيمة وهو الأصح۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۱، کتاب الزکاة، الباب الثامن فی صدقة الفطر)۔

(۵) ويجوز أن يعطى ما يجب فی صدقة الفطر عن إنسان واحد جماعة مساکين ويعطى ما يجب عن جماعة مسکینا واحداً لأن الواجب زکوة فجاز جمعها وتفریقها کزکوة المال۔ (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۷۵، أيضاً الدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ۳۶۷، باب صدقة الفطر)۔

(۶) ومصرف هذه الصدقة ما هو مصرف الزکوة کذا فی الخلاصة۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۳، کتاب الزکاة)۔

(۷) ایضاً۔

(۸) ایضاً۔

جواب:.... اگر آپ کی یہ چچی محتاج ہے تو اس کو صدقہ فطر دینا صحیح ہے۔<sup>(۱)</sup>

### عید کے بعد دیر سے فطرہ ادا کرنا

سوال:.... کچھ عرصہ قبل اہلیہ کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور وہ ناراض ہو کر میکے چلی گئی۔ رمضان میں جب میں نے زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ دینا شروع کیا تو غصے میں بیوی کے نام کا فطرہ نہیں دیا، باقی تمام بچوں وغیرہ کا فطرہ ادا کیا۔ میری اہلیہ چھ مہینے بعد گھر واپس آگئی اور اس وقت میرے ساتھ رہ رہی ہے، اب میں کس طرح سے اس غلطی کا تدارک کر سکتا ہوں؟

جواب:.... میاں بیوی کا جھگڑا تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن آپ نے ناراضی میں بچوں والی بات کی۔ بہر حال بیوی کی اجازت سے صدقہ فطر ادا کر دیں۔<sup>(۲)</sup>

### صدقہ فطر غیر مسلم کو دینا جائز ہے، مسئلے کی تصحیح و تحقیق

سوال:.... جناب مولانا صاحب! ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ ۲۱/ اگست جمعہ کے ایڈیشن میں آپ سے ایک مسئلے میں خطا ہوئی ہے، کیونکہ آپ کے توسط سے عوام کو دینی مسائل سے آگاہی حاصل ہو رہی ہے، اور میں ان مسائل کی تصحیح کے لئے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں تاکہ عوام کو صحیح خبر حاصل ہو، اور آپ سے گزارش ہے کہ مسائل کو تحقیق دقیق کے بعد زیر قلم فرمایا کریں، ذمہ داری اور فرض پورا کریں، جس مسئلے میں خطا ہوئی ہے، وہ زیر ملاحظہ ہو:

”صدقہ فطر غیر مسلم کو دینا صحیح ہے“ میں اولاً اس مسئلے کے لئے بہشتی زیور کا حوالہ درج کئے دیتا ہوں۔ ”زکوٰۃ کن کو دینا جائز ہے“ کے بیان میں حصہ سوم بہشتی زیور مسئلہ نمبر ۸ یوں ہے: ”مسئلہ: زکوٰۃ کا پیسہ کافر کو دینا درست نہیں ہے، مسلمان ہی کو دیوے، زکوٰۃ اور عشر، صدقہ فطر اور نذر و کفارہ کے سوا اور خیر خیرات کافر کو بھی دینا درست ہے۔“

ان کتب نے جو میرے پاس موجود ہیں، اسی قول کو مختار کہا ہے، در مختار، بہار شریعت، قانون شریعت، عمدۃ الفقہ، شامی۔

جواب:.... جناب کی تصحیح کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائیں۔ میں آنجناب سے بھی اور دیگر اہل علم سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس ناکارہ کی تحریر میں کوئی غلطی نظر آئے تو اس پر ضرور متنبہ فرمایا جائے۔ اب اس مسئلے میں اپنی تحقیق عرض کرتا ہوں، جن حضرات کو اس تحقیق سے اتفاق نہ ہو وہ اپنی تحقیق پر عمل فرما سکتے ہیں۔

فتاویٰ عالمگیری (ج: ۱ ص: ۱۸۸ طبع جدید کوئٹہ) میں ہے:

”ذمی کافروں کو زکوٰۃ دینا بالاتفاق جائز نہیں، نفلی صدقہ دینا بالاتفاق جائز ہے، مگر صدقہ فطر، نذر اور

کفارات میں اختلاف ہے، امام ابوحنیفہ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ جائز ہے، مگر فقہائے مسلمین کو دینا ہمیں زیادہ

(۱) و مصرف هذه الصدقة ما هو مصرف الزكاة. (عالمگیری، باب صدقة الفطر ج: ۱ ص: ۱۹۳، کتاب الزكاة).

(۲) وان آخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها. (عالمگیری، باب صدقة الفطر ج: ۱ ص: ۱۹۲).



محبوب ہے۔ شرح طحاوی میں اسی طرح ہے۔“<sup>(۱)</sup>

در مختار مع شامی (ج: ۲ ص: ۳۵۱ طبع جدید مصر) میں ہے:

”زکوٰۃ اور عشر و خراج کے علاوہ دیگر صدقات، خواہ واجب ہوں، جیسے: نذر، کفارہ، فطرہ، ذمی کو دینا جائز ہے۔ اس میں امام ابو یوسف کا اختلاف ہے، اور انہی کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے، حاوی قدسی۔“<sup>(۲)</sup>

علامہ شامی اس پر لکھتے ہیں:

”ہدایہ وغیرہ میں تصریح ہے کہ یہ امام ابو یوسف کی ایک روایت ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابو یوسف کا مشہور قول امام ابو حنیفہ و محمد کے مطابق ہے۔“

”خیر رملی کے حاشیہ میں حاوی سے جو نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ امام ابو یوسف کے قول کو لیتے ہیں (لیکن ہدایہ وغیرہ کے کلام کا مفاد یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ و محمد کا قول راجح ہے اور عام متون اسی پر ہیں۔“<sup>(۳)</sup>

فتاویٰ قاضی خان بر حاشیہ عالمگیری (ج: ۱ ص: ۲۳۱) میں ہے:

”اور جائز ہے کہ صدقہ فطر فقراء اہل ذمہ کو دیا جائے، مگر مکروہ ہے۔“<sup>(۴)</sup>

ان عبارات سے حسب ذیل نتائج حاصل ہوئے:

۱:... امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک صدقہ فطر وغیرہ ذمی کافر کو دینا جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ مسلمان کو دیا جائے، ذمی کو دینا بہتر نہیں۔

۲:... امام ابو یوسف کا مشہور قول بھی یہی ہے، مگر ان سے ایک روایت یہ ہے کہ صدقات واجبہ کافر کو دینا صحیح نہیں۔

۳:... حاوی قدسی نے امام ابو یوسف کی اس روایت کو لیا ہے، مگر ہدایہ اور فقہ حنفی کے تمام متون نے امام ابو حنیفہ و محمد ہی کے قول کو لیا ہے۔

۴:... جن حضرات نے عدم جواز کا فتویٰ دیا، انہوں نے غالباً حاوی قدسی کے قول پر اعتماد کیا ہے، بہشتی زیور کے متن میں بھی اسی کو لیا گیا ہے، اور بندہ نے بھی ”جنگ“ کی کسی گزشتہ اشاعت میں اسی کو اختیار کیا تھا، لیکن امام ابو حنیفہ و محمد کا فتویٰ جواز کا ہے، اور حاوی قدسی کے علاوہ تمام اکابر نے اسی کو اختیار کیا ہے، بہشتی زیور کے حاشیہ میں بھی اسی کو نقل کیا ہے، اس لئے اس ناکارہ نے اپنے پہلے مسئلہ سے رجوع کرنا ضروری سمجھا تھا۔

(۱) وأما أهل الذمة فلا يجوز صرف الزکوٰۃ إليهم بالإتفاق ويجوز صرف صدقة التطوع إليهم بالإتفاق واختلفوا في الصدقة الفطر والنذر والكفارات قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز إلا أن فقراء المسلمين أحب إلينا كذا في شرح الطحاوی۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۸، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف)۔

(۲) وجاز دفع غيرها وغير العشر والخراج إليه أي الذمی ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة خلافاً للثانی وبقوله يفتی حاوی القدسی۔ (الدر المختار مع الشامی ج: ۲ ص: ۳۵۱، باب المصارف)۔

(۳) وصرح في الهداية وغيرها بأن هذا الرواية عن الثانی، وظاهر أن قوله المشهور كقولهما (قوله وبقوله يفتی) الذي في حاشية الخیر الرملي عن الحاوی وبقوله نأخذ، قلت لكن كلام الهداية وغيرها يفيد ترجيح قولهما وعليه المتون۔ (شامی ج: ۲ ص: ۳۵۲)۔

(۴) ويجوز أن يعطى فقراء أهل الذمة ويكرهه۔ (فتاویٰ قاضیخان بر حاشیہ عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۱)۔

## منت و صدقہ

### صدقہ کی تعریف اور اقسام

سوال: ...صدقہ کی تعریف کیا ہے؟ اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟

جواب: ...جو مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اللہ کی راہ میں غرباء و مساکین کو دیا جاتا ہے یا خیر کے کسی کام میں خرچ کیا جاتا ہے، اسے ”صدقہ“ کہتے ہیں۔<sup>(۱)</sup> صدقہ کی تین قسمیں ہیں: ۱: ...فرض، جیسے زکوٰۃ۔ ۲: ...واجب، جیسے نذر، صدقہ فطر اور قربانی وغیرہ۔ ۳: ...نفل صدقات، جیسے عام خیرات۔

### خیرات، صدقہ اور نذر میں فرق

سوال: ...خیرات، صدقہ اور نذر میں کیا فرق ہے؟

جواب: ...صدقہ و خیرات تو ایک ہی چیز ہے، یعنی جو مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کسی خیر کے کام میں خرچ کیا جائے وہ صدقہ و خیرات کہلاتا ہے،<sup>(۲)</sup> اور کسی کام کے ہونے پر کچھ صدقہ کرنے کی یا کسی عبادت کے بجالانے کی منت مانی جائے تو اس کو ”نذر“ کہتے ہیں۔<sup>(۳)</sup> ”نذر“ کا حکم زکوٰۃ کا حکم ہے، اس کو صرف غریب غرباء کھا سکتے ہیں، غنی نہیں کھا سکتے۔<sup>(۴)</sup> ”نیاز“ کے معنی بھی نذر ہی کے ہیں۔

### صدقہ اور منت میں فرق

سوال: ...صدقہ اور منت میں کیا فرق ہے؟

(۱) الصدقة: هي العطية التي تبتغى بها المثوبة من الله تعالى. (قواعد الفقه ص: ۳۴۸). والصدقة العطية التي يراد بها المثوبة عنده تعالى سميت بها لأنها تظهر صدق رغبة الرجل في تلك المثوبة. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج: ۱ ص: ۴۳۲، طبع رشيدية كوئٹہ).

(۲) أيضًا.

(۳) ومن نذر نذرًا مطلقًا أو معلقًا بشرط وكان من جنسه واجب ..... لزم الناظر لحديث من نذر وسمى فعلية الوفاء بما سمي كصوم وصلاة وصدق... الخ. (الدر المختار مع الرد ج: ۳ ص: ۴۳۵، كتاب الأيمان).

(۴) ولا يجوز لهم النذور والكفارات ولا صدقة الفطر ولا جزاء الصيد لأنها صدقة واجبة... الخ. (الجوهرة النيرة ج: ۱ ص: ۱۳۳، كتاب الزكاة، باب من يجوز رفع الصدقة إليه ومن لا يجوز).

جواب:۔۔۔ نذر اور منت اپنے ذمہ کسی چیز کے لازم کرنے کا نام ہے، مثلاً: کوئی شخص منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنا صدقہ کروں گا، کام ہونے پر منت مانی ہوئی چیز واجب ہو جاتی ہے۔ اور کوئی آدمی بغیر لازم کئے اللہ کے راستے میں خیر خیرات کرے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں، گویا منت بھی صدقہ ہی ہے، مگر وہ صدقہ واجبہ ہے، جبکہ عام صدقات واجب نہیں ہوتے۔

## نذر اور منت کی تعریف

سوال:۔۔۔ نذر اور منت کی تعریف کیا ہے؟ اور ان میں اگر کوئی فرق ہو تو واضح فرمائیں۔

جواب:۔۔۔ نذر کے معنی ہیں کسی شرط پر کوئی عبادت اپنے ذمہ لے لینا،<sup>(۱)</sup> مثلاً: اگر فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، بیت اللہ کا حج کروں گا، یا اتنی رقم فقراء کو دوں گا وغیرہ، اسی کو منت بھی کہا جاتا ہے۔  
منت اور نذر کا گوشت نہ خود استعمال کر سکتا ہے، نہ کسی غنی کو دے سکتا ہے، بلکہ اس کا گوشت فقراء پر تقسیم کرنا ضروری ہے۔<sup>(۲)</sup>

## منت کی شرائط

سوال:۔۔۔ ہمارے مذہب میں منت ماننا کیسا ہے؟ اور اس کے الفاظ کیا ہونے چاہئیں؟ اور کن کن صورتوں میں منت

ماننی چاہئے؟

جواب:۔۔۔ شرعاً منت ماننا جائز ہے، مگر منت ماننے کی چند شرطیں ہیں، اول یہ کہ منت اللہ تعالیٰ کے نام کی مانی جائے، غیر اللہ کے نام کی منت جائز نہیں، بلکہ گناہ ہے۔<sup>(۳)</sup> دوم یہ کہ منت صرف عبادت کے کام کی صحیح ہے، جو کام عبادت نہیں اس کی منت بھی صحیح نہیں۔<sup>(۴)</sup> سوم یہ کہ عبادت بھی ایسی ہو کہ اس طرح کی عبادت کبھی فرض یا واجب ہوتی ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، قربانی وغیرہ۔ ایسی عبادت کہ اس کی جنس کبھی فرض یا واجب نہیں، اس کی منت بھی صحیح نہیں، چنانچہ قرآن خوانی کی منت مانی ہو تو وہ لازم نہیں ہوتی۔<sup>(۵)</sup>

## صرف خیال آنے سے منت لازم نہیں ہوتی

سوال:۔۔۔ محترم! میری ایک دوست ہے غیر شادی شدہ، اس کی پھوپھی کی شادی کو کافی عرصہ گزر گیا، وہ ابھی تک اولاد جیسی

(۱) ولو جعل عليه حجة أو عمرة أو صوماً أو صلاة أو صدقة أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة إن فعل كذا ففعل لزمه ذلك الذي جعله على نفسه. (عالمگیری ج: ۲ ص: ۶۵، کتاب الأیمان، الباب الثانی فیما یكون یمیناً وما لا یكون یمیناً).

(۲) ایضاً۔

(۳) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳ ملاحظہ ہو۔

(۴) (قوله باطل و حرام) بوجوه، منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. (شامی ج: ۲ ص: ۲۳۹، مطلب فی النذر الذی یقع للأموال من أكثر العوام... الخ).

(۵) وفي البدائع: ومن شروطه أن يكون قرابة مقصودة فلا يصح النذر بعبادة المريض والوضوء والإغتسال... الخ. (شامی ج: ۳ ص: ۷۳۵، کتاب الأیمان).

(۶) وكان من جنسه واجب أي فرض..... كصوم وصلاة وصدقہ..... ولم يلزم النادر ما ليس من جنسه فرض... الخ. (الدر المختار مع الرد ج: ۳ ص: ۷۳۵، کتاب الأیمان).

نعمت سے محروم ہیں۔ ایک دن میری دوست کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ پھوپھی یہ کہیں کہ میرے ہاں (پھوپھی کے ہاں) اولاد ہوگئی تو میں بچوں کا سامان کسی کو بھی دے دوں گی۔ اس کے بعد اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ منت تم نے اپنے لئے مانی ہے۔ لیکن یہ خیال آتے ہی میری دوست نے خدا سے توبہ کر لی ہے، اور اس کا ذہن اس ساری چیز کو قبول نہیں کرتا۔ میری دوست آج کل بہت پریشان ہے۔ مہربانی فرما کر مولانا صاحب! آپ یہ فرمائیں کہ اس طرح صرف ذہن میں خیال آنے سے منت ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف خیال آنے سے منت نہیں ہوتی۔

جواب: ... صرف کسی بات کا خیال آنے سے منت نہیں ہوتی، بلکہ زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ہوتی ہے۔<sup>(۱)</sup>

**نابالغی کی حالت میں روزے رکھنے کی منت مانی تو یہ بلوغت کے بعد بھی واجب نہیں**

سوال: ... مجھے پندرہ سال کی عمر میں روزے فرض ہوئے، میں نے تیرہ سال کی عمر میں جب مجھ پر روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو منت مانی تھی کہ میری بلی کا بچہ جو گم ہو گیا تھا واپس آجائے تو دو روزے رکھوں گی۔ یہ منت پوری ہوئی، مگر روزہ میں نے نہیں رکھا اور کہا کہ جو رکھے ہیں انہیں میں سے ہو جائے گا، اگلے رمضان میں بھی روزے فرض نہیں ہوئے، لیکن میں نے کئی روزے رکھے، لیکن روزے رکھتے ہوئے منت کی نیت نہیں کی، اب پوچھنا یہ ہے کہ منت کے روزے ادا ہو گئے یا دوبارہ رکھنے ہوں گے؟

جواب: ... یہ منت آپ کے ذمہ لازم نہیں۔<sup>(۲)</sup>

**نابالغی میں مانی ہوئی نذر بالغ ہونے پر بھی واجب نہیں ہوگی**

سوال: ... اگر نابالغ لڑکا نذر مان لے اور وہ کام بھی ہو جائے تو اس نابالغ پر نذر کا پورا کرنا لازم ہے یا نہیں؟ اگر نابالغ کی نذر شرعاً معتبر تھی، لیکن اس نے پوری نہیں کی، تو بالغ ہونے کے بعد بھی پورا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟

جواب: ... نابالغ کی نذر لازم نہیں، اور بالغ ہونے کے بعد بھی اس کا پورا کرنا ضروری نہیں۔<sup>(۳)</sup>

**نذر ماننا شرعاً کیسا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟**

سوال: ... ایک اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نذر مت مانا کرو، اس لئے کہ نذر تقدیری امور میں کچھ بھی نفع بخش نہیں ہے، بس اس سے اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔ حوالہ صحیح مسلم، کتاب النذر، اور صحیح بخاری،

(۱) واجب بالنذر بلسانہ قولہ بلسانہ فلا یکفی لایجابہ النیة۔ (شامی ج: ۲ ص: ۳۳۱، باب الاعتکاف)۔

(۲) عن علی رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتی یتیقظ، وعن الصبی حتی یبلغ، وعن المعتوه حتی یعقل۔ رواہ الترمذی وأبو داؤد ورواہ الدارمی عن عائشة وابن ماجہ عنہما۔ (مشکوٰۃ ص: ۲۸۳، باب الخلع والطلاق، الفصل الثانی)۔

(۳) أما الذی یتعلق بالنذر فشرائط الأهلیة منها العقل ومنها البلوغ فلا یصح نذر الجنون والصبی الذی لا یعقل لأن حکم النذر وجوب المنذور به وهما لیسا من أهل الوجوب وكذا الصبی العاقل لأنه لیس من أهل وجوب الشرائع۔ (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۸۱، طبع ایچ ایم سعید)۔

کتاب الایمان والنذر، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اس قسم کی نذر لایعنی اور ممنوع ہے۔ براہ کرم اسلامی صفحے کے آئندہ جمعہ کے ایڈیشن میں صحیح جواب شائع کرادیں، اور اگر میرے سمجھنے میں کچھ غلطی ہے، تو میری اصلاح فرمائیں۔

جواب:۔۔۔ نذر کے معنی ہیں کسی ایسی عبادت کو اپنے ذمہ لازم کر لینا جو اس پر لازم نہیں تھی۔ اور ”اپنے ذمہ کر لینا“ زبان کا فعل ہے، محض دل میں خیال کرنے سے وہ چیز اس کے ذمہ لازم نہیں ہوتی، جبکہ زبان سے الفاظ ادا نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی نیت کر لینے سے نماز شروع نہیں ہوتی، جب تک تکبیر تحریمہ نہ کہے۔ حج و عمرہ کی نیت کرنے سے حج و عمرہ شروع نہیں ہوتے، جب تک کہ تلبیہ کے الفاظ نہ کہے۔ طلاق کا خیال دل میں آنے سے طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ طلاق کے الفاظ زبان سے نہ کہے۔ اور نکاح کی نیت کرنے سے نکاح نہیں ہوتا، جب تک کہ ایجاب و قبول کے الفاظ زبان سے ادا نہ کئے جائیں۔ اسی طرح نذر کا خیال دل میں آنے سے نذر بھی نہیں ہوتی، جب تک کہ نذر کے الفاظ زبان سے نہ کہے جائیں۔ چنانچہ علامہ شامی نے کتاب الصوم میں نقل کیا ہے کہ نذر زبان کا عمل ہے۔<sup>(۱)</sup>

آپ نے قرآن پاک کی جو آیت نقل کی، اس میں فرمایا گیا کہ: ”جو تم نذر مانو“ میں بتا چکا ہوں کہ نذر کا ماننا زبان سے ہوتا ہے، اس لئے یہ آیت اس مسئلے کے خلاف نہیں۔ آپ نے جو حدیث نقل کی ہے کہ: ”اعمال کا مدار نیت پر ہے“ اس میں عمل اور نیت کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف نیت کرنے سے عمل نہیں ہوتا، بلکہ عمل میں نیت کا صحیح ہونا شرط قبولیت ہے۔ لہذا اس حدیث کی رو سے بھی صرف نیت اور خیال سے نذر نہیں ہوگی، جب تک کہ زبان کا عمل نہ پایا جائے۔

دوسری حدیث میں بھی دلوں اور عملوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف دل کے خیال کا نام عمل نہیں، البتہ عمل کے لئے دل کی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور آپ نے جو حدیث نقل کی ہے کہ: ”نذر مت مانا کرو“ یہ حدیث صحیح ہے۔ مگر آپ نے اس سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ: ”اس قسم کی نذر لایعنی اور ممنوع ہے“ یہ نتیجہ غلط ہے۔ کیونکہ اگر حدیث شریف کا یہی مطلب ہوتا کہ نذر لایعنی اور ممنوع ہے تو شریعت میں نذر کے پورا کرنے کا حکم نہ دیا جاتا، حالانکہ تمام اکابر امت متفق ہیں کہ عبادت مقصودہ کی نذر صحیح ہے، اور اس کا پورا کرنا لازم ہے۔

حدیث میں نذر سے جو ممانعت کی گئی ہے، علماء نے اس کی متعدد وجوہات کی ہیں۔ ایک یہ کہ بعض جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ نذر مان لینے سے وہ کام ضرور ہو جاتا ہے۔ حدیث میں اس خیال کی تردید کے لئے فرمایا گیا ہے کہ نذر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر نہیں ملتی۔ دوم یہ کہ بندے کا یہ کہنا کہ اگر میرے مریض کو شفا ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا۔ یا اتنا مال صدقہ کروں گا۔ ظاہری صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودے بازی ہے، اور یہ عبدیت کی شان نہیں۔<sup>(۲)</sup>

(۱) واجب بالنذر بلسانہ قولہ بلسانہ فلا یکفی لایجابہ النية۔ (شامی ج: ۲ ص: ۳۳۱، باب الاعتکاف)۔

(۲) لأن غیر البخیل یعطی باختیارہ بلا واسطۃ النذور قال القاضی عادة الناس تعلیق النذور علی حصول المنافع ودفع المضار فہی عنہ فان ذلک فعل البخلاء اذا السخی اذا اراد ان يتقرب إلى الله تعالى استعجل فیہ وأتی بہ فی الحال والبخیل لا تطاوعہ نفسہ بإخراج شیء من یدہ إلا فی مقابله عوض یتوفی أولہ فیلتزمہ فی مقابله ..... قال ویحتمل أن یکون سببہ کونہ یأتی بالقربة التي التزمها فی نذرہ علی صورة المعارضة للأمر الذی طلبہ فینقص أجرہ و شأن العبادة أن تكون متمحصاً لله تعالیٰ اھ۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج: ۳ ص: ۵۶۳ طبع بمبئی)۔

## حلال مال صدقہ کرنے سے بلا دُور ہوتی ہے، حرام مال سے نہیں!

سوال: ... علماء سے شنید ہے کہ صدقہ رَدِّ بلا ہے، صدقہ ہر مرض کا علاج ہے، کیا یہ دُرست ہے؟ کسی شخص کو سایہ کا دورہ پڑتا ہے، جاؤ کی تکلیف ہے، تو کیا صدقہ کرنے سے اس کی تکلیف یا دورہ میں فرق پڑے گا؟ کسی تکلیف کے لئے صدقہ کس طرح کرنا چاہئے؟ کیا صدقہ کی منت ماننی بھی جائز ہے؟ مثلاً: اے خدا! اگر فلاں تکلیف اتنے عرصے میں دُور ہو جائے تو میں اتنا صدقہ کروں گا، جائز ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ رشوت لے کر تکلیف دُور کرتا ہے، اگر صدقہ ہر مرض کا علاج ہے، صدقہ کرنے سے تکلیف پریشانی دُور ہوتی ہے، تو پھر گنجاپن بھی ایک بیماری ہے، تو کیا صدقہ کرنے سے سر پر بال اُگ آویں گے؟ صدقہ صرف غریبوں کا حق ہے یا مسجد میں بھی دیا جاسکتا ہے؟ مہربانی فرما کر صدقے کے بارے میں مندرجہ بالا سوالات کا مفصل جواب تحریر فرمادیں، صدقے سے کون سی تکلیف بیماری دُور ہو سکتی ہے اور کس طرح کرنا چاہئے؟

جواب: ... صدقہ رَدِّ بلا کا ذریعہ ہے، لیکن ”ہر مرض کا علاج ہے“ یہ میں نے نہیں سنا، جو مصائب و تکالیف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے پیش آتی ہیں وہ صدقہ سے ٹل جاتی ہیں، کیونکہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔<sup>(۱)</sup> منت ماننا جائز ہے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا،<sup>(۲)</sup> اس لئے بجائے منت ماننے کے صدقہ کرنا چاہئے۔ غریبوں اور محتاجوں کی خدمت بھی صدقہ ہے، اور مسجد کی خدمت بھی صدقہ ہے، مگر صدقہ پاک مال سے ہونا چاہئے، ناپاک اور حرام مال میں سے کیا ہو صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔<sup>(۳)</sup>

## غیر اللہ کی نیاز کا مسئلہ

سوال: ... کیا امام جعفر صادقؑ کی نیاز اور گیارہویں کا کھانا حرام ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کی نیاز نہیں ہوتی؟

جواب: ... غیر اللہ کے نام جو نیاز دی جاتی ہے، اگر اس سے مقصود اس بزرگ کی رُوح کو ایصالِ ثواب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جو صدقہ کیا جائے اس کا ثواب اس بزرگ کو بخش دینا مقصود ہو، تو یہ صورت تو جائز ہے۔<sup>(۴)</sup> اور اگر محض اس بزرگ کی رضا

(۱) وروی عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الصدقة تسد سبعین باباً من السوء۔ رواہ الطبرانی فی الکبیر۔ وعن أنس بن مالک رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: باکروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة۔ رواہ البیهقی مرفوعاً وموقوفاً۔ (الترغیب والترہیب ج: ۲ ص: ۱۹)۔ وعن أنس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء۔ رواہ الترمذی۔ (مشکوٰۃ ص: ۱۶۸)۔

(۲) عن أبي هريرة وابن عمر رضی اللہ عنہما قالاً: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا یغنی من القدر شیئاً وانما یتخرج به من البخیل۔ متفق علیہ۔ (مشکوٰۃ ص: ۲۹۷، باب فی النذور، الفصل الأول)۔

(۳) عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إن اللہ طیب لا یقبل إلا طیباً... الخ۔ (مشکوٰۃ ص: ۲۴۱، کتاب البیوع، باب الکسب وطلب الحلال، الفصل الأول)۔

(۴) صرح علماؤنا فی باب الحج عن الغیر بان للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صدقة أو غيرها کذا فی الهدایة۔ (شامی ج: ۲ ص: ۲۴۳، مطلب فی القراءة لل میت واهداء ثوابها له)۔

حاصل کرنے کے لئے اس کے نام کی نذر نیا زدی جائے تاکہ وہ خوش ہو کر ہمارے کام بنائے، تو یہ ناجائز اور شرک ہے۔<sup>(۱)</sup>

## غیر اللہ کی منت ماننا جائز نہیں

سوال: ... اکثر لوگ معمولی باتوں پر بھی منتیں مان لیتے ہیں، اور اپنے مسائل اولیاء اور انبیاء کے سپرد کر دیتے ہیں، کیا ایسا کرنا گناہ کا باعث تو نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی منت نہیں ماننی چاہئے، اور منت ماننا کسی ولی کو لالچ دینے کے مترادف تو نہیں، مثلاً: منت میں کہا جاتا ہے کہ اگر فلاں کام پورا ہوا تو یہ کریں گے، وہ کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔

جواب: ... غیر اللہ کی منت ماننا گناہ اور شرک ہے، اس سے توبہ کرنی چاہئے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی منت ماننا جائز ہے۔<sup>(۲)</sup>

## بکری کسی زندہ یا وفات شدہ کے نام کرنا

سوال: ... کیا یہ صحیح ہے کہ ایک بکری کسی زندہ یا وفات شدہ کے نام کر دیں اور پھر اس کو ذبح کریں تو اس کا کھانا جائز ہے؟ یا ایسا کہے کہ میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں یہ بکری اس ولی اللہ کے نام پر ذبح کروں گا؟

جواب: ... بکری کسی بزرگ کے نام کر دینے سے اگر یہ مراد ہے کہ اس صدقے کا ثواب اس بزرگ کو پہنچے تو ٹھیک ہے، اور اس بکری کا گوشت حلال ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کی گئی ہو۔<sup>(۳)</sup> اور اگر اس بزرگ کے نام چڑھاوا مقصود ہے تو یہ شرک ہے، اور وہ بکری حرام ہے، الا یہ کہ نذر ماننے والا اپنے فعل سے توبہ کر کے اپنی نذر سے باز آ جائے۔<sup>(۴)</sup>

## خاتونِ جنت کی کہانی من گھڑت ہے اور اس کی منت ناجائز

سوال: ... اگر کوئی خاتون یہ منت مانے کہ اگر میرا فلاں کام پورا ہو جائے تو خاتونِ جنت کی کہانی سنوں گی۔ میں نے بھی تین سو دفعہ خاتونِ جنت کی کہانی سننے کی منت مان رکھی ہے، لیکن تین سو دفعہ سننا دشوار ہو رہا ہے، آپ کوئی حل بتلائیں۔

جواب: ... خاتونِ جنت کی کہانی من گھڑت ہے، نہ اس کی منت درست ہے، نہ اس کا پورا کرنا جائز، آپ اس منت سے

(۱) واعلم أن النذر الذي يقع للأموال من أكثر العوام وما يؤكذ من الدراهم والشمع ونحوهما إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا فهو بالأجماع باطل وحرام. ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام. وفي رد المختار: قوله باطل وحرام بوجوه منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك ومنها أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر. (الدر المختار مع الرد المختار ج: ۲ ص: ۴۳۹).

(۲) واعلم أن النذر الذي يقع للأموال من أكثر العوام وما يؤكذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوهما إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالأجماع باطل وحرام. وفي الشرح: بوجوه منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. (الدر المختار مع الرد المختار ج: ۲ ص: ۴۳۹، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم).

(۳) اللهم إلا إن قال يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضى أو رددت غائبى أو قضيت حاجتى أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الإمام الشافعى أو الإمام الليث أو أشتري حصر المساجد أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل. (رد المختار ج: ۲ ص: ۴۳۹، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم).

(۴) ایضاً حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ ہو۔

توبہ کریں، اس کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔<sup>(۱)</sup>

نہ تو مزار پر سلامی کی منت ماننا جائز ہے اور نہ اس کا پورا کرنا

سوال: ... میری والدہ نے نیت کی تھی کہ میری شادی ہو جائے گی تو وہ مجھے اور میری ڈلہن کو لے کر لال شہباز قلندر کے مزار پر سلامی کے لئے جائیں گی، اب شادی ہو گئی ہے، لیکن میں خواتین کے مزار پر جانے کا مخالف ہوں، شریعت کی رو سے مجھے کیا کرنا چاہئے؟

جواب: ... ایسی منت ماننا صحیح نہیں، اور اس کا پورا کرنا بھی درست نہیں، اس لئے آپ سلامی دینے کے لئے اپنی بیوی کو مزار پر لے کر ہرگز نہ جائیں۔<sup>(۲)</sup>

قرآن مجید کی ہر سطر پر انگلی رکھ کر ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھنے کی منت ماننا

سوال: ... بسم اللہ کا قرآن ختم کرنا کیسا ہے؟ جس میں قرآن مجید کی ہر سطر پر انگلی پھیر کر ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھی جاتی ہے، کیا یہ قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں کہ قرآن پاک میں لکھا کچھ ہے اور ہم پڑھ بسم اللہ ہے ہیں، لوگ اکثر یہ منت مانتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں بسم اللہ کا قرآن ختم کروں گا۔

جواب: ... بسم اللہ شریف کے ساتھ ختم کرنے کی جو صورت سوال میں لکھی ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں، اور اس کی نذر ماننا باطل ہے۔<sup>(۳)</sup>

بیماری سے تندرستی کے لئے منت کا ماننا

سوال: ... میں ایک حادثے میں جل گیا تھا، اور جب میری بیوی کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے منت مانی، میرے شوہر خیریت سے گھر آجائیں گے تو ایک عدد دنیا قرآن شریف مسجد میں رکھواؤں گی۔ اور ۴۱ مرتبہ یسین شریف پڑھواؤں گی۔ اور جب میں اپنی ہسپتال سے گھر خیریت سے آیا تو میری بیوی نے مجھے منت کا بتایا، اور جب میں نے اپنے بزرگوں کے سامنے منت کا مسئلہ رکھا تو انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد مرحوم کے ایصالِ ثواب کے لئے تو قرآن شریف مسجد میں رکھوایا جاتا ہے، پہلے نہیں۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا میں قرآن شریف مسجد میں رکھواؤں یا پھر اس کا کفارہ ادا کروں؟ اگر کفارہ ہوگا تو کتنا ہوگا؟ کیا میں ۴۱ مرتبہ یسین شریف پڑھواؤں؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں؟

(۱) وفي البحر شرائطه خمس فزاد أن لا يكون معصية لذاته إلخ قال في الفتح وأما كون المنذور معصية يمنع انعقاد النذر فيجب أن يكون معناه إذا كان حراماً لعينه أو ليس فيه جهة قرابة. (شامی ج: ۳ ص: ۴۶، مطلب في أحكام النذر).

(۲) أيضاً حوالہ بالا۔

(۳) وفي القياس لا يلزمه شيء لأنه التزم ما ليس بقربة واجبة ولا مقصودة في الأصل. (هداية ج: ۲ ص: ۵۰۲، باب اليمين في الحج والصلاة والصوم)، وفي البدائع: ومن شروطه أن يكون قرابة مقصودة فلا يصح النذر بعبادة المريض وتشيع الجنابة والوضوء والإغتسال ودخول المسجد ومس المصحف... إلخ. (رد المحتار ج: ۳ ص: ۴۵، كتاب الأيمان).



جواب: ... مسجد میں قرآن مجید رکھوانا تو منت کی وجہ سے لازم ہے۔<sup>(۱)</sup> اور یہ تصور غلط ہے کہ قرآن مجید صرف مردے کے لئے رکھوایا جاتا ہے۔ سورہ یسین پڑھوانے کی منت لازم نہیں، ہاں اگر خود پڑھنے کی منت ہوتی تو پڑھنا لازم ہوتا،<sup>(۲)</sup> تاہم اگر پڑھو ادے تو اچھا ہے۔

**ملازمت کی نذر مانی ہو تو کیا انشورنس کی ملازمت ملنے پر واجب ہو جائے گی؟**

سوال: ... اگر ایک شخص نے کسی بھی جگہ ملازمت ملنے کے بارے میں نذر مانی ہو تو آیا اس ملازم کو انشورنس کمپنی کی ملازمت ملنے پر وہ نذر واجب ہو جائے گی یا نہیں؟

جواب: ... نذر تو واجب ہوگی،<sup>(۳)</sup> لیکن حلال مال سے ادا کرے،<sup>(۴)</sup> واللہ اعلم!

**اگر ۹، ۱۰ محرم کو جو تانہ پہننے کی منت مانی تو کیا درست ہوگی؟**

سوال: ... مسئلہ یہ ہے کہ میرے دوست نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام کرا دے تو میں ساری زندگی جب تک میں زندہ رہا، تب تک ۹ اور ۱۰ محرم الحرام کو جوتے، چپل نہیں پہنوں گا، اور یہ دو دن ننگے پیر رہوں گا، آیا اس کی یہ منت درست ہے یا نہیں؟

جواب: ... یہ منت درست نہیں، اور اس کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں۔<sup>(۵)</sup>

سوال: ... مذکورہ بالا سوال کی روشنی میں ایک حل طلب سوال یہ ہے کہ اسے دیکھتے ہوئے میں نے بھی منت مانی کہ اگر اللہ میرے فلاں فلاں کام کرا دے، یا فلاں فلاں چیزیں مجھے مل جائیں تو میں ان شاء اللہ اس سال محرم الحرام کی ۹ اور ۱۰ تاریخ کو بغیر چپل رہوں گا اور اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں لی، میں نے محرم الحرام کی ۹ اور ۱۰ تاریخ کو بغیر چپل پہنے دن گزارے اور اس سال میں نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کرا دے تو میں ساری زندگی جب تک زندہ رہوں گا تب تک محرم الحرام کی ۹ اور ۱۰ تاریخ کو بغیر چپل پہنے ہوئے دن گزاروں گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بہت سے لوگوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ یہ منت ماننا جائز نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ میرے لئے کیا حکم ہے؟ اور کیا اس منت کا پورا کرنا ضروری ہے؟

(۱) ومن نذر نذرا مطلقاً ..... لزوم النذر ..... كصوم وصلاة وصدقة ووقف ... الخ. (الدر المختار ج: ۳ ص: ۷۳۵، کتاب الايمان).

(۲) قوله لم يلزمه وكذا لو نذر قراءة القرآن، قلت وهو مشكل فإن القراءة عبادة مقصودة ومن جنسها واجب وكذا الطواف فإنه عبادة مقصودة أيضاً. (رد المختار ج: ۳ ص: ۷۳۸، کتاب الايمان).

(۳) وان علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر لإطلاق الحديث. (فتح القدير ج: ۳ ص: ۷۷۷، طبع دار صادر بيروت، کتاب الايمان، فصل في الكفارة).

(۴) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ... الخ. (مشكوة ص: ۲۴۱، کتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الأول).

(۵) وفي القياس لا يلزمه شيء لأنه التزم ما ليس بقربة مقصودة ولا مقصودة في الأصل. (هداية ج: ۲ ص: ۵۰۲).

جواب: ... اوپر لکھ چکا ہوں کہ یہ منت دُرست نہیں، اور اس کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں۔<sup>(۱)</sup>

صحت کے لئے اللہ سے منت ماننا جائز ہے

سوال: ... اگر بیماری سے شفا کے لئے منت اللہ سے مانی جائے، تو کیا یہ دُرست و جائز ہے؟ کیا یہ اللہ سے شرط کرنا نہیں ہوگا؟

جواب: ... صحت کے لئے منت ماننا جائز ہے،<sup>(۲)</sup> مگر اس سے بہتر یہ ہے کہ بغیر منت کے صدقہ و خیرات کی جائے اور اللہ

تعالیٰ سے صحت کی دُعا کی جائے۔

پرائی لکڑیوں سے پکی ہوئی چیز جائز نہیں

سوال: ... ہم نے اللہ کے نام پر کچھ پکا کر تقسیم کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ اللہ کے حکم سے پورا ہو گیا، پکانے کے دوران لکڑی کی

کمی ہو گئی، اور کسی پریشانی یا کسی وجہ سے لکڑی نمل سکی، تو ہم نے کسی گراؤنڈ سے تھوڑی سی لکڑی اٹھالی، کام پورا ہو گیا، لکڑی کے مالک کو

ڈھونڈنا پریشان کن تھا، اس لئے لکڑی کے وزن کے مطابق جو رقم بنتی تھی وہ خیرات کر دی، کیا یہ چیز جو تقسیم کی گئی وہ حرام ہو گئی؟

جواب: ... اللہ کے نام پر جو چیز دینی ہوتی رقم چسپے سے کسی مستحق کو دے دینی چاہئے، پکا کر کھلانا کوئی ضروری نہیں۔<sup>(۳)</sup> اور

پرائی لکڑی اٹھا کر اللہ کے نام کی چیز پکانا جائز نہیں۔<sup>(۴)</sup> جس کی لکڑیاں تھیں اس کو تلاش کر کے ان لکڑیوں کی قیمت ادا کی جائے، یا اس

سے معافی مانگی جائے۔<sup>(۵)</sup>

حرام مال سے صدقہ ناجائز اور موجب وبال ہے

سوال: ... بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رشوت، سود، ناجائز تجارت، حرام کاروبار وغیرہ سے روپیہ جمع کرتے ہیں اور پھر

اس سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور حج بھی کرتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ حرام روپیہ تو کمانا گناہ ہے، پھر اس روپے سے صدقہ وغیرہ

جائز ہے؟

جواب: ... مال حرام سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، بلکہ اُلٹا موجب وبال ہے، حدیث شریف میں ہے کہ:

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۵ ملاحظہ ہو۔

(۲) وقد روى عن محمد رحمه الله تعالى قال: إن علق النذر بشرط يرید كونه كقولہ إن شفى الله مريضی أو رد غائبی

..... يلزمه عين ما سمی۔ (عالمگیری ج: ۲ ص: ۶۵، کتاب الأیمان، الباب الثانی فیما یكون یمیناً وما لا یكون

یمیناً، الفصل الثانی، طبع رشیدیہ)۔

(۳) و جاز دفع القيمة فی زکوة و عشر و خراج و فطرة و نذر... إلخ۔ (الدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ۲۸۵)۔

(۴) عن أبی حرة الرقاشی عن عمه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا یحل مال امرءٍ إلا بطیب

نفس منه۔ رواه البیهقی۔ (مشکوٰۃ ص: ۲۵۵، باب الغصب و العاریة، الفصل الثانی)۔

(۵) وقسم یحتاج الی التراد وهو حق الآدمی و القرار ما فی الدنیا بالاستحلال أو رد العین أو بدله۔ (مرقاة المفاتیح، باب

الکبائر ج: ۱ ص: ۱۰۲)۔

”اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک ہی چیز کو قبول کرتے ہیں۔“<sup>(۱)</sup>

حرام اور ناجائز مال کا صدقہ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص گندگی کا ٹوکرا کسی بادشاہ کو ہدیہ کے طور پر پیش کرے، ظاہر ہے کہ اس سے بادشاہ خوش نہیں ہوگا، اُلٹا ناراض ہوگا۔

”ایک ہاتھ سے صدقہ دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے“ کا مطلب

سوال: ...صدقے کے بارے میں علمائے کرام سے سنا ہے کہ اس طرح دیا جائے کہ دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو۔ ”دوسرے ہاتھ“ سے مراد، دوسرا آدمی ہے، کیا اگر ایک آدمی صدقہ دینا چاہتا ہے اور وہ خود باہر کے ملک میں کاروبار کر رہا ہے، جس آدمی کو صدقہ دینا چاہتا ہے اس کا کوئی ایڈریس نہیں ہے، (بیوہ عورت ہے) وہ کس طرح اس کو دے گا؟ اگر صدقے کی رقم اپنی بیوی کے ذریعے دینا چاہے تو کیا اس صدقے میں کوئی حرج تو نہیں؟ جبکہ بیوی خاوند کے حقوق مساوی ہیں، اس طرح صدقہ ہو جائے گا یا نہیں؟ اس کا متبادل حل بتائیں۔

جواب: ... جو صورت آپ نے لکھی ہے، اس کے مطابق بیوی کے ذریعے صدقہ دینے میں کوئی حرج نہیں، ”ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے“ سے مقصود یہ ہے کہ نمود و نمائش اور ریاکاری نہیں ہونی چاہئے<sup>(۲)</sup> اور گھر کے معتمد علیہ فرد کے ذریعے صدقہ دینا ریاکاری نہیں۔

صدقے میں بہت سی قیود لگانا درست نہیں

سوال: ... کیا صدقے میں کالا مرغ یا کسی رنگ و نسل کا مرغ دینا جائز ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: ... جو چیز رضائے الہی کے لئے فی سبیل اللہ دی جائے وہ صدقہ کہلاتی ہے، نفلی صدقہ کم یا زیادہ اپنی توفیق کے مطابق آدمی کر سکتا ہے، صدقے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔<sup>(۳)</sup> صدقے میں بکرے یا مرغ کا ذبح کرنا کوئی شرط نہیں اور نہ کسی رنگ و نسل کی قید ہے، بعض لوگ جو اس قسم کی قیود لگاتے ہیں وہ اکثر بددین ہوتے ہیں۔

(۱) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إن اللہ طیب لا یقبل إلا طیباً... الخ. (مشکوٰۃ ص: ۲۴۱، کتاب البیوع، باب الکسب وطلب الحلال، الفصل الأول).

(۲) عن أنس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ..... قال: نعم ابن آدم تصدق صدقة بيمينه يخفيها من شماله. رواه الترمذی. (مشکوٰۃ ص: ۱۷۰). وفي شرح المشکوٰۃ: حيث منعها عن اظهار الصدقة إثاراً للسمعة وحباً للشناء أو باعتبار أنه قهر الشيطان أو باعتبار أنه حصل رضا الرحمن. (مرقاہ المفاتیح، باب فضل الصدقة ج: ۲ ص: ۳۸۳).

(۳) عن علی رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. رواه رزين. (مشکوٰۃ ص: ۱۶۷، باب الإنفاق وكرهية الإمساك، الفصل الثالث).

مَنّت کو پورا کرنا ضروری ہے، اور اس کے مستحق غریب لوگ اور مدرسہ کے طالب علم ہیں

سوال: ... میری والدہ صاحبہ نے میری نوکری کے سلسلے میں مَنّت مانی تھی کہ اگر میرے بیٹے کو مطلوبہ جگہ نوکری مل گئی تو میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گی، الحمد للہ نوکری مل گئی، خدا کا شکر ہے۔ لیکن کافی عرصہ گزر گیا، ابھی تک مَنّت پوری نہیں کی، اس میں سستی اور دیر ضرور ہوئی ہے، لیکن اس میں ہماری نیت میں کوئی فتور نہیں، صرف یہ مطلوب ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہو جو صحیح اور عین اسلامی ہو۔ اس میں اختلاف رائے یہ ہے کہ جس جانور کی قربانی کی جائے اس کا گوشت رشتہ داروں، گھر کے افراد کے لئے ناجائز ہے، یہ پورا کا پورا غریب و مسکین یا کسی دارالعلوم یا مدرسہ کو دے دینا چاہئے۔

جواب: ... آپ کی والدہ کے ذمہ قربانی کے دنوں میں قربانی واجب ہے،<sup>(۱)</sup> اور اس گوشت کا فقراء پر تقسیم کرنا لازمی ہے۔ مَنّت کی چیز غنی اور مال دار لوگ نہیں کھا سکتے، جس طرح کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر مال داروں کے لئے حلال نہیں۔<sup>(۲)</sup>

کسی کام کی مَنّت مان کر اس کام کو روک دیا تو مَنّت لازم نہیں ہوتی

سوال: ... اگر کوئی مَنّت مانے کہ اس کا کام ہو جائے، لیکن اس کا کام نہ ہو، پھر وہ اسی کام کے پورا ہونے کے لئے ایک عمل کرے اور عمل کے لئے بھی مَنّت مانے، لیکن وہ عمل کسی وجہ سے روکنا پڑے، کیا ایسی صورت میں مَنّت پوری کرنا واجب ہے؟

جواب: ... کام ہو جائے تو مَنّت کا پورا کرنا لازم ہے، ورنہ نہیں۔<sup>(۳)</sup>

سوال: ... پھر یہی عمل وہ اضافی کام کے ساتھ کرے لیکن عمل مکمل ہونے کے بعد بھی اس کا کام نہ ہو تو کیا اس صورت میں مَنّت پوری کرنا واجب ہے؟

جواب: ... کام نہ ہو تو مَنّت واجب نہیں۔<sup>(۴)</sup>

سوال: ... جس پہلے کام کے لئے عمل کیا جا رہا تھا، اگر اس کام کو پورا کرنے کے لئے پہلے عمل کو چھوڑ کر کوئی دوسرا عمل روحانی یا دوسرا طریقہ شروع کر دیا جائے اور اس دوسرے طریقے سے کام ہو جائے تو کیا مَنّت پوری کرنا واجب ہے؟

(۱) فی الدر المختار: من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمي... الخ. وفي شرحه: والمراد أنه يلزمه الوفاء بأصل القرية التي التزمها. (شامی ج: ۳ ص: ۷۳۵، مطلب فی احکام النذر).

(۲) فی الدر المختار: مصرف الزکوٰۃ..... هو الفقير... الخ. وفي رد المحتار: وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة كما في القهستاني. (شامی ج: ۲ ص: ۳۳۹، باب مصرف).

(۳) إذا نذر شيئاً من القربات لزمه الوفاء به لقوله تعالى: وليوفوا نذورهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه. رواه البخاري. والإجماع على وجوب الإيفاء به وبه استدلال القائلون بافتراضه. (حاشية طحطاوى على مراقى الفلاح ص: ۳۷۸).

(۴) أيضاً حواله بالا۔

جواب: ... کام ہو جائے تو منّت پوری کرنا ضروری ہے۔<sup>(۱)</sup>

سوال: ... کام سے پہلے بہت ساری منّتیں مانی تھیں، کیا ان سب کا پورا کرنا لازم ہے؟

جواب: ... کام ہونے پر منّت کا پورا کرنا ضروری ہے، البتہ اگر میعاد مقرر کر دی تھی اور اس میعاد میں کام نہیں ہوا تو منّت

لازم نہیں ہوئی۔<sup>(۲)</sup>

## کام ہونے کے لئے جس چیز کی منّت مانی تھی وہ بھول گئی تو کیا کرے؟

سوال: ... میں نے منّت مانی تھی کہ اگر میری مراد پوری ہو گئی تو میں روزے رکھوں گا اور صدقہ دوں گا وغیرہ۔ اس سلسلے میں

پوچھنا یہ ہے کہ مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے کہ میں نے کتنے روزوں کی منّت مانی تھی اور صدقے میں کیا دینا ہے؟ تو کیا میں دوبارہ کسی چیز

کی نیت کر سکتا ہوں (یعنی صدقہ وغیرہ یا نفل نماز یا روزے وغیرہ کی تعداد یا پیسوں کی مقدار دوبارہ معین کر سکتا ہوں کہ نہیں؟) یہ واضح

رہے کہ ابھی میری مراد پوری نہیں ہوئی، میں چاہتا ہوں کہ جو بھی منّت مانوں، اسے پورا کروں، اس لئے لکھ کر اپنے پاس رکھ لوں تاکہ

یاد رہ سکے، یا پھر مجھے پہلے والی منّت پوری کرنی ہوگی؟

جواب: ... جس کام کے لئے آپ نے منّت مانی تھی اگر وہ پورا نہیں ہوا تو منّت لازم نہیں ہوتی، اگر آپ نے یوں کہا تھا کہ

اتنے روزے رکھوں گا یا اتنا صدقہ دوں گا، تب تو کام پورا ہو جانے کی صورت میں آپ کو اتنے ہی روزے رکھنے ہوں گے اور صدقہ دینا

ہوگا۔<sup>(۳)</sup> اور اگر یاد نہیں تو غور و فکر کے بعد جو مقدار ذہن میں آئے اس کو پورا کرنا ہوگا، اور اگر یوں کہا تھا کہ کچھ روزے رکھوں گا یا کچھ

صدقہ دوں گا، تو اب اس کا تعین کر سکتے ہیں۔

## اگر صدقہ کی امانت گم ہو گئی تو اس کا ادا کرنا لازم نہیں

سوال: ... کچھ دن پہلے میری بڑی بہن (غیر شادی شدہ) نے مجھے چار سو روپے بکر صدقہ کرنے کے لئے دیئے، اور ساتھ

ہی یہ نصیحت کی کہ یہ روپے تمہارے روپوں میں شامل نہ ہوں۔ میں نے یہ روپے الگ رکھنے کی غرض سے موٹر کر جیب میں رکھ لئے کہ صبح

بکر صدقہ کروادوں گا۔ لیکن اتفاق سے یہ روپے اسی رات کو میری جیب سے کہیں نکل گئے، میرے اندازے سے یہ روپے موٹر سائیکل

پر جاتے ہوئے جیب میں الگ ہونے کی وجہ سے نکل کر کہیں اڑ گئے ہیں۔ اس طرح میری بہن نے جو رقم صدقے کے لئے نکالی تھی، وہ

اس مقصد کے لئے استعمال نہ ہوئی۔ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ایسی صورت میں صدقہ ہو گیا یا نہیں جبکہ نیت بالکل صاف تھی؟ اور

(۱) فإن نذر مکلف نذرًا بشيء مما يصح نذره وكان مطلقًا غير مقيد بوجود شيء كقوله: لله عليّ أو نذر لله عليّ صلاة

رکعتین أو معلقًا بشرط يرید کونه كقوله: إن رزقني الله غلامًا فعليّ إطعام عشرة مساکين ووجد الشرط لزمه الوفاء به.

(حاشية طحطاوی علی مراقی الفلاح ص: ۳۷۹، باب ما يلزم الوفاء به)۔

(۲) ایضاً۔

(۳) ومن نذر نذرًا مطلقًا أو معلقًا بشرط ..... ووجه الشرط المعلق به لزم النادر الحدیث من نذر وسمى فعلیه الوفاء بما سمي۔ (الدر المختار مع الرد ج: ۳ ص: ۷۳۵، کتاب الأیمان، طبع سعید)۔

حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر میں چاہوں تو اپنی جیب خرچ سے پیسے بچا کر اتنی ہی رقم دوبارہ جمع کر کے صدقہ کر سکتا ہوں۔ برائے مہربانی میری اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں کیونکہ جس دن سے روپے کھوئے ہیں، میں شدید ذہنی الجھن کا شکار ہوں۔

جواب: ... آپ کے ذمہ ان پیسوں کا ادا کرنا لازم نہیں۔<sup>(۱)</sup> اگر آپ کی بہن نے نفلی صدقے کے لئے دیئے تھے تو ان کے ذمہ کچھ لازم نہیں، اور اگر نذر مانی تھی تو ان کے ذمہ اس نذر کا پورا کرنا لازم ہے۔<sup>(۲)</sup>

### شیرینی کی منت مانی ہو تو اتنی رقم بھی خرچ کر سکتے ہیں

سوال: ... میں نے ایک مشکل وقت خدا کے حضور کامیابی کے لئے مبلغ گیارہ روپے کی شیرینی مانی تھی، اب میں وہ رقم مسجد کی تعمیر میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آیا درست ہے یا مجھے مٹھائی وغیرہ لے کر تقسیم کرنی پڑے گی؟

جواب: ... کسی محتاج کو اتنی رقم دے دی جائے۔<sup>(۳)</sup>

### میّت کے ثواب کے لئے کیا ہو ا صدقہ مسجد میں استعمال کرنا

سوال: ... ہمارے علاقے میں اگر میّت ہو جائے تو اس کے پیچھے جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ مسجد میں استعمال کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہم اس صدقے کو ضروریات مسجد میں صرف کر سکتے ہیں؟

جواب: ... اگر میّت نے مسجد میں خرچ کرنے کی وصیت کی ہو یا اس کے وارث (بشرطیکہ وہ عاقل بالغ ہوں) خود میّت کی طرف سے مسجد میں خرچ کرتے ہیں تو یہ صحیح ہے، اور صدقہ جاریہ میں شمولیت ہے۔<sup>(۴)</sup>

### منت پوری کرنا کام ہونے کے بعد ضروری ہے نہ کہ پہلے

سوال: ... اگر کوئی شخص منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا یا نفل وغیرہ پڑھوں گا، تو وہ شخص یہ کام منت پوری ہونے سے پہلے کرے یا بعد میں کرے؟

جواب: ... اللہ تعالیٰ کے نام کی منت ماننا جائز ہے، اور کام ہونے کے بعد منت کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے، پہلے نہیں۔ اور کام

(۱) قال فی المنع: إن الأمانة علم لما هو غير مضمون، فشمّل جميع الصور التي لا ضمان فيها كالعارية والمستاجرة... إلخ. (رد المحتار ج: ۵ ص: ۶۶۲، کتاب الإيداع، طبع ایچ ایم سعید)۔

(۲) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳ دیکھیں۔

(۳) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ ہو۔

(۴) بوصيته من الثلث ..... وإن لم يوص وتبرع وليه به جازان شاء الله ويكون الثواب للولي... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ۴۲۴، فصل فی العوارض المبيحة لعدم الصوم)۔

کے پورا ہونے سے پہلے اس منّت کا ادا کرنا بھی صحیح نہیں، پس اگر منّت کا روزہ پہلے رکھ لیا اور کام بعد میں پورا ہوا تو کام ہونے کے بعد روزہ دوبارہ رکھنا لازم ہوگا۔<sup>(۱)</sup>

## مَنّت کا ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا یا دو؟

سوال: ... کسی آدمی نے منّت مانی تھی کہ میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو میں ہر سال محرم کے مہینے میں یا کسی اور مہینے میں ایک روزہ رکھوں گا، اس کی منّت پوری ہو گئی، روزہ تو ہر سال اپنے مقررہ مہینے میں رکھتا ہے، مگر بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ منّت کا روزہ اکیلا ایک نہیں رکھا جاتا، دو لگا تار رکھے۔ برائے مہربانی اس سلسلے میں از روئے شریعت روشنی ڈالیں تاکہ شک دور ہو، اگر دو روزے لگا تار رکھنے تھے تو گزشتہ جتنے سالوں کے روزے رکھے ہوں ان کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟

جواب: ... اگر ایک ہی روزے کی منّت مانی تھی تو ایک روزہ واجب ہے، دوسرا مستحب، اس کی قضا رکھنے کی ضرورت نہیں۔

## مَنّت میں تاخیر کرنا بُرا ہے

سوال: ... میں نے ایک دو مہینے پہلے دو روزوں کی منّت مانی تھی، جو کہ میں اب تک مختلف مصروفیات کی وجہ سے نہ رکھ سکی ہوں۔ آپ سے التجا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں روزے اب رکھ لوں تو مجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا؟

جواب: ... جہاں تک ممکن ہو، ان کو جلدی رکھ لیجئے، ان میں تاخیر کرنا بُرا ہے۔<sup>(۲)</sup>

## روزوں کی منّت پوری کرنا ضروری ہے

سوال: ... مولانا صاحب! میری بہن کی شادی کو تقریباً گیارہ سال کا عرصہ ہو گیا، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے آج سے تقریباً چار سال قبل منّت مانی تھی کہ اگر میرے ہاں اولاد ہوئی تو میں چالیس روزے رکھوں گی، اللہ کے فضل سے پہلے ایک لڑکا ہوا جو کہ نامکمل تھا، اس کے بعد ایک اور لڑکا ہوا جو کہ ٹھیک نہیں رہتا، اور اب لڑکی ہوئی ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، میری بہن نے اب بتایا کہ جو منّت مانی تھی وہ میں بھول گئی۔ مولانا صاحب! ہر طرح کی پریشانیاں دیکھ لی ہیں، معلوم اب یہ کرنا ہے کہ جو چالیس روزوں کی منّت مانی تھی، اس کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے؟

(۱) بخلاف النذر المعلق فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط. (شامی ج: ۳ ص: ۷۴۱، مطلب النذر غیر معلق... الخ).

(۲) ولو جعل عليه ..... صوماً أو صلاة أو صدقة ..... لزمه ذلك الذي جعله على نفسه. (عالمگیری ج: ۲ ص: ۶۵، کتاب الأيمان، الباب الثاني فيما يكون يمينا وما لا يكون يمينا).

(۳) لو مات قبل الأداء يأنم بترکه وهو الصحيح، لأن الأمر بالفعل مطلق عن الوقت فلا يجوز تقييده إلا بدليل فكذلك النذر. (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۹۴، کتاب النذر، فصل وأما أحكام النذر، طبع سعید).

جواب: ... چالیس روزوں کی منت پوری کرنا ضروری ہے۔<sup>(۱)</sup>

سوا مہینے کے روزے کی منت مان کر لگا تا رہ نہ رکھ سکے تو وقفے وقفے سے رکھ لے

سوال: ... میری دوست کی والدہ نے اپنے شوہر کے بہت ڈکھ دینے پر سوا مہینے کے روزے رکھنے کی منت مانی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئے۔ اب آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ روزے لگا تا رکھیں یا چھوڑ چھوڑ کر رکھ سکتی ہیں؟ کیونکہ وہ بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں اور ان کے گردے میں انفکشن بھی ہے، جس کی وجہ سے رمضان کے روزوں میں بھی گردوں میں تکلیف ہو جاتی ہے۔

جواب: ... ان محترمہ نے جتنے روزوں کی منت مانی تھی، وہ ان کے ذمہ لازم ہو گئے۔ اگر لگا تا رکھنے کی ہمت نہیں تو وقفے وقفے سے رکھ لیں۔<sup>(۲)</sup>

قربانی کی منت مانی ہوئی گائے کو عید الاضحیٰ کو ذبح کر کے گوشت فقراء میں تقسیم کر دیں

سوال: ... میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری مراد پوری کر دی تو میں ایک گائے کی قربانی دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے میری وہ مراد پوری کر دی۔ اب چونکہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے تو مجھے یاد نہیں کہ میں نے صدقے کی گائے منت مانی تھی یا کہ خیرات کی، یعنی خود گوشت کھا سکتی ہوں یا نہیں؟ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا میں وہ گائے قسطوں میں دے سکتی ہوں کہ یکدم کرنے کی استطاعت نہیں؟ یعنی میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر سال عید الاضحیٰ میں گائے میں ایک حصہ ڈال دیا کروں اور نیت منت والی گائے کی کروں، اس طرح کسی پر یعنی گھر والوں پر ظاہر نہیں ہوگا اور منت بھی پوری ہو جائے گی۔

جواب: ... عید الاضحیٰ میں گائے کی قربانی کر دیجئے،<sup>(۳)</sup> اور اس کو خود نہ کھائیے بلکہ اس کا گوشت غریب و مساکین کو دے دیجئے، اور اس کی کھال کسی دینی ادارے کو دے دیجئے۔<sup>(۴)</sup>

کیا اللہ کے نام کی نذر کا بکر افر وخت کر کے غریب کو رقم دے سکتا ہے؟ نیز اس کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟

سوال: ... میں نے اللہ تعالیٰ سے نذر مانی تھی کہ اگر یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں تیری راہ میں ایک بکر ا دوں گا۔ اب

(۱) النذر الذی لا تسمیة فیہ فحکمہ وجوب ما نوى إن کان الناذر نوى شیئاً سواہ کان مطلقاً عن شرط أو معلقاً بشرط بان قال لله علی نذر أو قال إن فعلت کذا فلله علی نذر فإن نوى صوماً أو صلاةً أو حجاً أو عمرة لزمه الوفاء به فی المطلق للحال وفى المعلق بالشرط عند وجود الشرط ولا تجزیه الکفارة۔ (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۹۲، کتاب النذر)۔  
(۲) ایضاً۔

(۳) الأضحیة اسم لما یذبح فی وقت مخصوص لم یکن فیہا إلغاء الوقت فإذا أنذرہا یلزم فعلها فیہ والآ لم یکن آتیا بالمنذور... الخ۔ (رد المحتار ج: ۶ ص: ۳۳۳، کتاب الأضحیة)۔

(۴) إذ مصرف النذر الفقراء... الخ۔ (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۲۱، قبیل باب الاعتکاف)۔



جبکہ اللہ تعالیٰ نے میری وہ خواہش پوری کر دی ہے، تو میں یہ نذر کیسے پوری کروں؟

۱: کیا بکرے کا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے؟

۲: کیا اس کا گوشت خود بھی کھایا جاسکتا ہے؟

جواب: ... مشت کا گوشت فقراء کو تقسیم کر دیا جائے، خود بھی نہ کھائے اور اغنیاء کو بھی نہ دے۔

سوال: ... بکر امیرے پاس ہے، اس کو فروخت کر کے روپے غریبوں میں یا پھر کسی زیر تعمیر مسجد میں دے دیئے جائیں؟

جواب: ... وہ بکر ہی کسی فقیر محتاج کو دے دیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

## صدقے کا گوشت گھر میں استعمال کرنا ناجائز ہے

سوال: ... ایک آدمی صدقے میں بکر اذبح کرتا ہے، اور وہ گوشت آس پاس پڑوسیوں میں بانٹتا ہے، آیا وہ گوشت گھر میں

بھی کھلا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ آپ شرعی دلیل پیش کریں کہ صدقے کے بکرے کا گوشت گھر میں استعمال ہو سکتا ہے یا کہ نہیں؟

جواب: ... بکر اذبح کرنے سے صدقہ نہیں ہوتا بلکہ فقراء و مساکین کو دینے سے صدقہ ہوتا ہے، اس لئے جتنا گوشت محتاجوں

کو تقسیم کر دیا اتنا صدقہ ہو گیا اور جو گھر میں کھالیا وہ نہیں ہوا۔<sup>(۲)</sup> البتہ اگر نذر مانی ہوئی تھی تو اس پورے بکرے کا محتاجوں پر صدقہ کرنا

واجب ہے، نہ مال دار پڑوسیوں کو دینا جائز ہے اور نہ گھر میں کھانا جائز ہے۔<sup>(۳)</sup>

## جو گوشت فقراء میں تقسیم کر دیا وہ صدقہ ہے، جو گھر میں رکھا وہ صدقہ نہیں

سوال: ... فرنیئر کے دیہاتی علاقوں میں رسوماتی روایات جاری ہیں، جن میں پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں، ہمارے گاؤں

سے جو لوگ بیرونی ممالک میں مزدوری کرتے ہیں یا نوکری سے واپسی پر چھٹی کے دوران ایک دو یا زائد گائے یا بیل صدقہ کرتے ہیں،

مگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے گشتی مانی تھی جو کر رہا ہوں (داد صدقہ) اس کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے کہ گوشت کو تین حصوں میں بانٹ دیا

جاتا ہے، جس کے لئے کوئی پیمانہ یا اوزان نہیں ہوتا، اندازہ ہوتا ہے، ایک حصہ گھر کے لئے رکھ دیا جاتا ہے، باقی دو کو اکٹھا ملا کر چھوٹا

کاٹ لیتے ہیں اور رشتہ داری میں ہر گھر میں نی کس آدھا کلوگرام کے حساب سے دیتے ہیں، زیادہ قرابت داروں کو بغیر حساب کے بھی

دیا جاتا ہے، اس وقت جو غیر لوگ موجود ہوتے ہیں انہیں صرف آدھا کلوگرام کے حساب سے دیا جاتا ہے، باقی گوشت گھر کے لئے رکھ

دیا جاتا ہے، جبکہ گائے یا بیل کا چمڑا، سرا اور اندرونی گوشت مثلاً: دل، کلیجہ، گردے، پھیپھڑے اور تھوڑا بہت دوسرا اچھا گوشت پہلے ہی

(۱) إذ مصرف النذر الفقراء ..... ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني غير محتاج ولا لشريف منصب لأنه لا يحل له الأخذ ما لم يكن محتاجاً فقيراً. (البحر الرائق ج: ۲، ص: ۳۲۱، قبيل باب الإعتكاف).

(۲) عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها، قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ۱۶۹، باب فضل الصدقة، الفصل الثاني).

(۳) مصرف الزكاة ..... هو الفقير والمسكين... الخ. وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة. (رد المختار على الدر المختار ج: ۲، ص: ۳۳۹، وفي البحر ج: ۲، ص: ۳۲۱ مثله).

اپنے گھر کے لئے رکھ دیا جاتا ہے۔ ہمیں اختلاف ہے، اگر وہ صدقہ ہے تو اس کو گشتی کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ پھر اگر صدقہ تصور کر کے دیا جاتا ہے تو کیا اس کا یہ طریقہ درست ہے؟ خدا سے منظور کر لیتا ہے؟

جواب: "... گشتی" کا مطلب تو میں سمجھا نہیں، اگر یہ نذر ہوتی ہے تو پورے کا صدقہ کرنا ضروری ہے،<sup>(۱)</sup> خود کھانا یا امیروں کو دینا جائز نہیں۔<sup>(۲)</sup> اور اگر ویسے ہی صدقہ ہوتا ہے تو جتنا گوشت فقراء کو تقسیم کر دیا وہ صدقہ ہے اور جو گھر میں رکھ لیا وہ صدقہ نہیں۔<sup>(۳)</sup>

## منت کا گوشت صرف غریب کھا سکتے ہیں

سوال: ... میری ہمیشہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں اللہ کے نام پر بکرا ذبح کروں گی، لہذا اب ان کا کام ہو گیا ہے، اور وہ اپنی منت پوری کرنا چاہتی ہیں اور اللہ کے نام کا بکرا کرنا چاہتی ہیں، تو کیا اس بکرے کا گوشت عزیز و رشتہ دار اور گھر والے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ براہ کرم رہبری فرمائیں۔

جواب: ... منت کی چیز کو صرف غریب غرباء کھا سکتے ہیں، عزیز و اقارب اور کھاتے پیتے لوگوں کو اس کا کھانا جائز نہیں، ورنہ منت پوری نہیں ہوگی۔<sup>(۴)</sup>

سوال: ... آپ نے جمعہ ایڈیشن میں ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ منت کا گوشت پورے کا پورا اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا چاہئے، یہ خود کھانا یا رشتہ داروں کو کھلانا جائز ہے، کیا دوسری چیزوں کے متعلق بھی یہی حکم ہے؟ مثلاً: اگر کوئی شخص بکرے کے علاوہ کسی چیز کی منت مانتا ہے تو کیا وہ بھی ساری کی ساری اللہ کی راہ میں تقسیم کرنی چاہئے؟

جواب: ... جی ہاں! نذر کی تمام چیزوں کا یہی حکم ہے کہ ان کو غریب غرباء پر تقسیم کر دیا جائے، غنی (مال دار) لوگوں کا اس کو کھانا جائز نہیں، اور نذر ماننے والا اور اس کے اہل و عیال خود بھی اس کو نہیں کھا سکتے۔<sup>(۵)</sup>

## منت کی نفلوں کا پورا کرنا واجب ہے

سوال: ... میری والدہ سخت بیمار تھیں، میں نے منت مانی تھی کہ اگر والدہ کا آپریشن ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو سونفل پڑھوں گا، مگر اس کے بعد میں نے صرف ۴۸ نفل پڑھے اور باقی نہیں پڑھے، بتائیے اب کیا کروں؟

جواب: ... اگر آپ کی والدہ کا آپریشن ٹھیک ہو گیا تھا تو سونفل آپ کے ذمہ واجب ہو گئے، اپنی منت کو پورا کرنا واجب

(۱) ص: ۲۰۷ کا حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ ہو۔

(۲) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ ہو۔

(۳) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ فرمائیں۔

(۴) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱، ۳ دیکھیں۔

(۵) ایضاً۔

ہے، اس لئے باقی بھی پڑھ لیجئے۔<sup>(۱)</sup>

## منت کے نفل جتنے یاد ہوں اتنے ہی پڑھے جائیں

سوال: ... اگر کسی مشکل کے لئے نوافل مانے ہوں اور انسان یہ بھول جائے کہ معلوم نہیں کتنے نفل مانے تھے؟ اور کس مقصد کے لئے مانے گئے تھے؟ اگر اب پڑھنے ہوں تو ان کی نیت کیسے کی جائے اور تعداد کیسے معلوم ہو؟ کیا ہم ان نوافل کے بجائے کوئی صدقہ وغیرہ کر سکتے ہیں؟

جواب: ... اتنے نفل ہی پڑھے جائیں، ذرا حافظے پر زور ڈال کر یاد کیا جائے، جتنے نفلوں کا خیال غالب ہوا اتنے پڑھ لئے جائیں، نفل ہی پڑھنا واجب ہے، ان کی جگہ صدقہ دینے سے وہ منت پوری نہیں ہوگی۔<sup>(۲)</sup>

## قرآن مجید ختم کروانے کی منت لازم نہیں ہوتی

سوال: ... جب ہم کسی کام کے پورا ہونے کے لئے منت مانتے ہیں کہ فلاں کام پورا ہونے پر ہم قرآن شریف ختم کروائیں گے، اس کے لئے محلہ والوں کو بلا کر حافظوں سے قرآن شریف ختم کروایا جاتا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اکیلا آدمی قرآن شریف ختم کر سکتا ہے؟ اور یہ کہ کتنے دنوں کے اندر قرآن شریف ختم کرنا چاہئے؟

جواب: ... منت کے لازم ہونے کی حضرات فقہاء نے خاصی شرطیں لکھی ہیں، اگر وہ شرطیں نہ پائی جائیں تو منت لازم نہیں ہوتی، ان شرطوں کے مطابق اگر کسی نے یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں قرآن شریف ختم کراؤں گا، تو اس سے منت بھی لازم نہیں ہوتی، اور اس کا پورا کرنا واجب نہیں۔<sup>(۳)</sup> اس لئے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں گا، تب تو واجب ہو جاتی،<sup>(۴)</sup> مگر چونکہ دوسروں سے قرآن پڑھوانا ایک ایسا امر ہے جو خود عبادت نہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص روزے رکھوانے کی منت مانے تو اس پر منت واجب نہیں ہوگی۔

## قرآن کریم، نفل پڑھنے کی منت ادا نہ کر سکیں تو کفارہ کیا ہوگا؟

سوال: ... میں نے کچھ منتیں کام پورے ہونے کے لئے مانی تھیں، اب میں وہ بھول گیا ہوں، تو میں ان منتوں کو کس طرح

(۱) ومن نذر نذرًا مطلقًا أو معلقًا بشرط ..... ووجد الشرط المعلق به لزم الناذر لحديث من نذر وسمى فعلية الوفاء بما سمي كصوم وصلاة وصدقہ... الخ. (الدر المختار مع الرد ج: ۳ ص: ۴۳۵، کتاب الأیمان).

(۲) ایضاً حوالہ بالا۔

(۳) ولم يلزم الناذر ما ليس من جنسه فرض كعبادة مريض وتشيع جنازة ودخول مسجد... الخ. (الدر المختار ج: ۳ ص: ۴۳۶، کتاب الأیمان).

(۴) ولو نذر التسبيحات دبر الصلاة لم يلزمه. وفي الشرح: قوله لم يلزمه وكذا لو نذر قراءة القرآن وعلله القهستاني في باب الاعتكاف بأنها للصلاة وفي الخانية ولو قال على الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة أو على أن قراءة القرآن إن فعلت كذا لا يلزمه شيء. قلت وهو مشكل فإن القراءة عبادة مقصودة ومن جنسها واجب وكذا الطواف فإنه عبادة مقصودة أيضًا. (رد المختار ج: ۳ ص: ۴۳۸، کتاب الأیمان).

پورا کروں؟ کیونکہ میرا کام ہو گیا ہے، نیز منتوں میں قرآن مجید، نفلیں وغیرہ بھی شامل ہیں، کیا ان کا کفارہ بھی دیا جاسکتا ہے یا کہ ان کو پورا کرنا ہی ضروری ہے؟

جواب:۔۔۔ منت ماننے کے بعد اس کا پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔<sup>(۱)</sup> قرآن مجید پڑھنے کی جو منت کی تھی وہ تو لازم ہے۔<sup>(۲)</sup> اسی طرح نفل پڑھنے یا روزہ رکھنے کی جو منت کی تھی اس کا پورا کرنا بھی لازم ہے۔ آپ سوچ کر اتنی رکعتیں ادا کر لیں، اس کے سوا ان کا کوئی کفارہ نہیں۔<sup>(۳)</sup>

کسی کے انتقال پر مضبوط ارادے سے کہنا کہ میں پڑھوں گی لیکن نہیں پڑھ سکی تو کیا حکم ہے؟

سوال:۔۔۔ میں نے ایک شخصیت کے انتقال پر بڑے مضبوط ارادے سے یہ کہا تھا کہ ان کے لئے ایک قرآن پاک پڑھوں گی، مگر اب مجھ سے پڑھنا نہیں جا رہا۔ تو کیا اب یہ پڑھنا مجھ پر واجب ہو گیا جبکہ میں نے صرف ارادہ کیا تھا منت وغیرہ نہیں مانی تھی؟

جواب:۔۔۔ واجب تو نہیں ہوا،<sup>(۴)</sup> مگر مسلمان کے منہ سے ایک بات نکل جائے تو اس کو پورا نہ کرنا بڑی کمزوری کی بات ہے، ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرنا کیا مشکل کام ہے؟ ذرا سی ہمت سے کام لینا چاہئے!۔۔۔

قرآن مجید ختم ہونے پر بکری ذبح کرنے کی منت ختم سے پہلے پوری کر دی تو کیا دوبارہ پوری کرنی ہوگی؟

سوال:۔۔۔ ایک شخص نے منت مانی ہو کہ میرا چھوٹا بھائی جب قرآن حفظ کر لے تو میں اللہ کے لئے ایک بکری ذبح کروں گا۔ ایک دن وہ اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھتا ہے کہ قرآن شریف کب ختم ہوگا؟ تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو خوش کرنے کے لئے بتاتا ہے کہ قرآن شریف ختم ہوا۔ حالانکہ ختم میں دو پارے باقی تھے، اور چھوٹے کو بڑے بھائی کی منت کا بھی علم نہیں تھا، لہذا مطلع کریں کہ قرآن شریف کے ختم سے پہلے منت قبول ہوگئی یا قرآن شریف کے ختم کے بعد ایک اور بکری ذبح کریں؟

جواب:۔۔۔ چھوٹے بھائی کے بتانے پر جب یہ سمجھ کر بکری ذبح کی کہ میرے بھائی نے حفظ کر لیا ہے، اور میں منت پوری کر رہا ہوں، تو منت پوری نہیں ہوئی، بعد میں دوبارہ بکری ذبح کرنا ضروری ہوگا۔<sup>(۵)</sup>

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱ دیکھیں۔

(۲) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۴ ملاحظہ فرمائیں۔

(۳) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱ دیکھئے۔

(۴) فرق النذر هو الصیغة الدالة عليه وهو قوله لله عز شأنه على كذا أو على كذا أو هذا هدی أو هذا صدقة أو مالی صدقة أو ما أملك صدقة ونحو ذلك۔ (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۸۱، طبع ایچ ایم سعید)۔

(۵) أجمع أصحابنا أن النذر بالعبادات إذا كان معلقاً بالشرط وأداها قبل وجودها لا يجوز سواء كانت العبادة بدنية أو مالية۔ (فتاویٰ تاتارخانیة ج: ۵ ص: ۵۰، طبع إدارة القرآن کراچی)۔

## گیارہویں، بارہویں کو نذر نیاز کرنا

سوال: ... کیا گیارہویں اور بارہویں شریف پر روشنی کرنا، ان دنوں فاتحہ کرنا، یا نذر و نیاز کرنا باعثِ ثواب، خیر و برکت ہے؟ اور نہ کرے تو گناہ تو نہیں ہے؟

جواب: ... مختصر یہ ہے کہ شریعت نے صدقہ خیرات اور ایصالِ ثواب کی ترغیب دی ہے، مگر یہ طریقے لوگوں کے خود تراشیدہ ہیں، اس لئے ان چیزوں کا کرنا جائز نہیں<sup>(۱)</sup>، اور ناجائز چیز کی نذر ماننا بھی گناہ ہے، اور اس غلط نذر کو پورا کرنا بھی گناہ ہے۔<sup>(۲)</sup>

## خیرات فقیر کے بجائے کتے کو ڈالنا جائز نہیں

سوال: ... میں روزانہ شام کو اللہ کے نام کا کھانا ایک روٹی یا ایک پلیٹ چاول کتے کو ڈالوا دیتی ہوں، فقیر کو نہیں دیتی کیونکہ آج کل کے فقیر تو بناوٹی ہوتے ہیں۔ میں یہ کھانا کتے کو ڈال کر ٹھیک کرتی ہوں؟

جواب: ... جو فرق انسان اور کتے میں ہے، وہی انسان اور کتے کو دی گئی ”خیرات“ میں ہے، اور آپ کا یہ خیال کہ آج کل فقیر بناوٹی ہوتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ضرورت مند اور محتاج ہیں، مگر کسی کے سامنے اپنی حاجت مندی کا اظہار نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو صدقہ دینا چاہئے، دینی مدارس کے طلبہ کو دینا چاہئے، اسی طرح ”فی سبیل اللہ“ کی بہت سی صورتیں ہیں، مگر آپ کے صدقے کا مستحق صرف کتا ہی رہ گیا ہے! ...

(۱) وفى البزازية: ويكره اتخاذ الطعام فى اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر فى المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم... إلخ. (ردالمحتار على الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۴۰، باب صلاة الجنائز، مطلب فى كراهية الضيافة من أهل الميت، طبع سعيد كراچی).

(۲) وفى البحر شرائطه..... أن لا يكون معصية لذاته... إلخ. قال فى الفتح: وأما كون المنذور معصية يمنع انعقاد النذر فيجب أن يكون معناه إذا كان حراماً لعينه أو ليس فيه جهة قرينة. (ردالمحتار على الدر المختار ج: ۳ ص: ۷۳۶، كتاب الأيمان، طبع ایچ ایم سعید).

## نفل صدقات

### صدقہ اور خیرات کی تعریف

سوال: ... صدقہ اور خیرات ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے؟

جواب: ... اُردو محاورے میں یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، قرآن مجید میں صدقے کا لفظ زکوٰۃ پر بھی بولا گیا ہے،<sup>(۱)</sup> اور خیرات تمام نیک کاموں کو کہا گیا ہے۔

### صدقہ کا طریقہ

سوال: ۱... صدقہ کے معنی کیا ہیں؟ ۲... بعض لوگ اپنی جان اور مال کا صدقہ دیتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ ۳... کیا صدقہ کوئی خاص قسم کی خیرات ہے جو کہ دی جاتی ہے؟ ۴... صدقہ میں کیا دینا چاہئے اور کن لوگوں کو دیا جاسکتا ہے؟ ۵... کیا سید کو صدقہ دینا جائز ہے؟ اگر ہمیں ان کی مالی خدمت کرنا مقصود ہو تو کیا نیت ہونی چاہئے؟ ۶... بہت سے لوگ تھوڑا سا گوشت منگا کر چیلوں کو لٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جان کا صدقہ ہے، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ اگر نقد رقم غریبوں کو دی جائے تو یہ عمل کیسا ہے؟ یا وہ گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے؟ ۷... اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ کالی مرغی یا کالا بکرا ہی صرف صدقے کے طور پر دیتے ہیں، کیا کالی چیز دینا ضروری ہے؟

جواب: ... صدقہ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنا۔<sup>(۲)</sup> صدقہ کی قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں بڑی فضیلت اور ترغیب آئی ہے،<sup>(۳)</sup> مصائب اور تکالیف کے رفع کرنے میں صدقہ بہت مؤثر چیز ہے۔<sup>(۴)</sup>

اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مال بھی خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے، وہ کسی محتاج کو نقد روپیہ پیسے دے یا کھانا کھلا دے یا

(۱) إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا. (التوبة: ۶۰)۔

(۲) الصدقة: هي العطية التي تبتغى بها المثوبة من الله تعالى. (قواعد الفقه ص: ۳۴۸)۔

(۳) "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها" (التوبة: ۱۰۳)۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري ومسلم. (الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۳، طبع بيروت)۔

(۴) عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تسد سبعين باباً من السوء. رواه الطبراني في الكبير. (الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۱۹، طبع إحياء التراث العربي)۔

کپڑے دے دے یا کوئی اور چیز دے دے۔ کالا بکریا کالی مرغی کی کوئی خصوصیت نہیں، نہ صدقے کے لئے بکریا مرغی ذبح کرنا ہی کوئی شرط ہے، بلکہ اگر ان کی نقد قیمت کسی محتاج کو دے دے تو اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ چیلوں کو گوشت ڈالنا اور اس کو جان کا صدقہ سمجھنا بھی فضول بات ہے۔ ہاں! کوئی جانور بھوکا ہو تو اس کو کھلانا پلانا بلاشبہ موجب اجر ہے۔ لیکن ضرورت مند انسان کو نظر انداز کر کے چیلوں کو گوشت ڈالنا لغو حرکت ہے۔ صدقہ غریبوں، محتاجوں کو دیا جاتا ہے، سید کو صدقہ نہیں دینا چاہئے، بلکہ ہدیہ اور تحفہ کی نیت سے ان کی مدد کرنی چاہئے، تاہم ان کو نقلی صدقہ دینا جائز ہے، زکوٰۃ اور صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔<sup>(۱)</sup> اسی طرح علماء و صلحاء کو بھی صدقہ کی نیت سے نہیں بلکہ ہدیہ کی نیت سے دینا چاہئے۔

صدقہ کی ایک قسم صدقہ جاریہ ہے، جو آدمی کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، مثلاً کسی جگہ پانی کی قلت تھی، وہاں کنواں کھدوادیا، مسافروں کے لئے مسافر خانہ بنوادیا، کوئی مسجد بنوادی یا مسجد میں حصہ ڈال دیا، یا کوئی دینی مدرسہ بنا دیا یا کسی دینی مدرسہ میں پڑھنے والوں کی خوراک پوشاک اور کتابوں وغیرہ کا انتظام کر دیا، یا کسی مدرسہ کے بچوں کو قرآن مجید کے نسخے خرید کر دیئے یا اہل علم کو ان کی ضروریات کی دینی کتابیں لے کر دے دیں، وغیرہ۔ جب تک ان چیزوں کا فیض جاری رہے گا، اس شخص کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔<sup>(۲)</sup>

## زکوٰۃ کے مستحق کو صدقہ بھی دے سکتے ہیں

سوال: ... جس کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے اس کو صدقے کی رقم بھی دے سکتے ہیں؟

جواب: ... جس کو زکوٰۃ دینی جائز ہے، اس کو عام صدقہ بدرجہ اولیٰ دینا جائز ہے۔<sup>(۳)</sup>

## صدقہ کب لازم ہوتا ہے؟

سوال: ... صدقہ کن اوقات میں لازمی دیا جاتا ہے؟ اور وہ چیز جس پر صدقہ دیا جاتا ہے اس کا صحیح مصرف کیا ہونا چاہئے؟

جواب: ... زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر، قربانی، نذر، کفارہ یہ تو فرض یا واجب ہیں، ان کے علاوہ کوئی صدقہ لازم نہیں۔<sup>(۴)</sup> ہاں! کوئی شخص بہت ہی ضرورت مند ہو اور آپ کے پاس گنجائش ہو تو اس کی اعانت لازم ہے، عام طور سے نقلی صدقہ مصائب اور مشکلات کے

(۱) وَلَا يَدْفَعُ إِلَى بَنِي هَاشِمٍ ..... هَذَا فِي الْوَأَجِبَاتِ كَالزَّكَاةِ وَالنَّذْرِ وَالْعَشْرَ وَالْكَفَّارَةَ فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَيَجُوزُ الصَّرْفُ إِلَيْهِمْ كَذَا فِي الْكَافِي - (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹، الباب السابع في المصارف).

(۲) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبْعُ تَجَرِي لِلْعَبْدِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ مِنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ أَوْ كَرَى نَهْرًا أَوْ حَفَرَ بَنَرًا أَوْ غَرَسَ نَخْلًا أَوْ بَنَى مَسْجِدًا أَوْ وَرَثَ مَصْحَفًا أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ. رَوَاهُ الْبَزَّازُ - (الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۷۲، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

(۳) إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا - (التوبة: ۶۰).

(۴) دیکھئے حاشیہ نمبر ۱۔

رفع کرنے کے لئے دیا جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ صدقہ مصیبت کو نالتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

## خیرات کا کھانا کھلانے کا صحیح طریقہ

سوال: ... ہمارے محلے میں مسجد ہے، اس میں محلے کے لوگ ہر جمعرات کو شام کے وقت کھانا لاتے ہیں خیرات کی نیت سے، نمازی ایک دو لقمہ ڈال کر اٹھتا ہے، ایسے ہی ایک ایک کر کے کافی نمازی ایک دو لقمہ ڈال کر چلتے ہیں، کوئی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھا سکتا، کیونکہ وہ اتنا ہوتا نہیں ہے کہ سب نمازی پیٹ بھر کر کھالیں، کیا بہتر یہ نہیں کہ وہ ایک جگہ گھر پر ۵ آدمی بلا کر پیٹ بھر کر کھلا دے۔

جواب: ... اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ محلے میں کوئی تنگ دست ہو تو اس کے گھر کھانا بھیج دیا جائے، یا اتنی رقم نقد اس کو دے دی جائے۔<sup>(۲)</sup> بعض لوگ کھانا کھلانے ہی کو صدقہ سمجھتے ہیں، اگر ضرورت مندوں کو نقد دیا جائے یا غلہ دے دیا جائے، اس کو صدقہ ہی نہیں سمجھتے، اسی طرح بعض لوگ جمعرات ہی کو کھانا مسجد میں بھیجنا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ صدقہ کے لئے نہ جمعرات کی شرط ہے اور نہ مسجد بھیجنے کی۔ بعض لوگ ایصالِ ثواب کے لئے کھانا کھلاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کھانے پر فاتحہ نہ دلوائی جائے ایصالِ ثواب ہی نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے۔ آپ نے اخلاص کے ساتھ جو کچھ بھی راہِ خدا میں دے دیا وہ قبول ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس کا ثواب کسی عزیز یا بزرگ کو پہنچانا چاہتے ہیں تو ایصالِ ثواب کی نیت سے اس کو ثواب پہنچ جاتا ہے۔<sup>(۳)</sup>

## چوری کے مال کی واپسی یا اس کے برابر صدقہ

سوال: ... کسی شخص نے کسی چیز کی چوری کی اور چوری کرنے کے بعد اس کو یہ خیال آیا کہ ایسا کرنا نہیں چاہئے تھا، لیکن جس جگہ سے وہ شے ناجائز طور پر حاصل کی گئی تھی وہاں اس کا پہنچانا بھی ممکن نہ ہو تو کیا اس کی قیمت کے مساوی رقم خیرات کر دینے کے بعد وہ مال تصرف میں لایا جاسکتا ہے؟

جواب: ... اگر اس شخص کا پتا معلوم ہے تو وہ چیز یا اس کی قیمت اس کو پہنچانا لازم ہے، رقم بھیجنے میں تو کوئی اشکال نہیں، بہر حال اگر اس شخص کا پتا نشان معلوم ہو تو اس کی طرف سے قیمت صدقہ کر دینا کافی نہیں، بلکہ اس کو پہنچانا ضروری ہے، اور اگر وہ شخص

(۱) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. رواه البيهقي. (الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۱۹).

(۲) وذكر في الفتاوى ان أداء القيمة أفضل من عين المنصوص عليه وعليه الفتوى. كذا في الجوهرة النيرة. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹۲، الباب السابع في المصارف).

(۳) وفي التتارخانية عن المحيط الأفضل لمن يتصدق نفلًا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء. (ردا مختار على الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۵۷، مطلب الأفضل على أن ينوي بالصدقة جميع المؤمنين والمؤمنات).



مرگیا ہو تو اس کے وارث اگر معلوم ہوں تو ہر وارث تک اس کا حصہ پہنچانا لازم ہے، اگر اس کا پتہ نشان معلوم نہ ہو تو اس کی طرف سے اس چیز کو صدقہ کر دیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

### ایسی چیز کا صدقہ جس کا مالک لا پتا ہو

سوال: ... کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ شدید بارش ہو رہی تھی، ایسے میں ایک بکری بھاگ کر ہمارے گھر آگئی، اور ہماری بکری کے ساتھ بیٹھ گئی، جب بارش رُکی تو ہم نے اسے باہر نکال دیا تاکہ جہاں سے آئی تھی وہاں چلی جائے، لیکن وہ بار بار ہماری بکری کے ساتھ آ کر بیٹھ رہی تھی، آخر کار ہم نے مجبور ہو کر اسے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا، ایسے میں ہماری گلی کا ہر شخص یہی چاہ رہا تھا کہ بکری مجھے مل جائے، ان کا اصرار یہی تھا کہ بکری اسے دے دی جائے، لیکن ہم نے نہ دی، بلکہ اسے لے کر علاقے سے دُور دراز مقامات تک گئے تاکہ مالک کا پتہ لگایا جاسکے، لیکن پتہ نہ چل سکا، بالآخر بکری ہم نے رکھ لی تاکہ اگر مالک آجائے تو اسے دے دی جائے، لیکن دو ماہ ہونے کے باوجود مالک کا کوئی پتہ نہ چل سکا، نہ وہ خود آیا، اب اس بکری کو ہم بیچنا چاہتے ہیں اور بیچ کر روپیہ کو مطلوبہ شخص کے نام سے خیرات یا کسی دینی ادارے میں دے دینا چاہتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ ہمارا یہ عمل صحیح ہے یا غلط؟ اگر غلط ہے تو ہم کیا کریں؟

جواب: ... آپ کا عمل صحیح ہے، یہی کرنا چاہئے، لیکن ساتھ ہی یہ نیت بھی ہو کہ اگر بعد میں اس کا مالک مل گیا اور اس نے بکری کی رقم کا مطالبہ کیا تو ہم رقم اسے واپس کر دیں گے اور یہ صدقہ خود ہماری طرف سے شمار ہوگا۔<sup>(۲)</sup>

(۱) علیہ دیون ومظالم جهل اربابها وأیس من علیہ ذلک من معرفتہم فعلیہ التصدق بقدرها من مالہ وان استغرقت جمیع مالہ ہذا مذهب أصحابنا ..... وسقط عنہ المطالبة من أصحاب الديون فی العقبی۔ وفي الشرح قوله جهل اربابها يشمل ورثتهم فلو علمهم لزمه الدفع اليهم لأن الدین صار حقهم۔ (شامی ج: ۴ ص: ۲۸۳، کتاب اللقطة)۔

(۲) فينتفع الرافع بها لو فقيراً وألا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعمره ..... فإن جاء مالکها بعد التصدق خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها وله ثوابها أو تضمينه... إلخ۔ (الدر المختار مع الرد ج: ۴ ص: ۲۷۹، ۲۸۰)۔

## صدقہ، فقراء وغیرہ سے متعلق مسائل

### مجبوراً لوگوں سے مانگنے کے بارے میں شرعی حکم

سوال: ... میں چھٹی جماعت کا طالب علم تھا کہ میرے والد صاحب بیمار ہو گئے اور کمائی کرنے کے قابل نہ رہے، میرا نہ تو بڑا بھائی تھا اور نہ ہی برادری میں کوئی مددگار، جس کے ذریعے ہمارے گھر کا نظام چل سکتا۔ میری والدہ صاحبہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے ہمارا پیٹ پال لیتی، مگر چونکہ ہم گھر کے آٹھ آدمی کھانے والے تھے، مہنگائی کی وجہ سے گزارا نہیں ہوتا تھا، مجبوراً میری امی جان لوگوں کے کام کاج کے علاوہ لوگوں کو اپنے حالات سے آگاہ کر کے ان سے خدا کے واسطے مدد کی بھی درخواست کرتیں۔ میرے والد صاحب تین سال بیمار رہے اور فوت ہو گئے، میں نے پڑھائی چھوڑ کر مزدوری شروع کی ہے، اب اللہ کا فضل و کرم ہے، میں نے دو ہمشیرہ کی شادی کر دی ہے، اپنی بھی شادی کی ہے، والدہ صاحبہ کی بھی خدمت کر رہا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ بھکاری کے ماتھے پر بھیک کا داغ ہوتا ہے اور بھکاری جنت میں نہیں جاسکتا۔ میں اپنی والدہ صاحبہ کے سلسلے میں پریشان ہوں، کیونکہ کچھ دن انہوں نے بھی مجبوری سے لوگوں سے بھیک لی تھی، براہ کرم وضاحت فرمائیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ بھکاری جنت میں نہیں جائے گا؟

جواب: ... جو لوگ بھیک کو پیشہ بنا لیتے ہیں ان کے بارے میں سخت وعید آئی ہے،<sup>(۱)</sup> لیکن جو شریف اپنی مجبوری کی وجہ سے سوال کرتا ہے وہ وعید کا مستحق نہیں۔ آپ کی والدہ نے اگر سوال کیا تو گداگری کے لئے نہیں بلکہ مجبوری کی وجہ سے، اس لئے ان کے بارے میں پریشانی کی ضرورت نہیں، خدا توفیق دے تو جتنا لوگوں سے لیا ہے اس سے زیادہ دیا بھی کیجئے۔

### کیا صدقہ دینے سے موت ٹل جاتی ہے؟

سوال: ... حضرت امام جعفر صادقؑ سے روایت منسوب ہے کہ صدقہ دینے سے موت بھی ٹل جاتی ہے، کیا یہ درست ہے؟

(۱) عن قبيصة ابن مخارق رضی اللہ عنہ قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها۔ ثم قال: يا قبيصة! إن المسئلة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحللت له المسئلة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحللت له المسئلة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحللت له المسئلة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش فما سواهن من المسئلة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتاً۔ (مشكوة ص: ۱۶۲، باب من لا تحل له المسئلة من تحل له، طبع قديمى كتب خانہ۔)

جبکہ اُمّ الکتاب میں موت کا وقت معین اور اٹل ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وضاحت فرمادیں۔

جواب: ... روایت کے جو الفاظ آپ نے نقل کئے ہیں، وہ تو کہیں نظر سے نہیں گزرے، البتہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ: ”صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بُری موت کو ٹالتا ہے“<sup>(۱)</sup> اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ: ”مسلمان کا صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے اور بُری موت کو ٹالتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کبر، فقر اور فخر کو دُور کر دیتے ہیں“<sup>(۲)</sup>۔ موت کا وقت جب آجاتا ہے تو وہ نہیں ٹلتی، البتہ بعض اعمال و اسباب کو عمر بڑھانے والے فرمایا گیا، اگر کوئی شخص ان اعمال کو اختیار کر لے تو عمر ضرور بڑھے گی اور یہ علم الہی میں پہلے سے طے شدہ ہے کہ یہ شخص ان اسباب کو اختیار کرے گا یا نہیں؟ اس لئے علم الہی میں موت کا وقت بہر حال متعین ہے<sup>(۳)</sup>۔

### کیا سڑکوں پر مانگنے والے گداگروں کو دینا بہتر ہے یا نہ دینا؟

سوال: ... اکثر سڑکوں اور بازاروں میں چلتے پھرتے یا ڈیرہ ڈالے ہوئے فقیر نظر آتے ہیں، جو ہر آنے جانے والے راہ گیر سے سوال کرتے ہیں، جن میں کچھ ضرورت مند ہوتے ہیں اور اکثر پیشہ ور ہوتے ہیں، مگر مسافروں اور راہ گیروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون اصلی ہے اور کون نقلی؟ جس کی وجہ سے بعض خیرات دینے والے غیر مستحق لوگوں کو دے جاتے ہیں، اسی وجہ سے بعض لوگ خیرات دیتے ہیں اور بعض نہیں دیتے، تو اس صورت میں خیرات دینے والے کو ثواب ہوگا یا نہیں؟ اب چاہے اس نے ضرورت مند کو دیا ہو یا پیشہ ور کو، کیونکہ اس بارے میں خیرات دینے والا نہیں جانتا۔ اور بعض لوگ خیرات نہیں دیتے، چاہے وہ ضرورت مند ہو یا پیشہ ور ہو، کیونکہ نہ دینے والا بھی یہ نہیں جانتا، تو کیا اس صورت میں اسے عذاب ہوگا؟

جواب: ... پیشہ ور گداگروں کو خیرات دینا جائز نہیں<sup>(۴)</sup>۔ ان میں سے اکثر مال دار ہوتے ہیں، ان کے لئے سوال کرنا حرام ہے اور ان کو خیرات دینے میں ان کے اس حرام پیشے کی معاونت ہے، اس لئے یہ بھی جائز نہیں۔ اور ان کو زکوٰۃ دینے سے

(۱) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الصدقة لتطفى غضب الرب وتدفع ميتة السوء. (ترمذی ج: ۱ ص: ۱۴۴، باب فضل الصدقة).

(۲) صدقة المرء المسلم تزيد في العمر وتمتع ميتة السوء ويذهب بها الله الفخر والكبر. (كنز العمال ج: ۶ ص: ۳۶۱).

(۳) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. (مشکوٰۃ ص: ۴۱۹، باب البر والصلوة). وفي شرحه: انه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ ونحو ذلك فيظهر لهم في اللوح ان عمره ستون سنة إلا أن يصل رحمه فإن وصلها زيد له أربعون وقد علم الله تعالى ما يسقع له من ذلك وهو من معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت... إلخ. (المرقاة ج: ۴ ص: ۶۶۷).

(۴) ولا يحل أن يسأل شيئاً من القوت (من له قوت يومه) بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب... إلخ. وفي الشامية: ويأثم معطيه... إلخ. قال الأکمل في شرح المشارق: وأما الدفع إلى مثل هذا السائل عالماً بحاله فحكمه في القياس الإثم به لأنه إعانة على الحرام لكنه يجعل هبة وبالهبة للغنى أو لمن لا يكون محتاجاً إليه لا يكون آثماً، أي لأن الصدقة على الغنى هبة كما أن الهبة للفقير صدقة. (شامی ج: ۲ ص: ۳۵۵، مطلب في الحوائج الأصلية).

زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی<sup>(۱)</sup>۔ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ گمان غالب ہو کہ یہ واقعی مستحق ہے تو اس کو خیرات دے سکتے ہیں اور دینے کا ثواب بھی ہوگا۔ لیکن زکوٰۃ انہی لوگوں کو دینی چاہئے جو واقعتاً محتاج ہوں، بھیک مانگنے کا پیشہ نہ کرتے ہوں۔

### پیشہ ور گداگروں کو خیرات نہیں دینی چاہئے

سوال: ... آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ شریعت کے لحاظ سے خیرات کسے دینا جائز ہے؟ کیونکہ آج کل کے دور میں ایسے لوگ بھی خیرات مانگتے ہیں جو بالکل صحت مند ہوتے ہیں تو کیا ان کو خیرات دینا جائز ہے یا ناجائز؟ اور اگر دے دی جائے تو کچھ گناہ تو نہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان میں یتیم، مسکین یا بیوائیں ہیں یا نہیں؟ کیا ان میں یتیم، مسکین اور بیوائیں ہو سکتی ہیں؟ ویسے شکل سے دیکھنے میں لگتے نہیں، اور اگر نہ دیں تو ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں ہم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی تو نہیں کی، جس سے ہم سزا کے سزاوار ہوں۔

جواب: ... پیشہ ور گداگروں کو تو نہیں دینا چاہئے، ان کے علاوہ اگر غالب خیال ہو کہ یہ واقعی محتاج ہے تو دے دیا جائے، ورنہ نہیں۔<sup>(۲)</sup>

### کیا پیشہ ور گداگر کے بارے میں تشبیہ آئی ہے؟

سوال: ... میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ پیشہ ور مسائل کی اعانت پر تشبیہ آئی ہے، اس صورت میں مجھے مسائل کی اعانت کرنی چاہئے یا نہیں؟

جواب: ... پیشہ ور مسائل کے بارے میں جو تشبیہ ہے، وہ صحیح ہے، لیکن اگر کوئی شخص واقعی حاجت مند ہو تو اس کی اعانت ضرور کرنی چاہئے، لیکن اگر حالات سے محسوس ہو کہ یہ شخص پیشہ ور مسائل ہے تو اس کی اعانت نہ کی جائے۔<sup>(۳)</sup>

### پیشہ ور گداگر کو خیرات دینا، نیز مسجد میں مانگنا اور ان کو دینا

سوال: ... خیرات کے متعلق حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرات نہ روکو، تم سے رزق روک لیا جائے گا۔ ایک

(۱) وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَى مَنْ يَمْلِكُ نَصَابًا أَوْ مَالًا كَانَ دَنَابِيرًا أَوْ دَرَاهِمًا أَوْ سَوَاتِمًا... إلخ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹، الباب السابع في المصارف).

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمررة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غني يغنيه ولا يفتن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. (بخاری ج: ۱ ص: ۲۰۰، كتاب الزكاة). أيضًا: ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب وإن كان صحيحًا مكتسبًا كذا في الزاهدی. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۹، الباب السابع في المصارف).

(۳) وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُسَأَلَ شَيْئًا مِنَ الْقُوَّةِ (من له قوت يومه) بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب... إلخ. وفي الشامية: ويأثم معطيه... إلخ. قال الأکمل في شرح المشارق: وأما الدفع إلى مثل هذا السائل عالمًا بحاله فحكمه في القياس الإلثم به لأنه إعانة على الحرام لكنه يجعل هبة وبالهبه للغني أو لمن لا يكون محتاجًا إليه لا يكون إثما، أي لأن الصدقة على الغني هبة كما أن الهبة للفقير صدقة. (شامی ج: ۲ ص: ۳۵۵، مطلب في الحوائج الأصلية).

عالم نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ عام بھکاری کو خیرات دینا جائز نہیں ہے، اور صرف ایسے شخص کو دی جاسکتی ہے جس کے پاس ایک وقت کے کھانے کے لئے کچھ نہ ہو اور وہ بھی تصدیق شدہ بات ہو۔ جبکہ آج کل کے بھکاریوں کے متعلق یہ معلوم کرنا ناممکن ہے، بلکہ شاید کوئی بھی بھکاری یا مانگنے والا ایسا نہ ہوگا جس کے پاس ایک وقت کے کھانے کے لئے کچھ نہ ہو۔ آپ مزید وضاحت فرمائیں کہ خیرات کن اشخاص کو دی جاسکتی ہے تاکہ خیرات دینے والا ثواب کے بجائے گناہگار نہ ہو؟

مسجدوں میں بھی فرض جماعت کے فوراً بعد کچھ لوگ باواز بلند امداد اور خیرات طلب کرتے ہیں، اور کافی تفصیل سے اپنے حالات بیان کرتے ہیں، جس سے انفرادی نماز کی ادائیگی میں خلل واقع ہوتا ہے، کیا مسجد میں مانگنا جائز ہے؟ اور ان کو دینے والا گناہگار تو نہیں؟

جواب:۔۔۔ پیشہ ور گداگر عام طور سے محتاج نہیں ہوتے، ان کو خیرات نہیں دینی چاہئے۔ خواہ مسجد میں مانگیں یا باہر۔ البتہ جس شخص کے بارے میں دل گواہی دے کہ بیچارہ ضرورت مند، محتاج ہے، اس کو دے دینا چاہئے۔<sup>(۱)</sup>

### پیشہ ور گداگروں کا مستحق ہونا کیسے معلوم ہوگا؟

سوال:۔۔۔ اکثر اوقات خاص طور پر جمعرات جمعہ وغیرہ کو گلی میں فقیر وغیرہ آتے ہیں، جو کہ مختلف پریشانیاں بیان کر کے بھیک یا امداد چاہتے ہیں، اور بعض لوگوں سے سنا ہے کہ یہ فقیر تو ایسے ہی پیشے کے طور پر بھیک مانگتے ہیں، یہ ہم سے بھی اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ خیر دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ دریافت یہ کرنا تھا کہ ایک عام مسلمان کا ان فقروں کی آواز پر کیا رد عمل ہونا چاہئے؟ آیا ان کو خیرات دینی چاہئے اور ان کی آواز سن کر دل کو کیا سوچنا چاہئے؟ یا دل میں کیا تمنا پیدا ہونی چاہئے؟ تفصیل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں۔

جواب:۔۔۔ ان میں سے بعض واقعی ضرورت مند بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ لوگ پیشہ ور ہوتے ہیں، اور بھیک مانگ کر نشہ کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ہیروئن وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں، اس لئے پیشہ ور گداگروں کو دینا جائز نہیں، البتہ اگر کسی کے بارے میں دل شہادت دے کہ یہ واقعی مستحق ہے، اس کو ضرور دینا چاہئے۔<sup>(۲)</sup>

### پیشہ ور مسائل کو دینا

سوال:۔۔۔ میں نے علمائے کرام سے سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو واپس نہیں لونا یا، لیکن مولانا اشرف علی تھانویؒ کی تصنیف ”دین و دنیا“ میں پیشہ ور مسائل کی اعانت پر تنبیہ آئی ہے، اس صورت میں مجھے سائل کی اعانت کرنی چاہئے یا نہیں؟

(۱ و ۲) وَلَا يَحِلُّ أَنْ يَسْأَلَ شَيْئًا مِنَ الْقُوَّةِ (من له قوت يومه) بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب... الخ. وفي الشامية: ويأثم معطيه... الخ. قال الأكمل في شرح المشارق: وأما الدفع إلى مثل هذا السائل عالمًا بحاله فحكمه في القياس الإثم به لأنه إعانة على الحرام لكنه يجعل هبة وبالهيئة للغنى أو لمن لا يكون محتاجًا إليه لا يكون إثمًا، أي لأن الصدقة على الغنى هبة كما أن الهبة للفقير صدقة. (شامی ج: ۲ ص: ۳۵۵، مطلب فی الحوائج الأصلية).

جواب: ... پیشہ ور مسائل کے بارے میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے، وہ صحیح ہے، اس لئے اگر واقعی کوئی حاجت مند ہو تو اس کی اعانت ضرور کرنی چاہئے، لیکن اگر حالات سے محسوس ہو کہ یہ شخص پیشہ ور مسائل ہے تو اس کی اعانت نہ کی جائے۔<sup>(۱)</sup>

## خیرات میں امیروں کا شامل ہونا

سوال: ... کسی بھی خیرات جو کہ غریبوں کا حق ہے، اس میں اگر امیر لوگ شامل ہو جائیں تو کیا خیرات درست ہوگی؟  
جواب: ... صدقہ و خیرات فقیروں کا حق ہے، امراء کو نہیں جانا چاہئے۔<sup>(۲)</sup>

## کیا خیرات، نیاز، پڑوسی کو دے سکتے ہیں؟

سوال: ... خیرات، نیاز، پڑوسی یا عام آدمی کو دی جاسکتی ہے؟  
جواب: ... مستحق غریبوں کو دی جاسکتی ہے۔<sup>(۳)</sup>

## نقلی صدقے سے کی جانے والی دعوت میں غنی آدمی کی شرکت

سوال: ... صدقہ نقلیہ سے کی جانی والی دعوت میں غنی کی مالک کی اجازت سے شرکت جائز ہے؟  
جواب: ... صدقہ نقلی میں غنی کی شرکت جائز ہے، اور ثواب کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کریں گے۔<sup>(۴)</sup>

## اگر رات کا کھانا کمپنی کے ذمہ ہو تو ملازمین کو کھلایا گیا گوشت صدقہ نہیں ہوگا

سوال: ... آپ مجھے صدقے کی شرعی حیثیت کے بارے میں بتائیے، یعنی صدقے کے گوشت پر کن لوگوں کا حق ہے؟ میں جسم کمپنی میں کام کرتا ہوں، وہاں پر ہم لوگوں کو رات کا کھانا دیا جاتا ہے، ابھی کچھ عرصے سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، کمپنی کے مالکان بکرا منگوا کے کٹواتے ہیں، اور یہ گوشت رات کے کھانے میں اسٹاف کو دیا جاتا ہے، کچھ لوگوں سے معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ صدقے کا گوشت ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہ اللہ واسطے ہے۔

سوال یہ ہے کہ جب رات کا کھانا کمپنی کے ذمے ہے تو اس طرح صدقے کا گوشت اسٹاف کو کھلانا جائز ہے یا نہیں؟ اور اسٹاف کا... جن میں سید حضرات بھی شامل ہیں... یہ کھانا کھانا جائز ہے؟ ہمارے ساتھی کا کہنا ہے کہ کیونکہ رات کا کھانا کمپنی کے ذمے ہے اس لئے ان کا صدقہ ہوا ہی نہیں اور ہمارا یہ کھانا جائز ہے۔

(۱) وَلَا يَحِلُّ أَنْ يَسَالَ شَيْئًا مِنَ الْقُوْتِ (من له قُوْتٌ يَوْمَهُ) بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقُوْتِ كَالصَّحِيحِ الْمَكْتَسَبِ... الخ. وفي الشامية: وَيَأْتِمُ مَعْطِيَهُ... الخ. قال الأَكْمَلُ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ: وَأَمَّا الدَّفْعُ إِلَى مِثْلِ هَذَا السَّائِلِ عَالِمًا بِحَالِهِ فَحُكْمُهُ فِي الْقِيَاسِ الْإِثْمُ بِهِ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى الْحَرَامِ لَكِنَّهُ يَجْعَلُ هِبَةً وَبِالْهِبَةِ لِلْغَنِيِّ أَوْ لِمَنْ لَا يَكُونُ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ لَا يَكُونُ إِثْمًا، أَيْ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْغَنِيِّ هِبَةٌ كَمَا أَنَّ الْهِبَةَ لِلْفَقِيرِ صَدَقَةٌ. (شامی ج: ۲ ص: ۳۵۵، مطلب فی الحوائج الأصلية).

(۲ و ۳) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ... الخ. (التوبة: ۶۰).

(۴) لِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْغَنِيِّ هِبَةٌ. (شامی ج: ۲ ص: ۳۵۵، مطلب فی الحوائج الأصلية، طبع ایچ ایم سعید).

جواب: ... آپ کے ساتھی کا یہ کہنا صحیح ہے کہ چونکہ رات کا کھانا کمپنی کے ذمے ہے، اس لئے یہ کھانا بھی گویا اجرت میں شامل ہے، اور اجرت میں دی گئی چیز کا صدقہ نہیں ہوتا<sup>(۱)</sup> اس لئے آپ کو اس کا کھانا جائز ہے۔

### صدقہ نقد دیں یا کھانے کی صورت میں

سوال: ... صدقہ دینے کی اصل صورت کیا ہے؟ کھانے کی صورت میں صدقہ دیں یا کسی ضرورت مند کو نقد رقم دے دی جائے؟ ان دونوں صورتوں میں اجر کس پر زیادہ ہے؟

جواب: ... نقد دے دے تو بہت اچھا ہے، پکا کر بھی دے سکتے ہیں۔<sup>(۲)</sup>

### کیا جانوروں پر صدقہ کرنا بہتر ہے یا انسانوں؟

سوال: ... صدقہ کس طرح ادا کرنا چاہئے؟ کیا پرندوں کو گوشت کھلانا جائز ہے؟

جواب: ... پرندے اپنا رزق خود تلاش کر لیتے ہیں، انسانوں کو کھلانا افضل ہے۔<sup>(۳)</sup>

### صدقے کے جانور سے خود کھانا

سوال: ... اگر کوئی آدمی کسی جانور کا صدقہ دے اور اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کرے تو کیا وہ خود یا اس کے خاندان کے افراد اس گوشت میں سے گوشت لے سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب: ... جانور ذبح کرنے سے صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ جتنا حصہ خیرات کیا جائے، وہ صدقہ ہوگا۔ اور جتنا خود کھا وہ صدقہ نہیں ہوگا۔<sup>(۴)</sup>

### صدقے کے لئے کالے بکرے کی تخصیص

سوال: ... ہمارے معاشرے میں بعض رسومات پر عمل ضروری سمجھا جاتا ہے، مثلاً: صدقے کے لئے کالا بکرا دیا جائے۔ نیز جس کی طرف سے صدقہ دیا جا رہا ہو، وہ صدقے کے جانور پر ہاتھ پھیرے، کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟

جواب: ... صدقہ کرنے کا تو حکم ہے، اور صدقہ کرنے سے آفات اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں، لیکن جو دیگر باتیں آپ نے لکھی

(۱) ولا تحسب اجرة العامل ونفقة البقر و كرى الأنهار وأجرة الحفاظ وغير ذلك. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۷).  
 (۲) ودفع القيمة أى الدراهم أفضل من دفع العين على المذهب المفتى به جوهره... الخ. وفي الشامية: لأن العلة فى أفضلية القيمة كونها أعون على دفع حاجة الفقير لاحتمال أنه يحتاج غير الحنطة... الخ. (شامی ج: ۲ ص: ۳۶۶).  
 (۳) إنما الصدقات للفقراء والمسكين... الخ. (التوبة: ۶۰).  
 (۴) كما فى الحديث: وروى عن عائشة رضى الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ما بقى منها؟ قالت: ما بقى منها إلا كتفها! قال: بقى كلها غير كتفها. رواه الترمذى، وقال: حديث حسن صحيح، ومعناه أنهم تصدقوا بها إلا كتفها. (الغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۲۶، طبع دار إحياء التراث العربى).

ہیں کہ بکرا کالا ہو، اس پر ہاتھ پھیرا جائے، وہ تمام باتیں تو ہم پرستی ہیں۔<sup>(۱)</sup>

## اللہ تعالیٰ کے نام کی بجائے سر کا صدقہ دینا

سوال: ... ایک عامل صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہوں، ان کو چاہئے کہ بجائے کسی نام کی طرف منسوب کرنے کے صرف اپنے سر کا صدقہ کریں، صدقہ ادا کرنے سے مصائب رفع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ صدقہ صرف اپنے سر کا ہوتا ہے۔ مگر ہم نے اب تک جب بھی صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف منسوب کر کے دیا کہ اے اللہ! یہ خیرات آپ کے نام کی ہے، آپ ہمارے حال پر رحم فرمائیں۔

حضرت! کیا عامل کا کہنا ٹھیک ہے یا غلط؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور اگر غلط ہے جیسا کہ ہمارا گمان ہے تو اس کی وضاحت فرمادیں، عین نوازش ہوگی۔

جواب: ... اپنے سر کے صدقے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے نام پر ہوتا ہے، اس لئے صحیح ہے۔ اپنی طرف سے صدقہ کرنا، یہ صدقہ بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے،<sup>(۲)</sup> عامل کا یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ صدقے سے مصیبت ٹلتی ہے۔<sup>(۳)</sup>

## صدقے کی رقم کہاں خرچ کی جائے؟

سوال: ... میں اکثر صدقے کی رقم نکال کر رکھ دیتی ہوں، جب کوئی فقیر آئے تو ایک دو روپے اسے دے دیتی ہوں، اور سو پچاس روپے ایک رفاہی سینٹر بھیج دیتی ہوں، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ کیونکہ فوری طور پر کوئی نہیں ملتا تا کہ پیسے دیئے جائیں۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ صدقے کی رقم اس وقت دینی چاہئے، جس وقت صدقہ ادا کیا جائے۔

جواب: ... جب آپ کے پاس صدقے کی رقم جمع ہو جائے تو کسی دینی مدرسے میں بھیج دیا کریں، تاکہ آپ کو دینی علوم کے پڑھنے پڑھانے کا ثواب ملے۔<sup>(۴)</sup>

## ختم قرآن و آیت کریمہ کے بعد صدقہ و خیرات کرنا

سوال: ... کیا ختم قرآن پاک اور آیت کریمہ کرانے کے بعد صدقہ و خیرات یا زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے اور اس کو کون لوگوں

(۱) وروی عن اسی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی أعواد المنبر یقول: اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فإنہا تقیم العوج وتدفع میتة السوء وتقع من الجانح موقعها من الشبعان۔ رواہ أبو یعلیٰ والبخاری۔ (الترغیب والترہیب ج: ۲ ص: ۱۱، طبع دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

(۲) وروی عن میمونۃ بنت سعد أنها قالت: یا رسول اللہ! افتنا عن الصدقة؟ فقال: انها حجاب من النار لمن احتسبها یتغی بها وجه اللہ عزو جل۔ رواہ الطبرانی۔ (الترغیب والترہیب ج: ۲ ص: ۱۷، طبع دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

(۳) وروی عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الصدقة تسد سبعین باباً من السوء۔ رواہ الطبرانی فی الکبیر۔ (الترغیب والترہیب ج: ۲ ص: ۱۹، طبع دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

(۴) وفی المعراج: التصدق علی العالم الفقیر افضل۔ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۵۳، باب المصروف)۔



پر خرچ کیا جاسکتا ہے؟

جواب: ... ختم قرآن یا آیت کریمہ کے ختم پر زکوٰۃ نکالنا ضروری نہیں، ویسے صدقہ و خیرات آدمی جب بھی کرے اچھی بات ہے۔<sup>(۱)</sup>

اپنی زندگی میں ہی صدقہ جاریہ کا اہتمام کرنا

سوال: ... اگر کوئی شخص ذخیرہ آخرت کے خیال سے کوئی نیک کام کر جائے، مثلاً: کوئی مسجد بنوادی، کسی مدرسے میں حصہ ڈال دیا، سپارے مسجد میں رکھوادیئے۔ اسی طرح کسی عزیز یا غریب کی اعانت کر دی، تو کیا اس کے لئے جائز ہے؟ کیونکہ وارثوں سے تو توقع نہیں کہ اس کے تر کے میں سے کچھ صدقہ جاریہ کے لئے خرچ کریں گے۔

جواب: ... یہ نہ صرف جائز ہے، بلکہ بہتر اور افضل ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں اپنے لئے ذخیرہ آخرت جمع کرنے کا اہتمام کرے۔<sup>(۲)</sup>

حکومت کی چوری کر کے بچائے ہوئے پیسوں سے خیرات کرنا

سوال: ... کوئی آدمی بھی ہو جو حکومت کی چوری کرتا ہے، جیسے بجلی ہو یا اور کوئی چیز ہو، جو حکومت سے نہیں معلوم ہے، مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ روپیہ جو کچھ بچا گیا، وہ جائز ہوا؟ برائے مہربانی صاف صاف تحریر فرمائیں اور حلال کی روزی بھی کھاتے ہیں، اس سے کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے؟ اور دُرود، فاتحہ وغیرہ بہت دھوم دھام سے کرتے ہیں، تو کیا یہ سب کا ثواب ان لوگوں کو پہنچتا ہے جس کے نام سے کرتے ہیں؟ اور کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے یا نہیں؟

جواب: ... حکومت کی چوری کا روپیہ ناجائز ہے، اس میں سے جو صدقہ خیرات کیا جائے، اس کا ثواب نہیں ملتا۔<sup>(۳)</sup>

رشوت کی رقم اور زمین کی پیداوار کی رقم والے کا صدقہ و خیرات کرنا

سوال: ... زید نے اپنی زمین جس میں زید فصل کاشت کرتا ہے اپنے قریبی رشتہ دار کو کرایہ پر دی۔ زید کا وہ رشتہ دار پولیس میں ڈی ایس پی کے عہدے پر فائز ہے۔ اس کے پاس کثرت سے رشوت کا پیسہ آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اپنی کاشت کے لئے زمین بھی ہے جو تقریباً ۱۲۰۰ ایکڑ ہے جو اس کو اس کے والد نے اپنی زندگی میں ہی الگ حصے کے طور پر دی

(۱) وفي رواية: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمره فليفعل. رواه البخاري ومسلم. (الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۱۰، طبع دار احیاء التراث العربی، بیروت).

(۲) حدثنا أبو هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أي صدقة أعظم أجراً؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم... الخ. (بخاري ج: ۱ ص: ۱۹۱).

(۳) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً... الخ. (مشکوٰۃ ص: ۲۴۱). وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدله تمره من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب... الخ. (مشکوٰۃ ص: ۱۶۷، باب فصل الصدقة، الفصل الأول، طبع قديمی).

ہے، اور اس نے اپنی رشوت کی رقم سے نہیں خریدی۔ اب غالب گمان کے مطابق اس کے پاس یعنی زید کے رشتہ دار کے پاس مال حرام زیادہ ہے بہ نسبت حلال کے، کیونکہ رشوت بہت زیادہ ملتی ہے۔ اب مسئلہ یہ دریافت کرنا ہے کہ کیا زید کو جو کرایہ کی رقم اپنی حلال زمین کے عوض میں ملی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کو زید اپنے ذاتی استعمال میں لاسکتا ہے یا نہیں؟ اور کسی دینی مصرف یعنی مسجد میں چندہ یا مدرسے میں دے سکتا ہے یا نہیں؟ اور زید کو اس کا پورا علم تھا کہ اس کے رشتہ دار کے پاس مال حرام کثرت سے موجود ہے، تو زید کا یہ عمل صحیح ہے یا غلط؟

جواب:۔۔۔ جس شخص کی آمدنی حلال و حرام سے مخلوط ہو، اس میں غالب کا اعتبار ہے۔ حلال غالب ہو تو اس کے گھر کا کھانا جائز ہے، ورنہ نہیں۔ یہی حکم اس کے ساتھ معاملے کا بھی سمجھنا چاہئے۔ بعض لوگ اپنی حلال آمدنی الگ رکھتے ہیں، اس لئے اگر زید اپنی زمین اس کو کرائے پر دیتا ہے تو اس سے کہہ دے کہ مجھے یہ کرایہ حلال آمدنی سے دیا جائے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کو نہ دی جائے۔ بہر حال اگر حرام آمدنی سے کرایہ ادا کیا گیا ہے تو زید کو چاہئے کہ اس سے صدقہ و خیرات وغیرہ نہ کرے، بلکہ کسی غیر مسلم سے قرض لے کر اس میں خرچ کرے، اور یہ رقم غیر مسلم کو اس کے قرض میں دیدے۔<sup>(۱)</sup>

## خیرات کرنے والے کے دل میں اپنی تعریف کا خیال آنا اور اس کا توبہ کرنا

سوال:۔۔۔ اگر کبھی کوئی انسان نیک کام کر رہا ہو، مثلاً: خیرات وغیرہ دیتا ہو، اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ لوگ میری تعریف کریں گے، مگر دوسرے ہی لمحے خدا کے خوف سے اس بات کو دل سے نکال دے اور توبہ کرے، تو اس شخص کا نیک عمل قبول ہو جائے گا یا نہیں؟

جواب:۔۔۔ ضرور قبول ہوگا، ان شاء اللہ!<sup>(۲)</sup>

(۱) اهدى الى رجل شيئاً أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي لا يقبل الهدية ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل كذا في الينابيع. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۳۴۲، کتاب الکراهية، الباب الثانی عشر فی الهدایا والضيافات).

(۲) إنما الأعمال بالنيات۔ الحدیث۔ (مشکوٰۃ ص: ۱۱، مقدمة).

## حج و عمرہ کی فضیلت

### حج سے گناہوں کی معافی اور نیکیوں کا باقی رہنا

سوال: ... سنا ہے کہ حج ادا کرنے کے بعد وہ انسان جس کا حج قبول ہو جائے وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ پیدا ہونے کے بعد کوئی بچہ، کیا یہ بات درست ہے؟ اگر یہ بات درست ہے تو کیا اس شخص نے جو اب تک نیکیاں کیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی؟

جواب: ... گناہوں کے معاف ہونے سے نیکیوں کا ختم ہونا کیسے سمجھ لیا گیا ہے؟ حج بہت بڑی عبادت ہے جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر عبادت سے نیکیاں تو ضائع نہیں ہوا کرتیں! اور یہ جو فرمایا کہ: ”گو یا وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے“<sup>(۱)</sup> یہ گناہوں سے پاک ہونے کو سمجھانے کے لئے ہے، کہ جس طرح نومولود بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اسی طرح ”حج مبرور“ کے بعد آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔<sup>(۲)</sup>

### کیا حاجی کے قضا روزے اور نمازیں بھی معاف ہو جاتی ہیں؟

سوال: ... کیا حاجی کی قضا نمازیں، روزے بھی معاف ہو جاتے ہیں؟

جواب: ... حج سے فرائض اور حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، بلکہ جو شخص فرائض کے چھوڑنے اور حقوق العباد کے تلف کرنے کی توبہ نہ کرے اس کا حج ہی قبول نہیں ہوتا، ایسا شخص دنیا کی نظر میں ”حاجی“ ہے، مگر اللہ کے دفتر میں ”حاجی“ نہیں بلکہ ”پاجی“ یعنی فاسق ہے۔<sup>(۳)</sup>

(۱) عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من حج لہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ أمہ متفق علیہ. (مشکوٰۃ ص: ۲۲۱، کتاب المناسک، الفصل الأول، طبع قدیمی).

(۲) قال الطیبی: ای مشابہا فی البراءة عن الذنوب بنفسہ فی یوم ولدتہ أمہ فیہ. (مرقات ج: ۳ ص: ۱۶۸ طبع بمبئی).

(۳) أن من جملة بعض حقوق اللہ کترک الصلاة والصوم مما أجمع العلماء علی أنه لا بد من قضاہما ولو بعد التوبۃ التی ہی أقوى أنواع الکفارة، ومن جملتها بعض حقوق العباد کقتل النفس وأخذ مال الناس ظلماً فی البلاد ولا ریب فی أن مجرد أداء الحج لا یکفر نحوہما من غیر تمکین للنفس ورد مال المظلومین أو الإستحلال من أصحابہما الموجودین. (ارشاد الساری ص: ۳۲۲). ویجب أن یتوب من جمیع الذنوب توبۃ نصوحاً..... وان كانت عما ترک فیہ من حقوق اللہ تعالیٰ کصلاة فلا تنفعہ التوبۃ ما لم یقض ما فاتہ ثم یندم ویستغفر اللہ تعالیٰ وان كانت عن ذنب یتعلق بالعباد فإن كانت من مظالم الأموال فتتوقف التوبۃ منها مع قدمنا فی حقوق اللہ تعالیٰ علی الخروج عن الأموال وإرضاء الخصم إما بأن یتحلل من أهلها أو یردھا إلیهم أو إلی من یقوم مقامہم من وکیل أو وارث... الخ. (ارشاد الساری ص: ۳، طبع دار الفکر بیروت).

## حج کی ادائیگی سے قبل حقوقِ واجبہ کی ادائیگی

سوال: ... بعض مرد حضرات اپنی بیوی، بھائی و احباب وغیرہ کو ناراض کر کے، اپنے والدین یا دیگر محرم کے ساتھ، اور اس طرح بعض خواتین اپنے شوہر وغیرہ کو ناراض کر کے اپنے والدین یا دیگر محرم کے ساتھ بغیر معافی تلافی کے حج مبرور زیارتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کے حصول و فریضے کی ادائیگی کے لئے حرمین شریفین تشریف لے جا رہے ہیں، کیا اس طرح ناراضگی اور معافی تلافی کے بغیر اور صلہ رحمی کا برتاؤ نہ کرتے ہوئے حدیث شریف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان لوگوں کا ایسے مقدس فریضے کی ادائیگی کے لئے جانا کس حد تک صحیح ہے؟ ان کے حج و دیگر عبادات کی قبولیت میں فرق پڑے گا یا نہیں؟

جواب: ... جو شخص سفر حج پر جا رہا ہو، خواہ حج فرض ہو یا نقلی، اس کے لئے ضروری ہے کہ تمام متعلقین کے حقوقِ واجبہ ادا کرے اور سب سے معافی تلافی کرے،<sup>(۱)</sup> کیونکہ لمبا سفر ہے اور واپسی کا پتا نہیں، اس لئے اس طرح جانا چاہئے گویا سفرِ آخرت پر جا رہا ہے۔ لیکن جو لوگ حقوق ادا کئے بغیر اور والدین کی اجازت کے بغیر جائیں گے، یا عورت شوہر کی اجازت کے بغیر جائے گی تو ان کا حج تو ہو جائے گا لیکن یہ حج مبرور نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس پر کیا سزا ملے گی...؟

## حج مقبول کی پہچان

سوال: ... اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ: ”ہم نے حج تو کر لیا ہے مگر معلوم نہیں خدا نے قبول کیا کہ نہیں؟“ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر کوئی مسلمان حج کر کے واپس آئے اور واپس آنے کے بعد پھر سے بُرائی کی طرف مائل ہو جائے یعنی جھوٹ، چوری، غیبت، دل دکھانا وغیرہ شروع کر دے تو یہ ان لوگوں کی نشانی ہوتی ہے جن کی عبادت خدا نے قبول نہیں کی ہوتی، کیونکہ انسان جب حج کر کے آتا ہے تو خدا اس کا دل موم کی طرح نرم کرتا ہے اور سوائے نیکی کے وہ اور کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ کہاں تک درست ہے؟

جواب: ... حج مقبول وہی ہے جس سے زندگی کی لائن بدل جائے، آئندہ کے لئے گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو اور طاعات کی پابندی کی جائے۔ حج کے بعد جس شخص کی زندگی میں خوشگوار انقلاب نہیں آتا اس کا معاملہ مشکوک ہے۔<sup>(۲)</sup>

## متعدد مرتبہ ”عمرہ“ کی ادائیگی پر اعتراض کا جواب

سوال: ... ہم میں کچھ صاحبِ ثروت حضرات کا سال میں ایک دو عمرے کرنے کا معمول ہے۔ یہ حقیقت ہر ذی شعور

(۱) يبدأ بالتوبة و اخلاص النية و رد المظالم و الاستحلال من خصومه و من كل عاملة ..... و يتجرد عن الرياء و السمعة. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۹، کتاب المناسک، الباب الأول، طبع رشیدیہ کوئٹہ)۔

(۲) أن الحج المبرور على ما نقله العسقلاني عن ابن خالويه المقبول وهو كما ترى أمره مجهول وقال غيره هو الذي لا يخالطه شيء من المعاصي و رجحه النووي و هذا هو الأقرب و التي قواعد الفقه أنسب لكن مع هذا لا يخلو عن نوع من الإبهام لعدم جزم أحد بخلوه عن نوع من الآثام، و قيل الذي لا رياء فيه و لا سمعة و لا رفث و لا فسوق و هذا داخل فيما قبله، و قيل الذي لا معصية بعده، و قال الحسن البصري: الحج المبرور أن يرجع زاهداً في الدنيا راغباً في العقبى. (إرشاد الساري ص: ۳۲۲، باب المتفرقات، طبع دار الفكر، بيروت)۔

پاکستانی کے علم میں ہے کہ سفرِ عمرہ کے لئے زرمبادلہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ زرمبادلہ حکومت پاکستان مختلف اداروں سے سود پر حاصل کرتی ہے۔ میری معلومات کے مطابق فرض حج کے بعد جتنے بھی حج یا عمرے کئے جائیں ان کا شمار نقلی عبادات میں ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں حصول زرمبادلہ کی جو صورت حال ہے اس کے پیش نظر کیا نقلی عمرہ بار بار جائز ہے؟

جواب: ... سرکاری افسران اور آر باپ حل و عقد اگر تمام مصارف بند کر دیں، غیر ملکی دورے نہ کیا کریں اور ایک ایک پیسے کی بچت کریں تو میں بھی لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ وہ عمرے یا نقلی حج پر پیسہ خرچ نہ کیا کریں۔ لیکن جب یہ لوگ اللہ تلے میں زرمبادلہ خرچ کرتے ہیں تو خدا اور رسول ہی کے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ ان کے لئے خرچ نہ کیا جائے...؟<sup>(۱)</sup>

### نفل حج زیادہ ضروری ہے یا غریبوں کی استعانت؟

سوال: ... حج، اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ دوران حج اسلامی یکجہتی اور اجتماعیت کا عظیم الشان مظاہرہ ہوتا ہے جس کی افادیت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ مگر جواب طلب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل نفل حج جائز ہے یا نہیں؟ خاص طور پر ان ممالک کے باشندوں کے لئے جہاں سے حج کے لئے جانے پر ہزار ہا روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ جبکہ ایک مولانا صاحب نے روزنامہ ”جنگ“ کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا کہ: ”کیونز م“ اور ”سوشلزم“ یعنی لادینیت کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کی روٹی کا مسئلہ حل کر دیا جائے۔ پاکستان اور بہت سے مسلم ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان محض پیٹ کی مجبوری کی خاطر عیسائیت اختیار کر رہے ہیں، پاکستان کے غریب مسلمانوں میں اگر سوشلزم سے کوئی ہمدردی ہے تو محض پیٹ کی خاطر، ورنہ یہ لوگ بھی ہماری طرح مسلمان ہیں اور ضرورت پڑنے پر اسلام کے لئے جان بھی دینے کو تیار ہیں۔ نفل حج پر خرچ کی جانے والی رقم اگر پاکستان کے غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دی جائے تو میرا خیال ہے کہ ملک سے غربت کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا اور اسلامی نظام کی راہ میں حائل بہت سی رکاوٹیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ پچھلے سال اس سلسلے میں، میں نے دوسرے مولانا صاحب کو لکھا تھا تو انہوں نے میری تائید میں جواب دیا تھا کہ: ”موجودہ حالات میں نفل حج کے لئے جانا گناہ ہے، اس رقم کو ملکی یتیموں اور محتاجوں میں تقسیم کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔“ آپ سے گزارش ہے کہ اس پر مزید وضاحت فرمائیں اور پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کو اس حقیقت سے باخبر فرمائیں، تاکہ اسلامی نظام کی راہ آسان سے آسان تر ہو جائے۔

جواب: ... ایک مولانا کے ”زور دار فتویٰ“ اور دوسرے مولانا کی ”تائید و تصدیق“ کے بعد ہمارے لکھنے کو کیا باقی رہ جاتا ہے...! مگر ناقص خیال یہ ہے کہ نفل حج کو تو حرام نہ کہا جائے،<sup>(۲)</sup> البتہ زکوٰۃ ہی اگر مال داروں سے پوری طرح وصول کی جائے اور

(۱) العمرۃ فی العمر مرۃ سنۃ مؤئدۃ ..... فلا یکرہ الإکثار منها۔ (حاشیۃ رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۷۲، مطلب احکام العمرۃ، طبع ایچ ایم سعید)۔ یجوز تکرارها فی السنۃ الواحدۃ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۷، طبع رشیدیہ کوئٹہ)۔

(۲) ذکر فی القنیۃ أن أباحنیفۃ کان بقول الصدقۃ أفضل من حج التطوع فلما حج وعرف مشاقه فقال: الحج أفضل (وقبل الحج أفضل) وهو رواية عن أبي حنیفۃ ان الحج تطوعاً أفضل من الصدقة والصدقة أفضل من العتق والوصیۃ بالصدقة أفضل ثم بالحج ثم بالعتق وفي النوازل أن الحج أفضل من الصدقة عند الإمام وعند محمد الصدقة أفضل منه انتهى۔ وتبین بما ذکرنا أن ما عند المصنف عنه بقیل هو الأولی کما لا یخفی۔ (ارشاد الساری ص: ۳۱۶، طبع دار الفکر بیروت)۔

مستحقین پر اس کی تقسیم کا صحیح انتظام کر دیا جائے تو غربت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مگر کرے کون...؟

## حج و عمرہ جیسے مقدس اعمال کو گناہوں سے پاک رکھنا چاہئے

سوال: ... یہاں سعودیہ میں ہمارے گھروں میں وی سی آر پر مخرب اخلاق انڈین فلمیں بھی دیکھی جاتی ہیں اور ہر ماہ باقاعدگی سے عمرہ اور مسجد نبوی میں حاضری بھی دی جاتی ہے۔ کیا اس سے عمرہ و مسجد نبوی کی حاضری کی افادیت ختم نہیں ہو جاتی؟ لوگ عمرہ ثواب کی نیت سے اور مسجد نبوی میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی غرض سے جاتے ہیں، فلمیں دیکھنا ابھی نہیں سمجھتے، عام خیال ہے کہ وطن سے دوری کی وجہ سے وقت کاٹنے کو دیکھتے ہیں اور یہاں تفریح کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔

جواب: ... عمرہ اور مسجد نبوی (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کی حاضری میں بھی لوگ اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ! دین کے مسائل نہ کسی سے پوچھتے ہیں، نہ اس کی ضرورت سمجھتے ہیں۔<sup>(۱)</sup> جو شخص نئی وی جیسی حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے حج و عمرہ کی کیا ضرورت ہے؟<sup>(۲)</sup> ایک عارف کا قول ہے:

بطوافِ کعبہ رتم زحرم ندا برآمد

کہ بروں درچہ کردی کہ درون خانہ آئی

ترجمہ: ... ”میں طوافِ کعبہ کو گیا تو حرم سے ندا آئی کہ: تو نے باہر کیا کیا ہے کہ دروازے کے اندر

آتا ہے۔“

لوگ خوب داڑھی منڈا کر روضہ اطہر پر جاتے ہیں اور ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں جیسی بناتے ہیں۔ اس تحریر سے یہ مقصود نہیں کہ لوگوں کو حج و عمرہ نہیں کرنا چاہئے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان مقدس اعمال کو گناہوں اور غلطیوں سے پاک رکھنا چاہئے۔ ایسے حج و عمرہ ہی پر پورا ثواب مرتب ہوتا ہے۔<sup>(۳)</sup>

## کیا نماز کا اہتمام نہ کرنے والے کے عمرے میں کوئی نقص ہوتا ہے؟

سوال: ... ہمارے گھر والے سال میں ایک دفعہ اور بعض دفعہ دو مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن یہاں آ کر نماز کا اہتمام نہیں کرتے اور فجر کا تو ایسا حال معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ذمے فرض ہی نہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ان کے نماز کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے عمرے میں کوئی نقص تو نہیں آتا؟ اگر آتا ہے تو اس کا ضمان کیا ہے اور کیا یہ عمرہ قبول ہوگا یا نہیں؟

(۱) ولیتعلم ما یحتاج الیہ فی سفرہ من أمر الصلاة و کذلک یتعلم کیفیتہ الحج و صفة المناسک۔ (ارشاد الساری ص: ۴)۔

(۲) لانه مشروط بعدم وجود الفسق سابقاً و لاحقاً و حالاً..... و لا شک ان المصر علی المعصیة فاسق و صاحب کبیرة

فلا یكون داخل فی الجزاء علی أداء الحجۃ۔ (ارشاد الساری ص: ۳۲۳، باب المتفرقات، طبع دار الفکر)۔

(۳) ایضاً۔

جواب: نماز فرض ہے، اور عمرہ سنت ہے، جو شخص فرض کا تارک ہو، اور اس کی کوئی پروا نہ کرتا ہو، اُس کو ایک سنت کے ادا کرنے سے کیا نفع ہوگا...؟

## عمرے کی ادائیگی کے تقاضے

سوال: ... ہمارے گھر والے ہر سال اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں عمرے پر جاتے ہیں، اور اکثر شام پانچ بجے کی فلائٹ ہوتی ہے، اس سفر کی بنا پر اس دن کا روزہ فرض گھر والے نہیں رکھتے، اور کہتے ہیں کہ سفر میں روزہ نہیں ہوتا۔ سفر تو شام سے ہوتا ہے اور روزہ صبح سے نہیں رکھا جاتا۔ پوچھنا یہ ہے کہ آیا یہ عمل ان کا کہاں تک درست ہے؟ کیا ان پر روزے کی قضا ہوگی یا نہیں؟ یہ بھی بتلائیں کہ سفر میں جو روزہ معاف ہے وہ کونسا سفر ہے؟ کیونکہ ہوائی جہاز کا سفر تو مشقت سے بالکل خالی ہوتا ہے۔

جواب: ... جو شخص صبح صادق سے پہلے سفر کی حالت میں ہے اس کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن جس شخص کا سفر بعد میں شروع ہونے والا ہے، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، اور چھوڑنا حرام ہے۔<sup>(۳)</sup> عجیب بات ہے کہ آپ کے گھر والے نفل کی خاطر فرض کو چھوڑتے ہیں، حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، اور پھر... چشم بد دور...! حج و عمرہ کے شوقین بھی کہلاتے ہیں۔ جتنے روزے آپ کے گھر والوں نے چھوڑے ہیں، ان کی قضا لازم ہے۔ روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہر مسافر کے لئے ہے، لیکن جس سفر میں مشقت نہ ہو اس میں روزہ رکھنا بہتر ہے، ورنہ بعد میں قضا کرنا ہوگی۔<sup>(۴)</sup>

## مکہ والوں کے لئے طواف افضل ہے یا عمرہ؟

سوال: ... مکہ المکرمہ میں زیادہ طواف کرنا افضل ہے یا عمرہ جو کہ مسجد عائشہؓ سے احرام باندھ کر کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے امام کا کہنا ہے کہ طواف مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ افضل ہے، اور دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں بیت اللہ کے طواف کا حکم ہے نہ کہ عمرہ کا۔ اس لئے مقيم مکہ مکرمہ کے لئے طواف افضل ہے عمرہ سے۔ اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مدینہ منورہ سے عمرہ کا احرام باندھ کر ضرور آنا چاہئے۔ پوچھنا ہے کہ کیا یہ باتیں امام کی ٹھیک ہیں یا نہیں؟

(۱) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلأهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعلهن فليس على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه أحمد وأبو داود وروى مالك والنسائي وغيره. (مشكوة ص: ۵۸ طبع قديمي).  
عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم يعش الكبائر. (ترمذی، باب فی فضل صلوات الخمس ج: ۱ ص: ۳۰).

(۲) عن جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وإن يعتمروا هو أفضل. (ترمذی ج: ۱ ص: ۱۱۲، أبواب الحج، طبع دهلي)، العمرة في العمر سنة مؤكدة... الخ. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۳۷۲).

(۳) بخلاف اليوم الذي سافر فيه لأنه كان مقيماً في أول اليوم فدخل تحت خطاب المقيمين في ذلك اليوم فلزمه إتمامه حتماً. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۹۵). فلو سافر نهاراً لا يباح له الفطر في ذلك اليوم. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۰۶).

(۴) ولكن الصوم أفضل إن لم يضره. (حاشية رد المحتار ج: ۲ ص: ۳۲۱، كتاب الحج).

جواب: ... زیادہ طواف کرنا افضل ہے، مگر شرط یہ ہے کہ عمرہ کرنے پر جتنا وقت خرچ ہوتا ہے اتنا وقت یا اس سے زیادہ طواف پر خرچ کرے، ورنہ عمرہ کی جگہ ایک دو طواف کر لینے کو افضل نہیں کہا جاسکتا۔<sup>(۱)</sup>

جو لوگ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کا قصد رکھتے ہیں ان کو ذوالحلیفہ سے (جو مدینہ شریف کی میقات ہے) احرام باندھنا لازم ہے اور ان کا احرام کے بغیر میقات سے گزرنا جائز نہیں،<sup>(۲)</sup> اور اگر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کا قصد نہیں بلکہ جدہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے احرام باندھنے کا سوال ہی نہیں۔<sup>(۳)</sup>

**کعبے پر پہلی نظر پڑنے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس وقت دُعا ضرور قبول ہوتی ہے؟**

سوال: ... پہلی نظر کعبہ شریف پر پڑتے ہی جو دُعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، پلک جھپکنے پر پہلی نظر ختم ہو جاتی ہے۔ (الف) پہلی نظر سے کیا مراد ہے؟ (ب) یہ موقع زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے یا بار بار؟ مثلاً دوبارہ حج کو گیا یا منی سے طواف زیارت کو آیا تب نظر پڑی، یا پانچ وقت نماز کو حرم شریف میں داخل ہوا پہلی نظر پڑی، وضاحت فرما دیجئے نوازش ہوگی۔  
جواب: ... پہلی نظر سے مراد یہ ہے کہ جو نبی بیت اللہ پر نظر پڑے دُعا کرے۔<sup>(۴)</sup>

اس کو عمر میں پہلی بار پر کیوں بند رکھا جائے؟ جب بھی پہلی نظر بیت اللہ پر پڑے دُعا کی جائے اور قبولیت کا یقین رکھا جائے۔

**کیا غریب لوگ حج اور زکوٰۃ کے ثواب سے محروم رہیں گے؟**

سوال: ... اسلام کے پانچ ارکان میں سے دو ارکان زکوٰۃ اور حج غریبوں پر فرض نہیں ہیں، لیکن اس کی وجہ سے وہ غریب شخص ان دونوں کے بے انتہا ثواب اور فضیلت سے محروم رہتا ہے، اسلام کا نظام انصاف کیا اس کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتا؟  
جواب: ... اللہ تعالیٰ نے ثواب اور فضیلت حاصل کرنے کی بے شمار صورتیں رکھی ہیں، اور ان صورتوں کو اپنے بندوں پر تقسیم کر دیا ہے، کسی کے لئے کوئی صورت تجویز فرمادی، اور کسی کے لئے کوئی، ساری چیزوں کا بیک وقت ایک آدمی میں جمع ہو جانا عادتہ دُشوار ہے۔ جب یہ مقدمہ سمجھ میں آگیا تو اگر مال داروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے مالی عبادات کی صورتیں پیدا فرمادی ہیں جن سے نادار لوگ محروم ہیں، تو ناداروں کے لئے وہ صورتیں پیدا فرمادی ہیں جن سے مال دار محروم ہیں، مثلاً ایک شخص مال دار ہے، اور وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، جتنا ثواب اس شخص کو ملے گا، اتنا ہی ثواب اس نادار کو بھی ملے گا جو یہ نیت

(۱) ونظيره ما أجاب به العلامة القاضي إبراهيم بن ظهيرة المكي حيث سئل هل الأفضل الطواف أو العمرة من أن الأرجح تفضيل الطواف على العمرة إذا شغل به مقدار زمن العمرة. (فتاوى شامى ج: ۲ ص: ۵۰۲، طبع ایچ ایم سعید).

(۲) المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً خمسة لأهل المدينة ذوالحليفة... الخ. (هداية ج: ۱ ص: ۲۳۳، كتاب الحج، طبع شركت علميه ملتان).

(۳) ولو جاوز الميقات ويريد بستان بنى عامر دون مكة فلا شيء عليه. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۵۳، طبع رشیدیہ کوئٹہ).

(۴) فإذا دخل مكة ووقع بصره على الكعبة ووصل المسجد، استحب له أن يرفع يديه ويدعو، فقد جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة، ويقول اللهم زد هذا البيت تشريقاً وتعظيماً وتكريماً... الخ. (الأذكار النووية ص: ۱۶۵).



رکھتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں بھی اس شخص کی طرح نیک کاموں میں خرچ کروں۔ دیکھئے! ایک شخص کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرب الہی کا راستہ مال کا خرچ کرنا ٹھہرا دیا، اور دوسرے کے لئے صرف اس کی نیت کر لینا۔<sup>(۱)</sup>

صرف امیر آدمی ہی حج کر کے جنت کا مستحق نہیں، بلکہ غریب بھی نیک اعمال کر کے اس کا مستحق ہو سکتا ہے

سوال: ... حج کر کے صرف امیر آدمی ہی جنت خرید سکتا ہے، کہ اس کے پاس حج پر جانے کے لئے مناسب رقم ہے اور وہ ہزاروں لاکھوں نمازوں کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، جبکہ غریب محروم ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل صرف امیروں پر ہے۔ آج کے زمانے میں کسی کا حج بھی قبول نہیں ہو رہا، کیونکہ میدان عرفات میں لاکھوں فرزند ان توحید اعدائے اسلام (خاص طور پر اسرائیل، امریکہ، روس) کے نابود ہونے کے لئے دُعا بڑے خشوع و خضوع سے کرتے ہیں اور ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوتا۔ دُنیا سے بُرائی ختم ہونے کی دُعا کرتے ہیں، لیکن بُرائیاں بڑھ رہی ہیں۔ گویا یہ ان دُعاؤں کے نامقبول ہونے کی علامات ہیں۔

جواب: ... حج صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔<sup>(۲)</sup> مگر جنت صرف حج کرنے پر نہیں ملتی، بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ غریب آدمی ان کے ذریعہ جنت کما سکتا ہے۔ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ فقراء و مہاجرین، امراء سے آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے۔<sup>(۳)</sup> حج کس کا قبول ہوتا ہے اور کس کا نہیں؟ یہ فیصلہ تو قبول کرنے والا ہی کر سکتا ہے، یہ کام میرے آپ کے کرنے کا نہیں۔ نہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہنے کے مجاز ہیں کہ اس کی فلاں عبادت قبول ہوئی یا نہیں، البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے شرائط کی پابندی کے ساتھ حج کے ارکان صحیح طور پر ادا کئے اس کا حج ہو گیا۔<sup>(۴)</sup> رہا دُعاؤں کا قبول ہونا یا نہ ہونا، یہ علامت حج کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی نہیں۔ بعض اوقات نیک آدمی کی دُعا بظاہر قبول نہیں ہوتی اور بُرے آدمی کی دُعا ظاہر میں قبول ہو جاتی ہے، اس کی حکمتیں اور مصلحتیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بُرائی اور شر کے غلبے کی وجہ سے نیک لوگوں کی دُعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ نیک آدمی عام لوگوں کے لئے دُعا کرے گا، حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کہ: ”تو اپنے لئے جو

(۱) عن ابی کبشۃ الأنماری رضی اللہ عنہ أنه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: ..... عبد رزقہ اللہ مالاً وعلماً فهو یتقی فیہ ربہ ویصل رحمہ ویعمل للہ منہ بحقہ فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقہ اللہ علماً ولم یرزقہ مالاً فهو صادق النیۃ یقول: لو أن لی مالاً لعملت بعمل فلان فأجرهما سواء... الخ. (مشکوٰۃ، باب استحباب المال والعمر للطاعة ص: ۳۵۱، طبع قدیمی).

(۲) وَ لِلّٰہِ عَلٰی النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا. (آل عمران: ۹۷).

(۳) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یدخل الفقراء الجنة قبل الاغنياء بخمس مائة عام نصف يوم. رواہ الترمذی. (مشکوٰۃ ص: ۳۴۷، باب فضل الفقراء وما كان من عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طبع قدیمی).

(۴) لا مکان قبولہ حیث وجدت شرائطہ وأرکانہ. (ارشاد الساری ص: ۳۲۳، طبع دار الفکر بیروت).

کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ، میں تجھ کو عطا کروں گا، لیکن عام لوگوں کے لئے نہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے ناراض کر لیا ہے“ (کتاب الرقائق ص: ۱۵۵، ۳۸۴)۔

اور یہ مضمون بھی احادیث میں آتا ہے کہ: ”تم لوگ نیکی کا حکم کرو اور بُرائی کو روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذابِ عام کی لپیٹ میں لے لیں، پھر تم دُعائیں کرو تو تمہاری دُعائیں بھی نہ سنی جائیں“ (ترمذی ج: ۲ ص: ۳۹)۔<sup>(۱)</sup>

اس وقت اُمت میں گناہوں کی کھلے بندوں اشاعت ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بہت کم بندے رہ گئے ہیں جو گناہوں پر روک ٹوک کرتے ہوں۔ اس لئے اگر اس زمانے میں نیک لوگوں کی دُعائیں بھی اُمت کے حق میں قبول نہ ہوں تو اس میں قصور ان نیک لوگوں کا یا ان کی دُعائوں کا نہیں، بلکہ ہماری شامتِ اعمال کا قصور ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں۔

(۱) عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذى نفسى بيده! لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. (ترمذی ج: ۲ ص: ۳۹، أبواب الفتن، باب ما جاء فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، طبع كتب خانة رشيدية دہلی)۔

## حج اور عمرہ کی فرضیت

### کیا صاحبِ نصاب پر حج فرض ہو جاتا ہے؟

سوال: ... ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ: جس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا یا باون تولہ چاندی ہو وہ صاحبِ مال ہے، اور اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی جو صاحبِ زکوٰۃ ہے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اسلام کی روشنی میں جواب دیں۔

جواب: ... اس سے حج فرض نہیں ہوتا، بلکہ حج اس پر فرض ہے جس کے پاس حج کا سفر خرچ بھی ہو اور غیر حاضری میں اہل و عیال کا خرچ بھی ہو۔<sup>(۱)</sup> مزید تفصیل ”معلم الحج“ میں دیکھ لی جائے۔

### حج کی فرضیت اور اہل و عیال کی کفالت

سوال: ... الف ملازمت سے ریٹائرڈ ہوا، دس ہزار روپے بقایا جات یک مشٹ گورنمنٹ نے دیئے، اب یہ رقم حج کرنے کے لئے اور اس عرصہ تک اس کے اہل و عیال کے خرچ کے لئے کافی ہوتی ہے، مگر جب حج سے واپس آنا ہوگا تو روزگار کے لئے الف کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا۔ کیا ایسی حالت میں الف پر حج فرض ہوگا یا نہیں؟

سوال: ... ۲: قاسم کی دکان ہے اور اس میں آٹھ دس ہزار روپے کا سامان ہے، جس کی تجارت سے اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اور اگر قاسم دکان بیچ کر حج کرنے چلا جائے تو پیچھے بچوں کے لئے اسی رقم سے کھانے پینے کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ایسی صورت میں اس پر حج فرض ہوگا یا نہیں؟ اور اس کو حج کے لئے جانا چاہئے یا نہیں؟

جواب: ... دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ حج سے واپسی پر اس کے پاس اتنی پونجی ہونی چاہئے کہ جس سے اس کے اہل و عیال کی بقدر ضرورت کفالت ہو سکے۔<sup>(۲)</sup>

مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں حج فرض نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ آپ دوسرے علمائے کرام سے بھی دریافت کر لیں۔

(۱) ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الترمذی وابن ماجه. (مشکوٰۃ ص: ۲۲۲). الحج واجب على الأحرار..... الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلاً عن المسكن وما لآبد منه، وعن نفقة عياله إلى حين عوده... الخ. (الهداية مع البناية ج: ۵ ص: ۱-۲).

(۲) (ومنها القدرة على الزاد والراحلة) بطريق الملك أو الإجارة دون الإعارة والإباحة..... وتفسير ملك الزاد والراحلة أن يكون له مال فاضل عن حاجته وهو ما سوى مسكنه ولبسه وخدمته وأثاث بيته قدر ما يبلغه إلى مكة ذاهباً وجائياً راكباً لا ماشياً وسوى ما يقضى به ديونه ويمسك لنفقة عياله ومرمة مسكنه ونحوه..... (باقی اگلے صفحے پر)

## حج فرض میں جلدی کیجئے!

سوال: ... میرے والد صاحب جن کی عمر تقریباً ۷۰ کے قریب ہے، حج پر جانے کی خواہش نہیں رکھتے ہیں، جبکہ ہماری اور والدہ صاحبہ کی خواہش ہے کہ وہ حج ادا کر لیں، والدہ آج سے تیرہ سال قبل ماموں کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کر چکی ہیں، والد صاحب کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ خدا کا بلاوا آئے گا تو وہ خود حج کروادے گا، اس کے علاوہ دوسرے معاملوں میں مثلاً رشتوں وغیرہ کے سلسلے میں بھی والد صاحب کا یہ ہی کہنا ہے کہ اللہ خود کوئی اسباب پیدا کرے گا، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، لہذا انسان کو سکون سے بیٹھ کر اس کی رحمت کا انتظار کرنا چاہئے۔ جبکہ ہم لوگ والد صاحب کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے انسان کو کوشش کرنی چاہئے پھر دعا کرنی چاہئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انتظار کرنا چاہئے، اور پھر یہ پوری اُمید رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ وہی کچھ اپنے بندے کے لئے مقرر فرمائیں گے جو اس کے حق میں بہتر ہوگا۔

جواب: ... جس شخص پر حج فرض ہو، اور ادا نہ کرے اس کے بارے میں حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پروا نہیں کہ وہ یہودی مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔<sup>(۱)</sup> اگر آپ کے والد صاحب پر حج فرض ہے تو ان کو فوراً ادا کرنا چاہئے، اور اگر خود جانے کی طاقت نہیں رکھتے تو اپنی جگہ کسی کو حج بدل کے لئے بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پیسہ عطا فرمایا ہے، اپنی رحمت سے حج پر جانے کے لئے سواری کا انتظام فرمایا ہے، اس کے بعد وہ کس رحمت کے انتظار میں ہیں...؟

## پہلے حج یا بیٹی کی شادی؟

سوال: ... ایک شخص کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ یا تو حج کر سکتا ہے یا اپنی بیٹی کی شادی کر سکتا ہے، براہ کرم مطلع فرمائیں کہ وہ پہلے حج کرے یا پہلے اپنی بیٹی کی شادی کرے؟ اگر اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تو پھر وہ حج نہیں کر سکے گا۔

جواب: ... اس پر حج فرض ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔<sup>(۲)</sup>

(بقیر حاشیہ صفحہ گزشتہ).....إلی وقت انصرافه کذا فی محیط السرخسی۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۷، کتاب المناسک، الباب الأول)۔ قال بعض العلماء إن کان الرجل تاجرًا یعیش بالتجارة فملک مالا مقدار ما لو رفع منه الزاد والراحلة لذهابه وإیابه ونفقة أولاده وعیاله من وقت خروجه إلی وقت رجوعه ویبقى له بعد رجوعه رأس مال التجارة التي کان یتجر بها کان علیه الحج وآلا فلا... إلخ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۸، کتاب المناسک، رد المحتار ج: ۲ ص: ۳۶۳، کتاب الحج)۔

(۱) عن علی رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من ملک زادًا وراحلة تبلغه إلی بیت اللہ ولم یحج فلا علیه أن یموت یہوديًا أو نصرانیًا وذلك ان اللہ یقول فی کتابہ ولله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلًا۔ (ترمذی، باب ما جاء فی التغلیظ فی ترک الحج ج: ۱ ص: ۱۰۰)۔

(۲) وهو فرض علی الفور وهو الأصح فلا یباح له التأخیر بعد الإمكان إلی العام الثانی کذا فی خزنة المفتین۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۶، کتاب المناسک)۔ وفي التجريد..... عنده دراهم يبلغ بها الحج أو يبلغ ثمن مسکن وخادم وطعام وقوت فعليه الحج فإن جعلها فی غیر الحج أثم کذا فی الخلاصة۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۷، کتاب المناسک)۔

## پہلے بہن بھائیوں کی شادی کروں یا حج؟

سوال: ... میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں، میرے والد صاحب وفات پا چکے ہیں، میں شادی شدہ بھی ہوں اور میرے دو بچے بھی ہیں، میں اپنی والدہ صاحبہ کو اگلے سال حج کروانا چاہتا ہوں، جبکہ میری بہن جوان ہے جس کی عمر ۲۴ سال ہے، اور دو بھائی بالترتیب ۲۷، ۳۰ سال کے ہیں، یہ تینوں ابھی تک کنوارے ہیں، ایک بھائی گھر میں ہے اور دوسرا میرے ساتھ دُہنی میں کام کرتا ہے، ہماری اپنی دکان ہے، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے امی جان کو حج کرواؤں یا بہن بھائیوں کی شادی کروں؟ کیا امی جان کو پہلے حج کرواؤں تو وہ حج قابل قبول ہوگا؟ کیونکہ میں ایک سال میں دونوں کام اکٹھے نہیں کر سکتا، یا بھائیوں کی شادی کر سکتا ہوں یا حج کروا سکتا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بہن بھائیوں کی شادیاں کر لو، ورنہ حج قبول نہیں ہوگا۔ امی جان کی عمر ۵۵ سال ہے، آپ بتائیں کہ اس مسئلے کو حل کیسے کروں؟

جواب: ... اگر آپ کی والدہ پر حج فرض نہیں، یعنی ان کی ذاتی ملکیت اتنی نہیں کہ ان پر حج فرض ہو، تو پہلے شادیوں کے قصے سے نمٹ لینا بہتر ہے، لیکن شادیاں سادگی سے کی جائیں، ان پر بے جا رقم برباد نہ کی جائے۔

## محدود آمدنی میں لڑکیوں کی شادی سے قبل حج

سوال: ... ایک شخص صاحب استطاعت ہے اور حج اس پر فرض ہے، لیکن موصوف کی اولاد ہے کہ غیر شادی شدہ ہے، جن میں دو لڑکیاں جوان ہیں، رقم اتنی ہے کہ اگر حج ادا کرے تو کسی ایک لڑکی کی شادی بھی ممکن نظر نہیں آتی، کیونکہ آج کل شادی بیاہ پر کم از کم تیس چالیس ہزار کا خرچہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں کوئی شخص جس کے یہ حالات ہوں کیا فرض ہوتا ہے، حج یا شادی؟

جواب: ... فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس اتنی رقم ہو کہ یا وہ اپنی شادی کر سکتا ہے یا حج کر سکتا ہے تو اگر حج کے ایام ہوں تو اس کے ذمہ حج فرض ہے<sup>(۱)</sup>۔ اسی سے اپنے مسئلے کا جواب سمجھ لیجئے، اس سلسلے میں دیگر علمائے کرام سے بھی رجوع کر لیجئے۔

## پنشن کی رقم سے حج کرنا ضروری ہے یا مکان بنوائیں؟

سوال: ... پنشن جاتے وقت ہمیں پنشن فروخت کر کے تقریباً ساڑھے تین یا تین لاکھ روپے ملتے ہیں، کوئی جائیداد وغیرہ نہیں ہوتی، بچوں کے لئے مکان بھی بنانا ہوگا اور دیگر اخراجات بھی، کیا اس میں حج ضرور ہوگا؟

جواب: ... اگر حج کا موقع ہو تو حج کر لیا جائے، ورنہ چھوٹا موٹا مکان بنا لیا جائے۔<sup>(۲)</sup>

(۱) إذا وجد ما يحج به وقد قصد التزوج يحج به ولا يتزوج، لأن الحج فريضة أوجبها الله تعالى على عبده كذا في التبيين (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۷، کتاب المناسک، طبع رشیدیہ کوئٹہ، رد المحتار ج: ۲ ص: ۴۶۲، کتاب الحج)۔

(۲) من شرائط الحج القدرة على الزاد والراحلة ..... وهو أن يكون له مال فاضل عن حاجته وهو ما سوى مسكنه ..... وأثاث بيته. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۷، کتاب المناسک، الباب الأول، طبع رشیدیہ)۔

## کرایہ کا مکان، مہر مؤجل والے پر حج کی فرضیت

سوال: حج کے مسائل پر مبنی جو کتاب وزارت حج کی طرف سے موصول ہوئی اس میں لکھا ہے کہ جس کے پاس اپنی حاجت سے زیادہ مال ہو یعنی رہنے کا مکان، لباس، گھر کے اسباب کے سوا آمد و رفت کا اور اہل و عیال کا خرچ ہو اور یہ سرمایہ اس کے قرض کو منہا کرنے کے بعد ہو، خواہ وہ قرض مہر معجل ہو یا مہر مؤجل ہی کیوں نہ ہو، اس پر حج فرض ہے۔

الف: سوال یہ ہے کہ اگر مکان کرایہ کا ہو تو اس پر حج فرض ہے یا نہیں؟

ب: علاوہ مہر کے کوئی قرض نہ ہو اور مہر اس قدر زیادہ ہو کہ اس کی ادائیگی ناممکن ہو، بیوی معاف نہ کرے تو وہ حج پر

جائے یا نہیں؟

ج: اگر بیوی مہر بلا معاف کئے مرگئی ہو تو اس پر بھی کیا حج فرض نہیں؟ اگر جائیداد اتنی ہو کہ اس کو فروخت کر کے مہر ادا کیا

جاسکتا ہے مگر وقت کم ہو جس کے سبب فوری فروخت ناممکن ہو تو وہ حج پر جاسکتا ہے یا نہیں؟ اگر چلا جائے تو اس کا حج ہوگا یا نہیں؟

جواب: کرایہ کا مکان ہو تو کرایہ کی رقم حوائجِ اصلیہ میں شمار ہوگی، اتنی رقم منہا کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس پر حج

فرض ہے یا نہیں؟<sup>(۱)</sup>

مہر معجل تو بالاتفاق مانع و جوب ہے، اور مہر مؤجل کے مانع ہونے میں اختلاف ہے، اکثر حضرات کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ بھی

مانع ہے۔<sup>(۲)</sup>

بیوی کا دین مہر جب تک وصول نہ ہو، اس پر حج فرض نہیں۔<sup>(۳)</sup>

## فرض حج اور بیوی کا مہر

سوال: ایک دوست ہیں، وہ اس سال حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، انہوں نے والدین سے اجازت لی ہے، مگر ان کے

ذمہ بیوی کا مہر ۵۰,۰۰۰ روپے کا قرضہ ہے۔ کیا وہ بیوی سے اجازت لیں گے یا معاف کرائیں گے؟ کیونکہ ان کی بیوی پاکستان میں

ہے اور وہ دینی میں ہیں۔ اب ان کا مہر کیسے معاف ہوگا؟

(۱) وأما تفسير الزاد والراحلة فهو أن يملك من المال مقدار ما يبلغه إلى مكة ..... فاضلاً عن مسكنه وخادمه وفرسه وسلاحه وثيابه... الخ. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۲۲، كتاب الزكاة، طبع سعيد).

(۲) وفي الدر المختار: فضلاً عما لأبد منه كما مر في الزكاة. وفي رد المحتار: قوله كما مر في الزكاة أي من بيان ما لأبد منه من الحوائج الأصلية كفرسه وسلاحه ..... وقضاء ديونه وأصدقته ولو مؤجلة كما في اللباب وغيره والمراد قضاء ديون العباد. (رد المحتار، كتاب الحج ج: ۲ ص: ۴۶۱). فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد سواء كان لله كزكاة .... ولو صدق زوجته المؤجل. (الدر المختار، كتاب الزكاة ج: ۲ ص: ۲۶۰، ۲۶۱، طبع سعيد).

(۳) في الدر المختار: لأن الدين ليس بمال بل وصف في الذمة لا يتصور قبضه حقيقة. (الدر المختار ج: ۳ ص: ۸۳۸).

جواب: ... آپ کا دوست حج ضرور کر لے،<sup>(۱)</sup> بیوی سے مہر معاف کرانا حج کے لئے کوئی شرط نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## کاروبار کی نیت سے حج کرنا

سوال: ... ہر مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ موجودہ دور میں کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو تقریباً ہر سال حج پر جاتے ہیں اور صرف یہی نہیں کہ ہر سال حج پر جاتے ہیں بلکہ ان کا حج ایک قسم کا ”کاروباری حج“ ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ یہاں سے مختلف دوائیں اور دیگر سامان اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور سعودی عرب میں منافع کے ساتھ وہ چیزیں فروخت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حج سے واپسی پر یہ لوگ وہاں سے ٹیپ ریکارڈر، وی سی آر اور کپڑا وغیرہ کثیر تعداد میں لاکر یہاں فروخت کر دیتے ہیں۔ اس طرح حج کا فریضہ بھی ادا ہو جاتا ہے اور کاروبار بھی اپنی جگہ چلتا رہتا ہے۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اس ”کاروباری حج“ کی دینی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہر سال خود حج پر جانے سے بہتر یہ نہ ہوگا کہ اپنے کسی ایسے غریب رشتہ دار کو اپنے خرچ پر حج کرادیا جائے جو حج کے اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا؟

جواب: ... حج کے دوران کاروبار کی تو قرآن کریم نے اجازت دی ہے،<sup>(۳)</sup> لیکن سفر حج سے مقصود ہی کاروبار ہو تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔<sup>(۴)</sup> رہا یہ کہ اپنی جگہ دوسروں کو حج کرادیں، یہ اپنے حوصلہ اور ذوق کی بات ہے، اس کی فضیلت میں تو کوئی شبہ نہیں مگر ہم کسی کو اس کا حکم نہیں دے سکتے۔

## غربت کے بعد مال داری میں دوسرا حج

سوال: ... مجھ پر حج بیت اللہ فرض نہیں تھا اور کسی نے اپنے ساتھ مجھے حج بیت اللہ کرایا، اور جب وطن واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا اور غنی ہوا، اب بتائیے کہ دوبارہ حج کے واسطے جاؤں گا تو یہ حج میرا فرضی ہوگا یا نفلی؟

جواب: ... پہلا حج کرنے سے فرضیت حج ساقط ہو جائے گی،<sup>(۵)</sup> دوسرا حج غنی ہونے کے بعد جو کرے گا وہ حج فرض نہیں کہلائے گا بلکہ نفلی سمجھا جائے گا<sup>(۶)</sup> (فتاویٰ دارالعلوم ج: ۶ ص: ۵۳۱)۔

(۱) الحج واجب علی الأحرار..... إلى حين عودہ... إلخ۔ (الهداية مع البناية ج: ۵ ص: ۱-۲، کتاب الحج، حقانیہ)۔  
 (۲) وقضاء ديونه أي المعجلة والمؤجلة وأصدقة نسانه أي ومهورهن ولو مؤجلة أي فضلا عن المعجلة وقيل لا يشترط كونه فاضلا عن أصدقة نسانه يعني المؤجلة دون المعجلة۔ (إرشاد الساری ص: ۲۹، طبع دار الفکر، بیروت)۔  
 (۳) ”لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ“ (البقرة: ۱۹۸)۔ ويستحب ان يفرغ قلبه من طلب التجارة فإن احتاج إليها ولم يكن له غنى عنها فلا بأس بها لكن لا يجعلها مقصوده الأكبر بل يجعلها ضمنا وتبعًا۔ (إرشاد الساری ص: ۴)۔  
 (۴) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه۔ متفق عليه۔ (مشکوٰۃ ص: ۱۱، کتاب الإیمان، طبع قديمی کتب خانہ)۔  
 (۵) أنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة۔ (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۱۹)، فالحج فريضة محكمة ثبتت فرضيتها بدلائل مقطوعة حتى يكفر جاحداها وأن لا يجب في العمر إلا مرة كذا في محيط السرخسي۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۶)۔  
 (۶) الفقير فإنه لا يجب عليه ابتداء لكن إن أذاه صح منه وسقط عنه فرضه حتى لو صار غنيا بعده لا يجب عليه ثانياً۔ (إرشاد الساری ص: ۲۱)۔

## عورت پر حج کی فرضیت

سوال: حج کیا صرف مردوں پر فرض ہے یا عورتوں پر بھی؟

جواب: عورت پر بھی فرض ہے جبکہ کوئی محرم میسر ہو،<sup>(۱)</sup> اور اگر محرم میسر نہ ہو تو مرنے سے پہلے حج بدل کی وصیت کر دے۔<sup>(۲)</sup>

## کیا بیوی کو اپنی رقم سے حج کرنا چاہئے؟

سوال: میں ایک ادارے میں ملازم ہوں، اپنی تنخواہ میں اپنی مرضی سے خرچ کرتی ہوں، شوہر کی آمدنی میں شامل نہیں کرتی۔ شوہر کا کہنا ہے کہ میں ملازمت چھوڑ دوں، لیکن میں ابھی ملازمت چھوڑنا نہیں چاہتی، میں حج پر جانا چاہتی ہوں، شوہر کہتے ہیں کہ اپنے خرچ پر جاؤ۔ ہمارے لئے قرآن و سنت کا کیا حکم ہے؟

جواب: آپ کے نان و نفقہ کے مصارف شوہر کے ذمے ہیں۔<sup>(۳)</sup> حج پر جانے کے لئے اگر آپ کے پاس رقم ہو تو اپنی رقم خرچ کریں۔<sup>(۴)</sup>

## منگنی شدہ لڑکی کا حج کو جانا

سوال: اگر حج کی تیاری مکمل ہو اور لڑکی کی منگنی ہو جائے تو کیا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حج نہیں کر سکتی؟

جواب: ضرور جا سکتی ہے۔<sup>(۵)</sup>

## بیوہ حج کیسے کرے؟

سوال: خاوند کا انتقال اگر ایسے وقت ہو کہ حج کے وقت تک اس کی عدت پوری نہ ہوتی ہو تو وہ حج کی بابت کیا کرے؟

جواب: عدت پوری ہونے سے پہلے حج کا سفر نہ کرے۔<sup>(۶)</sup>

(۱) ويعتبر في المرأة أن تكون محرم تحج به أو زوج. (فتح القدير مع الهداية ج: ۲ ص: ۱۲۸، كتاب الحج).

(۲) واختلفوا الخ ثمرته تظهر في وجوب الوصية بالحج إذا مات مثلاً قبل أمن الطريق أو هي قبل وجود المحرم ..... ومن قال بأنها شرط الأداء قال يجب لأن الموت بعد الوجوب. (فتح القدير ج: ۲ ص: ۱۳۰، كتاب الحج، عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۹، كتاب المناسك، الباب الأول، طبع رشيدية).

(۳) النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها. (هداية ج: ۱ ص: ۴۳۷، باب النفقة، طبع شركت علمية ملتان).

(۴) وتجب عليها النفقة والراحلة في مالها للمحرم ليحج بها. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۹). وفي الدر المختار: مع وجوب النفقة لمحرمها. وفي رد المحتار: أي فيشترط أن تكون قادرة على نفقتها ونفقته. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۴۶۳، طبع سعيد).

(۵) ولها أن تخرج مع كل محرم إلا أن يكون مجوسياً لأنه يعتقد إباحة مناكتها. (هداية ج: ۱ ص: ۲۳۳، طبع ملتان).

(۶) ومن شرائط وجوب الحج عليها خلوها عن العدة أي عدة كانت... الخ. (البنية في شرح الهداية ج: ۵ ص: ۲۰، كتاب الحج، طبع حقانيه).



## اپنا حج نہ کرنے والے بیٹے کا والدین کو حج پر بھیجنا

سوال:.... بیٹا اپنے والدین کو اپنے خرچ پر حج کی سعادت کے لئے بھیج سکتا ہے یا نہیں؟ جبکہ بیٹے نے خود حج کی سعادت حاصل نہیں کی ہے، اور کیا ایسے میں والدین کا حج ہو جائے گا؟

جواب:.... اگر لڑکا والدین کو رقم کا مالک بنا دے تو ان کا حج ہو جائے گا، اور اگر لڑکے کے پاس مزید گنجائش ہو تو اس کو بھی والدین کے ساتھ جانا چاہئے۔<sup>(۱)</sup>

## بیٹی کی کمائی سے حج

سوال:.... اگر بیٹی اپنی کمائی سے اپنی ماں کو حج کرانا چاہے تو کیا یہ جائز ہے؟ جبکہ اس کے بیٹے اس قابل نہیں۔

جواب:.... بلاشبہ جائز ہے، لیکن عورت کا محرم کے بغیر حج جائز نہیں، حرام ہے۔<sup>(۲)</sup>

## حاملہ عورت کا حج

سوال:.... کیا حاملہ عورت حج کر سکتی ہے؟ اگر وہ حج کر سکتی ہے تو کیا وہ بچہ یا بچی جو کہ اس کے بطن میں ہے اس کا بھی حج ہوگا یا نہیں؟

جواب:.... حاملہ عورت حج کر سکتی ہے،<sup>(۳)</sup> پیٹ کے بچے کا حج نہیں ہوتا۔<sup>(۴)</sup>

## استطاعت کے باوجود حج سے پہلے عمرہ کرنا

سوال:.... واپسی کے بعد سے کچھ حالات مناسب نہیں رہے اور عرصہ تین سال گزرنے پر بھی بے روزگار ہوں، ایک بزرگوار نے ایک خاص بات فرمائی ہے جس کے لئے آپ کی طرف رجوع کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ: عمرہ کی شرائط یہ ہیں کہ اول تو حج سے پہلے عمرہ جائز نہیں، اور اگر کر لیا جائے تو اسی سال حج کرنا لازم ہو جاتا ہے، اگر نہیں کیا تو گناہ گار ہوگا۔ اور اسی وجہ سے مجھے یہ پریشانی ہو رہی ہے، مہربانی فرما کر جواب مرحمت فرمائیں کہ عمرہ بغیر حج کے نہیں ہو سکتا؟ میرے کہنے پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عمرے فرمائے اور حج صرف ایک مرتبہ آخر میں فرمایا، جس کو وہ بزرگوار نہیں مانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ فرمایا ہے۔

(۱) فی الدر المختار: ولو وهب الأب لابنه مالا يحج به لم يجب قبوله. وفي رد المحتار: وكذا عكسه..... ومراده إفادة أن القدرة على الزاد والراحلة لا بد فيها من الملك دون الإباحة والعارية كما قدمناه. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۴۶۱).

(۲) قال ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما. (الهداية مع البنایة ج: ۵ ص: ۱۳، ۱۴، كتاب الحج، طبع حقانیہ).

(۳) لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسّر استطاعة بالزاد والراحلة لا غير قال ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج. (هداية ج: ۱ ص: ۲۳۳، كتاب الحج).

(۴) وانما شرط الحرية والبلوغ لقوله عليه السلام..... ايما صبي حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام. (البنایة مع الهداية ج: ۵ ص: ۵، كتاب الحج).

جواب: ... جس شخص کو ایام حج میں بیت اللہ تک پہنچنے اور حج تک وہاں رہنے کی طاقت ہو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور یہ فرضیت اس پر ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اس لئے ایسے شخص کو جو صرف ایک بار بیت اللہ شریف تک پہنچنے کے وسائل رکھتا ہے، حج پر جانا چاہئے۔ عمرہ کے لئے سفر کرنا اور فرضیت کے باوجود حج نہ کرنا بہت غلط بات ہے۔ بہر حال آپ پر حج لازم ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے حدیبیہ کے سال عمرہ کیا تھا، مگر کفار مکہ نے مکہ جانے نہیں دیا، اگلے سال عمرہ القضاء فرمایا۔<sup>(۲)</sup>

## حج یا والدہ کی خدمت؟

سوال: ... میں حج کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری امی ضعیف ہیں، اور میرے علاوہ ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس چھوڑ کر جاؤں گی وہ بالکل غیر لوگ ہیں۔ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں؟

جواب: ... اگر آپ کے ذمے حج فرض ہے تو امی کو اللہ کے سپرد کر کے ضرور حج پر جائیں، اور اگر آپ پر حج فرض نہیں تو آپ کے لئے امی کی خدمت افضل ہے۔<sup>(۳)</sup>

## والد کے نافرمان بیٹے کا حج

سوال: ... میرا بڑا لڑکا مجھ کو بہت بُرا کہتا ہے، بات اس طرح سے کرتا ہے کہ میں اس کی اولاد ہوں اور وہ میرا باپ ہے۔ میرا دل اس کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا ہے اور مجھ کو سخت صدمہ ہے۔ میں اس کے لئے ہر وقت بددعا کرتا ہوں اور خاص کر ہر اذان پر بددعا کرتا ہوں کہ خداوند کریم اس پر فالج لگائے اور اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ اس کے اس طرز عمل پر سخت پریشان ہوں، جھوٹ بہت بولتا ہے۔ جواب دیجئے کہ اس کا خدا کے گھر کیا حال ہوگا؟ اور یہ حج کرنے کو بھی جانے کو ہے، میں تو اس کو معاف کروں گا نہیں، باپ کے ناراض ہونے پر کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ سنا تو یہ ہے کہ باپ معاف نہ کرے تو حج نہیں ہوتا، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔

جواب: ... اگر اس کے ذمے حج فرض ہے تو حج پر تو اس کو جانا لازم ہے،<sup>(۴)</sup> اور اس کا فرض بھی سر سے اتر جائے گا۔ لیکن حج پر جانے والے کے لئے ضروری ہے کہ حج پر جانے سے پہلے تمام اہل حقوق کے حقوق ادا کرے اور سب سے حقوق معاف کرائے۔<sup>(۵)</sup>

(۱) عن علی رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من ملک زاداً وراحلة تبلغه إلى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ أن یموت یهودیاً أو نصرانیاً وذلک ان اللہ تبارک وتعالی یقول: واللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلاً۔ رواہ الترمذی۔ (مشکوٰۃ ص: ۲۲۲، کتاب المناسک، الباب الأول)۔ وهو فرض علی الفور وهو الأصح فلا یباح له التأخیر بعد الإمكان إلى العام الثانی کذا فی خزنة المفتین۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۶، کتاب المناسک، طبع رشیدیہ کوئٹہ)۔

(۲) ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأصحابہ أحصروا بالعمرة بالحديبية فقضوها من القابل وكانت تسمى عمرة القضاء۔ (البنایة شرح الهدایة ج: ۵ ص: ۳۷۹، کتاب الحج، باب الإحصار)۔

(۳) حج الفرض أولى من طاعة الوالدین وطاعتہما أولى من حج النفل۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۱، کتاب الحج)۔

(۴) وهو فرض علی الفور وهو الأصح فلا یباح له التأخیر بعد الإمكان إلى العام الثانی کذا فی خزنة المفتین۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۶، کتاب المناسک، الباب الأول)۔

(۵) إذا أراد الرجل أن یحج..... یبدأ بالتوبة وإخلاص النية ورد المظالم والإستحلال من خصومه ومن کل من عامله کذا فی فتح القدیر۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۹، کتاب المناسک، الباب الأول)۔

پس آپ کے بیٹے کو چاہئے کہ وہ آپ کو راضی کر لے، اور معافی مانگ لے۔ اگر آپ اس کو معاف نہیں کریں گے تو اس سے اس کا نقصان ہوگا اور آپ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر معاف کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی حالت سدھر جائے، اس میں اس کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی۔

## عمرہ ادا کرنے سے حج لازم نہیں ہوتا جب تک دو شرطیں نہ پائی جائیں

سوال: ... ایک شخص نے پس انداز رقم مبلغ بیس ہزار روپے اپنے والد مکرم کے حج کے لئے جمع کی تھی، حج پالیسی کے مطابق بحری جہاز کے ڈیک کا کرایہ ۲۴۹۸۰ روپے گویا ۲۵ ہزار روپے ہے۔ علماء سے مشورہ کیا کہ جتنی رقم کی کمی ہے وہ قرض لے کر فارم بھر دیا جائے؟ تو علمائے کرام نے قرض سے حج کی ادائیگی کو منع کیا۔ بعدہ دریافت کیا گیا کہ عمرہ کر لیا جائے؟ تو اس پر جواب ملا کہ عمرہ کرنے کے بعد حج کا ادا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ اگر حج کی ادائیگی میں حکومتی قانون کی وجہ سے رکاوٹ ہے کہ رقم پوری نہیں، لیکن موجودہ رقم سے عمرہ کیا جاسکتا ہے تو آیا یہ درست ہے یا نہیں؟ اور کیا عمرہ کرنے کے بعد حج لازمی ہوگا، جبکہ فرضیت ہی میں کمی ہے؟ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ زندگی مستعار کا کیا بھروسہ! لہذا استدعا ہے کہ اس موجودہ رقم سے عمرہ کر لیا جائے تو حج تو لازم نہیں ہوگا؟ جیسا شریعت اجازت دے، جواب دے کر مشکور فرمائیں تاکہ آئندہ رمضان المبارک میں عمرہ کر لیا جائے۔

جواب: ... اگر حج کے دنوں میں آدمی مکہ مکرمہ پہنچ جائے اور حج تک وہاں ٹھہرنا ممکن بھی ہو تو حج فرض ہو جاتا ہے، اور اگر یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں تو حج فرض نہیں ہوتا۔<sup>(۱)</sup>

سوال: ... اگر کوئی شخص ماہ حج میں داخل ہو جائے یعنی رمضان المبارک میں عمرے کے لئے جائے اور شوال کا مہینہ شروع ہو جائے تو کیا اس شخص پر حج لازم ہوگا؟ اگر اس شخص نے پہلے حج کیا ہوا ہو تو کیا حکم ہے؟ اور اگر حج نہ کیا ہوا ہو تو کیا حکم ہے؟

جواب: ... اگر حج کر چکا ہے تو دوبارہ حج فرض نہیں،<sup>(۲)</sup> اور اگر نہیں کیا تو اس پر حج فرض ہے، بشرطیکہ یہ حج تک وہاں رہ سکتا ہو یا واپس آکر دوبارہ جانے اور حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو اس پر حج فرض نہیں۔<sup>(۳)</sup>

## جس کی طرف سے عمرہ کیا جائے اس پر حج فرض نہیں ہوتا

سوال: ... کیا کوئی سعودی عرب میں رہ کر اپنے عزیزوں کے لئے جو کہ زندہ ہوں مثلاً بھائیوں کے لئے، ماں باپ کے لئے،

(۱) ومن كان داخل المواقيت فهو كالمكي في عدم اشتراط الراحلة أي إذا قدر و اعلى المشى ..... وأما الزاد فلا بد منه في أيام اشتغالهم بنسك الحج كما صرح به غير واحد ففي الينابيع لأبد لهم من الزاد وقدر ما يكفيهم وعيالهم بالمعروف وزاد في السراج الوهاج إلى عودهم. (إرشاد الساري ص: ۳۲، مبحث في تحقيق الراحلة، عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۷).

(۲) ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة ..... فما زاد فهو تطوع. (الهداية مع البناية ج: ۵ ص: ۳، كتاب الحج).

(۳) أيضاً حاشية نمبر ۱۔

بیوی بچوں کے لئے عمرہ کر سکتا ہے؟ سنا ہے جس کے نام سے عمرہ کیا ہو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ صرف مرحومین کے نام کا عمرہ ہی ہو سکتا ہے؟

جواب: ...عمرہ زندوں کی طرف سے بھی کیا جاسکتا ہے،<sup>(۱)</sup> جن کی طرف سے کیا جائے ان پر حج فرض نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ صاحب استطاعت نہ ہو جائیں۔<sup>(۲)</sup>

## حج فرض ہو تو عورت کو اپنے شوہر اور لڑکے کو اپنے والد سے اجازت لینا ضروری نہیں

سوال: ...میرے والد صاحب فریضہ حج ادا کر چکے ہیں اور میں اور میری امی بہت عرصے سے والد صاحب سے فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے اجازت مانگتے ہیں، مگر وہ اس لئے انکار کرتے ہیں کہ پیسے خرچ ہوں گے، اس لئے وہ ٹال دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ہم باپ سے پیسے مانگے بغیر حج کا فرض ادا کر سکتے ہیں، صرف ان کی اجازت کی ضرورت ہے، کیا ہم حج کی تیاری کریں یا نہیں؟

جواب: ...اگر حج آپ پر اور آپ کی والدہ پر فرض ہے تو آپ حج پر ضرور جائیں۔ حج فرض کے لئے عورت کو اپنے شوہر سے اجازت لینا (بشرطیکہ اس کے ساتھ کوئی محرم جارہا ہو)<sup>(۳)</sup> اور بیٹے کا باپ سے اجازت لینا ضروری نہیں۔<sup>(۴)</sup>

## والدین کی اجازت اور حج

سوال: ...حج کرنے سے پہلے کیا والدین کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے؟

جواب: ...حج فرض کے لئے والدین کی اجازت شرط نہیں، البتہ حج نفل والدین کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا چاہئے۔<sup>(۵)</sup>

(۱) وفي الحج النفل تجوز الأنابة حالة القدرة لأن باب النفل أوسع. (هداية ج: ۱ ص: ۲۷۷). أيضا: وفي البحر: من صام أو صلتى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع، ثم قال: وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المفعول له ميتا أو حيا، والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۴۳، باب صلاة الجنابة، مطلب فى القراءة... الخ).

(۲) الحج واجب..... إذا قدروا على الزاد والراحلة. (هداية ج: ۱ ص: ۲۱۱، كتاب الحج).

(۳) وليس لزوجها منعها عن حجة الإسلام. وفي رد المحتار: أى إذا كان معها محرم وآل فله منعها كما يمنعها من غير حجة الإسلام. (فتاوى شامى ج: ۲ ص: ۴۶۵، مطلب فى قولهم يقدم حق العبد... الخ). وعند وجود المحرم كان عليها أن تحج حجة الإسلام وإن لم يأذن لها زوجها. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۹، كتاب المناسك، الباب الأول).

(۴) ويكره الخروج إلى الحج إذا كرهه أحد أبويه إن كان الوالد محتاجا إلى خدمة الولد وإن كان مستغنيا عن خدمته فلا بأس. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۰، كتاب المناسك، الباب الأول).

(۵) ويستأذن أبويه الخ أى إذا لم يكونا محتاجين إليه وآل فيكره. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۴۷۱، كتاب الحج). فى الملتقط حج الفرض أولى من طاعة الوالدين وطاعتهمما أولى من حج النفل. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۱، كتاب المناسك). وفى المضمرة الإتيان بحج الفرض أولى من طاعة الوالدين. (إرشاد السارى ص: ۳، مقدمة، طبع دار الفكر).

## غیر شادی شدہ شخص کا والدین کی اجازت کے بغیر حج کرنا

سوال: ... جو شخص غیر شادی شدہ ہو اور اس کے والدین زندہ ہوں، اور والدین نے حج نہیں کیا ہو، اور یہ شخص حج کرنا چاہے تو کیا اس کا حج ہو سکتا ہے؟

سوال: ... ۲: اگر والدین اس کو حج پر جانے کی اجازت دیں تو کیا وہ حج کر سکتا ہے؟

جواب: ... اگر یہ شخص صاحب استطاعت ہو تو خواہ اس کے والدین نے حج نہ کیا ہو اس کے ذمہ حج فرض ہے<sup>(۱)</sup>۔ اور حج فرض کے لئے والدین کی اجازت شرط نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## بالغ کا حج

سوال: ... کوئی شخص اگر اپنی بالغ لڑکی یا لڑکے کو حج کروائے تو کیا وہ حج اس کا نفل ہوگا؟

جواب: ... اگر رقم لڑکے لڑکی کی ملکیت کر دی گئی تھی تو ان پر حج فرض بھی ہو گیا اور ان کا حج فرض ادا بھی ہو گیا۔<sup>(۳)</sup>

## نا بالغ کا حج نفل ہوتا ہے

سوال: ... میں حج کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، میرے ساتھ دو بچے، عمر تیرہ سالہ لڑکا، گیارہ سالہ لڑکی ہے، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے بچے چونکہ نا بالغ ہیں، اس لئے ان کا حج فرض ہوگا یا نفل؟

جواب: ... نا بالغ کا حج نفل ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اگر ان کی استطاعت ہو تو ان پر حج فرض ہوگا۔<sup>(۴)</sup>

## اگر کسی کو چار لاکھ روپے اکٹھے مل جائیں تو اس پر حج فرض ہے

سوال: ... مجھے ایئر فورس سے تقریباً چار لاکھ روپے اگلے ماہ ملنے کی توقع ہے، کیا مجھے فوراً حج پر چلے جانا چاہئے؟ یا اس رقم کو کاروبار میں لگا کر جب اس کا منافع ملے تب حج پر جانا چاہئے؟

جواب: ... حج تو آپ پر فرض ہو گیا، حج کی رقم سے زائد جو رقم ہے اس کو کاروبار میں لگا دیں۔<sup>(۵)</sup>

(۱) "وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا" (آل عمران: ۹۷)۔

(۲) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۵ دیکھیں۔

(۳) ولو وهب الأب لابنه... الخ وكذا عكسه..... ومراده إفادة أن القدرة على الزاد والراحلة لأبد فيها من الملك دون الإباحة والعارية. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۴۶۱)۔

(۴) وانما شرط الحرية والبلوغ لقوله عليه السلام..... ايما صبي حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام. (البنية مع الهداية ج: ۵ ص: ۵، كتاب الحج)۔

(۵) من شرائط الحج القدرة على الزاد والراحلة..... أن يكون له مال فاضل عن حاجته..... قدر ما يبلغه إلى مكة ذاهباً وجائياً. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۷، كتاب المناسك، الباب الأول)۔

## سعودی عرب میں ملازمت کرنے والوں کا عمرہ و حج

سوال: ... جو لوگ نوکری کے لئے جدہ یا سعودی عرب کی دوسری جگہ جاتے ہیں، وہاں سے ہو کر وہ حج یا عمرہ ادا کرتے ہیں۔ حدیث کی رو سے اس کا ثواب کیا ہے؟ جبکہ دُور سے لوگ پاکستان سے ہو کر حج یا عمرہ ادا کرنے جاتے ہیں یا غریب آدمی جو پیسہ جمع کرتا رہتا ہے اور نیت بھی ہوتی ہے کہ میں حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کروں گا۔ دُوسرا آدمی جبکہ نوکری کے سلسلے میں گیا تھا اس نے بھی یہ سعادت حاصل کی، کیا دونوں صورتوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے؟

جواب: ... جو لوگ ملازمت کے سلسلے میں سعودی عرب گئے ہوں، اور حج کے دنوں میں بیت اللہ شریف پہنچ سکتے ہوں ان پر حج فرض ہے،<sup>(۱)</sup> اور ان کا حج و عمرہ صحیح ہے۔ اگر اخلاص ہو اور حج و عمرہ کے ارکان بھی صحیح ادا کریں تو ان شاء اللہ ان کو بھی حج و عمرہ کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ وطن سے جانے والوں کو۔ اور جو غریب آدمی پیسہ جمع کر کے حج کی تیاری کرتا رہا مگر اتنا سرمایہ میسر نہ آسکا کہ حج کے لئے جائے، ان شاء اللہ اس کو اس کی نیت پر حج کا ثواب ملے گا۔<sup>(۲)</sup>

## حج ڈیوٹی کے لئے جانے والا اگر حج بھی کر لے تو اس کا حج ہو جائے گا

سوال: ... میں یہاں ریاض سے ڈیوٹی دینے کے لئے مقامات حج پر حکومت کی طرف سے بھیجا گیا، میرے افسر نے کہا کہ تم ڈیوٹی کے ساتھ حج بھی کر سکو گے، اس طرح میرے افسر کے ساتھ میں نے حج کے تمام مناسک پوری طرح ادا کئے۔ اب واپس آنے کے بعد میرے کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ اس طرح ڈیوٹی کے ساتھ حج نہیں ہوا۔ جبکہ ہمارے ساتھ بہت سے مولانا حضرات بھی تھے جنہوں نے ڈیوٹی بھی دی، جو کام حکومت نے ہمارے سپرد کیا تھا وہ بھی پورا کیا اور افسروں کی اجازت کے ساتھ مناسک حج بھی پوری طرح انجام دیئے۔ آپ کے خیال میں ایسے حج کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟

جواب: ... آپ کا حج ”ہم خرما وہم ثواب“ کا مصداق ہے، آپ کو دُہرا ثواب ملا، حج کا بھی اور حجاج کی خدمت کرنے کا بھی۔<sup>(۳)</sup>

## سیاحت کے ویزے پر حج کرنا

سوال: ... دین دار حضرات اپنی بیگمات کو عمرے اور حج کی نیت سے سیاحی ویزا (وزٹ) کی حیثیت سے بلا تے ہیں کہ

(۱) و فی الینابیع یجب الحج علی اهل مكة ومن حولها ممن كان بينه وبين مكة اقل من ثلاثة أيام إذا كانوا قادرين علی المشی وان لم یقدروا علی الرحلة ولكن لأبد أن یكون لهم من الطعام مقدار ما یکفیهم وعیالهم بالمعروف إلی عودهم کذا فی السراج الوہاج۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۷، کتاب المناسک، الباب الأول)۔

(۲) وقد روى أيضا من حدیث أبی موسی الأشعری رضی اللہ عنہ نية المؤمن خیر من عمله ان اللہ عزّ وجلّ لیعطی العبد علی نیتہ ما لا یعطیه علی عمله وذلك ان النية لا ریاء فیها والعمل یخالطه الریاء۔ (اتحاف السادة ج: ۱۰ ص: ۱۵ طبع دار الفکر بیروت)۔

(۳) الحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنة، قالوا: یا رسول اللہ! ما تبر الحج؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام۔ (کنز العمال ج: ۵ ص: ۱۳، حدیث نمبر: ۱۱۸۳۲ طبع مؤسسة الرسالة بیروت)۔

یہاں آ بھی جائیں گی اور عمرہ یا حج بھی کر لیں گی۔ بعض اوقات اس ویزا کے حصول کے لئے رشوت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔  
جواب: ... سیاحتی کے ویزے پر حج کرنا درست ہے، مگر اس کے لئے رشوت دینا جائز نہیں۔<sup>(۱)</sup>

فوج کی طرف سے حج کرنے والے کا فرض حج ادا ہو جائے گا

سوال: ... اگر کوئی شخص فوج کی طرف سے حج کرنے جائے تو کیا اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے؟ (مسلمح افواج کے دستے ہر سال حج کے لئے جاتے ہیں)۔

جواب: ... حج فرض ادا ہو جائے گا۔<sup>(۲)</sup>

کیا بیوی کی آمدنی سے حج کرنا جائز ہے؟

سوال: ... میں اور میرے شوہر ڈاکٹر ہیں، گھر کے پاس ذاتی کلینک بھی ہے، لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت زیادہ ہونے کی وجہ سے میری آمدنی میرے شوہر کی آمدنی سے زیادہ ہے۔ اب ہمارا حج پر جانے کا ارادہ ہے، گھر کے اخراجات میانہ روی سے پورے کرنے کے بعد میرے شوہر کی آمدنی سے حج کے اخراجات پورے کرنا ممکن نہیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بیوی بچوں اور گھر کے تمام اخراجات شوہر کے ذمے ہوتے ہیں۔ آج کل کے مہنگائی کے دور میں اگر شوہر ایمان داری سے کمائیں تو عزت سے گزر بسر تو ہو سکتی ہے مگر دیگر سہولتیں مثلاً ذاتی مکان اور حج کے اخراجات تقریباً ناممکن ہیں۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں اپنے شوہر کی آمدنی سے حج کروں، مگر سر دست یہ ممکن نہیں، ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد یہ ممکن ہو۔ کیا میں اور میرے شوہر، میری آمدنی سے اس سال حج پر جاسکتے ہیں جبکہ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ کیا بیوی کی کمائی سے حج جائز ہے؟ اور کیا ہمیں حج کا ثواب ملے گا یا نہیں؟

جواب: ... اگر آپ دونوں میاں بیوی، آپ کی کمائی سے حج پر جائیں بلاشبہ جائز ہے اور آپ کو ذہر ثواب ملے گا۔<sup>(۳)</sup>

والد اور شوہر کی مشترکہ ملکیت والی دکان بیچ کر دونوں کا حج پر جانا

سوال: ... میری ایک دکان ہے صدر میں، جو میں نے والد کے روپوں سے لی، اس میں شوہر کا روپیہ بھی لگا ہے، اسے بیچ کر حج کر سکتے ہیں؟ وہ دکان میرے نام ہے، اور روپیہ الگ الگ کر لیں گے۔

جواب: ... یہ بھی صحیح ہے۔<sup>(۴)</sup>

(۱) عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود وابن ماجه ورواه الترمذی. (مشکوٰۃ ص: ۳۲۶، باب الربا، طبع قديمی کتب خانہ)۔

(۲) ولو تكلف هؤلاء الحج بأنفسهم سقط عنهم. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۸)۔ أيضا: الفقير إذا حج ماشيًا ثم أسر لا حج عليه، هكذا في فتاوى قاضيخان. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۷)۔ فإذا بلغ مكة وهو يملك منافع بدنه فقد قدر على الحج بالمشى وقليل زاد فوجب عليه الحج فإذا أدى وقع عن حجة الإسلام. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۲۰، طبع سعيد)۔

(۳) ومنها القدرة على الزاد والراحلة بطريق الملك أو الإجارة. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۷)۔

(۴) ومنها القدرة على الزاد والراحلة بطريق الملك ..... أن يكون له مال فاضل عن حاجته ..... وقدر ما يبلغه إلى مكة ذاهبًا وجانيًا. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۷، كتاب المناسك، الباب الأول، طبع رشيدية كوئٹہ)۔

## حج کی رقم دوسرے مصرف پر لگا دینا

سوال: ... میں نے اپنی والدہ کو دو سال قبل ان کے لئے اور والد صاحب کے لئے حج کی رقم دی جو انہوں نے کسی اور مد میں لگا دی ہے، وہاں سے ایک مشنت رقم کی واپسی ایک دو سال کے لئے ممکن نہیں۔ میں نے ان سے حج کے لئے تقاضا کیا تو کہنے لگیں کہ قسمت میں ہوگا تو کر لیں گے، تمہارا فرض ادا ہو گیا۔ مولوی صاحب! یہ بتلائیے کہ کیا واقعی میں نے جس نیت سے ان کو پیسہ دیا تھا اس کا ثواب مجھے مل گیا؟ اور یہ کہ کہیں خدا نخواستہ والدہ فی الوقت تک حج نہ کر سکنے کی بنا پر گناہ گار تو نہیں ہیں؟

جواب: ... آپ کو تو ثواب مل گیا اور آپ کی والدہ پر حج فرض ہو گیا، اگر حج کے بغیر مر گئیں تو گناہ گار ہوں گی اور ان پر لازم ہوگا کہ وہ وصیت کر کے مریں کہ ان کی طرف سے حج بدل کر دیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

## حج فرض کے لئے قرض لینا

سوال: ... قرض لے کر زید حج کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور قرضہ دینے والا خوشی سے خود کہتا ہے کہ آپ حج کرنے جائیں، میں پیسے دیتا ہوں، بعد میں پیسے دے دینا۔

جواب: ... اگر حج فرض ہے اور قرض مل سکتا ہے تو ضرور قرض لینا چاہئے، اگر فرض نہ بھی ہو تو بھی قرض لے کر حج کرنا جائز ہے۔<sup>(۲)</sup>

## قرض لے کر حج اور عمرہ کرنا

سوال: ... میرا ارادہ عمرہ ادا کرنے کا ہے، میں نے ایک ”کمپنی“ ڈالی تھی، خیال تھا کہ اس کے پیسے نکل آئیں گے، مگر وہ نہیں نکلی، اُمید ہے کہ آئندہ مہینے تک نکل آئے گی، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا میں کسی سے رقم لے کر عمرہ کر سکتا ہوں؟ واپسی پر ادا کر دوں گا، تو آپ یہ بتائیے کہ قرض حسنہ سے عمرہ ادا ہو سکتا ہے؟

جواب: ... اگر قرض بہ سہولت ادا ہو جانے کی توقع ہو تو قرض لے کر حج و عمرہ پر جانا صحیح ہے۔<sup>(۳)</sup>

## مقروض آدمی کا حج کرنا جائز ہے لیکن قرضہ ادا کرنے کی بھی فکر کرے

سوال: ... ایک صاحب مقروض ہیں، لیکن پیسے آتے ہی بجائے قرضہ واپس کرنے کے وہ پاکستان سے اپنے والدین کو بلا کر ساتھ ہی خود بھی حج کرتے ہیں، ایسے حج کرنے کے بارے میں شرعی حیثیت کیا ہے؟

(۱) من علیہ الحج إذا مات قبل أدائه فان مات عن غیر وصیة یأثم بلا خلاف وإن أحب الوارث أن یحج عنه حج وأرجو أن یجزئه ذلك إن شاء الله تعالى کذا ذکر أبو حنیفة رحمہ الله تعالى وإن مات عن وصیة لا یسقط الحج عنه وإذا حج عنه یجوز عندنا۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۵۸، کتاب المناسک، الباب الخامس عشر فی الوصیة بالحج)۔

(۲، ۳) ولذا قلنا لا یتقرض لیحج إلا إذا قدر علی الوفاء کما مر۔ (فتاویٰ شامی ج: ۲ ص: ۲۶۲، کتاب الحج، مطلب فی قولہم یقدم حق العبد علی حق الشرع، طبع ایچ ایم سعید)۔



جواب: ... حج تو ہو گیا، مگر کسی کا قرضہ ادا نہ کرنا بڑی بُری بات ہے، کبیرہ گناہوں کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی مقروض ہو کر دُنیا سے جائے اور اتنا مال چھوڑ کر نہ جائے جس سے اس کا قرضہ ادا ہو سکے۔ میت کا قرض جب تک ادا نہ کر دیا جائے وہ محبوس رہتا ہے، اس لئے ادائے قرض کا اہتمام سب سے اہم ہے۔<sup>(۱)</sup>

## پہلے قرض ادا کروں یا نفلی حج؟

سوال: ... میں نے ۱۹۹۶ء میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، میں نے وہاں خصوصی طور پر یہ دُعا کی: اے اللہ! مجھے توفیق دے کہ آئندہ سال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کرنے آؤں۔ چونکہ میں ایک معمولی ملازم ہوں، اور میری اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ اس سال ۱۹۹۷ء میں، میں نے ایک گھر خریدا ہے، جو کہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا ہے، ڈیڑھ لاکھ ادا کر دیا ہے، اور باقی رقم ۲ سال بعد ادا کرنی ہے (دو لاکھ روپے)۔ چھ ماہ قبل میں نے مکان کی ادائیگی کے لئے کمیٹی ڈالی تھی، جو کہ اس ماہ اگست ۱۹۹۷ء میں نکل آئی ہے، اس کی مالیت ساٹھ ہزار روپے ہے، اور ابھی میں نے چھ ماہ مزید کمیٹی کی ادائیگی کرنی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب میں کیا کروں؟ اس ساٹھ ہزار روپے کو حج بدل کے لئے جمع کراؤں؟ یا مکان کے قرضے میں ادا کروں؟

جواب: ... نفلی حج کے بجائے قرضہ ادا کرنا بہتر ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج بھی ادا کر لینا۔

## قرضے کی رقم سے صدقہ، حج کرنا اور قربانی دینا

سوال: ... میں بچوں کی وجہ سے نوکری چھوڑ کر گھر بیوی کی مدد کے لئے رہ رہا ہوں، ہم ماہوار قرضہ لے رہے ہیں، جس پر کوئی سود وغیرہ نہ ہوگا، جب میں واپس نوکری پر لگ جاؤں گا تو ادائیگی کر دیں گے۔ معلوم کرنا ہے کہ آیا اس (قرض کے پیسے سے) پیسے میں سے ۱: ہم قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ۲: خیرات (مسجد کی مدد، یا کسی آدمی کو) ہم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ۳: ماں باپ کو اس پیسے میں سے حج کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ ۴: اس پیسے میں سے زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں؟ ۵: اور کوئی خیرات دیں تو لگے گی یا نہیں؟

جواب: ... جب آپ کے پاس اپنی رقم نہیں تو ظاہر ہے کہ آپ پر نہ زکوٰۃ واجب ہے، نہ قربانی، مگر آپ قرض کی رقم کو اپنی صوابدید کے مطابق خرچ کرنے کے مختار ہیں، قربانی کرنا چاہیں تو قربانی کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، والدین کو کرا سکتے ہیں۔<sup>(۳)</sup>

(۱) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. (ترمذی باب ما جاء ان نفس المؤمن معلقة بدينه ج: ۱ ص: ۱۲۸، طبع رشیدیہ)۔

(۲) إذا أراد الرجل أن يحج قالوا ينبغي أن يقضى ديونه. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۹، کتاب المناسک)۔

(۳) من شرائط الحج القدرة على الزاد والراحلة ..... أن يكون له مال فاضل عن حاجته ..... قدر ما يبلغه إلى مكة ذاهبًا وجائئًا. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۷، کتاب المناسک، الباب الأول)۔

## نا جائز ذرائع سے حج کرنا

### غضب شدہ رقم سے حج کرنا

سوال: ... کسی کی ذاتی چیز پر دوسرا آدمی قبضہ کر لے، جس کی قیمت پچاس ہزار روپے ہو اور وہ اس کا مالک بن بیٹھے تو کیا وہ حج کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے؟

جواب: ... دوسرے کی چیز پر ناجائز قبضہ کر کے اس کا مالک بن بیٹھنا گناہ کبیرہ اور سنگین جرم ہے۔<sup>(۱)</sup> ایسا شخص اگر حج پر جائے گا تو حج سے جو فوائد مطلوب ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ حج پر جانے سے پہلے آدمی کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہئے کہ اس کے ذمہ جو کسی کا حق واجب ہو اس سے سبکدوش ہو جائے، کسی کی امانت اس کے پاس ہو تو اس کو ادا کر دے، اس کے بغیر اگر حج پر جائے گا تو محض نام کا حج ہوگا۔<sup>(۲)</sup> حدیث میں ہے کہ: ”ایک شخص دُور سے (بیت اللہ کے) سفر پر جاتا ہے، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن میل کچیل سے اُٹا ہوا ہے، وہ رو کر اللہ تعالیٰ کو ”یا رَبِّ! یا رَبِّ!“ کہہ کر پکارتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، لباس حرام کا، اس کی غذا حرام کی، اس کی دُعا کیسے قبول ہو...!“<sup>(۳)</sup>

### رشوت لینے والے کا حلال کمائی سے حج

سوال: ... میں جس جگہ کام کرتا ہوں اس جگہ اوپر کی آمدنی بہت ہے، لیکن میں اپنی تنخواہ جو کہ حلال ہے علیحدہ رکھتا ہوں۔ کیا میں اپنی اس آمدنی سے خود اور اپنی بیوی کو حج کروا سکتا ہوں جبکہ میری تنخواہ کے اندر ایک پیسہ بھی حرام نہیں؟

جواب: ... جب آپ کی تنخواہ حلال ہے تو اس سے حج کرنے میں کیا اشکال ہے؟ ”اوپر کی آمدنی“ سے مراد اگر حرام کا

(۱) عن ابي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. (مشکوٰۃ ص: ۲۵۵، باب الغصب والعارية، طبع قديمي). وعن عمران بن حصين رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ..... ومن انتهب نهبه فليس منا. رواه الترمذى. (مشکوٰۃ ص: ۲۵۵).

(۲) كما لو صلى مرانيا أو صام واغتاب فإن الفعل صحيح لكنه بلا ثواب. والله تعالى أعلم. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۴۵۶).

(۳) عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ..... ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. (مشکوٰۃ ص: ۲۴۱، باب الكسب وطلب الحلال، طبع قديمي).

روپیہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کو پوچھنا چاہئے تھا کہ: ”حلال کی کمائی تو میں جمع کرتا ہوں اور حرام کی کمائی کھاتا ہوں، میرا یہ طرز عمل کیسا ہے؟“

حدیث شریف میں ہے کہ: ”جس جسم کی غذا حرام کی ہو، دوزخ کی آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔“<sup>(۱)</sup>

ایک اور حدیث ہے کہ: ”ایک آدمی ڈور دراز سے سفر کر کے (حج پر) آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ”یا رَبِّ! یا رَبِّ!“ کہہ کر گڑگڑا کر دُعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، غذا حرام کی، اس کی دُعا کیسے قبول ہو؟“<sup>(۲)</sup> الغرض حج پر جانا چاہتے ہیں تو حرام کمائی سے توبہ کریں۔

## کیا رشوتیں لینے والوں کا جائز پیسے سے حج، حج مقبول ہوتا ہے؟

سوال: ... کیا ان حضرات کے حج، عمرہ کرنے سے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو پاک وطن پاکستان میں حکومت کی ملازمت میں رہتے ہوئے تمام عمر تو عوام الناس کی جیبوں پر ڈاکے ڈالتے رہے، رشوتوں سے پیٹ بھرتے رہے، بنگلہ، کار، بینک بیلنس، جائیدادیں بناتے رہے؟ ریٹائر ہونے کے بعد پنشن کی رقم ملی یا کسی بیٹے، بھائی، بھتیجے نے غیر ممالک سے پیسے بھیج دیئے کہ یہ پیسے حلال ہیں، حرام نہیں، حج عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں تاکہ عمر میں جو حقوق العباد ہضم کئے، رشوتیں کھائیں، اللہ سے معاف کرائیں اور ”حاجی“ کا لقب بھی حاصل کر لیں۔ کیا بارگاہ رب العزت میں ان کا حج عمرہ قابل قبول ہوگا؟

جواب: ... اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس کا حج مقبول ہوتا ہے کس کا نہیں؟ یہ تو اس مالک ہی کو معلوم ہے، ہمیں اس کے معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”حج مقبول“ کی کچھ علامتیں ذکر فرمائی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ہر شخص کو فیصلہ کرنا چاہئے کہ اس کے حج میں ”حج مقبول“ کی علامت پائی جاتی ہے یا نہیں؟

ایک علامت یہ ہے کہ حج میں مال حلال خرچ کیا ہو، مال حرام سے جو حج کیا جائے وہ قبول نہیں بلکہ مردود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہیں اور پاک چیز ہی کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اے رسولو! پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو“ (المؤمنون: ۵۱) اور فرمایا: ”اے ایمان والو! ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں“ (البقرہ: ۱۷۲) پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا (حج کو جاتا) ہے، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن اور کپڑے میلے کچیلے ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے: ”اے میرے رب! اے میرے رب! اے میرے رب!!“ حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا

(۱) عن جابر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا یدخل الجنۃ لحم نبت من السحت، وکل لحم نبت من السحت کانت النار اولی بہ۔ (مشکوٰۃ، باب الکسب وطلب الحلال ص: ۲۴۲، طبع قدیمی)۔

(۲) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ..... رجل یطیل السفر أشعث أغبر یمد یدیه الی السماء: یا رب! یا رب! ومطعمه حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانی یتعجب لذلك۔ رواہ مسلم۔ (مشکوٰۃ ص: ۲۴۱، باب الکسب)۔

پنا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اور حرام کی غذا سے اس کی پرورش ہوئی، پس اس کی دُعا کیسے قبول ہو؟“<sup>(۱)</sup>

پس جو شخص چاہتا ہو کہ اس کو ”حج مقبول“ کی سعادت نصیب ہو، اس کو لازم ہے کہ حلال اور پاک مال سے حج کرے۔

ایک علامت یہ ہے کہ حج پر جانے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کی ہو، اور جن لوگوں کے جانی، مالی حقوق اس کے ذمے ہیں ان کو یا تو ادا کر دے یا معاف کرائے، لوگوں کے حقوق اپنے ذمے رکھ کر کیا گیا حج قبول نہیں ہوتا۔<sup>(۲)</sup>

ایک علامت یہ ہے کہ حج کے ارکان صحیح ادا کئے ہوں، اگر حج کے ارکان صحیح ادا نہیں کئے تو قبولیت حج مشکل ہے۔<sup>(۳)</sup>

## حرام کمائی سے حج

سوال: ... یہ تو متفقہ مسئلہ ہے کہ حج حرام کی کمائی کا قبول نہیں ہوتا، لیکن میں نے ایک مولوی صاحب سے سنا ہے کہ اگر یہ شخص کسی غیر مسلم سے قرض لے کر حج کے واجبات ادا کرے تو اُمید کی جاتی ہے اللہ سے کہ اس کا حج قبول ہو جائے گا۔ پوچھنا یہ ہے کہ غیر مسلم کا مال تو ویسے بھی حرام ہے، یہ کیسے حج ادا ہوگا؟ براہ مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں۔

جواب: ... غیر مسلم تو حلال و حرام کا قائل ہی نہیں، اس لئے حلال و حرام اس کے حق میں یکساں ہے۔ اور مسلمان جب اس سے قرض لے گا تو وہ رقم مسلمان کے لئے حلال ہوگی، اس سے صدقہ کر سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، بعد میں جب اس کا قرض حرام پیسے سے ادا کرے گا تو یہ گناہ ہوگا، لیکن حج میں حرام پیسے استعمال نہ ہوں گے۔<sup>(۴)</sup>

## حرام پیسوں سے حج پر جانا

سوال: ... کیا حرام پیسوں پر حج شریف جانا چاہئے؟ جبکہ ایک امام مسجد صاحب کا فتویٰ ہے کہ جانا چاہئے؟ لیکن بہت سے لوگوں کا اس میں اختلاف ہے۔

جواب: ... حرام رقم سے کیا ہو حج قبول نہیں ہوتا، واللہ اعلم!<sup>(۵)</sup>

## حرام کمائی سے کروایا گیا حج قبول نہیں ہوتا

سوال: ... اگر کوئی امیر شخص کسی غریب شخص کو حج کرواتا ہے، اس امیر شخص کی کمائی نا جائز طریقے کی ہو تو اس غریب شخص کا

(۱) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ طیب لا یقبل الا طیباً، وان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین فقال: یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحاً انی بما تعملون علیم۔ وقال: یا ایہا الذین امنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر أشعث أغبر یمد یدیه الی السماء: یا رب! یا رب! ومطعمہ حرام ومشر بہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانی یتعجب لذلك۔ (مشکوٰۃ ج: ۱ ص: ۲۴۱، باب الکسب وطلب الحلال)۔

(۲) یدأ بالتوبۃ..... ورد المظالم واستحلال من کل خصومه ومن کل عاملہ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۹)۔

(۳) قال النووی: انه (ای الحج المبرور) الذی لا یخالطہ شیء من الاثم۔ (معارف السنن ج: ۶ ص: ۱۲)۔

(۴) والحیلۃ لمن لیس معہ الا مال حرام أو فیہ شبهة أن یتدین للحج من مال حلال..... ویحج بہ ثم یقضی دینہ من مالہ۔ (غنیۃ الناسک ص: ۲۱، باب شرائط الحج، طبع ادارة القرآن)۔

(۵) فإن اللہ لا یقبل الحج بالنفقة الحرام مع انه یسقط الفرض معہا۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۰، کتاب المناسک)۔

حج ہوگا یا نہیں؟

جواب: ... حرام روپے سے کیا گیا حج قبول نہیں ہوتا۔<sup>(۱)</sup>

## تحفہ یا رشوت کی رقم سے حج کرنا

سوال: ... مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک مقامی دفتر میں ملازم ہوں، میری آمدنی اتنی نہیں ہے کہ میں اور میری اہلیہ پس انداز کر کے رقم جمع کریں اور حج پر جا سکیں، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ فرض ہے، ہم حج فریضہ جلد از جلد ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میرے پاس کچھ رقم جمع ہو جائے جو مجھے دفتر میں تھوڑی تھوڑی کر کے بطور تحفہ ملی ہو تو کیا ہم اس میں سے حج پر وہ رقم خرچ کر کے اس فرض کو ادا کر سکتے ہیں؟ یقین جانئے کہ میں نے کبھی حکومت سے کوئی بے ایمانی یا دھوکا دے کر رقم نہیں لی بلکہ زبردستی رقم دی گئی ہے بطور تحفہ۔ کیا ایسی رقم سے حج ادا کرنا جائز ہے؟ برائے مہربانی مجھے اس مسئلے سے آگاہ کریں۔

جواب: ... حج ایک مقدس فریضہ ہے، مگر یہ اسی پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔<sup>(۲)</sup> آپ کو جو رقم تحفے میں ملی ہے اگر آپ ملازم نہ ہوتے، کیا تب بھی یہ رقم آپ کو ملتی؟ اگر جواب نفی میں ہے تو یہ تحفہ نہیں رشوت ہے اور اس سے حج کرنا جائز نہیں بلکہ جن لوگوں سے لی گئی، ان کو لوٹانا ضروری ہے۔<sup>(۳)</sup>

## سوڈی رقم دوسری رقم سے ملی ہوئی ہو تو اس سے حج کرنا کیسا ہے؟

سوال: ... آزرہ کرم شرعی اصول کے مطابق آپ یہ بتائیں کہ ایک حلال اور جائز رقم کو سوڈی رقم کے ساتھ (قصداً) ملا دیا جائے تو کیا اس پوری رقم سے حج کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

جواب: ... حج صرف حلال کی رقم سے ہو سکتا ہے۔<sup>(۴)</sup>

## بیٹے کے سوڈی کاروبار کے پیسے سے حج کیسے کریں؟

سوال: ... بینک سے کاروبار ہونے کے باعث میرے بیٹے کی آمدنی میں سوڈی ملاوٹ ہے، عالم لوگ کہتے ہیں کہ سوڈی پیسے سے حج و عمرہ نہیں ہوتا، ان کا فرمان ہے کہ کسی غیر مسلم سے قرض لے کر حج و عمرہ ادا کیا جائے، اور پھر اپنے پیسے سے قرض ادا کر دیا

(۱) یجتهد فی تحصیل نفقة حلال فإن الله لا يقبل الحج بالنفقة الحرام۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۰، کتاب المناسک)۔  
 (۲) وهو واجب أى فرض فى العمر مرة على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد ذهاباً وإياباً والراحلة ..... فاضلاً أى زائداً ذالك عن مسكنه وما لا بد له منه كالثياب وأثاث المنزل والخادم ونحو ذالك ..... عن نفقة عياله ..... إلى حين عوده ... الخ۔ (اللباب فى شرح الكتاب ج: ۱ ص: ۱۶۳، کتاب الحج، طبع قدیمی)۔  
 (۳) عن أبى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأحد شفاعاً فاهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا۔ (مشکوٰۃ ص: ۳۲۶، باب رزق الوالدة وهداياهم)۔  
 (۴) ولا بمال حرام، ولو حج به سقط عنه الفرض لكن لا تقبل حجته۔ (غنية الناسك ص: ۲۱، باب شرائط الحج)، عن أبى هريرة رضى الله عنه ..... إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً۔ (مشکوٰۃ ج: ۱ ص: ۲۴۱، باب الكسب وطلب الحلال)۔

جائے، یہاں اول اشکال یہ ہے کہ مقروض کا حج نہیں ہوتا، دوم میرے بیٹے نے ادھار مانگا تھا لیکن ادھار دینے والا غیر مسلم قرض کی رقم پر سود طلب کرتا ہے، میرے بیٹے نے مجھے نقد رقم دے دی ہے یہ کہہ کر کراب آپ جانیں، آپ کا کام جانے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سودی پیسے سے ہمارا تمام کاروبار چلتا ہے تو اس کا تدارک کیا ہو؟ مجھے جواب کی جلدی اس لئے ہے کہ اس سال حج کی نیت سے یہاں لندن میں بیٹے کے پاس ہم آئے ہیں، اور حج کی درخواست دی ہے، رہنمائی فرمائیں۔ نیز یہ کہ بیٹا ہی ہمارا واحد کفیل ہے اور ہم عرصہ میں پچیس سال سے بیٹے کی آمدنی سے زکوٰۃ ادا کرتے اور قربانی کرتے آئے ہیں، آئندہ کیا کریں؟

جواب:۔۔۔ جب آپ کے ذمے حج فرض نہیں، تو آپ مہربانی کر کے جائیں ہی نہیں، آپ کو نہ جانے پر ثواب ملے گا، اور رقم اپنے بیٹے کو واپس کر دیں۔<sup>(۱)</sup>

## جس دکان کی بجلی کا بل کبھی نہ دیا ہو، اُس کی کمائی سے حج کرنا

سوال:۔۔۔ میری گاؤں میں دکان ہے، اس میں بغیر میٹر کی بجلی لگی ہوئی ہے، بجلی کا بل کبھی نہیں دیا ہے، اس دکان کی کمائی سے میں حج پر جانا چاہتا ہوں، کیا ان پیسوں سے میرا حج ہو جائے گا؟

جواب:۔۔۔ اب تک جتنی بجلی چوری کی ہے، اس کی قیمت ادا کر دو، اور آئندہ کے لئے چوری سے تو بہ کر لو، پھر شوق سے حج پر جاؤ، ورنہ وہی مثل ہوگی کہ: ”نوسو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی!“<sup>(۲)</sup>

## حجاج کرام کے لئے بینک کے تحفے

سوال:۔۔۔ جس بینک کے ذریعے ہم نے حج کے ڈرافٹ جمع کرائے اور حج کے متعلق کام کرائے، اس کے بعد بینک نے ہمیں تحفے کے طور پر پانی کا تھرماس اور ایک عدد بیگ دیا، چونکہ بینک کا کام سودی ہوتا ہے، آیا یہ تحفے ہمیں حج پر لے جانا جائز ہے؟ یا پھر ہم اس تحفے کو واپس کر دیں؟ مہربانی فرما کر اس مسئلے کے بارے میں اپنی رائے سے مستفید فرمائیں۔

جواب:۔۔۔ حاجیوں کی جو رقم جمع ہوتی ہے بینک اس پر سود لیتا ہے اور یہ سود گورنمنٹ کے کام آتا ہے یا بینک والوں کے، اس کا مجھے علم نہیں، اور اسی سود کی رقم سے حاجیوں کو کچھ تحفے تحائف بھی دے دیئے جاتے ہیں، اب خود ہی غور کر لیجئے کہ ان کا لینا حاجیوں کے لئے کہاں تک صحیح ہوگا...؟<sup>(۳)</sup>

## بینک کی طرف سے حاجیوں کو تحفہ دینا

سوال:۔۔۔ جن درخواست گزاروں کی حج کی درخواست منظور ہو جاتی ہے، انہیں متعلقہ بینک تحفے کے طور پر کچھ چیزیں عطا کرتے ہیں، مثلاً: پانی کے لئے تھرماس، ہینڈ بیگ وغیرہ۔ اس سال ایک بینک نے احرام بھجوائے ہیں، معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا یہ سود کے

(۱) وأما شرائط وجوبه إلخ منها القدرة على الزاد والراحلة بطريق الملك والإجارة. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۷)۔

(۲) ..... فإن الله لا يقبل الحج بالنفقة الحرام. (فتاویٰ عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۰، کتاب المناسک)۔

(۳) عن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربوا وموكله. (مسند امام اعظم ص: ۱۶۳)۔

زمرے میں آتے ہیں کہ نہیں؟ اور اس احرام سے حج کرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟

جواب: ... اس کی وضاحت بینک والوں کو کرنی چاہئے۔ اگر حاجیوں کی رقم ہی کا کچھ حصہ بطور تحفہ پیش کیا جاتا ہے تو جائز ہے، اور اگر بینک کی طرف سے تحفہ دیا جاتا ہے (کیونکہ بینک نے چار پانچ مہینے حاجیوں کی رقم کا سود کھایا ہے، اس لئے بینک شکر یہ کے طور پر حاجیوں کی خدمت میں یہ حقیر سا تحفہ پیش کرتا ہے) تو یہ حلال نہیں، کیونکہ یہ سود کی رقم سے دیا گیا ہے۔<sup>(۱)</sup>

## کیا عرب شیوخ کے ذریعے کیا ہوا حج قبول ہوگا؟

سوال: ... ہمارے ہاں سے لوگ عرب شیوخ کے توسط سے حج کرنے جاتے ہیں، عرب حضرات چونکہ بلوچستان شکار کی غرض سے آتے ہیں، یہاں کے معتبرین سے واسطہ ہوتا ہے، انہی معتبرین کے ذریعے سود و سود آدیوں کے لئے ہوائی سفر کا دو طرفہ ٹکٹ بھیجتے ہیں۔ علاوہ ازیں ان آدمیوں کے لئے قیام و طعام کا خرچ بھی ساتھ بھیجتے ہیں، جبکہ یہ خرچ اکثر معتبرین خورد و برد کرتے ہیں، صرف ٹکٹ متعلقہ شخص کو عطا فرماتے ہیں، الا ماشاء اللہ کبھی کبھار ایک آدھ غریب و مسکین شخص کو ٹکٹ ملتا ہے، وہاں کے قیام و طعام، خرچ اور پاسپورٹ وغیرہ کا خرچ متعلقہ شخص کو خود برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا حج کرنا جائز ہے کہ نا جائز؟ بعض سرمایہ دار لوگ بھی یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کا حج ادا ہوگا کہ نہیں؟

جواب: ... ان کا حج ادا ہو جائے گا، لیکن جن لوگوں نے رقم خورد و برد کر دی ہے ان پر اس کا وبال پڑے گا، اور آخرت میں ان کو یہ رقم بھرنی پڑے گی۔<sup>(۲)</sup>

## سعودی عرب سے زائد رقم دے کر ڈرافٹ منگوا کر حج پر جانا

سوال: ... حج اسپانسر اسکیم ۱۹۸۷ء کی توسیع یکم مئی تک کر دی گئی ہے، لہذا حجاج کرام سعودی عرب سے ڈرافٹ منگوار ہے ہیں۔ جن حضرات کے عزیز واقارب وہاں موجود ہیں وہ تو قواعد و ضوابط کے مطابق ڈرافٹ دستیاب کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ کئی حجاج کرام دوسروں سے ۲۸ ہزار پاکستانی روپے کا ڈرافٹ منگواتے ہیں جس کے لئے انہیں ۳۲ ہزار یا اس سے زائد رقم دینی پڑتی ہے، یعنی تقریباً ۴ ہزار روپے بلیک منی ادا کرنی پڑتی ہے۔ اب دریافت طلب بات یہ ہے کہ اس طرح زائد رقم دے کر ڈرافٹ منگوانا جائز ہے؟ اس طرح کے ڈرافٹ منگوا کر حج کے لئے جائے اور حج ادا کرے تو کیا فرض ادا ہو جائے گا؟ اس میں کوئی نقص تو نہیں؟ عموماً پاکستانی

(۱) عن ابي جحيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم و ثمن الكلب و كسب البغى و لعن آكل الربا و موكله و الواشمة و المستوشمة و المصور. رواه البخارى. (مشكوة ص: ۲۴۱، باب الكسب و طلب الحلال). عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهديه و قال هم سواء. رواه مسلم. (مشكوة ص: ۲۴۴).

(۲) عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع! فقال: ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامة بصلوة و صيام و زكوة، و ياتي قد شتم هذا، و قذف هذا، و اكل مال هذا، و سفك دم هذا، و ضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، و هذا من حسناته، فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه، اخذ من خطاياهم فطرح عليه، ثم طرح في النار. رواه مسلم. (مشكوة ص: ۴۳۵، باب الظلم، الفصل الاول).

روپے دیئے جاتے ہیں جو کہ ریال کی شکل میں وہاں ملتے ہیں، پھر وہیں بینک میں دیئے جاتے ہیں اور پاکستانی روپے کا ڈرافٹ مل جاتا ہے، وہ یہاں حج کی درخواست کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے تو پھر حج کی درخواست منظور ہوتی ہے۔ لہذا اس طرح بھی حج ہو جائے گا یا کوئی کراہت یا نقص باقی رہے گا؟

جواب: ... ۳۲ ہزار میں ۲۸ ہزار کا ڈرافٹ لینا تو سودی کاروبار ہے۔<sup>(۱)</sup> البتہ اگر ۳۲ ہزار کے بدلے میں ریالوں کا ڈرافٹ منگوا یا جائے تو وہ چونکہ دوسری کرنسی ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے،<sup>(۲)</sup> اور اگر کوئی ادارہ ڈرافٹ منگوا کر دیتا ہو اور زائد رقم حق محنت کے طور پر وصول کرتا ہو تو یہ بھی جائز ہے۔<sup>(۳)</sup>

### حج کے لئے ڈرافٹ پر زیادہ دینا

سوال: ... آج کل حج کے واسطے ڈرافٹ منگواتے ہیں کسی دلال کے ذریعہ، وہ ہوتا ہے تیس ہزار کا لیکن اس منگوانے والے کو پانچ ہزار اوپر دیتے ہیں، یعنی پینتیس ہزار کا پڑ جاتا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ آیا اس کو یہ پانچ ہزار کمیشن یا اس کی مزدوری کے طور پر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ آیا یہ لین دین حلال ہے یا حرام؟ اسی طرح اگر اس کو بجائے پاکستانی روپے یا ڈالر یا دوسرے ملک کی رقم دے دیں تو آیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ کیونکہ اس میں تو جنسیت بدل چکی ہے۔

جواب: ... ڈرافٹ منگوانے کی جو صورت آپ نے لکھی ہے یعنی ۳۵ ہزار روپے کر ۳۰ ہزار روپے لینا یہ تو سمجھ میں نہیں آتی۔ البتہ اگر پانچ ہزار روپے ایجنٹ کو بطور اجرت دیئے جائیں تو کچھ گنجائش ہو سکتی ہے،<sup>(۴)</sup> روپے کے بدلے ڈالر یا کوئی اور کرنسی لی جائے تو جائز ہے۔<sup>(۵)</sup>

### حج کے لئے جمع کی ہوئی حج کمیٹی کی رقم واپس کرے

سوال: ... ہم ایک ادارے کے ملازم ہیں، جس میں تمام ملازمین کی حج کے لئے ایک کمیٹی ڈالی گئی ہے جس میں ۲۰۰ روپے مہینہ دیتے ہیں، جس سے ہر سال ۱۲ ملازمین کو قرضہ اندازی کے ذریعے حج کرایا جاتا ہے، یہ سلسلہ گزشتہ پانچ سال سے جاری ہے۔ اس میں شمولیت کے وقت کہا گیا تھا کہ جو ملازمین ریٹائر ہوں گے ان کو عمرہ کرایا جائے گا (اگر اس عرصے میں ان کا نام قرضہ اندازی میں آجائے) لیکن اب گولڈن شیک بینڈ کے ذریعے کئی ملازمین ریٹائر ہو گئے ہیں، تو ان کو نہ عمرہ کرایا گیا اور نہ ان کی جمع رقم واپس کی گئی ہے۔ انتظامیہ حج کمیٹی یہ جواب دیتی ہے کہ ان ملازمین کو پانچ مرتبہ چانس دیا گیا تھا، ان کا نام نہیں نکلا، لہذا اب ان کی

(۱) الربا ..... وفى الشرع فضل مال بلا عوض فى معاوضة مال بمال۔ (البنایة ج: ۱۰ ص: ۳۸۶، باب الربا)۔

(۲) واذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد۔ (البنایة ص: ۴۲۷، باب الربا)۔

(۳) والبيعان اى المراجعة وبيع التولية جائزان لاستجماع شرائط الجواز ..... ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن۔ (البنایة مع الهدایة ج: ۱۰ ص: ۳۵۰، باب المراجعة والتولية، كتاب البيوع)۔

(۴) وفى التحفة وأما أجرة السمسار فى ظاهر الرواية تلحق برأس المال... الخ۔ (البنایة ج: ۱۰ ص: ۳۵۵)۔

(۵) ایضاً حاشیہ نمبر ۲۔



ممبر شپ ختم سمجھی جائے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی صورت میں دیگر افراد کا حج جائز ہوگا جبکہ ریٹائرڈ ملازمین کا پیسہ اس میں شامل ہو اور ان کو واپس نہ کیا گیا ہو؟

جواب:۔۔۔ جن ملازمین کا حج کے سلسلے میں پیسہ جمع تھا، ادارے کی انتظامیہ حج کمیٹی کے ذمے فرض ہے کہ جو ملازم اس اسکیم کے تحت ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کو باقاعدہ حج اسکیم میں شامل رکھے اور جب ان کا نام آئے ان کو حج کے لئے بھیجے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو ان کی جتنی رقم حج کے لئے جمع ہو چکی ہے، ان کو واپس کرے۔ حقوق العباد کا معاملہ ہے، ورنہ کسی کا حج بھی قبول نہیں ہوگا۔<sup>(۱)</sup>

**پچاس روپے کے ٹکٹ پیج کر قرعہ اندازی سے ایک آدمی کو حج پر بھیجنے والی اسکیم کی شرعی حیثیت**

سوال:۔۔۔ ہمارے ایک دو عزیز ایک اسکیم کا افتتاح کروا رہے ہیں، جس کے مطابق کچھ ٹکٹیں فروخت کی جائیں گی، فی ٹکٹ پچاس روپیہ، اس میں جتنے بھی ممبران ٹکٹ لیں گے، ان سب کے نام کی پرچیاں بنا کر ان میں سے ایک پرچی بغیر دھیان دیئے یا آنکھ بند کر کے اٹھائی جائے گی، جس کا بھی نام نکلا اسے حج پر بھیج دیا جائے گا، جس کا خرچ ملے ہوئے پیسوں سے ہوگا، اور باقی پیسے ہمارے عزیز جو یہ اسکیم چلا رہے ہیں، وہ لیں گے۔

جواب:۔۔۔ میں نے یہ اسکیم پڑھی ہے، صریحاً سود ہے، خواہ آپ کے دوستوں نے اس کو جاری کیا ہو یا دشمنوں نے۔<sup>(۲)</sup>

**حج کے لئے لیا ہوا قرض بونڈ کے انعام کی رقم سے ادا کرنے کا حج پر اثر**

سوال:۔۔۔ ایک شخص کی حج کی درخواست کے ساتھ رقم جمع کرنے میں بیس پچیس ہزار کی کمی پڑ رہی تھی، اس کے پاس بونڈ کے انعام کی رقم تھی وہ اس نے محفوظ رکھی، اور کسی سے قرض لے کر پچیس ہزار پورے کر کے فارم جمع کر دیا۔ اور حج کو چلا گیا۔ حج سے واپسی پر جائز رقم سے قرض کی واپسی کی کوشش کرتا ہے، جائز رقم مہیا نہ ہونے کی صورت میں بونڈ کے انعام کی رقم سے قرض ادا کر دیتا ہے۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ اس کا حج ادا ہو جائے گا یا حج سے واپسی پر جائز رقم سے ہی قرض ادا کرنے پر حج جائز ہوگا؟

جواب:۔۔۔ اس کا حج صحیح ہے، اب ادائے قرض جائز رقم سے کرتا ہے یا ناجائز سے؟ اس کا گناہ و ثواب الگ ہوگا، حج سے اس کا تعلق نہیں، واللہ اعلم!<sup>(۳)</sup>

**بینک ملازمین سے زبردستی چندہ لے کر حج کا قرعہ نکالنا**

سوال:۔۔۔ ہم مسلم کمرشل بینک کے ملازم ہیں۔ ہماری یونین نے ایک حج اسکیم نکالی ہے اور ہر اشاف سے ۲۵ روپے ماہوار

(۱) يبدأ بالتوبة ..... ورد المظالم واستحلال من كل خصومه ومن كل عامله. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۹).

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً... الخ. (مشكوة، باب الكسب وطلب الحلال ج: ۱ ص: ۲۳۱). فإن الحج عبادة مركبة من عمل البدن والمال كما قدمناه، ولذا قال في البحر ويجتهد في تحصيل نفقة حلال، فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۳۵۶).

(۳) فإن الله لا يبرئ من الحج بالنفقة الحرام مع أنه يسقط الفرض معها. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۰، كتاب المناسك).

لیتے ہیں، اس پیسے سے قرعہ اندازی کر کے دو اشاف کوچ پر جانے کو کہا ہے۔ کیا اس چندے سے وہ بھی ۲۵ روپے ماہوار ایک سال تک، اس پیسے سے حج جائز ہے؟ کافی اشاف دل سے یہ چندہ دینا نہیں چاہتا، مگر یونین کے ڈر اور خوف سے ۲۵ روپے ماہوار دے رہا ہے، کیا اس طرح جب دل سے کوئی کام نہیں کرتا، کسی کے ڈر اور خوف کے چندے سے حج جائز ہے؟

جواب: ... جو صورت آپ نے لکھی ہے اس طرح حج پر جانا جائز نہیں۔ اول تو بینک سے حاصل ہونے والی تنخواہ ہی حلال نہیں<sup>(۱)</sup>، اور پھر زبردستی رقم جمع کرانا اور اس کا قرعہ نکالنا یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں۔<sup>(۲)</sup>

## بونڈ کی انعام کی رقم سے حج کرنا

سوال: ... ٹی وی کے ایک پروگرام میں پروفیسر حسنین کاظمی صاحب میزبان کی حیثیت سے، پروفیسر علی رضا شاہ نقوی صاحب اور مولانا صلاح الدین صاحب جرنلسٹ سے چند مسائل پر گفتگو کر رہے تھے۔ من جملہ چند سوالوں کے ایک سوال یہ تھا کہ آیا پرائز بونڈ پر انعام حاصل کردہ رقم سے ”عمرہ یا حج“ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب پروفیسر علی رضا شاہ نقوی صاحب نے یہ دیا کہ پرائز بونڈ کی انعام حاصل کردہ رقم سے عمرہ اور حج جائز ہے۔ اس کی تشریح انہوں نے اس طرح فرمائی:

”اگر دس روپے کا ایک پرائز بونڈ کوئی خریدتا ہے تو گویا اس کے پاس دس روپے کی ایک رقم ہے جس کو جب اور جس وقت وہ چاہے کسی بینک میں جا کر اس پرائز بونڈ کو دے کر مبلغ دس روپے حاصل کر سکتا ہے۔“ مزید یہ تشریح فرمائی کہ: ”مثلاً ایک ہزار اشخاص دس روپے کا ایک ایک پرائز بونڈ خریدتے ہیں، قرعہ اندازی کے بعد کسی ایک شخص کو مقرر کردہ انعام ملتا ہے، مگر بقیہ ۹۹۹ اشخاص اپنی اپنی رقم سے محروم نہیں ہوتے بلکہ ان کے پاس یہ رقم محفوظ رہتی ہے، اور انعام وہ ادارہ دیتا ہے جس کی سرپرستی میں پرائز بونڈ اسکیم رائج ہے، لہذا اس انعامی رقم سے عمرہ یا حج کرنا جائز ہے۔“ اس پروگرام کو کافی لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا اور سنا ہوگا، مولانا صاحب! آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے پر روشنی ڈالیں کہ آیا پرائز بونڈ کی حاصل کردہ انعامی رقم سے ”عمرہ یا حج“ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟

جواب: ... پرائز بونڈ پر جو رقم ملتی ہے وہ جو ہے اور سود بھی، جو اس طرح ہے کہ بونڈ خریدنے والوں میں سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو اس بونڈ کے بدلے میں دس روپے ہی ملیں گے یا مثلاً پچاس ہزار۔ اور سود اس طرح ہے کہ پرائز بونڈ خرید کر اس شخص نے متعلقہ ادارے کو دس روپے قرض دیئے اور ادارے نے اس روپے کے بدلے اس کو پچاس ہزار دس روپے واپس کئے، اب یہ زائد رقم جو انعام کے نام پر اس کو ملی ہے، خالص ”سود“ ہے،<sup>(۳)</sup> اور خالص سود کی رقم سے عمرہ اور حج کرنا جائز نہیں۔<sup>(۴)</sup>

(۱) عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله و كاتبه و شاهديه، وقال هم سواء۔ رواه مسلم۔ (مشکوٰۃ ص: ۲۳۳، باب الربا، طبع قدیمی کتب خانہ)۔

(۲) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرئٍ إلا بطيب نفس منه۔ (مشکوٰۃ ج: ۱ ص: ۲۵۵، باب الغصب والعارية)۔

(۳) كل قرض جر نفعاً فهو ربا۔ (فتاویٰ شامی ج: ۵ ص: ۱۶۶، ج: ۶ ص: ۳۹۳)۔

(۴) يجتهد في تحصيل نفقة حلال فإن الله لا يقبل الحج بالنفقة الحرام۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۰، کتاب المناسک)۔

## سرکاری حج کا شرعی حکم

سوال: ... ہمارے ملک میں ہر سال صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، ایم این اے، افسران وغیرہ جو خود اتنے مال دار ہیں کہ سینکڑوں غریب عوام کو حج کروا سکتے ہیں، مگر خود سرکاری خرچ پر مع لاؤ لشکر کے حج پر جاتے ہیں، کیا بارگاہِ رب العزت میں ایسا حج شرفِ قبولیت حاصل کرے گا؟

۲: ... جو لوگ ہمراہ جاتے ہیں اور خود حج کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، کیا ان کا حج قبول ہوگا؟

۳: ... بہت سے عام شہری جنہوں نے رقم جمع کر دی تھی وہ نہ جاسکے، بلکہ ان کی جگہ دوسرے پسندیدہ اشخاص حج پر بھیج دیئے گئے، کیا صحیح صورتِ حال جاننے والوں کا حج مقبول ہوگا؟

۴: ... ناقص کی رائے میں ہم لوگ دین بلکہ ہر معاملات میں اتنے پست ہو گئے ہیں کہ اتنے اہم دینی معاملات میں بھی بد عنوانیاں کرتے ہیں۔

جواب: ... آپ کے فتویٰ پوچھنے اور میرے فتویٰ دینے سے ان لوگوں کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور یہ ظاہر ہے کہ جب نا جائز رقم سے حج کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔

۲: ... جو لوگ دوسروں کا حق مار کر گئے، ان کا حج بھی موجبِ رضائے الہی نہیں ہو سکتا۔

## سرکاری خرچ پر حج کرنا

سوال: ... سرکاری محکموں سے لوگوں کو سرکاری حج پر ہر سال کی طرح بھیجا گیا، جبکہ سرکاری خزانے میں پاکستان کے چودہ کروڑ عوام کا حصہ ہے۔ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ:

۱: ... اس طرح سے کسی محکمے کا اپنے ملازمین کو سرکاری حج پر بھیجنا جائز ہے؟

۲: ... کیا اس طرح ان لوگوں کا حج ادا ہو گیا؟

۳: ... اگر یہ شرعاً جائز نہیں تو کیا آئندہ سال سے حکومت کو یہ سلسلہ بند کر دینا چاہئے؟

جواب: ... محکمے دو قسم کے ہیں، ایک نجی اور دوسرے سرکاری، نجی محکموں میں اگر کچھ لوگوں کو قرعہ اندازی کے ذریعے حج پر بھیجا جاتا ہے، تو یہ بھیجنا بھی صحیح ہے اور ان کا حج بھی ادا ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ حج کے لئے جو پیسے جمع کروائے جائیں، وہ خالص ان کی ملکیت کر دیئے جائیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس قرعہ اندازی میں گھپلانا نہ کیا جائے، ورنہ ان کا حج صحیح نہیں ہوگا۔

۲: ... اور دوسرا طریقہ سرکاری ملازمین کو حج پر بھیجنا ہے، اگر حکومت کے پاس کوئی ایسا فنڈ موجود ہے جس سے وہ کسی ایسی جگہ رقم کو خرچ کر سکے، پھر تو ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کا حج ادا ہو جائے گا، ورنہ اگر سرکاری خزانے سے عازمین حج کے مصارف برداشت کئے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا حج نہیں ہوگا، اور وہ خود بھی گناہگار ہوں گے اور ان کو حج پر بھیجنے والے اہل ارباب و اختیار بھی گناہگار ہوں گے، الا یہ کہ کوئی شخص اپنے پیسے سے حج پر رقم خرچ کرے، واللہ اعلم!

## عازمین حج کا بیمہ

سوال: ... حکومت نے ایک مقامی کمپنی کو حجاج کرام کی پاکستان سے روانگی سے لے کر مع سلامت واپسی تک بیمہ زندگی کی اجازت دی ہے۔ عازم حج کو شاید ایک ہزار روپے پر بیمہ کے عوض حادثاتی موت کی صورت میں اس کے نامزد کردہ پسماندگان، ورثاء کو تقریباً پانچ لاکھ روپے بیمے کی رقم ادا کی جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ حجاج کرام کا اس طرح کا بیمہ کرانا، ترغیب دینا، یا دلانا، شرعاً کیسا ہے؟

جواب: ... بیمہ زندگی ناجائز اور حرام ہے، خصوصاً حج جیسی مقدس عبادت کو اس گندگی سے ملوث کرنا اور بھی گندا ہے۔ اس لئے حجاج کرام کو چاہئے کہ وہ اس سلسلے میں ایک ہزار روپے کر بیمہ زندگی نہ کریں، ورنہ ان کا حج کرنا نیکی برباد اور گناہ لازم کے مصداق برباد نہ ہو جائے۔ حکومت کا یہ کام کرنا اور حاجیوں کو اس کی ترغیب دینا ناجائز ہے، اور گناہ کی دعوت دینے کے مترادف ہے، اس لئے سرکاری اہل کاروں کو اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔<sup>(۱)</sup>

## حج کے لئے جھوٹ بولنا

سوال: ... سعودی گورنمنٹ نے پچھلے سال حج سے پہلے ایک قانون نافذ کیا تھا کہ کوئی بھی غیر ملکی جو سعودیہ میں ملازمت کر رہا ہے اگر اس نے ایک مرتبہ حج کر لیا تو وہ دوبارہ پانچ سال تک حج ادا نہیں کر سکتا۔ ہماری کمپنی ہر اس شخص کو ایک فارم پُر کرنے کو دیتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ: ”میں نے پچھلے پانچ سال سے حج نہیں کیا ہے، مجھے حج ادا کرنے کی اجازت دی جائے“ نیچے اس شخص کے دستخط ہونے کے ساتھ ساتھ دو گواہوں کے نام اور دستخط بھی ہوتے ہیں۔

اب اگر میں اپنی والدہ یا بیوی کو اس سال حج کروانا چاہوں تو مجھے بھی ان کے ساتھ محرم کے طور پر حج کرنا ہوگا، اور اس کے لئے مجھے درج بالا فارم پُر کر کے یعنی جھوٹ لکھ کر اپنے دفتر میں جمع کرانا ہوگا، چونکہ میں نے دو سال پہلے حج کیا تھا۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اس طرح جھوٹ لکھ کر حج کرنا جائز ہے؟ اور اس طرح حج ادا ہو جائے گا یا اس طرح حج کرنے والا گناہ گار ہوگا؟

جواب: ... آپ جھوٹ کیوں بولیں؟ آپ یہ لکھ کر دیں کہ میں خود تو حج کر چکا ہوں لیکن اپنی والدہ یا بیوی کو حج کروانا چاہتا ہوں اس کی اجازت دی جائے۔<sup>(۲)</sup>

(۱) كل قرض جر نفعاً فهو ربوا۔ (فقه السنة ج: ۳ ص: ۱۳۸، طبع دار الكتاب العربي، بيروت)۔ أيضاً: كل قرض جر منفعة فهو ربوا۔ (فتح القدير ج: ۹ ص: ۴۳۸ طبع رياض)۔ القرض بالشرط حرام والشرط ليس بلازم۔ (خلاصة الفتاوى ج: ۳ ص: ۵۴)۔ وان تأجيله لا يصح (اللى قوله) وعلى اعتبار الإلتفاء لا يصح لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربوا۔ (هداية ج: ۳ ص: ۷۲)۔ ”وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ“ (المائدة: ۱)۔

(۲) وفي الصحيحين عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً، قلنا: بلى يا رسول الله! قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئاً، فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت۔ (تفسير ابن كثير ج: ۴ ص: ۶۱۵، طبع رشيدية كوئته)۔

## افغانستان کے پاسپورٹ پر حج و عمرہ کرنا

سوال: ... ہمارے یہاں کچھ لوگ افغانستان کے پاسپورٹ پر حج و عمرہ کے لئے جاتے ہیں، وہ لوگ اس کی یہ تاویل پیش کرتے ہیں کہ یہ سب انگریز کا قانون ہے، مسلمان کے لئے سرحد بندی وغیرہ نہیں ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں پشاور بھی افغانستان کا ایک حصہ ہے۔ افغانستان کے بنے ہوئے پاسپورٹ پر افغانستان کا پتہ درج ہوتا ہے، جبکہ جانے والا پشاور کا باشندہ ہے، کیا یہ طریقہ درست ہے؟

جواب: ... اگر ان صاحب کی یہ تقریر دوسری حکومتوں والے تسلیم کرتے ہیں تو سبحان اللہ! ورنہ جھوٹ بول کر حج کے لئے جانا جائز نہیں۔

## بلا اجازت حج کے لئے عزت و ملازمت کا خطرہ

سوال: ... میرے والدین اس سال حج پر آرہے ہیں ان شاء اللہ۔ سعودی گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے کہ اگر یہاں کام کرنے والے ایک دفعہ حج کریں تو پھر دوسرا حج پانچ سال کے بعد کریں۔ میں نے چار سال پہلے حج کیا ہے لہذا ایک سال باقی ہے۔ اب میرے والدین بوڑھے ہیں، کیا میں حج پر جاؤں تو گناہ نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ میں بغیر اطلاع کے چلا جاؤں جبکہ میں جہاں کام کرتا ہوں وہ بھی مجھے اجازت نہ دیں گے، اس معاملے میں سعودی قانون کی خلاف ورزی ہوگی مگر دوسری طرف میرے والدین کی مجبوری ہے۔

جواب: ... آپ کا والدین کے ساتھ حج کرنا بلاشبہ صحیح ہے، مگر قانون کی خلاف ورزی کرنے میں عزت اور ملازمت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یہ آپ خود دیکھ لیں، اس کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔ البتہ شرعاً اس طرح حج ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی ملے گا۔

## حج کے لئے چھٹی کا حصول

سوال: ... میں حکومت قطر میں ملازمت کر رہا ہوں، حج سے متعلق مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ قطر حکومت دوران ملازمت ہر ملازم کو حج کے لئے ایک ماہ کی چھٹی مع تنخواہ دیتی ہے، اور پہلا ہی حج فرض ہوتا ہے۔ میں صاحب حیثیت ہوں اور حج پر جانا چاہتا ہوں۔ کیا میں حکومت قطر کی حج چھٹیوں میں یا اپنی سالانہ چھٹیاں لے کر حج پر جاؤں؟ کیا ان دونوں چھٹیوں میں فرق سے ثواب میں فرق پڑے گا؟ میرے دوست نے حکومت قطر کی چھٹیوں پر حج کیا ہے، اگر ثواب میں فرق ہو تو دوبارہ حج کرنے کے لئے تیار ہوں۔

جواب: ... اگر قانون کی رو سے چھٹی مل سکتی ہے اور اس کے لئے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لینا پڑتا ہے،<sup>(۱)</sup> تو حج کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔

(۱) "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا" (الأحزاب: ۷۰)۔

## حکومت کی اجازت کے بغیر حج کو جانا

سوال: ... حکومت کی پابندی کے باوجود جو لوگ چوری یعنی غلط راستوں سے حج کرنے جاتے ہیں اور حج بھی نقلی کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟

جواب: ... حکومت کے قانون کی خلاف ورزی میں ایک تو عزت کا خطرہ ہے کہ اگر پکڑے گئے تو بے عزتی ہوگی۔ دوسرے بعض اوقات احکام شرعیہ کی خلاف ورزی بھی لازم آتی ہے، مثلاً بعض اوقات میقات سے بغیر احرام کے جانا پڑتا ہے، جس سے دم لازم آتا ہے۔ اگر قانونی گرفت اور احکام شرعیہ کی مخالفت کا خطرہ نہ ہو تب تو مضائقہ نہیں ورنہ نقلی حج کے لئے وبال سر لینا ٹھیک نہیں۔<sup>(۱)</sup>

## عمرے کے ویزے پر جا کر حج کر کے آنا

سوال: ... اگر عمرے کے ویزے پر جائیں اور حج کر کے آئیں تو ایسا کرنا صحیح ہوگا یا نہیں؟

جواب: ... عزت کا خطرہ نہ ہو تو جائز ہے۔

## رشوت کے ذریعے سعودی عرب میں ملازم کا والدین کو حج کرانا

سوال: ... ایک شخص ملک سے باہر کمانے کے لئے کوشش کرتا ہے اور کسی (ریکروٹنگ ایجنسی) یا ادارے کو بطور رشوت دس یا بارہ ہزار روپے دے کر سعودی ریال کمانے جاتا ہے، وہ ایک سال یا دو سال کے بعد اسپانسر شپ اسکیم کے تحت اپنے والد یا والدہ کو حج کراتا ہے، اس سلسلے میں یہ بتائیں کہ کیا اس طرح کا حج اسلام کے عین مطابق ہے؟ کیونکہ وہ شخص محنت کر کے تو کما تا ہے مگر جس طریقے سے وہ باہر گیا ہے یعنی رشوت دے کر تو اس کے والدین کا حج قبول ہوگا یا نہیں؟

جواب: ... رشوت دے کر ملازمت حاصل کرنا ناجائز ہے،<sup>(۲)</sup> مگر ملازمت ہو جانے کے بعد اپنی محنت سے اس نے جو روپیہ

کمایا وہ حلال ہے، اور اس سے حج کرنا یا اپنے والدین اور دیگر اعزہ کو حج کرانا جائز ہے۔

## خود کو کسی دوسرے کی بیوی ظاہر کر کے حج کرنا

سوال: ... میرا مسئلہ دراصل کچھ یوں ہے کہ میرا نام محمد اکرم ہے، میرا ایک دوست جس کا نام محمد اشرف ہے۔ اب میرے دوست یعنی محمد اشرف کا کچھ تھوڑا سا جھگڑا اپنے کفیل کے ساتھ تھا، لہذا اس نے اپنی بیوی کو یہاں حج پر بلانا تھا، سو اس نے میرے نام پر اپنی بیوی کو حج پر بلایا، یعنی اس نے نکاح نامے پر بھی میرا نام لکھوایا اور کاغذی کارروائی میں وہ میری ہی بیوی بن کر یہاں آئی، اب میں

(۱) آفاقى مسلم مكلف اراد دخول مكة أو الحرم ..... جاوز آخر مواقيته غير محرم ..... أثم ولزمه دم۔ (غنية الناسك ص: ۶۰، فصل في مجاوزة الآفاقى وقتہ، طبع إدارة القرآن)۔

(۲) عن عبد الله بن عمرو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى۔ (مشکوٰۃ ص: ۳۲۶، باب الأفضية)۔

ہی اسے لینے ایئر پورٹ پر گیا، ایئر پورٹ سیکورٹی والوں نے میرا اقامہ دیکھ کر میری بیوی جان کر اس کو باہر آنے دیا (ایئر پورٹ سے)، اب عورت اپنے اصل خاوند کے پاس ہی ہے اور اس نے حج بھی کیا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ حج صحیح ہے یا نہیں؟ اور کیا اگر یہ غلط ہے اور گناہ ہے تو میں کس حد تک مجرم ہوں؟

جواب: ... فریضہ حج تو اس محترمہ کا ادا ہو گیا، مگر جعل سازی کے گناہ میں تینوں شریک ہیں، وہ دونوں میاں بیوی بھی اور آپ بھی۔<sup>(۱)</sup>

### مکہ میں رہتے ہوئے عمرہ

سوال: ... حج کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران مزید عمرہ کیا جاسکتا ہے جبکہ چار پانچ روز بعد مدینہ منورہ جانا ہے، وہاں سے واپسی پر فریضہ حج ادا کرنا ہے؟

جواب: ... جائز ہے۔

(۱) ان الإعانة على المعصية حرام مطلقاً بنص القرآن، أعنى قوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". (أحكام القرآن، مفتي محمد شفيع ج: ۳ ص: ۷۴). عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "... من غشنا فليس منا". (الترغيب والترهيب ج: ۲ ص: ۵۷۱، الترهيب من الغش، طبع بيروت). وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، زاد مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، ثم اتفقا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. (مشکوٰۃ ص: ۱۷، باب الكبائر وعلامات النفاق).

## عمرہ

## عمرہ، حج کا بدل نہیں ہے

سوال: ... اسلام کا پانچواں رکن (صاحب استطاعت کے لئے) فریضہ حج کی ادائیگی کرنا فرض ہے۔ مگر اکثر بزنس پیشہ حضرات جب وہ اپنا بزنس ٹرپ یورپ یا امریکہ وغیرہ کا کرتے ہیں تو وہ لوگ واپسی میں یا جاتے ہوئے مکہ المکرمہ جا کر عمرہ ادا کرتے ہیں، اور یہی حال پاکستان کے اعلیٰ افسران کا ہے جو حکومت کے خرچ پر یورپ وغیرہ برائے ٹریننگ یا حکومت کے کسی کام سے جاتے ہیں تو وہ حضرات بھی واپسی میں عمرہ ادا کر کے آتے ہیں، مگر فریضہ حج ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ غالباً ان کا خیال ہے کہ عمرہ ادا کرنا حج کا نعم البدل ہے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ عمرہ ادا کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا عمرہ ادا کرنا حج کا نعم البدل ہے؟

جواب: ... یورپ و امریکہ جاتے آتے ہوئے اگر عمرہ کی سعادت نصیب ہو جائے تو عمرہ تو کر لینا چاہئے، لیکن عمرہ، حج کا بدل نہیں ہے۔<sup>(۱)</sup> جس شخص پر حج فرض ہو، اس کا حج کرنا ضروری ہے، محض عمرہ کرنے سے فرض ادا نہیں ہوگا۔<sup>(۲)</sup>

## عمرہ اور قربانی کے لئے عقیقہ شرط نہیں

سوال: ... کیا وہ شخص عمرہ کر سکتا ہے جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہو؟ اور اس طرح کیا وہ شخص قربانی کر سکتا ہے جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو؟ کیونکہ ہم گزشتہ چار سالوں سے اللہ کے فضل و کرم سے قربانی کر رہے ہیں، جبکہ ہم میں سے کسی کا بھی عقیقہ نہیں ہوا۔ اور میرے بڑے بھائی پچھلے سال سعودی عرب نوکری پر گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور خانہ کعبہ کی زیارت سے مع عمرہ کے اسی عید الفطر پر مشرف فرمایا۔

جواب: ... عقیقہ کا ہونا قربانی اور عمرہ کے لئے کوئی شرط نہیں، اس لئے جس کا عقیقہ نہیں ہوا اس کی قربانی اور عمرہ صحیح ہے۔

احرام باندھنے کے بعد اگر بیماری کی وجہ سے عمرہ نہ کر سکے تو اس کے ذمہ عمرہ کی قضا اور دم

واجب ہے

سوال: ... عمرہ کے لئے میں نے ۲۷ رمضان المبارک کو جدہ سے احرام باندھا، لیکن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی

(۱) ان العمرة واجبة ولكنها ليست بفرضية وتسميتها حجة صغرى في الحديث يحتمل أن يكون في حكم الثواب. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۲۲۶، کتاب الحج، فصل وأما العمرة، طبع سعید کراچی)۔

(۲) "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" (آل عمران: ۹۷)۔



تھی، میں بالکل چل نہیں سکتا تھا، اور مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا کہ میں ۲۷ رمضان المبارک کو عمرہ ادا نہ کر سکا اور میں نے وہ احرام عمرہ ادا کرنے کے بغیر کھول دیا۔ میں نے مجبوری سے عمرہ ادا نہیں کیا، اس گناہ کی بخشش کس طرح ہو سکتی ہے؟  
جواب: ... آپ کے ذمہ احرام توڑ دینے کی وجہ سے ذمہ بھی واجب ہے،<sup>(۱)</sup> اور عمرہ کی قضا بھی لازم ہے۔<sup>(۲)</sup>

### ذی الحجہ میں حج سے قبل کتنے عمرے کئے جاسکتے ہیں؟

سوال: ... ایام حج سے قبل (مراد یکم تا ۸ ذی الحجہ ہے) لوگ جب وطن سے احرام باندھ کر جاتے ہیں تو ایک عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ اس دوران مزید عمرے کر سکتے ہیں یا نہیں؟  
جواب: ... حج تک مزید عمرے نہیں کرنے چاہئیں، حج سے فارغ ہو کر کرے، حج سے پہلے طواف جتنے چاہے کرتا رہے۔<sup>(۳)</sup>

### یومِ عرفہ سے لے کر ۱۳ ذی الحجہ تک عمرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے

سوال: ... میرے دوستوں کا کہنا ہے کہ حج کے اہم رکن یومِ عرفہ سے لے کر ۱۳ ذی الحجہ تک عمرہ کرنا ممنوع ہے، اگر ممنوع ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

جواب: ... یومِ عرفہ سے ۱۳ ذی الحجہ تک پانچ دن حج کے دن ہیں، ان دنوں میں عمرہ کی اجازت نہیں، اس لئے عمرہ ان دنوں میں مکروہ تحریمی ہے۔<sup>(۴)</sup>

### عمرہ کا ایصالِ ثواب

سوال: ... اگر کوئی شخص عمرہ کرتے وقت دل میں یہ نیت کرے کہ اس عمرہ کا ثواب میرے فلاں دوست یا رشتہ دار کو مل جائے، یعنی میرا یہ عمرہ میرے فلاں رشتہ دار کے نام لکھ دیا جائے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟

(۱) واذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض فممنعه من المضى جاز له التحلل ..... ويقال له إبعث شاة تذبح في الحرم... إلخ. (هداية، كتاب الحج، باب الإحصار ص: ۳۱۲ طبع رحمانیہ).

(۲) وعلى المحصر بالعمرة القضاء. (هداية ص: ۳۱۳، كتاب الحج، باب الإحصار).

(۳) وأما شرائط الركن فما ذكرنا في الحج إلا الوقت فإن السنة كلها وقت العمرة وتجوز في غير أشهر الحج وفي أشهر الحج، لكنه يكره فعلها في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، أما الجواز في الأوقات كلها فلقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، مطلقاً عن الوقت، وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا شهدتها، وما اعتمر إلا في ذي القعدة. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مع طائفة من أهله في عشر ذي الحجة فدل الحديثان على أن جوازها في أشهر الحج، وما روى عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عنها في أشهر الحج فهو محمول على نهى الشفقة على أهل الحرم لتلا يكون الموسم في وقت واحد من السنة بل في وقتين لتوسع المعيشة على أهل الحرم. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۲۲۷ فصل في العمرة، طبع ايج ايم سعيد).

(۴) العمرة ..... وجازت في كل سنة ..... وكرهت تحريمًا يوم عرفة وأربعة أيام بعدها... إلخ. (درمختار ج: ۲ ص: ۴۷۳، كتاب الحج، طبع ايج ايم سعيد كراچی).

جواب: ... جس طرح دوسرے نیک کاموں کا ایصالِ ثواب ہو سکتا ہے، عمرہ کا بھی ہو سکتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

### والدہ مرحومہ کو عمرہ کا ثواب کس طرح پہنچایا جائے؟

سوال: ... سوال کے مہینے میں ایک عمرہ اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سے کرنے کا ارادہ ہے، میں عمرہ اپنی طرف سے کر کے ثواب ان کو بخش دوں، یا عمرہ ان کی طرف کروں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور نیت کس طرح کی جائے گی؟

جواب: ... دونوں صورتیں صحیح ہیں، آپ کے لئے آسان یہ ہے کہ عمرہ اپنی طرف سے کر کے ثواب ان کو بخش دیں<sup>(۲)</sup>، اور اگر ان کی طرف سے عمرہ کرنا ہو تو احرام باندھتے وقت یہ نیت کریں کہ: ”اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سے عمرہ کا احرام باندھتا ہوں، یا اللہ! یہ عمرہ میرے لئے آسان فرما اور میری والدہ کی طرف سے اس کو قبول فرما۔“<sup>(۳)</sup>

### ملازمت کا سفر اور عمرہ

سوال: ... ہم لوگ نوکری کے سلسلے میں سعودی عرب آئے اور جدہ میں اترے اور پھر ایک ہزار میل دور کام کے لئے چلے گئے۔ اس میں ہمیں پہلے عمرہ کرنا چاہئے تھا یا کہ بعد میں؟

جواب: ... چونکہ آپ کا یہ سفر عمرہ کے لئے نہیں تھا، بلکہ ملازمت کے لئے تھا، اس لئے آپ جب بھی چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں، پہلے عمرہ کرنا آپ کے لئے ضروری نہیں تھا، خصوصاً جبکہ اس وقت آپ کو مکہ مکرمہ جانے کی اجازت ملنا بھی دشوار تھا۔<sup>(۴)</sup>

### کیا حج کے مہینے میں عمرہ کرنے والا اور عمرے کر سکتا ہے؟

سوال: ... ایک شخص نے اشہر حج میں جا کر عمرہ ادا کیا، اب وہ حج تک وہاں ٹھہرتا ہے تو کیا اس دوران وہ مزید عمرے کر سکتا ہے؟

جواب: ... متمتع کے لئے حج و عمرہ کے درمیان اور عمرے کرنا جائز ہے۔<sup>(۵)</sup>

(۱) الأصل ان كل من أتى بعبادة ماله جعل ثوابها لغيره... الخ (وفي الشامية) أي سواء كانت وصلاة أو صوماً... أو حجاً أو عمرة. (الفتاوى الشامية ج: ۲ ص: ۵۹۵، باب الحج عن الغير، مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير).

(۲) أيضاً.

(۳) ولجواز النيابة في الحج شرائط..... ومنها نية المحجوج عنه عند الإحرام والأفضل أن يقول بلسانه لبيك عن فلان. (الفتاوى الهندية ج: ۱ ص: ۲۵۷، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير).

(۴) وقتها أي العمرة جميع السنة إلا خمسة أيام... الخ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۷، الباب السادس في العمرة).

(۵) حوالہ کے لئے دیکھئے گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۴۔

## حج و عمرہ کی اصطلاحات

(حج کے مسائل میں بعض عربی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بعض احباب کا تقاضا ہے کہ شروع میں ان کے معنی لکھ دیئے جائیں، اس لئے ”معلم الحجاج“<sup>(۱)</sup> سے نقل کر کے چند الفاظ کے معنی لکھے جاتے ہیں۔)

استلام: ... حجراً سوداً بوسه دینا اور ہاتھ سے چھونایا حجراً سوداً اور رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا۔<sup>(۲)</sup>

إضطباع: ... احرام کی چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا۔<sup>(۳)</sup>

آفاقی: ... وہ شخص ہے جو میقات کی حدود سے باہر رہتا ہو، جیسے ہندوستانی، پاکستانی، مصری، شامی، عراقی اور ایرانی وغیرہ۔<sup>(۴)</sup>

ایام تشریق: ... ذوالحجہ کی گیارہویں، بارہویں اور تیرہویں تاریخیں ”ایام تشریق“ کہلاتی ہیں۔<sup>(۵)</sup> کیونکہ ان میں بھی

(نویں اور دسویں ذوالحجہ کی طرح) ہر نماز فرض کے بعد ”تکبیر تشریق“ پڑھی جاتی ہے، یعنی: ”اللہ اکبر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد“۔

ایام نحر: ... دس ذی الحجہ سے بارہویں تک۔<sup>(۶)</sup>

افراد: ... صرف حج کا احرام باندھنا اور صرف حج کے افعال کرنا۔<sup>(۷)</sup>

(۱) معلم الحجاج ص: ۷۳ تا ۷۹، مؤلفہ مولانا سعید احمد مظاہری، طبع مکتبہ تھانوی۔

(۲) (واستلمه) ای مس الحجر بالید والقبلہ۔ (جامع الرموز ج: ۲ ص: ۴۵۵، طبع ایران)۔ وأیضاً: الاستلام: صفتہ أن یضع کفہ علی الحجر الأسود ویضع فمہ بین کفہ ینقبہ من غیر صوت إن تیسر وآلا یمسحہ بالکف ویقبل کفہ بدل تقبیل الحجر کذا فی شرح المناسک۔ (قواعد الفقہ، التعریفات الفقہیة ص: ۱۷۵، طبع صدف پبلشرز)۔

(۳) الاضطباع: أن یجعل رداءہ تحت إبطہ الأیمن ویلقیہ علی کتفہ الأیسر۔ (ہدایة ج: ۱ ص: ۲۳۱، باب الإحرام)۔

(۴) الآفاقی: أرید بہ الخارجی ای خارج المواقیت۔ (فتاوی شامی ج: ۲ ص: ۴۶۸، مطلب فی فروض الحج وواجباتہ)۔  
(۵) ۶، ۵) وأیام النحر ثلاثة، وأیام التشریق ثلاثة ویمضی ذالک کلہ فی أربعة أيام، فالیوم العاشر من ذی الحجہ للنحر خاصة، والیوم الثالث عشر للتشریق خاصة والیومان فیما بینہما للنحر والتشریق جميعاً۔ (بدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۲۷۶، فصل فی صلاة العیدین)۔

(۷) الأفراد أن یحرم بالحج وحده۔ (الفقہ الإسلامی وأدلته ج: ۳ ص: ۲۱۵)۔

تسبیح: ... "سبحان الله" کہنا۔<sup>(۱)</sup>

تمتع: ... حج کے مہینوں میں پہلے عمرہ کرنا پھر اسی سال میں حج کا احرام باندھ کر حج کرنا۔<sup>(۲)</sup>

تلبیہ: ... لبیک پوری پڑھنا۔<sup>(۳)</sup>

تہلیل: ... "لا إله إلا الله" پڑھنا۔<sup>(۴)</sup>

جمرات یا جمار: ... منیٰ میں تین مقام ہیں جن پر قد آدم ستون بنے ہوئے ہیں، یہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ان میں سے جو مسجد خیف کے قریب مشرق کی طرف ہے اس کو "جمرة الأولى" کہتے ہیں، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف بیچ والے کو "جمرة الوسطیٰ"، اور اس کے بعد والے کو "جمرة الکبریٰ" اور "جمرة العقبہ" اور "جمرة الأخریٰ" کہتے ہیں۔<sup>(۵)</sup>

رمل: ... طواف کے پہلے تین پھیروں میں اکڑ کر شانہ ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر ذرا تیزی سے چلنا۔<sup>(۶)</sup>

رمی: ... کنکریاں پھینکنا۔<sup>(۷)</sup>

زم زم: ... مسجد حرام میں بیت اللہ کے قریب ایک مشہور چشمہ ہے جو آب کنویں کی شکل میں ہے، جس کو حق تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کے لئے جاری کیا تھا۔<sup>(۸)</sup>

(۱) التسبیح: هو ان يقول سبحان الله. (قواعد الفقه ص: ۲۳۸).

(۲) التمتع هو الجمع بين أفعال الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة يا حرامين بتقديم أفعال العمرة من غير يلتم بأهله إماماً صحيحاً. (قواعد الفقه ص: ۲۳۷، وأيضاً هداية ج: ۱ ص: ۲۴۱).

(۳) التلبية: هي لبك اللهم لبك، لا شريك لك لبك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبك. (قواعد الفقه ص: ۲۳۵). التلبية: لبك اللهم لبك، لبك لا شريك لك لبك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. (الجوهرة النيرة ج: ۱ ص: ۱۵۵، طبع مجتبائی دہلی).

(۴) التهليل: هو أن يقول لا إله إلا الله، وهو مأخوذ من الهيل. (قواعد الفقه ص: ۲۴۲، طبع صدف پبلشرز کراچی).

(۵) الجمار والجمرات: هي الحصاة يعني الصغار من الأحجار جمع الجمرة. وسموا المواضع التي ترمى جماراً وجمرات. الجمار الثلاث: هي العقبه والوسطى والقصى بمنى. (قواعد الفقه ص: ۲۵۱، طبع صدف).

(۶) الرمل بفتح تحتين سرعة المشي مع تقارب الخطى وهز الكفين مع الإضطباع. (الجوهرة النيرة ج: ۱ ص: ۱۵۸، طبع مجتبائی دہلی). الرمل: في الطواف هو أن يمشی في الطواف سريعاً ويهز في مشيته الكتفين كالبارزين بين الصفيين. (قواعد الفقه ص: ۳۱۰، وكذا التعريفات ص: ۹۹).

(۷) رمى الجمار في اللغة هو القذف بالأحجار الصغار وهي الحصى. (البدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۳۷).

(۸) زمزم: بئر عند الكعبة غير منصرف، وماء زمزم أي كثير. (قواعد الفقه ص: ۳۱۴). وأيضاً: وزمزم: بئر مشهورة بمكة بجوار الكعبة يتبرك بها ويشرب مائها وينقل إلى الجهات. (المعجم الوسيط ج: ۱ ص: ۴۰۰). نیز تفصیل کے لئے دیکھئے: فتح الباری، کتاب الانبیاء ج: ۶ ص: ۳۹۶ تا ۴۰۷، طبع دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور پاکستان.

سعی: ... صفا اور مروہ کے درمیان مخصوص طریق سے سات چکر لگانا۔<sup>(۱)</sup>

شوط: ... ایک چکر بیت اللہ کے چاروں طرف لگانا۔<sup>(۲)</sup>

صفا: ... بیت اللہ کے قریب جنوبی طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس سے سعی شروع کی جاتی ہے۔<sup>(۳)</sup>

طواف: ... بیت اللہ کے چاروں طرف سات چکر مخصوص طریق سے لگانا۔<sup>(۴)</sup>

عمرہ: ... جلّ یا میقات سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کرنا۔<sup>(۵)</sup>

عرفات یا عرفہ: ... مکہ مکرمہ سے تقریباً ۹ میل مشرق کی طرف ایک میدان ہے جہاں پر حاجی لوگ نویں ذی الحجہ کو ٹھہرتے ہیں۔<sup>(۶)</sup>

قرآن: ... حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ کر پہلے عمرہ کرنا پھر حج کرنا۔<sup>(۷)</sup>

قارن: ... قرآن کرنے والا۔

قرن: ... مکہ مکرمہ سے تقریباً ۴۲ میل پر ایک پہاڑ ہے، نجد، یمن اور نجد حجاز اور نجد تہامہ سے آنے والوں کی میقات ہے۔<sup>(۸)</sup>

قصر: ... بال کتر وانا۔<sup>(۹)</sup>

(۱) السعی: الإسراع فی المشی وهو دون العَدُو ..... قال الراغب وخص السعی فیما بین الصفا والمروة. (قواعد الفقه ص: ۳۲۲).

(۲) الشوط: هو الجری مرّةً إلى الغایة ویراد به عند الفقهاء الطواف مرّةً جمعه أشواط. (قواعد الفقه ص: ۳۳۲). وفي الجوهرة النيرة ج: ۱ ص: ۱۵۸ فیطوف بالبيت سبعة أشواط، الشوط من الحجر إلى الحجر.

(۳) ثم ینخرج إلى الصفا فیصعد علیه ..... فیطوف سبعة أشواط یبدأ بالصفا ینتختم بالمروة. (هدایة ج: ۱ ص: ۲۳۲-۲۳۳ کتاب الحج).

(۴) الطواف: لغة: الدوران حول الشیء، وشرعاً: هو الدوران حول البيت الحرام. (قواعد الفقه ص: ۳۶۵).

(۵) العمرة، اسم من الإعتمار، هی لغة الزيارة والقصد إلى مكان عامر، وشرعاً قصد بیت الله بأفعال مخصوصة، وتسمی بالحج الأصغر، وأفعالها أربعة: الإحرام، والطواف، والسعی، والحلق... الخ. (قواعد الفقه ص: ۳۹۰).

(۶) المنجد ص: ۶۳۵، وقواعد الفقه ص: ۳۷۸. العرفات: اسم للموقوف المعروف ویتّم الحج بالوقوف بها.

(۷) صفة القرآن، أن یهل بالعمرة والحج من المیقات، قدم العمرة لأن الله قدمها ..... ولأن أفعالها متقدمة علی أفعال الحج. (الجوهرة النيرة ج: ۱ ص: ۱۶۷، طبع دهلی). وأيضاً: القرآن هو الجمع بین العمرة والحج یا حرام واحد فی سفر واحد. (قواعد الفقه ص: ۳۲۶).

(۸) والمواقیت ..... ولأهل نجد قرن المنازل، بسكون الراء، مغرب علی مرحلتین من مكة، وفي الحاشية (۴) تبعد عن مكة ۹۳ کیلومتراً وهو جبل شرقی مكة یطل علی عرفات. (اللباب فی شرح الكتاب، کتاب الحج، ج: ۱ ص: ۱۶۵ طبع قدیمی کتب خانہ).

(۹) التقصیر فی الحج: أن یقطع رؤس شعر رأسه قدر أنملة ونحوه عند الإحلال. (قواعد الفقه ص: ۲۳۳، طبع صدف پبلشرز کراچی، المنجد ص: ۸۰۸، طبع دارالاشاعت کراچی).

محرم: ... احرام باندھنے والا۔<sup>(۱)</sup>

مفرد: ... حج کرنے والا، جس نے میقات سے اکیلے حج کا احرام باندھا ہو۔<sup>(۲)</sup>

میقات: ... وہ مقام جہاں سے مکہ مکرمہ جانے والے کے لئے احرام باندھنا واجب ہے۔<sup>(۳)</sup>

جحفہ: ... رابع کے قریب مکہ مکرمہ سے تین منزل پر ایک مقام ہے، شام سے آنے والوں کی میقات ہے۔<sup>(۴)</sup>

جنت المَعْلَى: ... مکہ مکرمہ کا قبرستان۔

جبلِ رَحْمَت: ... عرفات میں ایک پہاڑ ہے۔<sup>(۵)</sup>

حجرِ اسود: ... سیاہ پتھر، یہ جنت کا پتھر ہے، جنت سے آنے کے وقت دُودھ کی مانند سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے

اس کو سیاہ کر دیا۔ یہ بیت اللہ کے مشرقی جنوبی گوشے میں قد آدم کے قریب اونچائی پر بیت اللہ کی دیوار میں گڑا ہوا ہے، اس کے چاروں

طرف چاندی کا حلقہ چڑھا ہوا ہے۔<sup>(۶)</sup>

حرم: ... مکہ مکرمہ کے چاروں طرف کچھ دُور تک زمین ”حرم“ کہلاتی ہے، اس کی حدود پر نشانات لگے ہوئے ہیں، اس میں

شکار کھیلنا، درخت کاٹنا، گھاس جانور کو چرانا حرام ہے۔<sup>(۷)</sup>

حِلّ: ... حرم کے چاروں طرف میقات تک جو زمین ہے اس کو ”حلّ“ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ چیزیں حلال ہیں جو حرم

کے اندر حرام تھیں۔<sup>(۸)</sup>

(۱) المُحْرِم: من أحرم بالعمرة أو بالحج أو بهما. (قواعد الفقه ص: ۳۷۰)۔

(۲) الإحرام أربعة أوجه: ۱- إحرام الحجّة المفردة ..... أما الإحرام بحجة مفردة فهو ان يقول عند الميقات: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني. (خزانة الفقه، كتاب وجوه الإحرام ص: ۸۸)۔ وأيضاً: المفرد ..... بكسر الراء هو من أفرّد بإحرام الحج. (قواعد الفقه ص: ۳۹۹)۔

(۳) المواقيت: جمع ميقات وهي المواضع التي لا يجاوزها مرید مكة إلا مُحْرَمًا... الخ. (قواعد الفقه ص: ۵۱۲، الجوهرة النيرة ج: ۱ ص: ۱۵۳)۔

(۴) جحفة: موضع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي ميقات أهل الشام. (قواعد الفقه ص: ۲۳۶)۔ وأيضاً: ولأهل الشام الجحفة، على ثلاث مراحل من مكة بقرب رابع. (اللباب في شرح الكتاب ج: ۱ ص: ۱۶۵)۔

(۵) اللباب في شرح الكتاب، كتاب الحج، فصل يوم التروية وعرفة ج: ۱ ص: ۱۷۱، طبع قديمي كتب خانہ۔

(۶) وعنه (أى ابن عباس) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن، فسوّته خطايا بني آدم. (مشكوة، باب دخول مكة، والطواف، الفصل الثاني ص: ۲۲۷، طبع قديمي، وكذا في البحر العميق ج: ۱ ص: ۱۷۳، طبع مؤسسة الريان، المكتبة المكية، مصر)۔

(۷) الحرم: بالتحريك إذا أطلق أريد به حرم مكة المكرمة وهو مواضع معروفة محددة بنوع من العلاقة، وخارجها الحل. (قواعد الفقه ص: ۲۶۳)۔

(۸) الحل: بالفتح ضد العقد وبالكسر، ما جاوز الحرم من أرض مكة ويقابله الحرم. (قواعد الفقه ص: ۲۶۷)۔

حلق: ... سر کے بال منڈانا۔<sup>(۱)</sup>

حطیم: ... بیت اللہ کی شمالی جانب بیت اللہ سے متصل قد آدم دیوار سے کچھ حصہ زمین کا گھرا ہوا ہے، اس کو ”حطیم“ اور ”حظیرہ“ بھی کہتے ہیں۔<sup>(۲)</sup> جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے ذرا پہلے جب خانہ کعبہ کو قریش نے تعمیر کرنا چاہا تو سب نے یہ اتفاق کیا کہ حلال کمائی کا مال اس میں صرف کیا جائے، لیکن سرمایہ کم تھا اس وجہ سے شمال کی جانب اصل قدیم بیت اللہ میں سے تقریباً چھ گز شرعی جگہ چھوڑ دی، اس چھٹی ہوئی جگہ کو ”حطیم“ کہتے ہیں۔<sup>(۳)</sup> اصل ”حطیم“ چھ گز شرعی کے قریب ہے، اب کچھ احاطہ زائد بنا ہوا ہے۔

دَم: ... احرام کی حالت میں بعض ممنوع افعال کرنے سے بکری وغیرہ ذبح کرنی واجب ہوتی ہے، اس کو ”دَم“ کہتے ہیں۔<sup>(۴)</sup>  
ذوالحلیفہ: ... یہ ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ منورہ سے تقریباً چھ میل پر واقع ہے، مدینہ منورہ کی طرف سے مکہ مکرمہ آنے والوں کے لئے میقات ہے، اسے آج کل ”بیر علی“ کہتے ہیں۔<sup>(۵)</sup>

ذات عرق: ... ایک مقام کا نام ہے جو آج کل ویران ہو گیا، مکہ مکرمہ سے تقریباً تین روز کی مسافت پر ہے، عراق سے مکہ مکرمہ آنے والوں کی میقات ہے۔<sup>(۶)</sup>

(۱) المنجد مترجم ص: ۲۳۳۔

(۲) الحطیم: ویسَمی الحجر وحظیرة اسماعیل علیہ السلام وہی البقعة التي تحت المیزاب بہ حاجز کنصف دائرة بینہ وبين البيت فرجه ستة ذراع۔ (قواعد الفقه ص: ۲۶۶)۔

(۳) عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجدار أمن البيت هو؟ قال: نعم! قلت: فما لهم لم یدخلوه فی البيت؟ قال: إن قومک قصرت بهم النفقة۔ قلت: فما شان بابہ مرتفعاً؟ قال: فعل ذلك قومک لیدخلوا من شاءوا ویمنعوا من شاءوا ولولا ان قومک حدیث عهدہم بالجاهلیة فأخاف أن تُنکر قلوبہم أن أدخل الجدر فی البيت وأن ألق بآبئہ بالأرض۔ (الصحيح للبخاری، باب فضل مكة وبنیانها ج: ۱ ص: ۲۱۵)۔

وفی الفتح: (قصرت بهم النفقة) ویوضحہ ما ذکر ابن اسحاق فی ”السیرة“ عن عبد اللہ بن أبی نجیح أنه أخبر عن عبد اللہ بن صفوان بن أمیة أن أباه وھب..... قال لقریش: لا تدخلوا فیہ من کسبکم إلا الطیب، ولا تدخلوا فیہ محصر بغی ولا بیع رباً ولا مظلمة أحد من الناس۔ عن عبد اللہ بن أبی یزید عن أبیہ أنه شہد عمر بن الخطاب..... فسأله عمر عن بناء الكعبة فقال: إن قریشاً تقربت لبناء الكعبة - أي بالنفقة الطيبة - فعجزت فترکوا البيت فی الحجر، فقال عمر: صدقت۔ (فتح الباری ج: ۳ ص: ۵۶۶ طبع قدیمی کتب خانہ کراچی)۔

(۴) الدم فی جنایة الحج: هو ذبح حیوان من الإبل والبقر والغنم، وحيثما أطلق فالمراد به ذبح شاة... الخ۔ (قواعد الفقه ص: ۲۹۳، طبع صدف پبلشرز کراچی)۔

(۵) ولأهل المدينة ذوالحلیفة، بضم ففتح، موضع علی سنة أمیال من المدينة، وعشر مراحل من مكة، وتعرف الآن بآبار علی۔ (اللباب فی شرح الكتاب، كتاب الحج، المواقيت ج: ۱ ص: ۱۶۵، طبع قدیمی کتب خانہ)۔

(۶) ذات عرق: میقات أهل العراق۔ (قواعد الفقه ص: ۲۹۸)۔ أيضاً: ولأهل العراق ذات عرق، بكسر فسكون، علی مرحلتین من مكة۔ وفي الحاشية ۲: تبعد عن مكة ۹۲ كيلومتراً، وهي فی الشمال الشرقي لمكة۔ (اللباب فی شرح الكتاب ج: ۱ ص: ۱۶۵، كتاب الحج، المواقيت، طبع قدیمی، خزانة الفقه ص: ۸۹، طبع المكتبة العاصمية الغفورية)۔

- رُکنِ یمانی:.... بیت اللہ کے جنوب مغربی گوشے کو کہتے ہیں، چونکہ یہ یمین کی جانب ہے۔<sup>(۱)</sup>
- مطاف:.... طواف کرنے کی جگہ جو بیت اللہ کے چاروں طرف ہے اور اس میں سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔
- مقامِ ابراہیم:.... جنتی پتھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کو بنایا تھا، مطاف کے مشرقی کنارے پر منبر اور زم زم کے درمیان ایک جالی دار قبے میں رکھا ہوا ہے۔<sup>(۲)</sup>
- ملتزم:.... حجرِ اُسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کی دیوار جس پر لپٹ کر دُعا مانگنا مسنون ہے۔<sup>(۳)</sup>
- مسجدِ خیف:.... منیٰ کی بڑی مسجد کا نام ہے، جو منیٰ کی شمالی جانب میں پہاڑ سے متصل ہے۔<sup>(۴)</sup>
- مسجدِ نمرہ:.... عرفات کے کنارے پر ایک مسجد ہے۔
- مدعی:.... دُعا مانگنے کی جگہ، مراد اس سے مسجدِ حرام اور مکہ مکرمہ کے قبرستان کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں دُعا مانگنی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے وقت مستحب ہے۔
- مزدلفہ:.... منیٰ اور عرفات کے درمیان ایک میدان ہے جو منیٰ سے تین میل مشرق کی طرف ہے۔<sup>(۵)</sup>
- محسّر:.... مزدلفہ سے ملا ہوا ایک میدان ہے جہاں سے گزرتے ہوئے دوڑ کر نکلتے ہیں، اس جگہ اصحابِ فیل پر جنھوں نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی عذاب نازل ہوا تھا۔<sup>(۶)</sup>
- مروہ:.... بیت اللہ کے شرقی شمالی گوشے کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس پر سعی ختم ہوتی ہے۔<sup>(۷)</sup>

(۱) وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطاً ..... وانما سُمي الركن اليماني فيما ذكر القتيبي: لأن رجلاً من اليمن بناه. (البحر العميق ج: ۱ ص: ۱۷۷-۱۷۸ طبع مؤسسة الريان، المكتبة المكية).

(۲) عن سعيد بن جبیر: "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى" قال: الحجر مقام إبراهيم نبي الله، قد جعله الله رحمة، فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة. (تفسير ابن كثير، سورة البقرة آية: ۱۲۵، ج: ۱ ص: ۳۶۱ طبع رشيدية). أيضاً تفسير مدارك ج: ۱ ص: ۱۲۸ طبع دار ابن كثير، بيروت).

(۳) الملتزم: هو ما بين الحجر الأسود إلى باب الكعبة الشريفة من حائط الكعبة الشريفة. (قواعد الفقه ص: ۵۰۵، أيضاً البحر العميق ج: ۱ ص: ۱۸۵ طبع مكه).

(۴) قال ابن فارس اللغوي: الخيف ارتفاع من الأرض وانحدار من الجبل، ومسجد منى يسمى مسجد الخيف لأنه في سفح جبلها. (البحر العميق، فصل مسجد الخيف، ج: ۱ ص: ۲۳۶ طبع مؤسسة الريان، المكتبة المكية).

(۵) المزدلفة: موضع بين منى و عرفات وفيها المشعر الحرام وهو المغمم أي موضع علامة الحرم. (قواعد الفقه ص: ۳۸۰).

(۶) قوله: إلا بطن محسّر وهو واد بأسفل مزدلفة عن يسارها، وقف فيه إبليس منحسراً. (الجوهرة النيرة، كتاب الحج ج: ۱ ص: ۱۶۲). وأول محسّر من القرن المشرف من الجبل الذي على يسار الذهاب إلى منى، سمي به لأنه فيل أصحاب الفيل أعيا فيه. (فتح القدير، كتاب الحج ج: ۲ ص: ۱۷۳ طبع دار صادر، بيروت).

(۷) المروة:.... وفي الحج جبل بمكة. (قواعد الفقه ص: ۴۷۹، طبع صدف پبلشرز كراچی).



میلین اخضرین: ... صفا اور مروہ کے درمیان مسجد حرام کی دیوار میں دو سبز میل لگے ہوئے ہیں، جن کے درمیان سعی کرنے والے دوڑ کر چلتے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

موقف: ... ٹھہرنے کی جگہ، حج کے افعال میں اس سے مراد میدانِ عرفات یا مزدلفہ میں ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے۔<sup>(۲)</sup>  
میقاتی: ... میقات کا رہنے والا۔

وقوف: ... کے معنی ٹھہرنا، اور احکام حج میں اس سے مراد میدانِ عرفات یا مزدلفہ میں خاص وقت میں ٹھہرنا۔<sup>(۳)</sup>  
ہدی: ... جو جانور حاجی حرم میں قربانی کرنے کو ساتھ لے جاتا ہے۔<sup>(۴)</sup>

یومِ عرفہ: ... نویں ذوالحجہ، جس روز حج ہوتا ہے اور حاجی لوگ عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔<sup>(۵)</sup>

یلملم: ... مکہ مکرمہ سے جنوب کی طرف دو منزل پر ایک پہاڑ ہے، اس کو آج کل ”سعدیہ“ بھی کہتے ہیں، یہ یمن اور ہندوستان اور پاکستان سے آنے والوں کی میقات ہے۔<sup>(۶)</sup>

## حج کرنے والوں کے لئے ہدایات

سوال: ... اسلام کے ارکان میں حج کی کیا اہمیت ہے؟ لاکھوں مسلمان ہر سال حج کرتے ہیں، پھر بھی ان کی زندگیوں میں دینی انقلاب نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس موضوع پر روشنی ڈالئے۔

جواب: ... حج، اسلام کا عظیم الشان رکن ہے۔ اسلام کی تکمیل کا اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا، اور حج ہی سے ارکانِ اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ احادیثِ طیبہ میں حج و عمرہ کے فضائل بہت کثرت سے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔  
ایک حدیث میں ہے کہ:

(۱) (قوله فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعی بين الميلين الأخضرين) وهما علامتان لموضع الهرولة، وهما شيتان منحوتان من جدار المسجد لا انهما مفضلان عن الجدار، وسماها أخضرين على طريق الأغلب والآخر أحمر.....  
فجعل هناك ميلان علامة لموضع الهرولة، ليعرف أنه بطن الوادي. (الجوهرة النيرة، كتاب الحج ج: ۱ ص: ۱۵۹).

(۲) الموقف: الموقف اثنان، ۱- وقوف بعرفات: يقف الحاج بقرب الجبل بعد الظهر والعصر إلى أن تغرب الشمس ..... ۲- وأما الموقف الثاني فبالمزدلفة، يقف الإمام والناس معه بعد ما صلى صلاة الفجر من يوم النحر يغلس إلى أن ترتفع الشمس... الخ. (خزانة الفقه لأبي الليث ص: ۹۱ كتاب الحج، الموقف، طبع المكتبة العاصمية).  
(۳) ايضاً۔

(۴) الهدى: بالفتح..... اسم لما أهدى إلى الحرم من النعم أو ما ينقل للذبح من النعم إلى الحرم، والهدى من ثلاثة، من الإبل والبقر والغنم. (قواعد الفقه ص: ۵۵۱، وأيضاً فتاوى شامى ج: ۲ ص: ۶۱۴، باب الهدى).

(۵) يوم الحج يوم العرفة: هو التاسع من ذى الحجة، وسُمي بيوم عرفة لأن آدم وحواء بعد ما أهبطا إلى الأرض وافترقا فلم يجتمعا سنين ثم التقيا يوم عرفة بعرفات قاله النسفي... الخ. (قواعد الفقه ص: ۵۵۸، المنجد ص: ۶۳۵).

(۶) يلملم: ميمات أهل اليمن ومن في جهتهم من أهل باكستان والهند واندونيسيا وغيرهم. (قواعد الفقه ص: ۵۵۵)،  
وأيضاً: وهو جبل من جبال تهامة مشهور في زماننا بالسعدية. (حاشية هداية ج: ۱ ص: ۲۱۴، طبع ملتان).

”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حجَّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمُّه. متفق عليه.“  
(مشکوٰۃ ص: ۲۲۱)

ترجمہ:...”جس نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے حج کیا، پھر اس میں نہ کوئی فحش بات کی اور نہ نافرمانی کی، وہ ایسا پاک صاف ہو کر آتا ہے جیسا ولادت کے دن تھا۔“  
ایک اور حدیث میں ہے کہ:

”سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه.“  
(مشکوٰۃ ص: ۲۲۱)

ترجمہ:...”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا: اس کے بعد؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا: اس کے بعد؟ فرمایا: حج مبرور۔“  
ایک اور حدیث میں ہے کہ:

”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. متفق عليه.“  
(ایضاً)  
ترجمہ:...”ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ درمیانی عرصے کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی۔“  
ایک اور حدیث میں ہے کہ:

”وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكبر خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرور ثواب الا الجنة.“  
(مشکوٰۃ ص: ۲۲۲)

ترجمہ:...”پے درپے حج و عمرے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو صاف کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب صرف جنت ہے۔“

حج، عشقِ الہی کا مظہر ہے، اور بیت اللہ شریف مرکز تجلیاتِ الہی ہے، اس لئے بیت اللہ شریف کی زیارت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی میں حاضری ہر مومن کی جانِ تمنا ہے، اگر کسی کے دل میں یہ آرزو چٹکیاں نہیں لیتی تو سمجھنا چاہئے کہ اس کے ایمان کی جڑیں خشک ہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ:

”و عن علی قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زاداً وراحلةً تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً... الخ.“ (مشکوٰۃ ص: ۲۲۲) ترجمہ:...” جو شخص بیت اللہ تک پہنچنے کے لئے زاد و راحلہ رکھتا تھا اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، تو اس کے حق میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے۔“ ایک اور حدیث میں ہے کہ:

”و عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج، فليمت ان شاء يهودياً وان شاء نصرانياً.“ (مشکوٰۃ ص: ۲۲۲)

ترجمہ:...” جس شخص کو حج کرنے سے نہ کوئی ظاہری حاجت مانع تھی، نہ سلطان جائر اور نہ بیماری کا عذر تھا، تو اسے اختیار ہے کہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔“

ذرائع مواصلات کی سہولت اور مال کی فراوانی کی وجہ سے سال بہ سال حجاج کرام کی مردم شماری میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن بہت ہی رنج و صدمہ کی بات ہے کہ حج کے انوار و برکات مدہم ہوتے جا رہے ہیں، اور جو فوائد و ثمرات حج پر مرتب ہونے چاہئیں ان سے امت محروم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت تھوڑے بندے ایسے رہ گئے ہیں جو فریضہ حج کو اس کے شرائط و آداب کی رعایت کرتے ہوئے ٹھیک ٹھیک بجالاتے ہوں، ورنہ اکثر حاجی صاحبان اپنا حج غارت کر کے ”نیکی برباد، گناہ لازم“ کا مصداق بن کر آتے ہیں۔ نہ حج کا صحیح مقصد ان کا صحیح نظر ہوتا ہے، نہ حج کے مسائل و احکام سے انہیں واقفیت ہوتی ہے، نہ یہ سیکھتے ہیں کہ حج کیسے کیا جاتا ہے؟ اور نہ ان پاک مقامات کی عظمت و حرمت کا پورا لحاظ کرتے ہیں، بلکہ اب تو ایسے مناظر دیکھنے میں آرہے ہیں کہ حج کے دوران محرمات کا ارتکاب ایک فیشن بن گیا ہے، اور یہ امت گناہ کو گناہ ماننے کے لئے بھی تیار نہیں، انا لله وانا اليه راجعون! ظاہر ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے بغاوت کرتے ہوئے حج کیا جائے، وہ انوار و برکات کا کس طرح حامل ہو سکتا ہے؟ اور رحمت خداوندی کو کس طرح متوجہ کر سکتا ہے؟

سب سے پہلے تو حکومت کی طرف سے درخواست حج پر فوٹو چسپاں کرنے کی تیخ لگادی گئی ہے، اور غضب پر غضب اور ستم بالائے ستم یہ کہ پہلے پردہ نشین مستورات اس قید سے آزاد تھیں، لیکن ”نفاذ اسلام“ کے جذبے نے اب ان پر بھی فوٹوؤں کی پابندی عائد کر دی ہے، پھر حجاج کرام کی تربیت کے لئے ”حج فلمیں“ دکھائی جاتی ہیں۔ جس عبادت کا آغاز فوٹو اور فلم کی لعنت سے ہو، اس کا انجام کیا کچھ ہو گا یا ہو سکتا ہے؟ اور چونکہ حاجی صاحبان بزم خود حج فلمیں دیکھ کر حج کرنا سیکھ جاتے ہیں اس لئے نہ انہیں مسائل حج کی کسی کتاب کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے اور نہ کسی عالم سے مسائل سمجھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، نتیجہ یہ کہ جس کے جی میں جو آتا ہے کرتا ہے۔

حاجی صاحبان کے قافلے گھر سے رخصت ہوتے ہیں تو پھولوں کے ہار پہننا پہنانا گویا حج کا لازمہ ہے کہ اس کے بغیر حاجی کا

جانا ہی معیوب ہے۔ چلتے وقت جو خشیت و تقویٰ، حقوق کی ادائیگی، معاملات کی صفائی اور سفر شروع کرنے کے آداب کا اہتمام ہونا چاہئے، اس کا دُور دُور کہیں نشان نظر نہیں آتا۔ گویا سفر مبارک کا آغاز ہی آداب کے بغیر محض نمود و نمائش اور ریا کاری کے ماحول میں ہوتا ہے۔ اب ایک عرصہ سے صدر مملکت، گورنر یا اعلیٰ حکام کی طرف سے جہاز پر حاجی صاحبان کو الوداع کہنے کی رسم شروع ہوئی ہے، اس موقع پر بینڈ باجے، فوٹو گرائی اور نعرہ بازی کا سرکاری طور پر ”اہتمام“ ہوتا ہے۔ غور فرمایا جائے کہ یہ کتنے محرمات کا مجموعہ ہے...!

سفر حج کے دوران نماز باجماعت تو کیا، ہزاروں میں کوئی ایک آدھ حاجی ایسا ہوتا ہوگا جس کو اس کا پورا پورا احساس ہوتا ہو کہ اس مقدس سفر کے دوران کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے، ورنہ حجاج کرام تو گھر سے نمازیں معاف کرا کر چلتے ہیں، اور بہت سے وقت بے وقت جیسے بن پڑے پڑھ لیتے ہیں۔ مگر نمازوں کا اہتمام ان کے نزدیک کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا بلکہ بعض تو حرمین شریفین پہنچ کر بھی نمازوں کے اوقات میں بازاروں کی رونق دوبالا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں حج کے سلسلے میں جو اہم ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے:

”حج کے دوران نہ نقش کلامی ہو، نہ حکم عدولی اور نہ لڑائی جھگڑا“<sup>(۱)</sup>

اور احادیث طیبہ میں بھی حج مقبول کی علامت یہی بتائی گئی ہے کہ: ”وہ نقش کلامی اور نافرمانی سے پاک ہو۔“ لیکن حاجی صاحبان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان ہدایات کو پیش نظر رکھتے ہوں اور اپنے حج کو غارت ہونے سے بچاتے ہوں۔ گانا بجانا اور داڑھی منڈانا، بغیر کسی اختلاف کے حرام اور گناہ کبیرہ ہیں۔ لیکن حاجی صاحبان نے ان کو گویا گناہوں کی فہرست ہی سے خارج کر دیا ہے، حج کا سفر ہو رہا ہے اور بڑے اہتمام سے داڑھیاں صاف کی جا رہی ہیں، اور ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر سے نغمے سنے جا رہے ہیں، انا

للہ وانا الیہ راجعون!

اس نوعیت کے بیسیوں گناہ کبیرہ اور ہیں جن کے حاجی صاحبان عادی ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے بھی ان کو نہیں چھوڑتے۔ حاجی صاحبان کی یہ حالت دیکھ کر ایسی اذیت ہوتی ہے جس کے اظہار کے لئے موزوں الفاظ نہیں ملتے۔ اسی طرح سفر حج کے دوران عورتوں کی بے حجابی بھی عام ہے، بہت سے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی دوران سفر برہنہ سر نظر آتی ہیں، اور غضب یہ ہے کہ بہت سی عورتیں شرعی محرم کے بغیر سفر حج پر چلی جاتی ہیں اور جھوٹ موٹ کسی کو محرم لکھوا دیتی ہیں۔ اس سے جو گندگی پھیلتی ہے وہ ”اگر گویم زبان سوزد“ کی مصداق ہے۔

جہاں تک اس ارشاد کا تعلق ہے کہ: ”حج کے دوران لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہئے“، اس کا منشا یہ ہے کہ اس سفر میں چونکہ ہجوم بہت ہوتا ہے اور سفر بھی طویل ہوتا ہے، اس لئے دوران سفر ایک دوسرے سے ناگواریوں کا پیش آنا اور آپس کے جذبات میں تصادم کا ہونا یقینی ہے، اور سفر کی ناگواریوں کو برداشت کرنا اور لوگوں کی اذیتوں پر برافروختہ نہ ہونا بلکہ تحمل سے کام لینا یہی اس سفر کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس کا حل یہی ہو سکتا ہے کہ ہر حاجی اپنے رفقاء کے جذبات کا احترام کرے، دُوسروں کی طرف سے اپنے آئینہ دل کو صاف و شفاف رکھے، اور اس راستے میں جو ناگواری بھی پیش آئے، اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ خود اس کا پورا اہتمام

(۱) ”فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ“ (البقرة: ۱۹۷)۔

کرے کہ اس کی طرف سے کسی کو ذرا بھی اذیت نہ پہنچے اور دوسروں سے جو اذیت اس کو پہنچے اس پر کسی ردِ عمل کا اظہار نہ کرے۔ دوسروں کے لئے اپنے جذبات کی قربانی دینا اس سفر مبارک کی سب سے بڑی سوغات ہے، اور اس دولت کے حصول کے لئے بڑے مجاہدے و ریاضت اور بلند حوصلے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز اہل اللہ کی صحبت کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔

عازمین حج کی خدمت میں بڑی خیر خواہی اور نہایت دل سوزی سے گزارش ہے کہ اپنے اس مبارک سفر کو زیادہ سے زیادہ برکت و سعادت کا ذریعہ بنانے کے لئے مندرجہ ذیل معروضات کو پیش نظر رکھیں:

\*... چونکہ آپ محبوب حقیقی کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اس لئے آپ کے اس مقدس سفر کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور شیطان آپ کے اوقات ضائع کرنے کی کوشش کرے گا۔

\*... جس طرح سفر حج کے لئے ساز و سامان اور ضروریات سفر مہیا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر حج کے احکام و مسائل سیکھنے کا اہتمام ہونا چاہئے۔ اور اگر سفر سے پہلے اس کا موقع نہیں ملا تو کم از کم سفر کے دوران اس کا اہتمام کر لیا جائے کہ کسی عالم سے ہر موقع کے مسائل پوچھ پوچھ کر ان پر عمل کیا جائے۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل کتابیں ساتھ رہنی چاہئیں اور ان کا بار بار مطالعہ کرنا چاہئے، خصوصاً ہر موقع پر اس سے متعلقہ حصے کا مطالعہ خوب غور سے کرتے رہنا چاہئے، کتابیں یہ ہیں:

۱: "... فضائل حج" از حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ۔

۲: "... آپ حج کیسے کریں؟" از مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ۔

۳: "... معلم الحجاج" از مولانا مفتی سعید احمد مرحوم۔

اس مبارک سفر کے دوران تمام گناہوں سے پرہیز کریں اور عمر بھر کے لئے گناہوں سے بچنے کا عزم کریں، اور اس کے لئے حق تعالیٰ شانہ سے خصوصی دعائیں بھی مانگیں۔ یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رہنی چاہئے کہ حج مقبول کی علامت ہی یہ ہے کہ حج کے بعد آدمی کی زندگی میں دینی انقلاب آجائے۔ جو شخص حج کے بعد بھی بدستور فرائض کا تارک اور ناجائز کاموں کا مرتکب ہے، اس کا حج مقبول نہیں۔ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزرنا چاہئے، اور سوائے اشد ضرورت کے بازاروں کا گشت قطعاً نہیں ہونا چاہئے۔ دُنیا کا ساز و سامان آپ کو مہنگا سستا، اچھا برا اپنے وطن میں بھی مل سکتا ہے، لیکن حرم شریف سے میسر آنے والی سعادتیں آپ کو کسی دوسری جگہ میسر نہیں آئیں گی۔ وہاں خریداری کا اہتمام نہ کریں، خصوصاً وہاں سے ریڈیو، ٹیلیویشن، ایسی چیزیں لانا بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ کسی زمانے میں حج و عمرہ میں کھجور اور آب زم زم، حرمین شریفین کی سوغات تھیں۔ اور اب ریڈیو، ٹیلیویشن ایسی ناپاک اور گندی چیزیں حرمین شریفین سے بطور تحفہ لائی جاتی ہیں۔

چونکہ حج کے موقع پر اطراف و اکناف سے مختلف مسلک کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس لئے کسی کو کوئی عمل کرتا ہوا دیکھ کر وہ عمل شروع نہ کر دیں، بلکہ یہ تحقیق کر لیں کہ آیا یہ عمل آپ کے حنفی مسلک کے مطابق صحیح بھی ہے یا نہیں؟ یہاں بطور مثال دو مسئلے ذکر کرتا ہوں۔

۱: نماز فجر سے بعد اشراق تک اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک دو گناہ طواف پڑھنے کی اجازت نہیں<sup>(۱)</sup>، اسی طرح مکروہ اوقات میں بھی اس کی اجازت نہیں، لیکن بہت سے لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی پڑھتے رہتے ہیں۔

۲: ... احرام کھولنے کے لئے سر کا منڈوانا افضل ہے، اور ایسے لوگوں کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دُعا فرمائی ہے،<sup>(۲)</sup> اور قینچی یا مشین سے بال اُترالینا بھی جائز ہے۔ احرام کھولنے کے لئے کم از کم چوتھائی سر کا صاف کرانا یا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر احرام نہیں کھلتا،<sup>(۳)</sup> لیکن بے شمار لوگ جن کو صحیح مسئلے کا علم نہیں، وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی کانوں کے اوپر سے چند بال کٹوا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے احرام کھول لیا، حالانکہ اس سے ان کا احرام نہیں کھلتا اور کپڑے پہننے اور احرام کے منافی کام کرنے سے ان کے ذمہ دم واجب ہو جاتا ہے۔<sup>(۴)</sup> الغرض صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی کوئی کام نہ کریں بلکہ اہل علم سے مسائل کی خوب تحقیق کر لیا کریں۔

## حج کے اقسام کی تفصیل اور اسہل حج

سوال: ... میں نے کسی مولانا سے سنا ہے کہ حج کی اقسام تین ہیں، نمبر ۱: قرآن، نمبر ۲: تمتع، نمبر ۳: افراد۔ پوچھنا یہ ہے کہ ان تینوں کی تعریف کیا ہے؟ یہ کس قسم کے حج ہوتے ہیں؟ اور ان میں افضل و اسہل حج کون سا ہے؟ جس پر حج فرض ہے وہ کون سا ادا کرے؟ براہ مہربانی تفصیل سے تینوں کے احکام بھی واضح فرمائیں۔

جواب: ... حج قرآن یہ ہے کہ میقات سے گزرتے وقت حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھا جائے، پہلے عمرہ کے افعال ادا کئے جائیں، پھر حج کے ارکان ادا کئے جائیں، اور ۱۰ ارذو الحجہ کو رمی اور قربانی کے بعد دونوں کا احرام اکٹھا کھولا جائے۔<sup>(۵)</sup>

(۱) و کرہ تحریمًا صلاة ولو قضاءً أو واجبةً أو نفلًا ..... مع شروق واستواء، وغروب إلا عصر يومه۔ (الدر المختار، کتاب الصلاة ج: ۱ ص: ۳۷۰، ۳۷۱، کتاب الصلاة، طبع سعید)۔

(۲) اللّٰهُم ارحم المخلّٰقین، قالوا: والمقصرین یا رسول اللّٰه! قال: اللّٰهُم ارحم المخلّٰقین! قالوا: والمقصرین یا رسول اللّٰه! قال: والمقصرین۔ متفق علیہ۔ (مشکوٰۃ، باب الحلق ص: ۲۳۲)۔ وعن یحییٰ ابن الحصین عن جدته أنها سمعت النبی صلی اللّٰه علیہ وسلم فی حجة الوداع دعا للمخلّٰقین ثلاثًا والمقصرین مرة واحدة۔ رواه مسلم۔ (مشکوٰۃ ص: ۲۳۲، باب الحلق)۔

(۳) ثم قصر بان يأخذ من كل شعر قدر الأنملة وجوبًا وتقصير الكل مندوب والربع واجب ..... وحلقه الكل أفضل (قوله ثم قصر) أي أو حلق كما دل عليه قوله وحلقه أفضل ..... (قوله بأن يأخذ الخ) قال فی البحر: والمراد بالتقصير أن يأخذ الرجل والمرأة من رؤوس شعر ربيع الرأس مقدار الأنملة... الخ۔ (رد المحتار مع الدر المختار، کتاب الحج، مطلب فی رمی جمرة العقبة ج: ۲ ص: ۵۱۵)۔

(۴) ما یوجب الدم علی المحرم: خمسون شیئًا یوجب الدم علی المحرم ..... ولبس الثوب المخیط یومًا کاملًا أو لیلة كاملة... الخ۔ (خزانة الفقه، کتاب مناسک الحج ص: ۹۳، طبع المكتبة العاصمية الغفورية)۔

(۵) باب القرآن ..... قوله: وصفة القرآن أن یهل بالعمرة والحج معًا من المیقات، قدم العمرة لأن اللّٰه تعالیٰ قدمها بقوله: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج" ولأن أفعالها متقدمة علی أفعال الحج۔ (الجوهرة النيرة، باب القرآن ج: ۱ ص: ۱۶۷)۔ أما الإحرام بحجة وعمرة فهو أن یقول عند المیقات اللّٰهُم ..... فیؤدیہما جمیعًا بإحرام واحد، ثم یدبح شاة بعد الرمی من جمرة العقبة فی یوم النحر أو من یوم الغد... الخ۔ (خزانة الفقه، کتاب مناسک الحج ص: ۸۸)

حج تمتع یہ ہے کہ میقات سے عمرہ کا احرام باندھا جائے، اور عمرہ کے افعال ادا کر کے احرام کھول دیا جائے، اور آٹھویں تاریخ کو حج کا احرام باندھا جائے اور ۱۰ رذوالحجہ کو رمی اور قربانی کے بعد احرام کھول دیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

حج افراد یہ ہے کہ میقات سے صرف حج کا احرام باندھا جائے اور ۱۰ رذوالحجہ کو رمی کے بعد احرام کھول دیا جائے، (اس صورت میں قربانی واجب نہیں)۔<sup>(۲)</sup>

پہلی صورت افضل ہے، اور دوسری اسہل ہے، اور دوسری صورت، تیسری سے افضل بھی ہے اور اسہل بھی، جس شخص پر حج فرض ہو اس کے لئے بھی یہی ترتیب ہے۔<sup>(۳)</sup>

## عمرہ کے بعد حج کون سا حج کہلائے گا؟

سوال:.... میں شوال میں ہی ایک عمرہ اپنی طرف سے کروں گا، اس کے بعد حج کرنے کا ارادہ ہے، اس کی نیت کس طرح ہوگی؟ اور یہ حج کون سی قسم کا ہوگا؟

جواب:.... نیت تو جس طرح الگ عمرہ کی اور الگ حج کی ہوتی ہے، اسی طرح ہوگی، مسائل بھی وہی ہیں، البتہ یہ حج تمتع بن جائے گا اور ۱۰ رذوالحجہ کو سر منڈانے سے پہلے قربانی لازم ہوگی جس کو "دم تمتع" کہتے ہیں۔<sup>(۴)</sup>

## حج تمتع کا طریقہ

سوال:.... ہم دونوں بہت پریشان ہیں، جب سے آپ کا مشورہ مسئلے کے ماتحت آیا تھا کہ حاجی حضرات کو چاہئے کہ علمائے دین سے سیکھ کر حج کریں، اس لئے آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ ذرا بتادیں تمتع کا طریقہ کہ وہ پانچ دن حج کے کیسے گزاریں مع مسنون طریقے کے، اور کون سے عمل کو چھوڑنے پر دم آتا ہے؟ اس کو بھی وضاحت سے بتلائیں۔

جواب:.... تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میقات سے پہلے (بلکہ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے) صرف عمرہ کا احرام باندھ لیں، مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کے ارکان (طواف اور سعی) ادا کر کے احرام کھول دیں، اب آپ پر احرام کی کوئی پابندی نہیں۔ ۸ رذوالحجہ کو منیٰ

(۱) التمتع لغة الجمع بين العمرة والحج يا حرامين ..... وهو أن يحرم بعمره من الميقات أو قبله في أشهر الحج ويطوف ..... وليسعى ويحلق أو يقصر كالمفرد بالعمرة، ويقطع التلبية في أول طوافه ..... ثم يحرم بالحج من الحرم إن كان بمكة أو من الحل إن كان بالمواقيت ..... يوم التروية وحج كالمفرد ..... وذبح بعد الرمي في أيام النحر... الخ. (جامع رموز الرواية في شرح مختصر الوقاية، كتاب الحج، ج: ۲، ص: ۲۱۸ طبع مكتبة اسلاميه گنبد قابوس ايران).

(۲) كيفية الأفراد: الأفراد أن يحرم بالحج وحده، ثم لا يعتمر حتى لا يفرغ من حجه... الخ. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الحج ج: ۳، ص: ۲۱۵ طبع دار الفكر).

(۳) القرآن عندنا أفضل من التمتع والأفراد ..... قال رحمه الله: التمتع عندنا أفضل من الأفراد هذا هو الصحيح. (الجوهرة النيرة ج: ۱، ص: ۱۶۷، ۱۶۹، كتاب الحج، طبع مجتبائی دہلی).

(۴) (فإذا دخل مكة وطاف وسعى) وطوافه وسعيه هذا للعمرة ..... وعليه دم وهو دم التمتع ..... فإذا حلق يوم النحر فقد حل... الخ. (الجوهرة النيرة ج: ۱، ص: ۱۷۱، كتاب الحج، طبع مجتبائی دہلی).

جانے سے پہلے حج کا احرام باندھ لیں، اور عرفات و مزدلفہ سے واپس آ کر ۱۰ ارذو الحج کو پہلے بڑے شیطان کی رمی کریں، پھر قربانی کریں، پھر بال صاف کرا کر (اور عورت انگلی کے پورے کے برابر سر کے بال کاٹ لے) احرام کھول دیں، پھر طواف زیارت کے لئے بیت اللہ شریف جائیں اور طواف کے بعد حج کی سعی کریں، اور اگر منیٰ جانے سے پہلے احرام باندھ کر نفلی طواف کر لیا اور اس کے بعد حج کی سعی پہلے کر لی تو یہ بھی جائز ہے۔<sup>(۱)</sup>

## حج کے مہینوں (شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ) میں عمرہ کرنے والے پر حج

سوال: ... شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، اشہر الحج ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان مہینوں میں کوئی شخص عمرہ ادا کرتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ حج بھی ادا کرے، اگر ہم شوال یا ذی قعدہ کے مہینے میں عمرہ ادا کر کے واپس الریاض آجائیں (یعنی حدود حرم سے باہر آجائیں) اور دوبارہ حج کے موقع پر جائیں تو اس وقت نیت حج تمتع کی ہوگی یا حج مفرد کی؟ حج تمتع کے لئے دوبارہ عمرہ کی ضرورت ہوگی یا پہلا عمرہ ہی کافی ہوگا؟

جواب: ... آفاقی شخص اگر اشہر الحج میں عمرہ کر کے اپنے وطن کو لوٹ جائے تو دوبارہ اس کو حج یا عمرہ کے لئے آنا ضروری نہیں، اور اگر وہ اسی سال حج بھی کرے تو اس پہلے عمرہ کی وجہ سے تمتع نہیں ہوگا، نہ اس کے ذمہ تمتع کا دم لازم ہوگا، اگر ایسا شخص تمتع کرنا چاہتا ہے تو اس کو دوبارہ عمرہ کا احرام باندھ کر آنا ہوگا۔<sup>(۲)</sup>

(۱) وصفته (أى التمتع) أن يبتدى من الميقات فى أشهر الحج فيحرم بالعمرة ويدخل مكة فيطوف لها ويسعى لها ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته ..... ويقطع التلبية إذا ابتداء بالطواف ..... ويقوم بمكة حلالاً لأنه حل من العمرة، قال: فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد، والشرط أن يحرم من الحرم ..... وفعل ما يفعله الحاج المفرد ..... وعليه دم التمتع. (فتح القدير مع الهداية ج: ۲ ص: ۲۱۰ تا ۲۱۲). وأيضاً: أما الإحرام بالعمرة فى الحج فهو التمتع، وصورته أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج (شوال وذى القعدة وعشرة من ذى الحجة) ويأتى بأفعال العمرة فإذا حل من عمرته يقم بمكة حلالاً من غير أن يرجع إلى أهله، ثم يحرم بالحج من المسجد فى يوم التروية ويفعل ما يفعل الحاج المفرد، وعليه دم التمتع... الخ. (خزانة الفقه ص: ۸۹، كتاب الحج، الإحرام بعمرة فى الحج).

(۲) ومعنى التمتع الترفق بأداء النسكين فى سفر واحد من غير أن يلم بأهله بينهما إماماً صحيحاً وفى الفتح: فتحريير الضابط للمتمتع أن يفعل العمرة أو أكثر طوافها فى أشهر الحج عن إحرام قبلها أو فيها ثم حج من عامة بوصف الصحة من غير أن يلم بأهله بينهما إماماً صحيحاً. (فتح القدير، كتاب الحج، باب التمتع، ج: ۲ ص: ۲۱۰، ۲۱۱).



## حج بدل

### حج بدل کی شرائط

سوال: ... حج بدل کی کیا شرائط ہیں؟ کیا سعودی عرب میں ملازم شخص، کسی پاکستانی کی طرف سے حج کر سکتا ہے یا کہ نہیں؟  
 جواب: ... جس شخص پر حج فرض ہو اور اس نے ادائیگی حج کے لئے وصیت بھی کی تھی تو اس کا حج بدل اس کے وطن سے ہو سکتا ہے، سعودی عرب سے جائز نہیں ہے۔<sup>(۱)</sup> البتہ اگر بغیر وصیت کے یا بغیر فرضیت کے کوئی شخص اپنے عزیز کی جانب سے حج بدل کرتا ہے تو وہ حج نفل برائے ایصالِ ثواب ہے، وہ ہر جگہ سے صحیح ہے۔<sup>(۲)</sup>

### حج بدل کی شرعی حیثیت

سوال: ... حج بدل سے کیا مراد ہے؟ اور اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: ... حج کی تین صورتیں ہیں:

۱: ... کوئی آدمی اتنا کمزور ہے کہ وہ خود حج پر نہیں جاسکتا، اس کے پاس مال اتنا ہے کہ حج اس کے ذمے فرض ہے، تو اس کے ذمے لازم ہے کہ کسی دوسرے آدمی کو اپنی جگہ حج بدل پر بھیجے۔<sup>(۳)</sup>

۲: ... ایک آدمی کے ذمے حج فرض تھا، اس نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، لیکن مرنے سے پہلے وصیت کر دی کہ میرا حج

(۱) (سئل) فی الحاج عن الغير هل الأفضل فی حقه أن يعود إلى بلد أمره؟ (الجواب) نعم على الأظهر، فيكون أداءه على طبق أداء الميت لو فرض أداءه، فإن الغالب منه أنه كان يعود إلى بلده، والمسئلة في مناسك القارى. (الفتاوى تنقيح الحامدية، كتاب الحج ج: ۱ ص: ۱۳ طبع ایچ ایم سعید). وأيضاً: الحادى عشر أن يحج عنه من وطنه إن اتسع الثلث... إلخ. (فتاوى شامى، مطلب شروط الحج، ج: ۲ ص: ۶۰۰، أيضاً الفقه الإسلامى وأدلته ج: ۳ ص: ۵۵).

(۲) الحج النفل عن الغير: هذه الشرائط كلها عند الحنفية فى الحج الفرض، أما الحج النفل عن الغير، فلا يشترط فيه شيء منها إلا الإسلام والعقل والتميز. (الفقه الإسلامى وأدلته ج: ۳ ص: ۵۶، الحج النفل عن الغير).

(۳) قال الحنفية: من لم يجب عليه الحج بنفسه لعذر كالمریض ونحوه، وله مال، يلزمه أن يحج رجلاً عنه. ويجراه عن حجة الإسلام. (الفقه الإسلامى وأدلته، كتاب الحج، مشروعیة النيابة فى الحج ج: ۳ ص: ۴۰، ۴۱).

کر دینا، اور تہائی مال میں اتنی گنجائش ہے کہ اس کا حج ہو سکتا ہے، تو جو شخص ایسی وصیت کر کے جائے، اس کے وارثوں کے ذمے لازم ہے کہ اس کا حج بدل کروائیں۔<sup>(۱)</sup>

۳: ... ایک شخص نے وصیت تو نہیں کی، لیکن اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کا حج بدل ہو سکتا ہے، تو وارث اگر اس کا حج بدل کرادیں، تو اللہ تعالیٰ سے اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حج بدل قبول فرمائیں گے۔<sup>(۲)</sup> اسی طرح اگر کسی نے مال تو نہیں چھوڑا، لیکن اس کی اولاد اور دوسرے وارث ماشاء اللہ صاحب حیثیت ہیں اور حج بدل کروادیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اُمید ہے کہ اس کا حج بدل قبول فرمائیں۔<sup>(۳)</sup>

## حج بدل کا جواز

سوال: ... میں ایک بہت ضروری بات کے لئے ایک مسئلہ پوچھ رہی ہوں، میں نے اپنے والد صاحب کا حج بدل کیا تھا، ایک صاحب نے فرمایا کہ حج بدل تو کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ ناجائز ہے، کیونکہ قرآن شریف میں حج بدل کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ جب سے ان صاحب سے یہ بات سنی ہے میرا دل بہت پریشان ہے کہ میرا روپیہ ضائع ہوا اور میں بہت بے چین ہوں۔ آپ کے جواب کی بے چینی سے منتظر ہوں تاکہ میری فکر دور ہو۔

جواب: ... حج بدل صحیح ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں چونکہ حج بدل نہیں، اس لئے حج بدل ہی کوئی چیز نہیں ہے، ان کی بات لغو اور بے کار ہے۔ حج بدل پر صحیح احادیث موجود ہیں،<sup>(۴)</sup> اور اُمت کا اس کے صحیح ہونے پر اجماع ہے۔<sup>(۵)</sup>

## حج بدل کون کر سکتا ہے؟

سوال: ... حج بدل کون شخص ادا کر سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حج بدل صرف وہ آدمی کر سکتا ہے جس نے اپنا حج ادا کر لیا ہو، اگر کسی کے ذمے حج فرض نہیں تو کیا وہ شخص حج بدل ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟

(۱) وان مات عن وصية لا يسقط الحج عنه واذا حج عنه يجوز عندنا باستجماع شرائط الجواز، وهي نية الحج وأن يكون بمال الموصى ..... ويحج عنه من ثلث ماله سواء قيد الوصية بالثلث ..... أو أطلق بأن أوصى أن يحج عنه. (فتاوى عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۵۸، كتاب الحج، الباب الخامس عشر، طبع رشيدية كوئٹہ).

(۲) من عليه الحج إذا مات قبل أدائه فإن مات عن غير وصية يأنم بلا خلاف، وإن أحب الوارث أن يحج عنه، حج وأرجو أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى. (فتاوى عالمگیری، كتاب الحج، الباب الخامس عشر ج: ۱ ص: ۲۵۸، طبع رشيدية).

(۳) أيضًا.

(۴) أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج وانها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم! قال: فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء. (مشكوة ص: ۲۲۱، كتاب المناسك).

(۵) والحاصل أن من قدر على الحج وهو صحيح ثم عجز لزمه الإحجاج إتفاقاً. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۵۹۸).

جواب: ... حنفی مسلک کے مطابق جس نے اپنا حج نہ کیا ہو، اس کا کسی کی طرف سے حج بدل کرنا جائز ہے، مگر مکروہ ہے۔<sup>(۱)</sup>

## حج بدل کس کی طرف سے کرنا ضروری ہے؟

سوال: ... حج بدل جس کے لئے کرنا ہے آیا اس پر یعنی مرحوم پر حج فرض ہو، تب حج بدل کیا جائے یا جس مرحوم پر حج فرض نہ ہو اس کی طرف سے بھی کرنا ہوتا ہے؟

جواب: ... جس شخص پر حج فرض ہو اور اس نے اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کے تہائی حصے سے حج کرایا جاسکتا ہو، اور اس نے حج بدل کرانے کی وصیت بھی کی ہو تو اس کی طرف سے حج بدل کرنا اس کے وارثوں پر فرض ہے۔<sup>(۲)</sup>

جس شخص کے ذمہ حج فرض تھا، مگر اس نے اتنا مال نہیں چھوڑا یا اس نے حج بدل کرانے کی وصیت نہیں کی، اس کی طرف سے حج بدل کرنا وارثوں پر لازم نہیں۔ لیکن اگر وارث اس کی طرف سے خود حج بدل کرے یا کسی دوسرے کو حج بدل کے لئے بھیج دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اُمید کی جاتی ہے کہ مرحوم کا حج فرض ادا ہو جائے گا۔<sup>(۳)</sup>

اور جس شخص کے ذمہ حج فرض نہیں، اگر وارث اس کی طرف سے حج بدل کریں یا کرائیں تو یہ نفلی حج ہوگا اور مرحوم کو اس کا ثواب ان شاء اللہ ضرور پہنچے گا۔<sup>(۴)</sup>

(۱) والذی یقتضیہ النظر ان حج الضرورة (الذی لم یحج عن نفسه) عن غیرہ ..... فهو مکروه کراهة تحريم ..... ومع ذلك یصح لأن النهی لیس لعین الحج ..... قال فی البحر: والحق انها تنزیہیة علی الامر. (فتاویٰ شامی، مطلب فی حج الضرورة ج: ۲ ص: ۶۰۳). أيضًا: ثم المصنف رحمه الله تعالى لم یقید الحاج عن الغير بشیء یقید انه یجوز احجاج الضرورة وهو الذی لم یحج أولاً عن نفسه، لکنه مکروه کما صرحوا به ... الخ. (البحر الرائق، کتاب الحج، باب الحج عن الغير، ج: ۳ ص: ۱۲۳ طبع رشیدیہ).

(۲) وان مات عن وصیة لا یسقط الحج عنه، ویجب أن یحج عنه، لأن الوصیة بالحج قد صحت، وإذا حج عنه یجوز عند استجماع شرائط الجواز ..... ویحج عنه من ثلث ماله سواء قید الوصیة بأن یحج عنه بثلث ماله أو أطلق بأن أوصی أن یحج عنه. (البدائع الصنائع، فصل وأما بیان حکم فوات الحج عن العمرة ج: ۲ ص: ۲۲۲، طبع ایچ ایم سعید). أيضًا: وان مات عن وصیة لا یسقط الحج عنه، وإذا حج عنه یجوز عندنا باستجماع شرائط الجواز. (الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب المناسک، الباب الخامس عشر فی الوصیة بالحج ج: ۲ ص: ۲۵۸ طبع رشیدیہ).

(۳) لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم یوص به فحج رجل عنه أو حج عن أبیه أو أمه عن حجة الإسلام من غیر وصیة قال أبو حنیفة: یجزیه إن شاء الله ..... لأنه ایصال للشواب، وهو لا یختص بأحد من قریب أو بعید. (فتاویٰ شامی ج: ۲ ص: ۶۰۰، باب الحج عن الغير، البدائع الصنائع، کتاب الحج ج: ۲ ص: ۲۲۱). أيضًا: ومن مات وعليه فرض الحج، ولم یوص به، لم یلزم الوارث ان یحج عنه وإن أحب أن یحج عنه، حج. وأرجوا أن یجزیه إن شاء الله تعالی. (الفتاویٰ التاتاریخانیة، کتاب المناسک، الوصیة بالحج ج: ۲ ص: ۵۶۳ طبع إدارة القرآن، البدائع ج: ۲ ص: ۲۲۱).

(۴) الأصل أن کل من أتى بعبادة ماله جعل ثوابها لغيره. وفي رد المحتار: قوله بعبادة ما، أي سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقة أو قراءة أو ذکرًا أو طوافًا أو حجًا أو عمرة أو غیر ذلك ..... لأنها تصل إليهم ولا ینقص من أجره شیء ..... وبحث أيضًا أن الظاهر أنه لا فرق بین أن ینوی به عند الفعل للغير أو یفعله لنفسه ثم یجعل ثوابه لغيره لإطلاق كلامهم. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۵۹۵، باب الحج عن الغير، مطلب فی إهداء ثواب الأعمال للغير).

## بغیر وصیت کے حج بدل کرنا

سوال: ... حج بدل میں کسی کی وصیت نہیں ہے، کوئی آدمی اپنی مرضی سے مرحوم ماں، باپ، پیر، استاد یعنی کسی کی طرف سے حج بدل کرتا ہے، استطاعت بھی ہے، آیا وہ صرف حج ادا کر سکتا ہے؟ اور وہ قربانی بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ وضاحت فرما کر مشکور فرمائیں۔

جواب: ... اگر وصیت نہ ہو تو جیسا حج چاہے کر سکتا ہے، وہ حج بدل نہیں ہوگا، بلکہ برائے ایصالِ ثواب ہوگا، جس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے گا جس کی طرف سے وہ کیا گیا ہے۔ قربانی بھی اسی طرح برائے ایصالِ ثواب کی جا سکتی ہے۔<sup>(۱)</sup>

## میت کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں

سوال: ... ایک متوفی پر حج فرض تھا، مگر وہ حج ادا نہ کر سکا، اب اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص حج ادا کر سکتا ہے؟

جواب: ... میت کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں، اگر اس نے وصیت کی تھی تو اس کے تہائی ترکہ سے اس کا حج بدل ادا کیا جائے گا، اور اگر تہائی سے ممکن نہ ہو تو پھر اگر سب ورثاء بالغ اور حاضر ہوں اور کل مال سے حج بدل کی اجازت دے دیں تو کل مال سے بھی اس صورت میں ادا کیا جا سکتا ہے۔<sup>(۲)</sup> اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی تو پھر ورثاء کی صوابدید اور رضا پر ہے، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی اس کا حج قبول فرما کر اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔<sup>(۳)</sup>

## بٹی کا مرحومہ والدہ کی طرف سے حج ادا کرنا

سوال: ... ہمارے محلے میں ایک خاتون کا انتقال ہوا تو ان کی شادی شدہ بیٹی نے ان کے نام سے حج ادا کیا، واضح ہو کہ ان

(۱) وأيضًا: باب الحج عن الغير، الأصل أن كل من أتى بعبادة ما له جعل ثوابها لغيره، وفي الشامية (قوله بعبادة ما) أي سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقة ..... أو حجًا أو عمرة أو غيره ذلك... إلخ. (درمختار مع رد المختار ج: ۲ ص: ۵۹۵).  
أيضًا: عن أنس رضي الله عنه قال: يا رسول الله! إنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعوا لهم، فهل يصل ذلك لهم؟ قال: نعم! إنه يصل إليهم، وإنهم ليفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدى إليه. (رد المختار ج: ۲ ص: ۵۹۶، باب الحج عن الغير).  
أيضًا: الحج النفل عن الغير، هذه الشرائط (أي المتقدمة) كلها عند الحنفية في الحج الفرض، أما الحج النفل عن الغير، فلا يشترط فيه شيء منها إلا الإسلام، والعقل، والتميز... إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الحج ج: ۳ ص: ۵۶).

(۲) اشترط الحنفية عشرين شرطًا للحج عن الغير نذكرها ..... ۱۲: ان يحج النائب عن الأصيل من وطنه إن اتسع ثلث التركة في حالة الوصية بالحج، وإن لم يتسع يحج عنه من حيث يبلغ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۴۹، ۵۵).

(۳) قلت: وقد منا أن الوارث ليس له الحج بمال الميت إلا أن تجيز الورثة وهم كبار، لأن هذا مثل التبرع بالمال. (فتاوى شامی، باب الحج عن الغير ج: ۲ ص: ۶۰۶).  
أيضًا: لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص به فحج رجل عنه أو حج عن أبيه أو أمه عن حجة الإسلام من غير وصية قال أبو حنيفة: يجزيه إن شاء الله. (رد المختار ج: ۲ ص: ۶۰۰). ولو أوصى الميت أن يحج عنه ولم يزد كان للوارث أن يحج عنه، فإن كان الوصي وارث الميت أو دفع المال إلى وارث الميت ليحج عن الميت فإن أجازت الورثة وهم كبار جاز وآلا فلا لأن هذه بمنزلة التبرع بالمال. (فتاوى حامدية ج: ۱ ص: ۱۴).

کے انتقال کے بعد۔ میں نے سنا ہے کہ مرنے والوں کے نام پر عمرہ ادا کیا جاتا ہے، کیا حج بھی ادا ہو سکتا ہے؟ اور کیا وہ حج ان کی والدہ کے نام پر مقبول ہو جائے گا؟ پلیز اس کا جواب دیں۔

جواب: ... حج بھی ہو سکتا ہے، اور عمرہ بھی۔<sup>(۱)</sup>

## حج بدل کے سلسلے میں اشکالات کے جوابات

سوال: ... ہمارے ہاں عام طور پر حج بدل سے جو مفہوم لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حج بدل اس میت کی طرف سے ہوتا ہے جس پر اس کی زندگی میں حج فرض ہو چکا تھا، اس کے پاس اتنا مال جمع تھا کہ جس کی بنا پر وہ باسانی حج کر سکتا ہو، اس نے حج کا ارادہ بھی کر لیا لیکن حج سے پہلے ہی اسے موت نے آن گھیرا، اب اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کا کوئی عزیز یا بیٹا اس کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ اسی طرح زندوں کی طرف سے حج بدل کا یہ مفہوم پیش کیا جاتا ہے کہ اگر اس پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ بیماری یا بڑھاپے کی اس حالت میں پہنچ چکا ہو جس کی بنا پر چلنے پھرنے یا سواری کرنے سے معذور ہے، تو وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو یا کسی قریبی عزیز کو پورا خرچہ دے کر حج کے لئے روانہ کرے۔ اس کے لئے بھی یہ شرط ہے کہ حج بدل کرنے والا شخص وہاں سے ہی آئے جہاں پر حج بدل کروانے والا شخص رہ رہا ہے۔

اس تمام صراحت کے باوجود کچھ سوال ذہن میں ایسے ہیں جو تصفیہ طلب ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مرنے والا ایک شخص موت کے وقت اس قابل نہیں تھا کہ وہ حج کر سکے یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ایسی تھیں جن سے وہ اپنی موت تک عہدہ برآ نہیں ہو سکا تھا، اور سرمایہ بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس پر حج فرض نہیں ہو سکتا تھا، اب اس کی موت سے عرصہ ۲۰ سال کے بعد اس کی اولاد اس قابل ہو جاتی ہے اور اس میں اتنی استطاعت بھی ہے کہ ہر فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد اپنا حج بھی کر سکے اور اپنے باپ کا بھی، تو اب ہمیں یہ بتایا جائے کہ اولاد کی طرف سے اپنے باپ کے لئے کیا جانے والا یہ حج، حج بدل ہو سکتا ہے؟ (واضح رہے کہ باپ اپنی موت کے وقت اس قابل نہیں تھا کہ حج کر سکے)، اور کیونکہ حج بدل کے لئے یہ دلیل مستحکم سمجھتی جاتی ہے کہ جس کی طرف سے حج بدل کیا جائے موت سے پہلے اس پر حج فرض ہو چکا ہو، تو کیا مذکورہ بالا شخص اپنے باپ کی طرف سے حج نہیں کر سکتا؟ کیونکہ موت سے پہلے اس کے باپ پر حج فرض نہیں تھا۔

اب زندوں کی طرف آئیے، زندوں کی طرف سے بھی حج بدل اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ خود اس قابل نہ ہو کہ حج کر سکے، یعنی سرمایہ ہونے کے باوجود جسمانی معذوری یا بڑھاپے کی وجہ سے چل نہیں سکتا تو وہ حج کا خرچہ دے کر اپنی کسی اولاد یا اپنے کسی عزیز کو حج بدل کروانے بھیج سکتا ہے۔ اب اگر باپ کے پاس سرمایہ نہ ہو، جسمانی طور پر معذور بھی ہو، یعنی اس پر حج کی فرضیت لازم نہیں آتی تو اس کا بیٹا جو اس سے الگ رہتا ہو (یہ ذہن میں رہے کہ ناچاقی کی بنا پر الگ نہیں رہتا بلکہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے الگ رہنے پر مجبور ہے)، صاحب استطاعت ہے، خود حج کر چکا ہے، تو کیا وہ اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتا ہے؟ جناب اب دوسرا مسئلہ یہ ہے

(۱) فلا يجوز حج الغير بغير اذنه الا اذا حج أو أحج الوارث عن مورثه۔ (حاشیہ رد المحتار ج: ۲ ص: ۵۹۹، طبع سعید)۔

کہ اگر ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے یا باپ کام کاج نہیں کرتا (جیسا کہ عموماً آج کل ہوتا ہے کہ بیٹا کسی قابل ہو جائے تو احترام کے پیش نظر وہ باپ کو کام کرنے نہیں دیتا)، جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہیں، تو کیا وہ اپنے بیٹے کے خرچ سے حج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ حج میں ان کا سرمایہ بالکل نہیں لگے گا۔

اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا بیٹے کے خرچے سے ماں باپ کا حج ہوگا کہ نہیں؟ برائے مہربانی ان سوالوں کا تسلی بخش جواب دے کر مجھے ذہنی پریشانی سے نجات دلائیں۔ نیز یہ کہ اولاد صاحب استطاعت ہونے کے باوجود زندہ یا مردہ ماں باپ کی طرف سے حج بدل نہ کرے تو اس پر کوئی گناہگار ہوگا کہ نہیں؟ یہ بھی کہ ”عمرہ بدل“ کی بھی کیا وہی شرائط ہیں جو حج بدل کی ہیں؟

جواب:۔۔۔ جس زندہ یا مردہ پر حج فرض نہیں، اس کی طرف سے حج بدل ہو سکتا ہے، مگر یہ نفلی حج ہوگا۔<sup>(۱)</sup>

۲:۔۔۔ اگر باپ کے پاس رقم نہ ہو اور بیٹا اس کو حج کی رقم دے دے تو اس رقم کا مالک بنتے ہی بشرطیکہ اس پر کوئی قرض نہ ہو، اس پر حج فرض ہو جائے گا۔<sup>(۲)</sup>

۳:۔۔۔ اولاد کے ذمہ ماں باپ کو حج کرانا ضروری نہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہو تو ماں باپ کو حج کرانا بڑی سعادت ہے۔<sup>(۳)</sup>

۴:۔۔۔ اگر ماں باپ نادار ہیں اور ان پر حج فرض نہ ہو تو اولاد کا ان کی طرف سے حج بدل کرنا ضروری نہیں۔

۵:۔۔۔ عمرہ بدل نہیں ہوتا، البتہ کسی کی طرف سے عمرہ کرنا صحیح ہے، زندہ کی طرف سے بھی اور مرحوم کی طرف سے بھی، اس کا ثواب ان کو ملے گا جن کی طرف سے ادا کیا جائے۔<sup>(۴)</sup>

## مجبوری کی وجہ سے حج بدل

سوال:۔۔۔ میں دل کا مریض ہوں، عرصے سے بیت اللہ کی زیارت کی خواہش ہے، تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی ہے، کمزوری بے حد ہے اور میری عمر ۶۵ سال ہے، خونی بوا سیر بھی ہے، چند وجوہات سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، میں اپنی حالت کی مجبوری کے باعث اپنے عزیز کو حج بدل کے لئے بھیج رہا ہوں، کیا میرے ثواب میں کمی بیشی تو نہیں ہوگی؟ کیا میری آرزو کے مطابق

(۱) عن أنس رضي الله عنه قال: يا رسول الله! إننا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعوا لهم، فهل يصل ذلك لهم؟ قال: نعم! إنه ليصل إليهم... الخ. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۵۹۶، باب الحج عن الغير، مطلب فيمن أخذ بعبادته شيئاً من الدنيا).

(۲) وأما شرائط وجوبه..... ومنها القدرة على الزاد والراحلة بطريق الملك أو الإجارة..... وتفسير ملك الزاد والراحلة أن تكون له مال فاضل عن حاجته الأصلية وهو ما سوى سكنه..... وسوى ما يقضى به ديونه... الخ. (فتاوى عالمگیری، كتاب المناسك ج: ۱ ص: ۲۱۷، كتاب المناسك).

(۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لمن حج عن أبيه أو قضى عنهما مغرمًا بعث يوم القيامة مع الأبرار. (فتاوى شامی ج: ۲ ص: ۶۰۹، باب الحج عن الغير، مطلب العمل على القياس دون الاستحسان).

(۴) الأصل أن كل من أتى بعبادة ما له جعل ثوابها لغيره وفي الشامية (قوله بعبادة ما) أي سواء كانت صلاة..... أو طوافاً أو حجاً أو عمرة،..... قوله لغيره أي من الأحياء والأموات... الخ. (فتاوى شامی ج: ۲ ص: ۵۹۵، ۵۹۶).

مجھے ثواب حاصل ہوگا؟ اور یہ بھی بتائیں کہ حج پر جانے سے پیشتر جو فرض واجب ہوتے ہیں ان فرائض کی ادائیگی میرے ذمہ بھی فرض ہے یا نہیں؟ مثلاً رشتہ داروں سے ملنا، کہا سنا معاف کرانا وغیرہ، اور دیگر شرعی کیا فرائض میرے اوپر واجب ہوتے ہیں؟

جواب: ... اگر آپ خود جانے سے معذور ہیں تو کسی کو حج بدل پر بھیج سکتے ہیں، آپ کا حج ہو جائے گا۔ کہا سنا معاف کرانا ہی چاہئے۔<sup>(۱)</sup>

## بغیر وصیت کے مرحوم والدین کی طرف سے حج

سوال: ... اگر زید کے والدین اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہوں تو زید بغیر اپنے والدین کی وصیت کے ان کے لئے حج و عمرہ ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کر سکتا ہے تو وہ حج کے تینوں اقسام میں سے کون سا حج ادا کرے گا؟

جواب: ... اگر والدین کے ذمہ حج فرض تھا اور انہوں نے حج بدل کرانے کی وصیت نہیں کی تو اگر زید ان کی طرف سے حج کرادے یا خود کرے تو امید ہے کہ ان کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تینوں اقسام میں سے جو سا حج بھی کر لے صحیح ہے۔<sup>(۲)</sup>

سوال: ... مذکورہ ”عازم“ حج سے پہلے عمرہ بھی ادا کر سکتا ہے یا صرف حج ہی ادا کرے گا؟

جواب: ... بغیر وصیت کے جو حج کیا جا رہا ہے اس سے پہلے عمرہ بھی کر سکتا ہے۔<sup>(۳)</sup>

سوال: ... اگر والدین پر حج فرض نہیں تھا، یعنی صاحب استطاعت نہیں تھے، بیٹا صاحب استطاعت ہے تو والدین کے لئے حج و عمرہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کر سکتا ہے تو حج فرض ہوگا یا نفلی؟

جواب: ... حج کر سکتا ہے، لیکن یہ نفلی حج ہوگا۔<sup>(۴)</sup>

## والدہ کی طرف سے حج بدل ادا کرنا

سوال: ... ہماری والدہ مرحومہ کی دلی خواہش تھی کہ میں حج کروں، لیکن شاید ان کے نصیب میں نہیں تھا، کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جبکہ ہماری ایک بہن جو کہ بیوہ ہے، صرف لڑکیاں ہیں، کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے،

(۱) (سنن) فی المعذور الذی لا یرجى برؤه إذا أمر بأن یحج عنه غیره، وحج عنه فهل سقط الفرض عنه، استمر ذلك العذر أم لا؟ (الجواب) إذا كان لا یرجى برؤه یسقط الفرض عنه، استمر العذر أو لا، وإن كان یرجى برؤه یشرط عجزه إلى موته كما فی البحر وغیرہ۔ (الفتاویٰ تنقیح الحامدیة، کتاب الحج ج: ۱ ص: ۱۴، طبع رشیدیہ)۔

(۲) ولو مات رجل بعد وجوب الحج ولم یوص به، فحج رجل عنه أو حج عن أبیه أو أمه عن حجة الإسلام من غیر وصیة، قال أبو حنیفة: یجزیه إن شاء الله... لأنه إیصال للثواب وهو لا یختص بأحد من قریب أو بعید۔ (فتاویٰ شامی ج: ۲ ص: ۶۰۰، باب الحج عن الغیر، قبیل مطلب شروط الحج عن الغیر عشرون، طبع سعید)۔

(۳) وهذه الشرائط كلها فی الحج الفرض، وأما النفل فلا یشرط فیہ شیء منها إلا الإسلام والعقل والتمیز۔ (رد المحتار ج: ۲ ص: ۶۰۱، باب الحج عن الغیر، مطلب شروط الحج عن الغیر عشرون)۔

(۴) ایضاً۔

چاہتے ہیں کہ ان کو حج کروادیں، کیا ہمارا ایسا کرنا صحیح ہے؟ کیا اس حج کا ثواب ہماری والدہ صاحبہ کو بھی ملے گا؟  
جواب: ... جو اپنا فرض حج ادا کر چکا ہو وہ ان کی طرف سے نفلی حج ادا کر سکتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

## والدہ کا حج بدل

سوال: ... میری والدہ محترمہ کا انتقال گزشتہ سال ہو گیا، کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہوں؟ جبکہ میں نے اس سے قبل حج نہیں کیا ہے۔ کیا مجھے پہلے اپنا حج اور پھر والدہ کی طرف سے حج کرنا پڑے گا یا پہلے صرف والدہ کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟  
جواب: ... بہتر یہ ہے کہ حج بدل ایسا شخص کرے جس نے اپنا حج کیا ہو، جس نے اپنا حج نہ کیا ہو اس کا حج بدل پر جانا مکروہ ہے۔<sup>(۲)</sup>

## معدور باپ کی طرف سے جدہ میں مقیم بیٹا کس طرح حج بدل کرے؟

سوال: ... دس سال قبل میرے بیٹے متعینہ جدہ نے مجھے اپنے ساتھ کراچی سے لے جا کر عمرہ کرا دیا تھا، ہنوز حج کی سعادت سے محروم ہوں، بیٹے نے بارہ چودہ حج کئے ہیں، اگر وہ ایک حج مجھے بخش دے تو کیا میری طرف سے وہ حج ہو جائے گا؟ میری عمر ۸۷ سال ہے، دوسرا بیٹا بھی دو تین حج کر چکا ہے، جدہ میں ملازم ہے، کراچی رخصت پر آنے کا ارادہ ہے، واپسی پر کراچی سے جدہ پہنچ کر ایام حج میں وہ میری طرف سے حج بدل کر سکتا ہے؟ چند ماہ پیشتر آپ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں تحریر کر چکے ہیں کہ حج بدل کے لئے بہتر ہے کہ وہ اپنا حج کر چکا ہو اور پھر اسی مقام یعنی کراچی سے ہی سفر کر کے جدہ پہنچے اور حج بدل کرے۔ میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا ہوں۔

جواب: ... اگر آپ کے ذمہ حج فرض ہے تو حج بدل کے لئے کسی کو کراچی سے بھیجنا ضروری ہے،<sup>(۳)</sup> خواہ آپ کا بیٹا جائے یا کوئی اور۔ اور اگر حج آپ پر فرض نہیں تو آپ کا بیٹا جدہ سے بھی آپ کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے، اور وہ اپنا ایک حج آپ کو بخش

(۱) والأفضل للبلدان إذا أراد أن يحج رجلاً عن نفسه أن يحج رجلاً قد حج عن نفسه، ومع هذا لو أحج رجلاً لم يحج عن نفسه حجة الإسلام يجوز عندنا، وسقط الحج عن الأمر كذا في المحيط. (فتاوى عالمگیری، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير ج: ۱ ص: ۲۵۷، طبع رشيدية).

(۲) (الجواب) يجوز لمن لم يكن حج عن نفسه أن يحج عن غيره لكنه خلاف الأفضل، ويسمى حج الضرورة. (الفتاوى تقيح الحامدية ج: ۱ ص: ۱۳). وأيضاً: والذي يقتضيه النظر أن حج الضرورة (الذي لم يحج عن نفسه) عن غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم..... ومع ذلك يصح لأن النهي ليس لعين الحج..... قال في البحر والحق انها تنزيهية على الأمر. (فتاوى شامی، مطلب في حج الضرورة ج: ۲ ص: ۶۰۳).

(۳) (فلو أحج الوصي عنه من غيره) أي من غير بلده فيما إذا وجب الإحجاج من بلده لم يصح ويضمن ويكون الحج له ويحج عن الميت ثانياً. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۶۰۵، باب الحج عن الغير، طبع ايج ايم سعيد). وأما المقصر الذي مات فتصح منه بل تجب الوصية بالإحجاج عنه ويكون من بلده إن لم يعين مكاناً آخرًا. (الفقه الإسلامي وأدلته، مشروعية في الحج، ج: ۳ ص: ۴۱، طبع دار الفكر بيروت).



دے تب بھی آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔<sup>(۱)</sup> لیکن اگر آپ پر حج فرض ہے تو پھر ادا شدہ حج کے ثواب بخشے سے وہ فرض پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ بیٹا جو کراچی سے جدہ جا رہا ہے اگر وہ آپ کے خرچے سے یہاں سے احرام باندھ کر، آپ کی طرف سے حج کی نیت کر کے حج کے مہینوں میں جائے اور حج ادا کر لے تو آپ کا حج بدل عذر کی وجہ سے ادا ہو جائے گا۔<sup>(۲)</sup>

## دادا کی طرف سے حج بدل

سوال: ...میرے دادا کا انتقال ہو چکا ہے اور انہوں نے حج کے فارم بھر دیئے تھے، اور ان کا نمبر بھی آ گیا تھا، لیکن انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی یعنی میری دادی کو کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو تم حج پر چلی جانا، اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا میری دادی عدت کے دوران جا سکتی ہے؟

جواب: ...آپ کی دادی صاحبہ کو عدت کے دوران حج پر جانا جائز نہیں،<sup>(۳)</sup> عدت کے بعد اگر محرم کے ساتھ جا سکتی ہو تو جائے، اور اگر کوئی محرم ساتھ جانے والا نہیں تو حج بدل کی وصیت کر دے۔<sup>(۴)</sup> یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جبکہ آپ کی دادی صاحبہ پر حج فرض ہو، اور اگر آپ کے دادا جان نے مرنے سے پہلے حج بدل کی وصیت کی تھی تو آپ کے دادا جان کی طرف سے حج بدل کروانا لازم ہے، خواہ خود جائیں یا کسی اور کو بھیجیں۔<sup>(۵)</sup>

## بیوی کی طرف سے حج بدل

سوال: ...میری امی کو حج کا بڑا ارمان تھا، (اللہ انہیں جنت نصیب کرے)، اب اس سال میرا ارادہ حج کرنے کا ہے ان شاء اللہ، تو کیا میں یہ نیت کر لوں کہ اس کا ثواب میرے ساتھ ساتھ میری امی کو بھی پہنچے؟ اس کے لئے کیا نیت کروں؟ نیز میرے ساتھ ابو

(۱) باب الحج عن الغير: الأصل أن كل من أتى بعبادة ماله جعل ثوابها لغيره، (وفي الشامية) قوله بعبادة ماله أي سواء كانت صلاة أو صوماً أو صدقة..... أو حجاً أو عمرة أو غير ذلك. (فتاوى شامی ج: ۲ ص: ۵۹۵). وأيضاً: اتفق العلماء على وصول ثواب الدعاء والصدقة والهدى للميت للحديث السابق: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال جمهور أهل السنة والجماعة: للإنسان أن يجعل ثواب عمل لغيره صلاة أو صوماً أو صدقة أو تلاوة قرآن... الخ. (الفقه الإسلامي وأدلته، إهداء ثواب الأعمال للميت ج: ۳ ص: ۳۸، ۳۹).

(۲) ولجواز النيابة في الحج شرائط منها أن يكون المحجوج عنه عاجزاً عن الأداء بنفسه وله مال وإن كان قادراً على الأداء بنفسه بأن كان صحيح البدن وله مال أو كان فقيراً صحيح البدن لا يجوز حج غيره عنه، ومنها استدامة العجز من وقت الإحجاج إلى وقت الموت كذا في البدائع. (فتاوى هندية، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير ج: ۱ ص: ۲۵۷).

(۳) المعتدة لا تسافر لا للحج ولا لغيره. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۵۳۵). أيضاً: فلا تخرج المرأة إلى الحج في عدة طلاق أو موت. (فتاوى هندية ج: ۱ ص: ۲۱۹، أيضاً الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۳۶ طبع دار الفكر بيروت).

(۴) والذي اختاره في الفتح أنه مع الصحة وأمن الطريق شرط وجوب الأداء فيجب الإيصاء إن منع المرض وخوف الطريق أو لم يوجد زوج ولا محرم. (رد المختار ج: ۲ ص: ۳۶۵).

(۵) ومنها أن يكون حج المأمور بماله المحجوج عنه فإن تطوع الحاج عنه بماله نفسه لم يجز عنه حتى يحج بماله وكذا إذا أوصى أن يحج بماله ومات فتطوع عنه وارثه بماله نفسه، كذا في البدائع. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۵۷).

جائیں گے جنہوں نے پہلے ہی سے حج کیا ہوا ہے تو کیا وہ حج بدل کی نیت (امی کے لئے) کر سکتے ہیں؟  
جواب: ... آپ اپنی طرف سے حج کریں اور ان کی طرف سے عمرہ کر دیں، آپ کے والد صاحب ان کی طرف سے حج بدل کر دیں تو ان کی طرف سے حج ہو جائے گا۔<sup>(۱)</sup>

## سر کی جگہ حج بدل

سوال: ... کیا داماد اپنے سر کی جگہ حج بدل کر سکتا ہے؟ جبکہ سر بیماری کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتا، ویسے صاحب حیثیت ہے اور اس کا لڑکا بھی صاحب حیثیت ہے۔

جواب: ... خسر کے حکم سے داماد حج بدل کر سکتا ہے۔<sup>(۲)</sup>

## ایسی عورت کا حج بدل جس پر حج فرض نہیں تھا

سوال: ... میری پھوپھی مرحومہ (جنہوں نے مجھے ماں بن کر پالا تھا اور ان کا کوئی حق میں ادا نہ کر سکا، کیونکہ جب اس قابل ہوا تو وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں) کے مالی حالات اور دیگر حالات کی بنا پر ان پر حج فرض نہیں تھا، کیا میں ان کے ایصالِ ثواب کے لئے ان کی طرف سے کسی خاتون کو ہی حج بدل کروا سکتا ہوں؟ کیا یہ حج کوئی مرد بھی کر سکتا ہے؟

جواب: ... آپ مرحومہ کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں، مگر چونکہ آپ کی پھوپھی پر حج فرض نہیں تھا، نہ ان کی طرف سے وصیت تھی، اس لئے ان کی طرف سے آپ حج کرائیں گے وہ نفل ہوگا۔<sup>(۳)</sup>

۲: ... کسی خاتون کی طرف سے حج بدل کرانا ہو تو ضروری نہیں کہ کوئی خاتون ہی حج بدل کرے۔ عورت کی طرف سے مرد بھی حج بدل کر سکتا ہے اور مرد کی طرف سے عورت بھی کر سکتی ہے، مگر کسی خاتون کو حج بدل کے لئے بھیجنا بہتر نہیں۔<sup>(۴)</sup>

(۱) ومن مات وعليه فرض الحج ولم يوص به، لم يلزم الوارث ان يحج عنه، وان أحب أن يحج عنه حج، وأرجو أن يجزيه إن شاء الله تعالى۔ (فتاویٰ تاتارخانیہ، کتاب المناسک ج: ۲ ص: ۵۶۳ طبع إدارة القرآن کراچی)۔ فلا يجوز حج الغير عنه بغير أمره إلا الوارث يحج عن مورثه بغير أمره فإنه يجزيه۔ (فتاویٰ عالمگیری، باب الحج عن الغير ج: ۱ ص: ۲۵۷)۔

(۲) ومن شرائط الحج الأمر بالحج فلا يجوز حج الغير إلا بأمره۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۵۷)۔ ثم انما يسقط فرض الحج عن الإنسان بإحجاج غيره إذا كان المَحْجُّ وقت الأداء عاجزاً عن الأداء بنفسه، ودام عجزه إلى أن مات... إلخ۔ (الفتاویٰ التاتارخانیہ، کتاب المناسک، باب الحج عن الغير ج: ۲ ص: ۵۴۵ طبع إدارة القرآن)۔

(۳) وإن كانت (أى العبادة المركبة) نافلة كحج النفل وعمرة التطوع تجزئ في الحالتين، ولا يشترط فيه العجز، ولا غيره مما يشترط في حج الفرض، وعمرة الإسلام إلا أهلية النائب بالإسلام والعقل والتميز، والنية عنه في الإحرام إن أمره بالحج، وإلا فجعل ثوابه له بعد الأداء، إذ بدون الأمر به، يقع الحج عن الفاعل بالإتفاق، فهو ليس حاجاً عنه، بل هو جاعل ثواب حجه له... إلخ۔ (غنية الناسك في بغية المناسك، باب الحج عن الغير ص: ۳۲۰ طبع إدارة القرآن)۔

(۴) ولو أحج عنه امرأة أو عبداً أو أمة ياذن السيد جاز ويكره، هكذا في محيط السرخسى۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۵۷، كتاب الحج، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير، طبع رشيدية كوئٹہ)۔

جس نے اپنا حج نہ کیا ہو، اُسے حج بدل پر بھیجنا مکروہ ہے

سوال: ... دو بھائی ہیں، جن کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، دونوں بھائی الگ الگ اپنے گھر میں فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، جن میں ایک بھائی امیر ہے، اور دوسرا بھائی بہت غریب ہے۔ چھوٹا بھائی جو کہ امیر ہے اپنی والدہ کے ساتھ حج کر چکا ہے، اب وہ اپنے مرحوم والد کے نام کا بدل حج کروانا چاہتا ہے، بڑا بھائی چونکہ غریب ہے اور اس نے ایک بار بھی حج نہیں کیا ہے، چھوٹا بھائی اپنے پیسے (رقم) سے اپنے بڑے بھائی کو مرحوم والد کے نام سے حج بدل پر بھیجنا چاہتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ بڑا بھائی جس نے خود ابھی تک حج نہیں کیا ہے، اس کے باوجود وہ دوسرے کے نام کا بدل حج کر سکتا ہے؟

جواب: ... جس نے اپنا حج نہ کیا ہو، اس کا حج بدل پر بھیجنا مکروہ ہے۔<sup>(۱)</sup>

اپنا حج نہ کرنے والے کا حج بدل کرنا، حج بدل کے بعد دوسرے حج کی فرضیت

سوال: ... میرے والد محترم کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا تھا، مرحوم کو حج کرنے کی بڑی تڑپ تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی آمدنی سے کچھ حصہ نکال کر رکھ دیتے تھے کہ میں حج کرنے جاؤں گا، مگر موت نے ان کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ آخری خواہش بھی میرے والد مرحوم کی یہی تھی۔ ہم بھائیوں نے مشورہ کیا کہ والد صاحب کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جمع شدہ رقم سے ان کے لئے حج بدل کریں۔ میری والدہ ماجدہ بھی حج کے لئے تیار ہو گئیں، اب ان کے ساتھ محرم کا جانا بھی ضروری ہے۔ ہمارے خاندان میں والدہ کے محرم افراد میں کوئی بھی حاجی نہیں ہے، اب میں اپنے والد صاحب کے حج بدل کے طور پر والدہ کے ساتھ حج پر جانا چاہتا ہوں، اب مسائل یہ ہیں کہ:

۱: ... میں پہلے حاجی نہیں ہوں، تو کیا حج بدل کر سکتا ہوں؟

۲: ... حج بدل کے بعد میرے لئے دوسرے حج کی فرضیت ہوگی یا نہیں؟

۳: ... نیز میرے والد مرحوم کی پھوپھی زاد بہن جن کی عمر تقریباً ۶۵ سال کے قریب ہے، وہ بھی میرے ساتھ حج پر جانا چاہتی

ہیں، کیا وہ میرے ساتھ حج پر جا سکتی ہیں؟ ان کے ساتھ میرا رشتہ محرم کا ہوگا یا نامحرم کا؟

جواب: ... جس شخص نے اپنا حج نہ کیا ہو، اس کا حج بدل پر جانا مکروہ ہے، لیکن اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کے والد ماجد

کا حج ادا ہو جائے گا۔<sup>(۲)</sup>

(۱) الأفضل إحجاج الحر العالم بالمناسك الذي حج عن نفسه وذكر في البدائع كراهة إحجاج الصرورة لأنه تارك فرض الحج. (حاشية رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۰۳). إذا أراد أن يحج رجلاً عن نفسه أن يحج رجلاً قد حج عن نفسه. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۵۷، كتاب المناسك، الباب الرابع عشر في الحج عن الغير).

(۲) والأفضل للإنسان إذا أراد أن يحج رجلاً عن نفسه أن يحج رجلاً قد حج عن نفسه ومع هذا لو أحج رجلاً لم يحج عن نفسه حجة الإسلام يجوز عندنا وسقط الحج عن الأمر. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۵۷، كتاب المناسك).

۲: ... آپ کا حج آپ کے ذمے رہے گا، بشرطیکہ آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ آپ حج پر جا سکیں۔<sup>(۱)</sup>

۳: ... آپ کی والدہ آپ کے ساتھ حج پر جا سکتی ہیں، لیکن آپ کے والد کی پھوپھی زاد آپ کے ساتھ حج پر نہیں جا سکتیں، کیونکہ وہ آپ کی محرم نہیں ہیں،<sup>(۲)</sup> واللہ اعلم!

## کیا حج بدل افراد ہی کیا جا سکتا ہے؟

سوال: ... میں نے سنا ہے کہ حج بدل صرف ”افراد“ ہی کیا جا سکتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟

میں نے اور میرے بھائی نے حج بدل کیا ہے، ہمارے تایا صاحب تھے، ان کی وفات کے بعد میں نے ان کے لئے حج کیا، ان پر حج فرض نہیں تھا، انہوں نے نہ عمرہ کیا تھا، اور نہ وصیت کی تھی، میں نے اپنی طرف سے حج کیا اور وہ بھی قرآن۔  
والدہ صاحبہ نے اپنی زندگی میں کئی حج کئے تھے، ان کی وفات کے بعد ہم نے ان کے لئے حج کیا، بغیر ان کی وصیت کے، اور قرآن کیا۔ یاد رہے کہ ہم اپنا حج پہلے کر چکے ہیں، کیا ہمارا حج ان کے لئے ہو گیا؟ جواب ضرور مرحمت فرمائیں۔  
جواب: ... آپ نے تایا کی جانب سے اور والدہ کی جانب سے جو حج بدل کیا وہ صحیح ہے، کیونکہ ان دونوں پر حج فرض نہیں تھا، گویا یہ نقلی حج ہوا، اور نقلی حج کے لئے وہ شرائط نہیں جو حج بدل کے لئے ضروری ہیں۔<sup>(۳)</sup>

## اپنا حج نہ کرنے والے کا حج بدل پر جانا

سوال: ... میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اور ہم اپنے والد کا حج بدل کرانا چاہتے ہیں، ہم جس آدمی کو حج بدل کرانا چاہ رہے ہیں اس کی مالی حیثیت اتنی نہیں کہ وہ اپنا حج ادا کر سکے، کیا ہم اس شخص سے حج بدل کر سکتے ہیں جس نے اپنا حج نہیں کیا؟ یا حج بدل کے لئے پہلے اپنا حج کرنا لازم ہے؟ یا کوئی اور صورت ہو حج بدل کرانے کی؟ اس کا تفصیلی جواب دیں۔  
جواب: ... جس شخص نے اپنا حج نہ کیا ہو اس کا حج بدل پر جانا مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولیٰ ہے، تاہم اگر چلا جائے تو حج بدل ادا ہو جائے گا۔<sup>(۴)</sup>

(۱) إتفقوا أنّ الفرض يسقط عن الأمر ولا يسقط عن المأمور۔ (بحر الرائق ج: ۳ ص: ۶۶، ۶۷، باب الحج عن الغير)۔ منها القدرة على الزاد والراحلة سواء كان بطريق الملك أو الإجارة۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۷)۔

(۲) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم۔ (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۲۳)۔

(۳) وهذه الشرائط كلها في الحج الفرض وأما النفل فلا يشترط فيه شيء منها إلا الإسلام والعقل والتميز۔ (حاشية رد المحتار ج: ۲ ص: ۶۰۱)۔ وإن كانت (أي العبادة المركبة منهما) نافلة كحج النفل وعمرة التطوع تجزئ في الحالتين، ولا يشترط فيه العجز، ولا غيره مما يشترط في حج الفرض، وعمرة الإسلام إلا أهلية النائب بالإسلام والعقل والتميز والنية عنه في الإحرام إن أمره بالحج۔ (غنية الناسك، كتاب الحج، باب الحج عن الغير ص: ۳۲۰)۔

(۴) (الجواب) يجوز لمن لم يكن حج عن نفسه ان يحج عن غيره لكنه خلاف الأفضل ويسمى حج الضرورة۔ (الفتاوى تنقيح الحامدية، كتاب الحج ج: ۱ ص: ۱۳ طبع رشيدية)۔ وأيضاً: والذي يقتضيه النظر..... (بقي المجلد صفحہ پر)

سوال: ... دو بھائی ہیں جن کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، دونوں بھائی الگ الگ اپنے گھر میں فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، جن میں ایک بھائی امیر ہے اور دوسرا بھائی بہت غریب ہے۔ چھوٹا بھائی جو کہ امیر ہے اپنی والدہ (ماں) کے ساتھ حج کر چکا ہے، اب وہ اپنے مرحوم والد کے نام کا حج بدل کروانا چاہتا ہے، بڑا بھائی چونکہ غریب ہے اور اس نے ایک بار بھی حج نہیں کیا ہے، چھوٹا بھائی اپنے پیسے (رقم) سے اپنے بڑے بھائی کو مرحوم والد کے نام سے حج بدل پر بھیجنا چاہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بڑا بھائی جس نے خود ابھی تک حج نہیں کیا ہے، اس کے باوجود وہ دوسرے کے نام پر حج بدل کر سکتا ہے؟

جواب: ... جس نے اپنا حج نہ کیا ہو، اس کا حج بدل پر بھیجنا مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولیٰ ہے۔<sup>(۱)</sup>

سوال: ... دوسروں کے پیسے (رقم) سے حج بدل کیا جا سکتا ہے؟

جواب: ... وہ حج بدل جو بغیر وصیت میت کے ہو جس کو عوام ”حج بدل“ کہتے ہیں جیسے کہ سوال میں مذکور ہے، دوسروں کے پیسے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔

سوال: ... بڑا بھائی جو کہ حج بدل کر کے واپس آئے، وہ ”حاجی“ کہلائے گا؟

جواب: ... جی ہاں! اپنے حج کے بغیر ”حاجی“ کہلائے گا۔

### حج بدل کوئی بھی کر سکتا ہے غریب ہو یا امیر

سوال: ... حج بدل کا کیا طریقہ ہے؟ کون شخص حج بدل کے لئے جا سکتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جس نے اپنا حج نہ کیا ہو، اس کو حج بدل پر نہیں بھیجنا چاہئے، کیونکہ غریب آدمی پر حج فرض ہی نہیں ہوتا تو حج بدل کے لئے بھی نہیں جا سکتا، امیر کا بھیجنا بہتر ہے یا غریب کا؟

جواب: ... جس شخص نے اپنا حج نہیں کیا ہے، اس کو حج بدل کے لئے بھیجنے سے حج بدل ادا ہو جاتا ہے، لیکن ایسے شخص کو حج بدل پر بھیجنا مکروہ ہے، لہذا ایسے شخص کو بھیجا جائے جو پہلے حج کر چکا ہو، خواہ وہ غریب ہو یا امیر، غریب یا امیر کی بحث اس مسئلے میں نہیں ہے۔

### نابالغ حج بدل نہیں کر سکتا

سوال: ... میرے لڑکے کی عمر ۱۳ سال ہے، کیا یہ اپنے باپ کا حج بدل کر سکتا ہے؟

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)..... أن حج الصرورة (الذی لم یحج عن نفسه) عن غیرہ إن کان بعد تحقق الواجب علیہ بملک الزاد

والراحلة والصحة، فهو مکروه کراهة تحریم ..... ومع ذلك یصح لأن النهی لیس لعین الحج ..... قال فی البحر:

والحق انها تنزیہیة علی الامر۔ (فتاویٰ شامی، کتاب الحج، مطلب فی حج الصرورة ج: ۲ ص: ۶۰۳، طبع سعید)۔

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) ایضاً۔

جواب: ... نابالغ حج بدل نہیں کر سکتا۔<sup>(۱)</sup>

## حج بدل میں قربانی لازم ہے یا نہیں؟

سوال: ... حج بدل میں قربانی لازم ہے یا نہیں؟

جواب: ... قربانی تمتع اور قرآن میں واجب ہوتی ہے، حج مفرد میں قربانی لازم نہیں، کسی جنایت (غلطی) کی وجہ سے لازم

ہو جائے تو دوسری بات ہے۔<sup>(۲)</sup>

حج کی تین قسمیں ہیں: مفرد، قرآن، تمتع۔

حج مفرد: ... حج مفرد یہ ہے کہ میقات سے گزرتے وقت صرف حج کا احرام باندھا جائے، اس کے ساتھ عمرہ کا احرام نہ

باندھا جائے، حج سے فارغ ہونے تک یہ احرام رہے گا۔<sup>(۳)</sup>

حج قرآن: ... حج قرآن یہ ہے کہ میقات سے عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھا جائے، مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلے عمرہ کے ارکان ادا

کئے جائیں، اس کے بعد حج کے ارکان ادا کر کے ۱۰ رذوالحجہ کو رمی اور قربانی سے فارغ ہو کر احرام کھولا جائے۔<sup>(۴)</sup>

حج تمتع: ... حج تمتع یہ ہے کہ حج کے موسم میں میقات سے گزرتے وقت صرف عمرہ کا احرام باندھا جائے اور اس کے ارکان

ادا کر کے احرام کھول دیا جائے۔ پھر ۸ رذوالحجہ کو حج کا احرام باندھ کر حج کے ارکان ادا کئے جائیں اور ۱۰ رذوالحجہ کو رمی اور قربانی کے

بعد حج کا احرام کھولا جائے۔<sup>(۵)</sup>

(۱) التاسع عشر: تميز المأمور، فلا يصح إحجاج صبي غير مميز ويصح إحجاج المراهق كما سيأتي. (فتاوى شامى، مطلب شروط الحج عن الغير ج: ۲ ص: ۶۰۱). وأيضا: ولأجزاء النيابة في حجة الإسلام ونحوها ..... عشرون شرطاً ..... العشرون: تميز المأمور لأعمال الحج، فلا يصح إحجاج الصبي غير مميز... إلخ. (غنية الناسك، باب الحج عن الغير ص: ۳۲۰ تا ۳۲۶، كتاب الحج، باب الحج عن الغير، طبع إدارة القرآن).

(۲) خمسون شيئاً يوجب الدم على المحرم ..... دم التمتع، دم القران، وهما دمان، دم لحجته ودم لعمرته. (خزانة الفقه، كتاب الحج، ما يوجب الدم على المحرم ص: ۹۳، ۹۴، طبع المكتبة الغفورية العاصمية).

(۳) كيفية الأفراد: الأفراد أن يحرم بالحج وحده ثم لا يعتمر حتى لا يفرغ من حجه... إلخ. (الفقه الإسلامى وأدلته، كتاب الحج ج: ۳ ص: ۲۱۵ طبع دار الفكر).

(۴) باب القران ..... قوله: وصفة القران أن يهل بالعمرة والحج معاً من الميقات، قدم العمرة لأن الله تعالى قدمها بقوله: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج" ولأن أفعالها متقدمة على أفعال الحج. (الجوهرة النيرة، باب القران ج: ۱ ص: ۱۶۷، طبع مجتبائى دهلى). أيضاً: أما الإحرام بحجة وعمرة، فهو أن يقول عند الميقات: اللهم ليبيك ..... فيؤدى بهما جميعاً يا حرام واحد، ثم يذبح شاة بعد الرمي من جمرة العقبة في يوم النحر أو من يوم الغد. (خزانة الفقه، كتاب المناسك والحج ص: ۸۸).

(۵) التمتع لغة الجمع بين العمرة والحج بإحرامين ..... وهو أن يحرم بعمرة من الميقات أو قبله في أشهر الحج ويطرف ..... ويسعى ويحلق أو يقصر كالمفرد بالعمرة، ويقطع التلبية في أول طوافه ..... ثم يحرم بالحج من الحرم إن كان بمكة أو من الحل إن كان بالمواقيت ..... يوم التروية وحج كالمفرد ..... وذبح بعد الرمي في أيام النحر... إلخ. (جامع الرموز الرواية في شرح مختصر الوقاية، كتاب الحج، ج: ۲ ص: ۲۱۸، طبع مكتبة إسلامية گنبد قابوس ایران، وكذا في فتح القدير ج: ۲ ص: ۲۱۰، ۲۱۱، طبع دار صادر بيروت، وخزانة الفقه ص: ۸۹، طبع المكتبة الغفورية العاصمية).

## حج بدل میں کتنی قربانیاں کرنی ضروری ہیں؟

سوال: ۱...: حج بدل کرنے والا اگر قربانی کرتا ہے تو ایک کرے یا دو؟ یعنی آمر اور مأموردونوں کی طرف سے۔

سوال: ۲...: ہم لوگ نفلی حج بدل کرتے ہیں، اس صورت میں قربانی کریں یا نہ کریں؟ اگر کریں تو کس طرح؟

سوال: ۳...: جو لوگ پاکستان یا دیگر ملکوں سے آکر حج بدل کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں پھر احرام کھول کر دوبارہ حج تمتع

کرتے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے تحریر کریں۔

جواب: ۱...: حج بدل کرنے والے کو حج مفرد یعنی صرف حج کا احرام باندھنا چاہئے، اور حج مفرد میں حج کی وجہ سے قربانی

نہیں ہوتی، اس لئے آمر کی طرف سے قربانی کی ضرورت نہیں، مأمور اگر مقيم اور صاحب استطاعت ہو تو اپنی طرف سے (عام قربانی)

کرے، اور مسافر اور غیر مستطیع پر عام قربانی واجب نہیں۔<sup>(۱)</sup>

جواب: ۲...: اس کا مسئلہ بھی وہی ہے جو اوپر لکھا گیا ہے۔

جواب: ۳...: جیسا کہ اوپر لکھا گیا، حج بدل کرنے والوں کو حج مفرد یعنی صرف حج کا احرام باندھنا چاہئے، اگر وہ تمتع

کریں (یعنی میقات سے صرف عمرہ کا احرام باندھیں اور عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر ۸ رذوالحجہ کو حج کا احرام باندھیں) تو تمتع

کی قربانی خود ان کے مال سے لازم ہے، آمر کے مال سے نہیں، الا یہ کہ آمر نے اس کی اجازت دے دی ہو تو اس کے مال سے قربانی

کر سکتے ہیں۔<sup>(۲)</sup>

(۱) وأما الأضحية فإن كان مسافراً لا تجب عليه، وآلا كان كالمكي فتجب عليه. (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، كتاب

الحج ج: ۱ ص: ۴۹۴). يجب على الغني دون الفقير ..... شكراً لنعمة الحياة وإحياء الميراث الخليل حين أمره الله

بذبح الكبش في هذه الأيام كذا في البدائع. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۲، كتاب الأضحية، الباب الأول).

(۲) ودم القران والتمتع والجنایة على الحاج إن أذن له الأمر بالقران والتمتع وآلا فيصير مخالفاً فيضمن. (الدر المختار،

باب الحج عن الغير، مطلب العمل على القياس دون الاستحسان هنا، ج: ۲ ص: ۶۱۱ طبع سعيد). أيضاً قال: فإن أمره غير

أن يقرن عنه فالدم على من أحرم لأنه وجب شكراً بما وفقه الله تعالى من الجمع بين النسكين، والمأمور هو المختص، لهذه

النعمة لأن حقيقة الفعل منه... الخ. (هداية، كتاب الحج، باب الحج عن الغير ج: ۱ ص: ۲۹۸). أيضاً: ودم المتعة والقران

والجنایات على المأمور، فأما دم المتعة والقران فلأنه وجب شكراً وفق لأداء النسكين وهو الذي حصلت له هذه النعمة، وأما

دم الجنایات فلأنه هو الجاني... الخ. (الفقه الحنفي، الحج عن الغير ج: ۱ ص: ۴۶۹ طبع بيروت).

## بغیر محرم کے حج

### محرم کسے کہتے ہیں؟

سوال: ... ایک میاں بیوی اکٹھے حج کے لئے جا رہے ہیں، میاں مردِ صالح و پرہیزگار ہے، بیوی کی ایک رشتہ دار عورت ان میاں بیوی کے ہمراہ حج کے لئے جانا چاہتی ہے اور وہ رشتہ دار عورت ایسی ہے جس کا نکاح بیوی کی زندگی میں یا دورانِ نکاح اس کے میاں سے نہیں ہو سکتا، مثلاً: بیوی کی بھتیجی، بیوی کی بھانجی، بیوی کی سگی بہن۔

جواب: ... محرم وہ ہوتا ہے جس سے کبھی بھی نکاح نہ ہو سکے<sup>(۱)</sup>۔ بیوی کی بہن، بھانجی اور بھتیجی شوہر کے لئے نامحرم ہیں، ان کے ساتھ جانا جائز نہیں۔<sup>(۲)</sup>

### بیوہ بہو کو حج کے لئے ساتھ لے جانا

سوال: ... میری ایک بیوہ بہو ہے، اسے میں اپنے ساتھ حج بیت اللہ کے لئے لے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، میری اہلیہ بھی میرے ہمراہ ہوں گی، میری بہو کا کوئی محرم ایسا نہیں ہے جو حج کی استطاعت رکھتا ہو، میری عمر ۶۵ سال ہے، کیا میں اسے اپنے ساتھ حج کے لئے لے جا سکتا ہوں؟

جواب: ... آپ کی بیوہ بہو آپ کے لئے محرم ہے،<sup>(۳)</sup> اس لئے آپ کے ساتھ اس کا سفر حج صحیح ہے،<sup>(۴)</sup> واللہ اعلم!

### عورتوں کے لئے حج میں محرم کی شرط کیوں ہے؟ نیز منہ بولے بھائی کے ساتھ سفر حج

سوال: ... ایک لڑکی نے منہ بولے بھائی کے ساتھ حج کیا، کیا یہ اس کا محرم ہے؟ اس کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اور پھر عورتوں کے لئے حج میں محرم کی شرط کیوں ہے؟

(۱) والمحرّم من لا يجوز له مناكحتها على التأبید بقراة أو رضاع أو صهرية... الخ۔ (فتاویٰ شامی ج: ۲ ص: ۴۶۳)۔

(۲) ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما... الخ۔ (هداية ج: ۱ ص: ۲۳۳)۔

(۳) "وَحَلِيلُ أَبْنَانِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ" (النساء: ۲۳)۔ ایضاً حاشیہ نمبر ۱۔

(۴) عند وجود المحرم كان عليها أن تحج حجة الإسلام۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۹، کتاب المناسک)۔



جواب: ... کسی اجنبی آدمی کو بھائی بنانے سے وہ محرم نہیں بن جاتا،<sup>(۱)</sup> اس لئے نکاح جائز ہے۔ میں شرعی مسئلہ بتاتا ہوں، ”کیوں“ کا جواب نہیں دیا کرتا۔ مگر آپ کے اطمینان کے لئے لکھتا ہوں کہ بغیر محرم کے عورت کو تین دن یا اس سے زیادہ کے سفر کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے،<sup>(۲)</sup> کیونکہ ایسے طویل سفر میں اس کا اپنی عزت و عصمت کو بچانا ایک مستقل مسئلہ ہے، اور اس ناکارہ کے علم میں ہے کہ بعض عورتیں محرم کے بغیر حج پر گئیں اور گندگی میں مبتلا ہو کر واپس آئیں۔ علاوہ ازیں ایسے طویل سفر میں حوادث پیش آسکتے ہیں اور عورت کو اٹھانے، بٹھانے کی ضرورت پیش آسکتی ہے، اگر کوئی محرم ساتھ نہیں ہوگا تو عورت کے لئے یہ دشواریاں پیش آئیں گی۔<sup>(۳)</sup>

### عورت کو عمرہ کے لئے تنہا سفر جائز نہیں لیکن عمرہ ادا ہو جائے گا

سوال: ... میں عمرہ کے ارادے سے نکلنا چاہتی ہوں، ایئر پورٹ تک میرے شوہر ساتھ ہیں، جدہ میں ایئر پورٹ پر میرے بھائی موجود ہیں، پھر ان کے ساتھ عمرہ ادا کرتی ہوں، پھر جدہ سے بھائی جہاز میں سوار کرا دیتے ہیں، یہاں پر شوہر اتار لیتے ہیں، ایسی صورت میں عمرہ ادا ہو جائے گا؟

جواب: ... عمرہ ادا ہو جاتا ہے،<sup>(۴)</sup> مگر آپ کا ہوائی جہاز کا تنہا سفر کرنا جائز نہیں۔<sup>(۵)</sup>

### کراچی سے جدہ تک بغیر محرم کے سفر

سوال: ... اگر کوئی عورت حج کے لئے مکہ مکرمہ کا ارادہ رکھتی ہو جبکہ اس کا محرم ساتھ نہیں آسکتا، مگر یہ کہ کراچی سے سوار کرا سکتا ہے، جبکہ اس کا بھائی جدہ ایئر پورٹ پر موجود ہے، ایسی عورت کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

جواب: ... کراچی سے جدہ تک بغیر محرم کے سفر کرنے کا گناہ اس کے ذمہ بھی ہوگا۔

(۱) ”وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَ كُمْ أَبْنَاءَ كُمْ، ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ“ (الأحزاب: ۴)۔ وفي التفسير: يعني تبنيكم له قول لا يقتضى أن يكون ابناً حقيقياً فإنه مخلوق من صلب رجل آخر فما يمكن أن له أبوان۔ (تفسير ابن كثير ج: ۵ ص: ۱۴۳ طبع رشيدية كوثله)۔

(۲) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها۔ (صحيح لمسلم ج: ۱ ص: ۴۴۴ طبع بمبئي)۔ أيضاً: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم۔ (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۲۳، كتاب الحج، طبع سعيد)۔

(۳) لأن المرأة لا تقدر على الركوب والنزول بنفسها فتحتاج إلى من يركبها وينزلها ولا يجوز ذلك لغير الزوج والمحرم۔ (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۲۳، كتاب الحج، فصل وأما شرائط فرضيته نوعان)۔

(۴) فإن حجت بغير محرم أو زوج جاز حجها مع الكراهة۔ (الجوهرية النيرة ج: ۱ ص: ۱۵۴)۔

(۵) ويؤيده حديث الصحيحين: ”لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها“ (فتاوى شامى ج: ۲ ص: ۴۶۵)۔

## مطلقہ عورت پر حج کی فرضیت، نیز اس کا محرم کون ہو؟

سوال: ... ایک عورت جو مطلقہ ہو (اس کے کہنے کے مطابق) اس کی غیر شادی شدہ لڑکیاں اور لڑکے بھی کمانے کے قابل ہوں، کیا ایسی صورت میں اس پر حج واجب ہے؟ جبکہ بچوں کا کفیل والد ہے، اس وقت صورت حال یہ ہے کہ تمام بچے زیر تعلیم ہیں۔

۲: ... مندرجہ بالا صورت میں حج پر جاتے وقت عورت کا محرم کون ہو سکتا ہے؟

جواب: ... اگر اس کے پاس آنے جانے کا خرچ ہے اور کوئی محرم بھی ساتھ جانے والا ہے تب تو اس پر حج فرض ہے، اگر خرچ نہیں تو حج فرض نہیں۔ اور اگر خرچ ہے مگر ساتھ جانے والا محرم نہیں تو بغیر محرم کے اس کا حج پر جانا جائز نہیں، بلکہ وصیت کر دے کہ اس کی طرف سے حج بدل کر دیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

۲: ... مطلقہ عورت کسی سے نکاح کرے، اس کے ساتھ حج پر جاسکتی ہے۔

## بغیر محرم کے حج کا سفر

سوال: ... بغیر محرم کے حج کے لئے جانے کے بارے میں مشروع حکم کیا ہے؟ محرم کے بغیر عورت کا حج کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حکومت وقت نے حج کی درخواستیں قبول کرنے کے لئے عورت کے لئے محرم کا نام و پتہ وغیرہ لکھنے کی ضروری شرط عائد کر رکھی ہے، جو عورتیں غیر محرم کو محرم دکھا کر حج کرنے چلی جائیں ان کے لئے کیا حکم ہے؟

جواب: ... محرم کے بغیر حج کا سفر جائز نہیں<sup>(۲)</sup>، اور نا محرم کو محرم دکھا کر حج کا سفر کرنا ذہرا گناہ ہے۔<sup>(۳)</sup>

## حج کے لئے غیر محرم کو محرم بنانا گناہ ہے

سوال: ... ایک خاتون جو دو مرتبہ حج کر چکی ہیں اور جن کی عمر بھی ساٹھ سال سے تجاوز کر چکی ہے، تیسری مرتبہ حج بدل کی نیت سے جانا چاہتی ہیں، اس صورت میں گروپ لیڈر کو جو شرعی محرم نہیں ہے، اس کو اپنا محرم قرار دے کر جبکہ اسی گروپ میں پندرہ بیس دیگر خواتین بھی گروپ لیڈر ہی کو محرم بنا کر (جو ان کا شرعی محرم نہیں ہے) حج پر جا رہی ہیں، ایسی خواتین کا حج درست ہوگا یا نہیں؟

جواب: ... محرم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں، گوج ادا ہو جائے گا،<sup>(۴)</sup> لیکن جھوٹ اور بغیر محرم کے سفر کا گناہ سر پر رہے گا۔<sup>(۵)</sup>

(۱) ومنها المحرم للمرأة ..... إذا كانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ..... وعلى القول الآخرين تلزمه الوصية. (فتاویٰ عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۹، کتاب المناسک).

(۲) يكره تحريمًا على المرأة أن تحج بغيرهما أي المحرم والزوج. (اللباب ج: ۱ ص: ۱۶۵، كتاب الحج، طبع قديمي).

(۳) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع فى النار. (صحيح مسلم ج: ۱ ص: ۷۰، طبع قديمي، حلية الأولياء ج: ۳ ص: ۱۸۹، طبع دار الكتب العلمية بيروت، كنز العمال ج: ۳ ص: ۵۲۵، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت).

(۴) حوالہ کے لئے گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۲، ۳ دیکھیں۔

(۵) ایضاً حاشیہ نمبر ۳، نیز گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۲ دیکھیں۔

## نامحرم کو محرم ظاہر کر کے حج کرنا

سوال: ... میری دادی اور پھوپھی اس سال حج پر تشریف لے گئی ہیں، ان کے ساتھ کوئی محرم نہیں گیا ہے، جانے سے پہلے انہوں نے اپنے شہر کے مولوی صاحب سے پوچھا ہے، پتا نہیں مولوی صاحب نے انہیں کس طرح محرم کے بغیر حج پر جانے کی اجازت دی ہے۔ دوسرے میری دادی اور پھوپھی نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے گروپ کے کسی آدمی کو بھائی بتایا ہے، حالانکہ میں ان کا بھتیجا اور پوتا ہوں، میں بھی اس آدمی کو چہرے سے نہیں جانتا ہوں، اور حتیٰ کہ ان کا لڑکا اور بھائی یعنی میرے والد صاحب بھی اس شخص کو نہیں جانتے ہیں۔

جواب: ... آپ کی دادی اور پھوپھی کا حج تو ہو گیا،<sup>(۱)</sup> لیکن ان کا سفر بغیر محرم کے، یہ گناہ ہے، گروپ کے کسی مرد کو اپنا بھائی یا لڑکا بنا لینے سے وہ محرم نہیں بن جاتا،<sup>(۲)</sup> اور پھر درخواستوں میں اس شخص کو اپنا بیٹا یا بھائی ظاہر کرنا الگ جھوٹ۔

## عورت کو محرم کے بغیر حج پر جانا جائز نہیں

سوال: ... میں حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ اتنی حیثیت ہے کہ میں اپنا حج کا خرچہ اٹھا سکوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ میرے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے، ماشاء اللہ میرے چار بیٹے ہیں، جن میں دو شادی شدہ ہیں اور اپنی کاروباری اور گھریلو زندگی میں مصروف ہیں، اور ایک گورنمنٹ سروس میں ہے، جنہیں چھٹی ملنا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، اور چوتھا بیٹا ابھی تیرہ سال کا ہے اور قرآن پاک حفظ کر رہا ہے۔ کیا میں گروپ کے ساتھ حج کرنے جا سکتی ہوں یا اور کوئی طریقہ ہے؟ برائے مہربانی جواب دے کر مشکور و ممنون فرمائیں۔

جواب: ... عورت کا بغیر محرم کے سفر حج پر جانا جائز نہیں۔<sup>(۳)</sup> آپ کے صاحب زادوں کو چاہئے کہ ان میں سے کوئی اپنی مصروفیتوں کو آگے پیچھے کر کے آپ کے ساتھ حج پر جائے، کل تیس پینتیس دن تو خرچ ہوتے ہیں، آپ کے صاحب زادوں کے لئے آپ کے حج کی خاطر اتنی قربانی دینا کیا مشکل ہے...؟

## رضاعی بھتیجے کے ساتھ حج کرنا

سوال: ... سوال یہ ہے کہ زبیدہ نے ایک لڑکے کو اپنا دودھ پلایا، زبیدہ کی نند رضیہ بغیر کسی محرم کے حج کرنے جا رہی ہے، جبکہ ان کے سارے محرم صاحب نصاب ہیں یعنی حج پر جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ جہاز میں وہ لڑکا بھی رضیہ کے ساتھ ہے، وہ دونوں الگ الگ رہتے ہیں، صرف حج کے دنوں میں ملتے ہیں تاکہ رضیہ کا حج ہو جائے، کیونکہ رضاعت کے رشتے سے وہ اس کی

(۱) فإن حجت بغیر محرم أو زوج جاز حجها مع الكراهة۔ (الجوهرة النيرة، كتاب الحج ج: ۱ ص: ۱۵۴)۔

(۲) ص: ۲۹۶ کا حاشیہ نمبر ۱ تا ۴ ملاحظہ فرمائیں۔

(۳) ایضاً۔

پھوپھی لگتی ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ اس طرح رضیہ کا حج ہو گیا یا نہیں جبکہ اس لڑکے کا رضیہ سے کوئی اور رشتہ نہیں ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ اس طرح حج نہیں ہوتا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے، جواب دے کر مشکور فرمائیں تو مہربانی ہوگی۔

جواب: ... رضاعی بھتیجا محرم ہے، رضاعی پھوپھی اس کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے۔<sup>(۱)</sup>

## بغیر محرم کے حج

سوال: ... میرے والد صاحب کا انتقال ۱۹۷۶ء میں ہوا، میں گھر کا بڑا فرد ہوں، ان کی وفات کے بعد میرے اوپر ذمہ داریاں تھیں جو کہ کافی تھیں، خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے اس عرصے میں والد صاحب کی وفات کے بعد اپنی ذمہ داریاں پوری کیں، سابقہ سال میں، میں نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی بھی کر دی ہے، اب مجھ پر کوئی ایسی ذمہ داری نہ تھی اور نہ ہی ہے۔ میری والدہ صاحبہ کو جو کہ کراچی میں مقیم ہیں، اس سال حج اسکیم کے تحت لوگ حج پر جا رہے تھے تو میرے دوست اور ان کی والدہ بھی جا رہی تھیں، انہوں نے ڈرافٹ بنوایا جو کہ کل ۲۵۱۲۰ روپے فی فرد کے حساب سے ہوتا ہے، میں نے اپنی والدہ کے لئے حج ڈرافٹ بنوایا اور ان کے ساتھ ہی ارسال کر دیا جو کہ تینوں ڈرافٹ ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں اور گورنمنٹ سے منظوری بھی آگئی ہے کہ حج پر جا سکتی ہیں، جبکہ والدہ اور جن کے ساتھ جا رہی ہیں، وہ صاحب دین دار ہیں یعنی نماز وغیرہ کے مکمل پابند ہیں، میں گورنمنٹ میں ملازم ہوں کیونکہ مجھے چھٹی نہیں مل سکتی، میں سوچ رہا ہوں کہ چھٹی مل جانے پر میں یہاں ریاض سے کار کے ذریعہ جاسکوں گا اور جدہ ایئر پورٹ پر ان سے ملاقات کر لوں اور ساتھ حج بھی کر لوں، لیکن میں نے ایک دن نماز کے بعد پیش امام صاحب سے پوچھا جو کہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ حنفی مذہب میں بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ہیں، حج تو بہت دور رہا۔ اب میں پریشان ہوں کہ کیا کروں؟ کیا میری والدہ کا حج ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں دوسرے عالم جو مصر سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے، جبکہ ان کی تاریخ پیدائش ۱۹۲۶ء ہے جو کہ عمر ۵۸ سال بنتی ہے۔ میں نے یوں بھی کوشش کی تھی کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور حالات بھی کل کیا ہوں، کل سرورس رہے یا نہ رہے، اس وقت میرے حالات اچھے ہیں خدا تعالیٰ کا شکر ہے، اور میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنی والدہ کو حج کرادوں اور یہی دعا کرتا ہوں اور کرتا تھا کہ تمام بہنوں اور بھائیوں کی شادی سے فارغ ہو جاؤں تو پھر والدہ کو حج بھی کرادوں گا۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے یہ ذمہ داریاں پوری کر دیں ہیں۔ خدا تعالیٰ میری یہ آخری خواہش بھی پوری کر دے تو اچھا ہے، بہر حال مجھے جواب دیں تو میں آپ کا بڑا ہی شکر گزار ہوں گا تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔

جواب: ... حنفی مذہب میں عورت کا بغیر محرم کے سفر حج پر جانا جائز نہیں، لیکن اگر چلی جائے گی تو حج ہو جائے گا، گو تنہا سفر کرنے کا گناہ ہوگا۔ شافعی مذہب میں بھروسے کی عورتوں کے ساتھ عورت کا حج پر جانا جائز ہے، وہ مصری عالم شافعی مذہب کے ہوں گے۔<sup>(۲)</sup>

(۱) یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب۔ (ہدایہ ج: ۲ ص: ۳۰۸، کتاب النکاح، فصل فی بیان المحرمات)۔

(۲) ویعتبر فی المرأة أن یكون لها محرم تحج به أو زوج ولا یجوز لها أن تحج بغیرهما۔ وقال الشافعی یجوز لها الحج إذا خرجت فی رفقة ومعها نساء ثقة لحصول الأمن بالمرافقة۔ (ہدایہ، کتاب الحج ج: ۱ ص: ۲۱۳، بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۲۳، کتاب الحج، طبع سعید)۔

## بغیر محرم کے حج پر جانا

سوال: ... مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد کا انتقال ڈھائی سال پہلے ہو چکا ہے، میری والدہ حیات ہیں، اور وہ اپنی پنشن اور اپنے ذاتی پیسے جمع کر کے حج کرنا چاہتی ہیں، ماشاء اللہ دو بیٹے ہیں، لیکن اتنی مالی استطاعت نہیں رکھتے کہ یہاں سے والدہ کو ساتھ حج کے لئے لے کر جائیں۔ میری بہن بہنوئی کئی سال سے ریاض میں مقیم ہیں، اب والدہ کا ارادہ حج کا ہے، بلکہ بہت شدید خواہش ہے کہ وہ حج بیت اللہ کا شرف حاصل کریں۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا بیٹی داماد کے ساتھ حج کرنا جائز ہے؟ یہاں سے بیٹی داماد اپنی اپنی ماؤں کو بذریعہ جہاز ریاض یا پھر جدہ حج کے لئے بلا سکتے ہیں؟ مطلب میرے بہنوئی اپنی ماں اور اپنی ساس، دونوں کو بغیر محرم کے جہاز میں اکیلے بلا سکتے ہیں؟ اور وہاں سے میری ماں کے ساتھ بیٹی داماد ہوں گے، کیا اس صورت میں حج جائز ہوگا یا پھر کیا صورت حال ہو سکتی ہے؟ آپ براہ مہربانی جلد از جلد اس کا جواب دے دیجئے، کیونکہ حج پر بلانے کے لئے کئی مہینے پہلے سے انتظام کرنا پڑتا ہے، یعنی جو باہر سے بلائے اسے پہلے سے پیسے وغیرہ جمع کرنا ہوتے ہیں۔

جواب: ... یہاں سے جہاز میں اکیلے سفر کرنا جائز نہیں<sup>(۱)</sup>، اگر آپ کے بہنوئی اپنی والدہ کو اور آپ کی والدہ کو آ کر لے جائیں اور حج پر بھی ساتھ ہوں تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## بوڑھے جوڑے کے ساتھ حج پر جانا

سوال: ... میری ضعیف والدہ (بیوہ عمر ۵۶ سال) اور ایک ضعیف بیوہ عزیزہ (عمر ۶۵ سال) حج پر جانے کی آرزو مند ہیں، دونوں خواتین حنفی مسلک کی نمائندہ ہیں، خاندان کے ہی ایک فرد جن کی عمر ۷۰ سال ہے، اور جو اپنی والدہ کے لئے حج بدل کر رہے ہیں، کے ساتھ حج پر جانا چاہتی ہیں، دونوں ضعیف خواتین عمر کے آخری حصے میں ہیں، صرف اس حد تک صاحب نصاب ہیں کہ حج کر سکیں، کیا وہ اپنے عزیز جو ضعیف اور ان کے بزرگ کے زمرے میں آتے ہیں، ان کے ساتھ حج کر سکتی ہیں؟

جواب: ... خواتین کو خواہ وہ کتنی ہی معمر ہوں، محرم کے بغیر سفر پر جانا جائز نہیں<sup>(۳)</sup>، اگر ان پر حج فرض ہے اور کوئی محرم ان کے ساتھ جانے والا نہیں، تو وصیت کر جائیں کہ ان کا حج بدل کرایا جائے، واللہ اعلم!<sup>(۴)</sup>

(۲۰۱) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال: لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم. وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال: لا تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم أو زوج، ولأنها إذا لم يكن معها زوج ولا محرم لا يؤمن عليها إذ النساء لحم على وضم إلا ما ذاب عنه. (بدائع ج: ۲ ص: ۱۲۳، کتاب الحج، وأما شرائط فريضة، طبع سعيد).

(۳) ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج سواء كانت عجوزًا أو شابة... الخ. (الجوهرة النيرة ج: ۱ ص: ۱۵۴، کتاب الحج، طبع مجتبائی دہلی).

(۴) وهل المحرم من شرائط الوجوب أو من شرائط الأداء على الخلاف في أمن الطريق (وهو قبل من شرائط الأداء حتى يجب الإبصار به قال في النهاية وهو الصحيح). (الجوهرة النيرة، کتاب الحج ج: ۱ ص: ۱۵۴، کتاب الحج، طبع مجتبائی دہلی).

## محرم کے بغیر بوڑھی عورت کا حج تو ہو گیا لیکن گناہ گار ہوگی

سوال: ... ہمارے ایک دوست کی بوڑھی، عبادت گزار نانی بغیر محرم کے بغرض ادائے فریضہ حج بذریعہ ہوائی جہاز کراچی سے جدہ روانہ ہوئی ہیں۔ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کراچی سے جدہ تک کا سفر بغیر محرم کے قابل قبول ہے یا اس طرح حج نہیں ہوگا یا اس میں کوئی رعایت ہے؟ کیونکہ محترمہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی ان کا شوہر حیات ہے، اور ان کو حج کی تمنا ہے۔ تو کیا اسلام میں اس کے لئے کوئی رعایت ہے؟ نیز ہزاروں عورتیں جن کا کوئی محرم نہیں ہوتا کیا وہ حج نہ کریں؟

جواب: ... بغیر محرم کے عورت اگر جائے تو حج تو اس کا ہو جائے گا،<sup>(۱)</sup> مگر سفر کرنا بغیر محرم کے امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک جائز نہیں، تو اس ناجائز سفر کا گناہ الگ ہوگا۔<sup>(۲)</sup> مگر چونکہ بوڑھی اماں کا سفر زیادہ فتنے کا موجب نہیں، اس لئے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو رعایت مل جائے، تاہم انہیں اس ناجائز سفر کرنے پر خدا تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہئے۔ رہا آپ کا یہ کہنا کہ: ”ہزاروں عورتیں جن کا کوئی نہیں ہوتا، کیا وہ حج نہ کریں؟“ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک محرم میسر نہ ہو، عورت پر حج فرض ہی نہیں ہوتا، اس لئے نہ کریں، اور اگر بہت ہی شوق ہے تو نکاح کر لیا کریں۔ میرے علم میں ایسے کیس موجود ہیں کہ عورت محرم کے بغیر حج پر گئی اور وہاں منہ کالا کر کے آئی۔ دیکھنے میں ماشاء اللہ ”حَجَّجْنَ“ ہے، لیکن اندر کی حقیقت یہ ہے۔ اس لئے خدا کے قانون کو محض اپنی رائے اور خواہش سے ٹھکرا دینا اور ایک پہلو پر نظر کر کے دوسرے سارے پہلوؤں سے آنکھیں بند کر لینا دانش مندی نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ آج یہ مذاق عام ہو گیا ہے۔

## ضعیف عورت کا ضعیف نامحرم مرد کے ساتھ حج

سوال: ... کیا ۵۰ سال، ۶۰ سال یا ۷۰ سال کی نامحرم عورت ۷۰ سال کے نامحرم مرد کے ساتھ حج، عمرہ کر سکتی ہے؟ اگر عمرہ عورت نے کر لیا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟

جواب: ... نامحرم کے ساتھ حج و عمرہ کا سفر بوڑھی عورت کے لئے بھی جائز نہیں<sup>(۳)</sup>، اگر کر لیا تو حج کی فرضیت تو ادا ہوگئی، لیکن گناہ ہوا، تو بہ و استغفار کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں۔

## ممائی کا بھانجے کے ساتھ حج کرنا

سوال: ... مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ اس سال حج پر جانا چاہتی ہیں اور میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے پھوپھی زاد بھائی اپنی والدہ، خالہ اور پھوپھی کے ساتھ جا رہے ہیں اور میری والدہ ان کے ساتھ جانا چاہ رہی ہیں، میری والدہ رشتے

(۱) فإن حجت بغیر محرم أو زوج جاز حجها مع الكراهة۔ (الجوهرة النيرة ج: ۱ ص: ۱۵۴)۔

(۲) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱ دیکھیں۔

(۳) ومع زوج أو محرم ..... لامرأة حرة ولو عجوزاً فی سفر۔ (فتاویٰ شامی ج: ۲ ص: ۴۶۳، کتاب الحج)، ويعتبر فی المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج سواء كانت عجوزاً أو شابة۔ (الجوهرة النيرة ج: ۱ ص: ۱۵۴، کتاب الحج)۔

میں میرے پھوپھی زاد بھائی کی سگی ممانی ہوتی ہیں، شرعی لحاظ سے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بتائیں کہ ممانی بھی بھانجے کے ساتھ حج کرنے جاسکتی ہیں یا کوئی اور صورت اس کی ہو سکتی ہے؟

جواب: ... ممانی شرعاً محرم نہیں، اس لئے وہ شوہر کے حقیقی بھانجے کے ساتھ حج پر نہیں جاسکتی۔<sup>(۱)</sup>

### بہنوئی کے ساتھ حج یا سفر کرنا

سوال: ... اگر بہنوئی کے ساتھ حج یا کسی اور ایسے سفر پر جہاں محرم کے ساتھ جانا ہوتا ہے، جاسکتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ بہن بھی ساتھ جا رہی ہو۔

جواب: ... بہنوئی کے ساتھ سفر کرنا شرعاً درست نہیں۔<sup>(۲)</sup>

سوال: ... مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی حج کو جانا چاہتے ہوں تو کیا ان کے ہمراہ بیوی کی بہن بھی بطور محرم جاسکتی ہے؟ شرعی طور پر ایک بیوی کی موجودگی میں اس کی ہمشیرہ سے نکاح جائز نہیں، اس لحاظ سے تو سالی محرم ہی ہوتی۔ بہر حال اگر حکومت پاکستان اس مسئلے کی وضاحت اخباروں میں شائع کرادے تو بہت سے لوگ ذہنی پریشانی سے بچ جائیں گے۔

جواب: ... محرم وہ ہے جس سے نکاح کسی حال میں بھی جائز نہ ہو۔<sup>(۳)</sup> سالی محرم نہیں، چنانچہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دیدے یا بیوی کا انتقال ہو جائے تو سالی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور نا محرم کو ساتھ لے جانے سے حاجی مجرم بن جاتا ہے۔

### بہنوئی کے ہمراہ سفر حج پر جانا

سوال: ... میں ایک بیوہ اسکول ٹیچر ہوں، عمر تقریباً ۵۰ سال ہے، میں اپنے چھوٹے بھائی بھانجے اور ضعیف ماں کے ساتھ رہتی ہوں۔ خود کفیل ہوں، صاحب نصاب ہوں، اور میں عمرے کی بھی سعادت حاصل کر چکی ہوں۔ اس دفعہ حج کرنے کا ارادہ ہے، میرے دور کے رشتہ دار اور بہنوئی عمریں تقریباً ۵۰ اور ۶۰ سال، بھی اس سال حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ سے معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا میں اپنے بہن بہنوئی کے ساتھ حج کر سکتی ہوں؟ جواب دے کر ممنون فرمائیں۔

جواب: ... بہنوئی نا محرم ہے، اور بغیر محرم کے حج کے سفر پر جانا جائز ہے، اپنے بھائی صاحب کو ساتھ لے جائیے۔<sup>(۴)</sup>

### ماموں زاد، چچا زاد، بہن بہنوئی کے ساتھ حج پر جانا

سوال: ... آج کل عام رواج پایا جاتا ہے کہ عورتیں اپنے کسی رشتہ دار مثلاً ماموں زاد، چچا زاد وغیرہ کے (یا ان کی اولادوں کے ساتھ) حج کو چلی جاتی ہیں، جس آدمی کے ساتھ جاتی ہیں عموماً اس کے اہل خانہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، کیا ایسی عورتوں کا اس طریقے

(۱) وتعتبر فی المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولا تجوز لها أن تجمع بغيرهما. (هدایة ج: ۱ ص: ۲۳۳، کتاب الحج، طبع شرکت علمیہ ملتان)۔ نیز دیکھئے ص: ۳۰۰ کا حاشیہ نمبر ۱۔

(۳) والمحرم من لا يجوز له مناكحتها على التابيد... الخ. (فتاویٰ شامی ج: ۲ ص: ۴۶۴، کتاب الحج)۔

(۴) ایضاً حاشیہ نمبر ۱، ۳۔

سے حج ہو جاتا ہے؟

جواب: ... محرم کے بغیر جانا جائز نہیں۔<sup>(۱)</sup>

سوال: ... اگر دو تین بہنیں اکٹھی حج کو جائیں، ان میں سے کسی ایک کا شوہر ساتھ ہو، تو کیا باقی ماندہ بہنوں کا جن کے محرم ساتھ نہیں ہیں، بہن اور بہنوں کے ساتھ حج ہو جاتا ہے کہ نہیں؟

جواب: ... بہنوں کے ساتھ حج ہو جاتا ہے کہ نہیں۔<sup>(۲)</sup>

جیٹھ یا دوسرے نامحرم کے ساتھ سفر حج

سوال: ... الف و ب دو بھائی ہیں، چھوٹے بھائی الف کی اہلیہ ب (شوہر کے بڑے بھائی) کے ساتھ حج پر جانا چاہتی ہے، شرعاً کیا حکم ہے؟

جواب: ... عورت کا جیٹھ نامحرم ہے، اور نامحرم کے ساتھ سفر حج پر جانا جائز نہیں۔<sup>(۳)</sup>

شوہر کے سگے چچا کے ساتھ سفر حج کرنا

سوال: ... میری بیوی، میرے حقیقی چچا کے ساتھ میری رضامندی سے حج پر جانے کا ارادہ رکھتی ہے، کاغذات وغیرہ داخل کر دیئے ہیں، کیا میرے چچا کی حیثیت غیر محرم کی تو نہ ہو جائے گی؟ شرعاً ان کے ساتھ میری بیوی جا سکتی ہے یا نہیں؟

جواب: ... اگر آپ کی بیوی کی آپ کے چچا سے اور کوئی قرابت نہیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے نامحرم ہیں اور آپ کی بیوی کا اس کے ساتھ حج پر جانا جائز نہیں۔<sup>(۴)</sup>

عورت کا بیٹی کے سسر و ساس کے ساتھ سفر حج

سوال: ... میں اور میری بیوی کا اس سال حج پر جانے کا مصمم ارادہ ہے، میرے ہمراہ میرے ساسے کی بیوی جو کہ میرے لڑکے کی ساس بھی ہے، وہ بھی حج پر جانا چاہتی ہے اور اس کی عمر ۶۰ سال ہے، جبکہ میرے ساسے کے انتقال کو دو سال گزر چکے ہیں، وہ بھند ہے کہ آپ لوگوں سے اچھا میرا ساتھ جانے والا کوئی نہ ہوگا۔ بے حد خواہش ہے کہ دیار حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زیارت کر سکوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میرا فارم بھی ساتھ ہی بھرنا، میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گی۔ لہذا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کس صورت سے حج پر جا سکتی ہیں؟

(۱ تا ۴) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال: ألا لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم، وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال: لا تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم أو زوج ولأنها إذا لم يكن معها زوج ولا محرم لا يؤمن عليها. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۲۳، کتاب الحج، وأما شرائط فريضة، طبع سعيد). وتعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج، ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينهما وبين مكة ثلاثة أيام. (هداية، كتاب الحج ج: ۱ ص: ۲۱۳، كتاب الحج، طبع شركت علمية ملتان).



جواب: ... آپ اس کے محرم نہیں اور محرم کے بغیر سفر حج جائز نہیں<sup>(۱)</sup>، اگر چلی جائے گی تو حج ادا ہو جائے گا، مگر گناہ گار ہوگی۔<sup>(۲)</sup>

### بہن کے دیور کے ساتھ سفر حج و عمرہ

سوال: ... میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے حج نہیں کیا، کیا میں عمرہ کر سکتی ہوں؟ میری بہن کا دیور اس مرتبہ حج پر جا رہا ہے، وہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے اور شادی شدہ بھی ہے، کیونکہ مجھے یہاں پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ جو ان لڑکی دوسرے آدمی کے ساتھ نہیں جاسکتی، کیا میں اس کے ساتھ حج پر جاسکتی ہوں؟

جواب: ... بہن کا دیور محرم نہیں ہوتا، اور محرم کے بغیر حج یا عمرہ کے لئے جانا جائز نہیں۔<sup>(۳)</sup>

### عورت کا منہ بولے بھائی کے ساتھ حج کرنا

سوال: ... نا محرم کے ساتھ حج پر جانا کیسا ہے؟ اگر عورت بغیر محرم کے حج پر جائے یا کسی نا محرم کو محرم بنا کر اس کے ہمراہ جائے تو اس کا یہ عمل کیسا ہوگا؟ ہماری پھوپھی امسال حج پر گئی ہیں، انہوں نے حج کا سفر اپنے ایک منہ بولے بھائی کے ہمراہ کیا اور انہیں محرم ظاہر کیا، حالانکہ ان کے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، مگر وہ اکیلی منہ بولے بھائی کے ہمراہ گئیں۔ کیا منہ بولے بھائی کو محرم بنایا جاسکتا ہے؟ کیا اس کے ہمراہ ارکان حج ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ان کا حج ہو گیا؟

جواب: ... عورت کا بغیر محرم کے سفر پر جانا گناہ ہے،<sup>(۴)</sup> حج تو ہو جائے گا، لیکن عورت گناہ گار ہوگی۔<sup>(۵)</sup> منہ بولا بھائی محرم نہیں ہوتا، اس کو محرم ظاہر کرنا غلط بیانی ہے۔<sup>(۶)</sup>

### عورت کا ایسی عورت کے ساتھ سفر حج کرنا جس کا شوہر ساتھ ہو

سوال: ... ایک خاتون بغرض حج جانا چاہتی ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، کسی اور محرم کا انتظام نہیں ہو پاتا۔ کیا یہ خاتون کسی ایسے مرد کے ساتھ جاسکتی ہے جس کے ساتھ اس کی بیوی ہو یا کسی ایسی خاتون کے ساتھ جاسکتی ہیں جن کے ساتھ ان کا محرم ہو؟

جواب: ... عورت کے لئے محرم کے بغیر حج پر جانا جائز نہیں ہے، اور نہ مذکورہ صورت کے تحت جانا جائز ہے۔<sup>(۷)</sup>

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳ تا ۴ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) فان حجت بغیر محرم أو زوج جاز حجها مع الكراهة۔ (الجوهرة النيرة ج: ۱ ص: ۱۵۴، کتاب الحج)۔

(۳) حوالہ کے لئے دیکھئے گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱۔

(۴) ایضاً۔

(۵) ایضاً حاشیہ نمبر ۲۔

(۶) ”وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ“ (الأحزاب: ۴)۔

(۷) ص: ۲۹۶ کا حاشیہ نمبر ۲، ملاحظہ کیجئے۔

## ملازم کو محرم بنا کر حج کرنا

سوال: ... میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور میری بیوی حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہے، میں اپنی مصروفیات کی بنا پر بطور محرم اس کے ساتھ جانے سے قاصر ہوں، کیا میں اپنے ملازم کو (جو کہ مجھے سرکاری طور پر ملا ہوا ہے) محرم کی حیثیت سے اپنی بیوی کے ساتھ بھیج سکتا ہوں؟

جواب: ... محرم ایسے رشتہ دار کو کہتے ہیں جس سے اس کے رشتے کی وجہ سے نکاح جائز نہیں ہوتا،<sup>(۱)</sup> جیسے: عورت کا باپ، بھائی، بھتیجا، بھانجا۔ گھر کا ملازم محرم نہیں، اور بغیر محرم کے حج پر جانا حرام ہے۔ آپ خود بھی گناہ گار ہوں گے اور آپ کی بیگم اور وہ ملازم بھی۔

## اگر عورت کو مرنے تک محرم حج کے لئے نہ ملے تو حج کی وصیت کرے

سوال: ... ہماری والدہ صاحبہ پر حج فرض ہو چکا ہے، جبکہ ان کے ساتھ حج پر جانے کے لئے کوئی محرم نہیں ملتا، تو کیا اس صورت میں وہ کسی غیر محرم کے ساتھ حج کے لئے جاسکتی ہیں؟ نیز ان کی عمر تقریباً ۶۳ سال ہے۔

جواب: ... عورت بغیر محرم کے حج کے لئے نہیں جاسکتی، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اگر محرم میسر نہ ہو تو اس پر حج کی ادائیگی فرض نہیں ہے، لہذا اس صورت میں نا محرم کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے، اگر چلی گئی تو ادا ہو جائے گا البتہ گناہ گار ہوگی۔ اگر آخر حیات تک اسے جانے کے لئے محرم میسر نہ ہوا، تو اسے چاہئے کہ وصیت کرے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے حج بدل کرایا جائے۔<sup>(۲)</sup>

## ایامِ عدت میں ارکان حج کی ادائیگی

سوال: ... اس سال میرا اور میری اہلیہ کا حج پر جانے کا ارادہ ہے (ان شاء اللہ)۔ ایک سوال ذہن میں آیا ہے کہ اگر اللہ پاک کی مرضی اور رضا سے میرا حج سے پہلے یا دوران انتقال ہو جاتا ہے، بیوی کے لئے چار ماہ دس دن کی عدت لازم ہو جائے گی، جسے بیوہ کے لئے گھر کی چہار دیواری میں گزارنا ہے، آپ جواب عطا فرمائیں کہ:

۱: ... کیا بیوی ایامِ عدت میں حج کے ارکان ادا کرے؟

۲: ... بغیر کسی شرعی محرم کے اتنا عرصہ سعودی عرب میں کیسے گزارے؟ جبکہ حجاج کی مدت قیام ہی صرف ۳۵ یوم ہوتی ہے،

(۱) والمحرّم من لا يجوز له مناكحتها على التأييد بقراءة أو رضاع أو صهرية. (شامی ج: ۲ ص: ۴۶۳، مطلب فی قولہم یقدم حق العبد علی حق الشرع، کتاب الحجر)۔

(۲) (قولہ قولان) وهما مبنيان على أن وجود الزوج أو المحرم شرط وجوب أم شرط وجوب أداء والذي اختاره في الفتح ..... شرط وجوب الأداء فيجب الإيضاء إن منع المرض وخوف الطريق أو لم يوجد الزوج، ولا محرم. (فتاوی شامی ج: ۲ ص: ۴۶۵، مطلب فی قولہم یقدم حق العبد علی حق الشرع، کتاب الحج)۔

اس کے بعد سعودی حکومت رہنے نہیں دیتی اور گروپ والے پاکستان آ جائیں گے۔

۳: ... اگر حج کر کے ارکان ادا کرے گی تو پھر مدینے شریف کی حاضری کیسے ہوگی بغیر شرعی محرم کے؟

جواب: ... اگر آپ حرمین شریفین جائیں اور وہاں آپ کا انتقال ہو جائے تو عورت کو حکم تو ہے کہ وہیں سے واپس آ جائے،

لیکن جہازوں کے نظام الاوقات کا مسئلہ ہے، اس لئے معتبر عورتوں کے ساتھ سفر کرے۔<sup>(۱)</sup> عدت اسی وقت سے شروع ہو جائے گی جبکہ آپ کی وفات ہوگی۔<sup>(۲)</sup>

(۱) (وان كان مات عنها في غير مصر من الأمصار، فإن شاءت رجعت إلى مصرها وإن شاءت مضت في سفرها) لأنها لا يمكنها المقام هناك، فلم يلزمها الكون، ألا ترى أنها لو طلقت في المصر، ولم يكن المقام في منزلها لخوف أو عذر كان لها أن تنتقل، فإذا كانت في غير مصر فهي أحرى، لا يلزمها الكون هناك. (شرح مختصر الطحاوي ج: ۵ ص: ۲۳۸، باب العِدَّة والاستبراء، طبع دار السراج، بيروت).

(۲) قال: والعدة واجبة من يوم الطلاق، ويوم الموت، وذلك لقول الله تعالى ..... والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً، فأوجبها من يوم الموت. (شرح مختصر الطحاوي ج: ۵ ص: ۲۳۸، ۲۳۹، باب العِدَّة والاستبراء).

## احرام باندھنے کے مسائل

غسل کے بعد احرام باندھنے سے پہلے خوشبو اور سرمہ استعمال کرنا

سوال: کیا غسل کے بعد احرام باندھنے سے پہلے بدن پر اور احرام کے کپڑوں پر خوشبو لگا سکتے ہیں؟ اور تیل اور سرمہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب: ... احرام باندھنے سے پہلے تیل اور سرمہ لگانا جائز ہے، اور خوشبو لگانے میں یہ تفصیل ہے کہ بدن کو خوشبو لگانا تو مطلقاً جائز ہے، اور کپڑوں کو ایسی خوشبو لگانا جائز ہے جس کا جسم باقی نہ رہے، اور جس خوشبو کا جسم باقی رہے وہ کپڑوں کو لگانا ممنوع ہے<sup>(۱)</sup>۔

### میقات کے بورڈ اور تنعیم میں فرق

سوال: ... مکہ کے حدود سے پہلے جہاں میقات کا بورڈ لگا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے کہ غیر مسلم آگے داخل نہیں ہو سکتے، وہاں سے احرام باندھے یا تنعیم جا کر مسجد عائشہ سے احرام باندھے؟ میقات کے بورڈ اور تنعیم میں کیا فرق ہے؟

جواب: ... یہ میقات کا بورڈ نہیں، بلکہ حدود حرم کا بورڈ ہے۔<sup>(۲)</sup>

تنعیم بھی حدود حرم سے باہر ہے، اس لئے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اہل مکہ مسجد تنعیم سے جو احرام باندھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قریب ترین جگہ ہے جو حدود حرم سے باہر ہے۔<sup>(۳)</sup> نیز اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں سے عمرہ کا

(۱) ویدھن بای دھن شاء مطیباً کان او غیر مطیب و اجمعوا علی انه یجوز التطیب قبل الإحرام۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۲، طبع مکتبہ ماجدیہ کوئٹہ، کذا فی فتاویٰ قاضیخان) و لا یجوز التطیب فی الثوب لما تبقی عینہ علی قول الكل۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۲، ہکذا فی فتاویٰ الشامی ج: ۲ ص: ۱۷۱ طبع مکتبہ ماجدیہ کوئٹہ)۔

(۲) قوله ولدخلها الحل۔ ای الحل میقات من كان داخل المواقیت الموضع التي بین المواقیت والحرم ولا فرق بین أن یکون فی نفس المیقات أو بعده کما نص علیہ محمد فی کتبہ۔ (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۱۹)۔ وأما الصنف الثالث فمیقاتهم للحج الحرم وللعمره الحل فیحرم المکی من دویرة أهله للحج أو حیث شاء فی الحرم ویحرم للعمره من الحل وهو التنعیم۔ (بدائع ج: ۱-۲ ص: ۱۶۷)۔ والتنعیم أفضل هو موضع قریب من مكة عند مسجد عائشة۔ (الشامی ج: ۲ ص: ۱۶۹، طحطاوی ج: ۱ ص: ۳۸۹ طبع المکتبہ العربیة بیروت)۔

(۳) والمیقات لمن بمكة یعنی بداخل الحرم للحج والعمره الحل ..... والتنعیم أفضل (وفی الشامی) والتنعیم أفضل وهو موضع قریب من مكة... الخ۔ (در مختار مع الرد ج: ۲ ص: ۴۷۸، کتاب الحج)۔

احرام باندھ کر آئی تھیں<sup>(۱)</sup> اور بعض حضرات عمرہ کا احرام باندھنے کے لئے مکہ مکرمہ سے جعرانہ جاتے ہیں، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوة حنین کے بعد وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کے لئے تشریف لائے تھے<sup>(۲)</sup> اہل مکہ کے احرام عمرہ کے لئے ان دو جگہوں کی کوئی تخصیص نہیں، وہ حدود حرم سے باہر کہیں سے بھی احرام باندھ کر آجائیں، صحیح ہے۔<sup>(۳)</sup>

## احرام کی حالت میں چہرے یا سر کا پسینہ صاف کرنا

سوال: ... آیا احرام کی حالت میں چہرے یا سر کا پسینہ پونچھ سکتے ہیں، کپڑے سے ہاتھ سے؟

جواب: ... مکروہ ہے۔<sup>(۴)</sup>

سوال: ... کیا احرام کی حالت میں حجرِ اُسد کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ یا ملتزم پر کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ جس جگہ عطر لگا ہوا ہو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔

جواب: ... حجرِ اُسد یا ملتزم پر اگر خوشبو لگی ہو تو محرم کو اس کا چھونا جائز نہیں۔<sup>(۵)</sup>

## سردی کی وجہ سے احرام کی حالت میں سوٹریا گرم چادر استعمال کرنا

سوال: ... اگر مکہ مکرمہ میں سردی ہو اور کوئی آدمی عمرہ کے لئے جائے تو وہ احرام کی دو چادروں کے علاوہ گرم کپڑا مثلاً: سوٹری وغیرہ یا گرم چادر استعمال کر سکتا ہے؟ تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں۔

جواب: ... گرم چادریں استعمال کر سکتا ہے، مگر سر نہیں ڈھک سکتا، اور جو کپڑے بدن کی وضع پر سلے ہوئے بنائے جاتے ہیں جیسے جرابیں، ان کا استعمال جائز نہیں۔<sup>(۶)</sup>

## عورتوں کا احرام کس شکل کا ہوتا ہے؟

سوال: ... مردوں کے لئے احرام دو چادروں کی شکل میں ہوتا ہے، عورتوں کے لئے احرام کی کیا شکل ہوگی؟ اور کیا احرام مجھے اور میرے بچوں کو گھر سے باندھنا ہوگا جبکہ میں برقع کی حالت میں ہوں؟

(۱) الإحرام منه أى التنعيم للعمرة أفضل ..... لأمره عليه السلام عبدالرحمن بن أبان يذهب بأخته عائشة إلى التنعيم ... الخ. (فتاوى شامى ج: ۲ ص: ۴۷۹، كتاب الحج، فصل فى الإحرام).

(۲) فإن ميقات المكي للعمرة الحل. (رد المحتار، مطلب لا يجب الضمان بكسر آت اللهو ج: ۲ ص: ۵۸۱ طبع سعيد).

(۳) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳ دیکھیں۔

(۴) فصل فى مكروهاته ..... (وتعصيب شىء من جسده) قال ابن الهمام: ويكره تعصيب رأسه ولو عصب غير الرأس من بدنه يكره أيضا. (ارشاد السارى ص: ۸۳).

(۵) وقالوا فيمن استلم الحجر فأصاب يده من طيبه ان عليه الكفارة. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۹۱).

(۶) ولا يلبس الجوربين كما لا يلبس الخفين. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۳، كذا فى المحيط). ولا يلبس مخيطاً قميصاً أو قباء أو سراويل أو عمامة أو قلنسوة أو خفاً إلا أن يقطع الخف أسفل من الكعبين. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۳، الباب الرابع فيما يفعله المحرم بعد الإحرام، هكذا فى فتح القدير ج: ۲ ص: ۳۳۶).

جواب: ... حج کا احرام میقات سے پہلے باندھنا ضروری ہے، (۱) عورتوں کو احرام کی حالت میں چہرہ ڈھکنے کی اجازت نہیں (۲)۔

## عورتوں کا احرام میں چہرے کو کھلا رکھنا

سوال: ... میں نے سنا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ عورت کا احرام چہرے میں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرہ کھلا رکھنا چاہئے، حالانکہ قرآن و حدیث میں عورت کو چہرہ کھولنے سے سختی سے منع فرمایا ہے، لہذا ایسی کیا صورت ہوگی جس سے اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے اور چہرہ بھی ڈھکا رہے؟ کیونکہ مجھے اُمید ہے کہ اس کی کوئی صورت شریعتِ مطہرہ میں ضرور بتائی گئی ہوگی۔

جواب: ... یہ صحیح ہے کہ احرام کی حالت میں چہرے کو ڈھکنا جائز نہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ احرام کی حالت میں عورت کو پردے کی چھوٹ ہوگئی، (۳) بلکہ جہاں تک ممکن ہو پردہ ضروری ہے، یا تو سر پر کوئی چھجاسا لگایا جائے اور اس کے اوپر سے کپڑا اس طرح ڈالا جائے کہ پردہ ہو جائے، مگر کپڑا چہرے کو نہ لگے، یا عورت ہاتھ میں پنکھا وغیرہ رکھے اور اسے چہرے کے آگے کر لیا کرے۔ اس میں شبہ نہیں کہ حج کے طویل اور ہجوم سفر میں عورت کے لئے پردے کی پابندی بڑی مشکل ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور جو اپنے بس سے باہر ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ (۴)

## عورت کے احرام کی کیا نوعیت ہے؟ اور وہ احرام کہاں سے باندھے؟

سوال: ... مردوں کے لئے احرام دو چادروں کی شکل میں ہوتا ہے، عورتوں کے لئے احرام کی کیا شکل ہوگی؟ اور کیا احرام مجھے اور میرے بچوں کو گھر سے باندھنا ہوگا؟ جبکہ میں برقعے کی حالت میں ہوں؟

(۱) المواقیب التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً خمسة: لأهل المدينة ذوالخليفة..... وفائدة التاقيت المنع عن تأخير الإحرام عنها. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۱)۔

(۲) والمرأة في جميع ذلك كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها، وتكشف وجهها ولو سدل على وجهها شيئاً وجافته عنه جاز. (فتاویٰ عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۵)۔

(۳) ولأن المرأة لا تغطي وجهها إجمالاً مع أنها عورة مستورة وفي كشفه فتنة. (بحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۲۳، هكذا في البدائع الصنائع ج: ۱-۲ ص: ۱۸۶)۔ والمرأة في جميع ذلك كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها. وتكشف وجهها ولو سدل على وجهها شيئاً وجافته عنه جاز. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۵، كذا في الهداية، وكذا السنن الكبرى للبيهقي ج: ۵ ص: ۳۸)۔

(۴) والمرأة في جميع ذلك كالرجل..... غير أنها لا تكشف رأسها لأنه عورة وتكشف وجهها..... ولو سدل شيئاً على وجهها وجافته عنه هكذا روى عن عائشة ولأنه بمنزلة الاستظلال بالحمل. (الهداية مع الفتح ج: ۲ ص: ۱۹۳ تا ۱۹۵، باب الإحرام)۔ والمرأة كالرجل غير أنها تكشف وجهها..... وإنما لا تكشف رأسها لأنه عورة ولما كان وجهها خفياً لأن المتبادر إلى الفهم لا تكشفه لما أنه محل الفتنة نص عليه. (بحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۵۳، كذا في فتاویٰ عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۵، كتاب المناسك، الباب الخامس، كذا في الهداية وكذا في فتح القدير ج: ۲ ص: ۱۳۳، طبع دار صادر، بيروت)۔

جواب: ... مردوں کو احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے ممنوع ہیں<sup>(۱)</sup>، اس لئے وہ احرام باندھنے سے پہلے دو چادریں پہن لیتے ہیں، عورتوں کو احرام باندھنے کے لئے کسی خاص قسم کا لباس پہننا لازم نہیں، اس لئے وہ معمول کے کپڑوں میں احرام باندھ لیتی ہیں، البتہ عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہوتا ہے، اس لئے احرام کی حالت میں وہ چہرے کو اس طرح نہ ڈھکیں کہ کپڑا ان کے چہرے کو لگے<sup>(۲)</sup>، مگر نامحرموں سے چہرے کو چھپانا بھی لازم ہے، اس لئے ان کو چاہئے کہ سر پر کوئی چیز ایسی باندھ لیں جو چھبے کی طرح آگے کو بڑھی ہوئی ہو، اس پر نقاب ڈال لیں تاکہ نقاب کا کپڑا چہرے کو نہ لگے اور پردہ بھی ہو جائے۔<sup>(۳)</sup> حج کا احرام میقات سے پہلے باندھنا ضروری ہے، گھر سے باندھنا ضروری نہیں۔<sup>(۴)</sup>

### عورت کا احرام کے اوپر سے سر کا مسح کرنا غلط ہے

سوال: ... آج کل دیکھا ہے کہ عورتیں جو احرام باندھتی ہیں تو بال بالکل ڈھک جاتے ہیں اور اس کا سر سے بار بار اتارنا عورتوں کے لئے مشکل ہوتا ہے، تو آیا سر کا مسح اسی کپڑے کے اوپر ٹھیک ہے یا نہیں؟

جواب: ... عورتیں جو سر پر رومال باندھتی ہیں، شرعاً اس کا احرام سے کوئی تعلق نہیں، یہ رومال صرف اس لئے باندھی جاتی ہے کہ بال بکھریں اور ٹوٹیں نہیں۔ عورتوں کو اس رومال پر مسح کرنا صحیح نہیں، بلکہ رومال اتار کر سر پر مسح کرنا لازم ہے، اگر رومال پر مسح کیا اور سر پر مسح نہیں کیا تو نہ وضو ہوگا، نہ نماز ہوگی، نہ طواف ہوگا، نہ حج ہوگا، نہ عمرہ۔ کیونکہ یہ افعال بغیر وضو جائز نہیں، اور سر پر مسح کرنا فرض ہے، بغیر مسح کے وضو نہیں ہوتا۔<sup>(۵)</sup>

### عورت کا ماہواری کی حالت میں احرام باندھنا

سوال: ... جدہ روانگی سے قبل ماہواری کی حالت میں احرام باندھ سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب: ... حیض کی حالت میں عورت احرام باندھ سکتی ہے، بغیر دوگانہ پڑھے حج یا عمرہ کی نیت کر لے اور تلبیہ پڑھ کر احرام باندھ لے۔<sup>(۶)</sup>

(۱) یحرم بالإحرام أمور..... الثالث لبس المخيط على وجه لبس المخيط. (فتح القدير ج: ۲ ص: ۱۳۱).

(۲) وتكشف وجهها لقوله عليه السلام: إحرام المرأة في وجهها... الخ. (الهداية مع الفتح ج: ۲ ص: ۱۹۳).

(۳) المستحب أن تسدل على وجهها شيئاً وتجافيه..... ودلت المسئلة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة. (فتح القدير ج: ۲ ص: ۱۹۵، باب الإحرام).

(۴) لا يجاوز أحد الميقات إلا محرماً... الخ. (الهداية مع الفتح ج: ۲ ص: ۱۳۲، كتاب الحج).

(۵) ولا يجوز مسح المرأة على خمارها لما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها وقالت: بهذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. (بدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۵، عالمگیری ج: ۱ ص: ۶).

(۶) انه عليه السلام قال: ان النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضى المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت. (فتح القدير ج: ۲ ص: ۱۳۵، باب الإحرام، عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۲، كتاب المناسك، الباب الثالث).

## حج میں پردہ

سوال: ... آج کل لوگ حج پر جاتے ہیں، عورتوں کے ساتھ کوئی پردہ نہیں کرتا ہے، حالت احرام میں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اگر پردہ کرایا جائے تو منہ کے اوپر کپڑا لگے گا، تو اس کے لئے کیا کیا جائے؟

جواب: ... پردے کا اہتمام توجح کے موقع پر بھی ہونا چاہئے، احرام کی حالت میں عورت پیشانی سے اوپر کوئی چھبسا لگائے تاکہ پردہ بھی ہو جائے اور کپڑا چہرے کو لگے بھی نہیں۔<sup>(۱)</sup>

## طواف کے علاوہ کندھے ننگے رکھنا مکروہ ہے

سوال: ... حج یا عمرہ میں احرام باندھتے ہیں، اکثر لوگ کندھا کھلا رکھتے ہیں، اس کے لئے شرعی مسئلہ کیا ہے؟

جواب: ... شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حج و عمرہ کے جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی ہو اس طواف میں رمل اور اضطباع کیا جائے۔<sup>(۲)</sup> رمل سے مراد ہے پہلو انوں کی طرح کندھے ہلا کر تیز تیز چلنا، اور اضطباع سے مراد کندھا کھولنا ہے۔<sup>(۳)</sup> ایسے طواف کے علاوہ خصوصاً نماز میں کندھے ننگے رکھنا مکروہ ہے۔<sup>(۴)</sup>

## ایک احرام کے ساتھ کتنے عمرے کئے جاسکتے ہیں؟

سوال: ... خدائے بزرگ و برتر کے فضل و کرم سے میں امسال حج و زیارت کے لئے جاؤں گا۔ قیام مکہ معظمہ کے دوران میں اپنے والدین کی جانب سے پانچ عمرے ادا کرنا چاہتا ہوں، ان عمروں کے لئے حدود حرم کے باہر تنعیم یا جعرانہ جا کر نفل عمرہ کا احرام باندھا جائے گا، کیا پانچ مرتبہ یعنی ہر عمرہ کے لئے علیحدہ علیحدہ یا ایک مرتبہ احرام باندھ کر ایک دن میں ایک مرتبہ عمرہ کیا جائے؟ یا اسی احرام میں ایک دن میں دو یا تین مرتبہ عمرہ کیا جاسکتا ہے؟

جواب: ... ہر عمرے کا الگ احرام باندھا جاتا ہے، احرام باندھ کر طواف سعی کر کے احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر تنعیم یا جعرانہ جا کر دوبارہ احرام باندھتے ہیں۔ ایک احرام کے ساتھ ایک سے زیادہ عمرے نہیں ہو سکتے اور عمرہ (یعنی طواف اور سعی) کرنے کے بعد جب تک بال اتار کر احرام نہ کھولا جائے، دوسرے عمرے کا احرام باندھنا بھی جائز نہیں۔<sup>(۵)</sup>

(۱) والمرأة في جميع ذلك كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها ولو سدل على وجهها شيئاً وجافته عنه جاز. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۵، كذا في الهداية وكذا في السنن الكبرى للبيهقي ج: ۵ ص: ۴۸).

(۲) قيد للاضطباع والرمل لكونهما من سنن طواف بعده سعی. (ارشاد الساری ص: ۱۵۸).

(۳) الرمل أن يهز في مشيته الكتفين كالمبارز... الخ. (فتح مع الهداية ج: ۲ ص: ۵۲).

(۴) يستر الكتفين فإن الصلاة مع كشفهما أو كشف أحدهما مكروهة. (ارشاد الساری لملا علی القاری ص: ۶۸).

(۵) باب الجمع بين النسكين المتحدین أي حجین أو عمرتین أو أكثر من الثنتين إحراماً وفعالاً..... مکروه مطلقاً. (ارشاد الساری ص: ۱۹۳). ومن أتى بعمره إلا الحلق فأحرم بأخرى ذبح الأصل أن الجمع بين إحرامین لعمرتین مکروه حریماً فیلزم الدم. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۵۸۷، کتاب الحج، باب الجنایات).



## عمرے کا احرام کہاں سے باندھا جائے؟

سوال: ... عمرے کے لئے احرام باندھنے کا مسئلہ دریافت طلب ہے۔ ایک معتبر کتاب میں ”حج اور عمرے کا فرق“ کے عنوان سے تحریر ہے کہ عمرے کا احرام سب کے لئے ”حِلّ“ (حدودِ حرم سے باہر کی جگہ) سے ہے، البتہ اگر آفاقی باہر سے بہ ارادہ حج آئے تو اپنے میقات سے احرام باندھنا ہوگا۔

الف: ... اگر کوئی شخص بہ ارادہ حج نہیں بلکہ صرف عمرے کا ارادہ رکھتا ہے اور باوجود آفاقی ہونے کے حدودِ حرم سے باہر مثلاً جدہ میں احرام باندھ سکتا ہے یا نہیں؟

ب: ... جدہ میں ایک دو یوم قیام کرنے کے بعد عازمِ عمرہ ہو تو اس پر ”اہلِ حِلّ“ کا اطلاق ہوگا یا نہیں؟

جواب: ... جو شخص بیرون ”حِلّ“ سے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کو میقات سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں، بلکہ حج یا عمرے کا احرام باندھنا اس پر لازم ہے۔<sup>(۱)</sup> اگر بغیر احرام کے گزر گیا تو میقات کی طرف واپس لوٹ کر میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے، اگر واپس نہ لوٹا تو دم لازم ہوگا۔<sup>(۲)</sup> جو شخص مکہ مکرمہ کے قصد سے گھر سے چلا ہے اس کا جدہ میں ایک دو روز ٹھہرنا لائق اعتبار نہیں، اور وہ اس کی وجہ سے ”اہلِ حِلّ“ میں شمار نہیں ہوگا۔ ہاں! اگر کسی کا ارادہ جدہ جانے کا ہی تھا، وہاں پہنچ کر مکہ مکرمہ جانے کا قصد ہوا تو اس پر ”اہلِ حِلّ“ کا اطلاق ہوگا،<sup>(۳)</sup> واللہ اعلم بالصواب!

اس مسئلے کو سمجھنے کے لئے چند اصطلاحات ذہن میں رکھئے:

میقات: ... مکہ مکرمہ کے اطراف میں چند جگہیں مقرر ہیں، باہر سے مکہ مکرمہ جانے والے شخص کو ان جگہوں سے احرام باندھنا لازم ہے، اور بغیر احرام کے ان سے آگے بڑھنا ممنوع ہے۔<sup>(۴)</sup>

آفاقی: ... جو شخص میقات سے باہر رہتا ہو۔<sup>(۵)</sup>

(۱) ثم الآفاقی إذا انتهى إليها على قصد دخول مكة عليه أن يحرم. (البنایة فی شرح الهدایة ج: ۵ ص: ۲۸، کتاب الحج، طبع مکتبہ حقانیہ). أيضا: ولا يجوز للآفاقی أن يدخل مكة بغیر احرام نوى النسك أو لا ولو دخلها فعليه حجة أو عمرة كذا فی محیط السرخسی. (فتاویٰ ہندیہ، کتاب الحج، الباب الثانی فی المواقیت ج: ۱ ص: ۲۲۱).

(۲) فلو جاوز أحد منهم میقاته یرید الحج أو العمرة فدخل الحرم من غیر احرام فعليه دم. ولو عاد إلى المیقات قبل أن یحرم أو بعد ما أحرم فهو على التفصیل... الخ. (بدائع ج: ۱-۲ ص: ۱۶۶، إرشاد الساری إلى مناسک الملاء علی القاری ص: ۵۸). أيضا: ومن جاوز میقاته غیر محرم ثم أتى میقاتا آخر فأحرم منه أجزاء... الخ. (فتاویٰ ہندیہ ج: ۱ ص: ۳۲۱).

(۳) ومن كان أهله فی المیقات أو داخل المیقات إلى الحرم فمیقاتهم للحج والعمرة الحل الذی بین المواقیت والحرم ولو آخر الإحرام إلى الحرم جاز كذا فی محیط. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۱، الباب الثانی فی المواقیت).

(۴) والمواقیت التي لا یجوز أن یجاوزها الإنسان إلا مُحَرَّمًا خمسة... قال الجوهری رحمه الله: المیقات موضع الإحرام. (البنایة فی شرح الهدایة ج: ۵ ص: ۲۱، کتاب الحج).

(۵) (ثم الآفاقی) هو من كان خارج المواقیت. (البنایة فی شرح الهدایة ج: ۵ ص: ۲۸، کتاب الحج).

حرم: ... مکہ مکرمہ کی حدود، جہاں شکار کرنا، درخت کاٹنا وغیرہ ممنوع ہے۔<sup>(۱)</sup>

حِلّ: ... حرم سے باہر اور میقات کے اندر کا حصہ ”حِلّ“ کہلاتا ہے۔<sup>(۲)</sup>

مدینہ سے مکہ آتے ہوئے یا مسجد عائشہ کی زیارت کے بعد عمرہ ضروری ہے؟

سوال: ... مدینہ شریف یا مسجد عائشہ کی زیارت کے بعد مکہ واپسی پر عمرہ ضروری ہے یا مستحب؟ جبکہ عام طور پر لوگ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے اور مکہ واپسی پر لازماً عمرہ ادا کرتے ہیں۔

جواب: ... مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ آئے تو عمرے کا احرام لازم ہے،<sup>(۳)</sup> مسجد عائشہ کی زیارت کو جائے تو لازم نہیں،<sup>(۴)</sup>

واللہ اعلم!

مکی، حج یا عمرہ کا احرام کہاں سے باندھے گا؟

سوال: ... ہم مکہ مکرمہ کی حدود میقات کے اندر مقیم ہیں، ہم فریضہ حج یا عمرہ کے لئے اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھ سکتے ہیں یا میقات جانا ہوگا؟

جواب: ... جو لوگ میقات اور حدود حرم کے درمیان رہتے ہیں ان کے لئے حِلّ میقات ہے، وہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے باندھ لیں۔<sup>(۵)</sup> اور جو لوگ مکہ مکرمہ یا حدود حرم کے اندر رہتے ہیں وہ حج کا احرام حدود حرم کے اندر سے باندھیں اور عمرہ کا احرام حدود حرم سے باہر نکل کر حِلّ سے باندھیں۔ چنانچہ اہل مکہ حج کا احرام مکہ سے باندھتے ہیں اور عمرہ کا احرام باندھنے کے لئے تنعیم مسجد عائشہ جاتے ہیں یا جعرانہ جاتے ہیں۔

نوٹ: ... میقات کے اندر اور حدود حرم سے باہر کے علاقے کو ”حِلّ“ کہا جاتا ہے۔<sup>(۶)</sup>

(۱) الحرم بالتحریک إذا أطلق أريد به حرم مكة المكرمة وهو موضع معروفة متحددة بنوع من العلامة. (قواعد الفقه ص: ۲۶۳، طبع صدف پبلشرز کراچی)۔

(۲) الحل الذي بين المواقيت وبين الحرم. (البنایة فی شرح الهدایة ج: ۵ ص: ۳۲، کتاب الحج)۔

(۳) ولو جاوز الميقات قاصداً مكة بغير احرام مرآاً فإنه يجب عليه لكل مرة إما حجة أو عمرة. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۵۳)۔

(۴) ولو جاوز الميقات يريد دخول مكة أو الحرم من غير احرام يلزمه إما حجة أو عمرة. (بدائع ج: ۲ ص: ۱۶۵)۔

(۵) المكى إذا خرج إلى الحل للاحتطاب أو الإحتشاش ثم دخل مكة يباح له الدخول بغير احرام ..... كذا في محيط السرخسى. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۱، کتاب المناسك، الباب الثاني في المواقيت)۔

(۶) ومن كان داخل الميقات فوقته الحل أى موضع احرامه الحل. (البنایة فی شرح الهدایة ج: ۵ ص: ۳۲)۔ أيضاً: ومن

كان أهله في الميقات أو داخل الميقات إلى الحرم فميقاتهم للحج والعمرة الحل الذي بين المواقيت والحرم ولو أخرج الإحرام إلى الحرم جاز. (فتاوى عالمگیری، الباب الثاني في المواقيت ج: ۱ ص: ۲۲۱)۔

(۷) ووقت المكى للإحرام بالحج والحرم وللعمرة الحل. كذا في الكافي. فيخرج الذي يريد العمرة إلى الحل من أى جانب

شاء. كذا في المحيط. والتنعيم أفضل كذا في الهداية. (فتاوى عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۱، أيضاً بدائع ج: ۱-۲ ص: ۱۶۴،

بحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۱۹، إرشاد السارى إلى مناسك الملا على القارى ص: ۱۲۳)۔

## کراچی سے جانے والے احرام کہاں سے باندھیں؟

سوال: ... گزشتہ سال میں اور میری اہلیہ بغیرض عمرہ بذریعہ ہوائی جہاز سعودی عرب گئے تھے، جدہ میں میرے بھانجے کا مستقل قیام ہے، وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ رات قیام کے بعد دوسرے دن صبح غسل کر کے جدہ سے احرام باندھا اور پھر بس سے مکہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ دریافت طلب امور یہ ہیں کہ:

۱: ... کیا ہمیں کراچی سے روانگی کے وقت احرام باندھنا چاہئے تھا؟

۲: ... کیا جدہ ایئر پورٹ پر احرام باندھنا درست ہے؟

۳: ... میں جدہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے گیا تھا، آیا میرا وہاں سے احرام باندھنا درست تھا؟ اور میرا عمرہ ہو گیا؟ یا مجھے

دم دینا پڑے گا؟

جواب ۱: ... آپ کو کراچی سے احرام باندھنا چاہئے تھا۔<sup>(۱)</sup>

۲: ... جدہ سے احرام باندھنا بعض علماء کے نزدیک جائز نہیں، اور بعض کے نزدیک جائز ہے،<sup>(۲)</sup> بہر حال آپ کا عمرہ ہو گیا

لیکن آپ نے بُرا کیا، اور اس پر کوئی دم لازم نہیں۔

## عمرہ کرنے والا شخص احرام کہاں سے باندھے؟

سوال: ... عمرہ کے لئے گھر سے احرام باندھنا فرض ہے یا جدہ جا کر؟

جواب: ... میقات سے پہلے فرض ہے۔<sup>(۳)</sup> سفر ہوائی جہاز سے ہو تو ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے احرام باندھ لیا جائے،

جدہ تک احرام کے مؤخر کرنے کے جواز میں علماء کا اختلاف ہے، احتیاط کی بات یہی ہے کہ احرام کو جدہ تک مؤخر نہ کیا جائے۔<sup>(۴)</sup>

## ہوائی جہاز پر سفر کرنے والا احرام کہاں سے باندھے؟

سوال: ... ریاض سے جب عمرہ یا حج ادا کرنے کے لئے بذریعہ ہوائی جہاز جدہ جاتے ہیں تو دوران سفر ہوائی جہاز کا عملہ

اعلان کرتا ہے کہ میقات آگئی ہے، احرام باندھ لیں۔ بعض لوگ جہاز میں ہی وضو کر کے احرام باندھ لیتے ہیں، جبکہ بعض لوگ جدہ میں

اُتر کر ایئر پورٹ پر غسل یا وضو کر کے احرام باندھتے ہیں اور احرام کے نفل پڑھ کر پھر مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ جدہ سے مکہ مکرمہ جائیں تو

(۱) فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت (أى الخمسة المتقدمة) جاز لقوله تعالى: "وأتموا الحج والعمرة لله" ..... والأفضل التقديم عليها. (هداية، كتاب الحج ج: ۱ ص: ۲۳۵).

(۲) وإن لم يعلم المخاذاة فعلى المرحلتين من مكة كجدة المحروسة من طرف البحر. (ارشاد الساری ص: ۵۶، طبع دار الفکر).

(۳) وأما الصنف الأول فمیقاتهم ما وقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد منهم أن يجاوز میقاته إذا أراد الحج أو العمرة إلا محرماً. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۶۳، كتاب الحج، فصل وأما بیان مكان الإحرام).

(۴) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: فتاویٰ بینات ج: ۳ ص: ۹۸ تا ۱۱۱، طبع مکتبہ بینات، جواہر الفقہ ج: ۱ ص: ۴۵۹ تا ۴۹۳، طبع دارالعلوم کراچی۔

راستے میں بھی میقات آتی ہے، جن لوگوں نے ایئرپورٹ سے احرام باندھا تھا وہ جدہ والی میقات پر احرام کی نیت کر لیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاز میں جو میقات آنے کا اعلان ہوتا ہے وہاں اگر احرام نہ باندھا جائے تو کیا حرج ہوگا؟ کیونکہ جہاز تو مکہ مکرمہ کے بجائے جدہ جائے گا، بہت سے لوگ اس شبہ میں رہتے ہیں کہ احرام ضروری جہاز میں ہی باندھنا چاہئے، میقات سے بغیر احرام کے نہیں گزرنا چاہئے، جبکہ جہاز میں احرام کے نفل بھی نہیں پڑھے جاسکتے، براہ کرم وضاحت فرمائیں۔

جواب:۔۔۔ ایسے لوگ جو میقات سے گزر کر جدہ آتے ہیں، ان کو میقات سے پہلے احرام باندھنا چاہئے۔<sup>(۱)</sup> احرام باندھنے کے لئے نفل پڑھنا سنت ہے، اگر موقع نہ ہو تو نفلوں کے بغیر بھی احرام باندھنا صحیح ہے۔<sup>(۲)</sup> جدہ سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں کوئی میقات نہیں آتی، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جدہ میقات کے اندر ہے یا خود میقات ہے، جو لوگ ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہوں ان کو چاہئے کہ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے احرام باندھ لیں، یا کم از کم چادر ہی پہن لیں اور جب میقات کا اعلان ہو تو جہاز میں احرام باندھ لیں، جدہ پہنچنے کا انتظار نہ کریں۔<sup>(۳)</sup>

## بحری جہاز کے ملازمین اگر حج کرنا چاہیں تو کہاں سے احرام باندھیں گے؟

سوال:۔۔۔ بحری جہاز کے ملازمین جن کو حج کے لئے اجازت ملتی ہے، یلملم کی پہاڑی (میقات) کو عبور کرتے وقت اپنے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے احرام باندھنے سے معذور ہوتے ہیں۔

۱:۔۔۔ اگر عازمین حج (جہاز کے ملازمین) کی نیت پہلے سے مکہ مکرمہ جانے کی ہوتا کہ وہ عمرہ و حج ادا کر سکیں۔

۲:۔۔۔ وقت کی کمی کے باعث پہلے مدینہ منورہ جانے کی نیت ہو۔

مندرجہ بالا امور میں غلطی سرزد ہونے کی صورت میں کفارہ کی ادائیگی کی صورت کیا ہوگی؟

جواب:۔۔۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ احرام، فرائض منجہبی سے کیسے مانع ہے؟ بہر حال مسئلہ یہ ہے:

۱:۔۔۔ اگر یہ ملازمین صرف جدہ تک جائیں گے اور پھر واپس آجائیں گے، ان کو مکہ مکرمہ نہیں جانا تو وہ احرام نہیں باندھیں گے۔

۲:۔۔۔ اگر ان کا ارادہ مکہ مکرمہ جانے سے پہلے مدینہ منورہ جانے کا ہے تب بھی ان کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں۔

(۱) و كذلك لو أراد بمجاورة هذه المواقيت دخول مكة لا يجوز له أن يجاوزها إلا مُحْرِمًا. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۶۳، کتاب الحج، فصل وأما بيان مكان الإحرام)۔

(۲) ثم يصلى ركعتين بعد اللبس أي لبس الإزارين ..... ولو أحرم بغير صلاة جاز. (ارشاد الساری ص: ۶۸)۔

(۳) ومن حج في البحر فوقته إذا حاذى موضعاً من البر لا يتجاوزها إلا مُحْرِمًا. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۱، طحطاوی ج: ۱ ص: ۴۸۸، بحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۱۸)۔ ومن كان في بحر أو بر لا يمرُّ لواحدة من الميقات المذكورة فعليه ..... أن يحرم. (فتح القدير ج: ۲ ص: ۳۳۳)۔ مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: فتاویٰ مینات ج: ۳ ص: ۹۸ تا ۱۱۱، طبع مکتبہ مینات، جواہر الفقہ ج: ۱ ص: ۴۵۹ تا ۴۹۳، طبع مکتبہ دارالعلوم کراچی۔

۳: ... اور اگر وہ حج کا قصد رکھتے ہیں اور جدہ پہنچتے ہی ان کو مکہ مکرمہ جانا ہے تو ان کو یلملم سے احرام باندھنا لازم ہے۔<sup>(۱)</sup> اس لئے جو ملازمین ڈیوٹی پر ہوں وہ سفر کے دوران صرف جدہ جانے کا ارادہ کریں، وہاں پہنچ کر جب ان کو مکہ مکرمہ جانے کی اجازت مل جائے تب وہ جدہ سے احرام باندھ لیں۔<sup>(۲)</sup>

### کیا کراچی سے احرام باندھنا ضروری ہے؟

سوال: ... میرا ارادہ اس ماہ کے آخر میں کراچی سے براہ راست مدینہ (جدہ جائے بغیر) جانے کا ہے، کیا اس صورت میں بھی کراچی سے احرام باندھنا ضروری ہوگا؟

جواب: ... اگر آپ مکہ مکرمہ پہلے نہیں جاتے تو آپ کے ذمہ احرام باندھنا لازم نہیں۔<sup>(۳)</sup>

### کراچی سے عمرہ پر جانے والا کہاں سے احرام باندھے؟

سوال: ... ہم لوگ اگلے ماہ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ کیا کراچی سے احرام باندھنا ضروری ہے یا جدہ جا کر باندھ سکتے ہیں (مردوں کے لئے)؟

جواب: ... چونکہ پرواز کے دوران جہاز میقات سے (بلکہ بعض اوقات حدود حرم سے) گزر کر جدہ پہنچتا ہے، اس لئے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے یا سوار ہو کر احرام باندھ لیا جاتا ہے۔ بہر حال میقات کی حد عبور کرنے سے پہلے احرام باندھ لینا لازم ہے، جدہ جا کر نہیں۔<sup>(۴)</sup> اور اگر جدہ پہنچ کر احرام باندھنا تب بھی بعض اہل علم کے نزدیک جائز ہے۔<sup>(۵)</sup>

### پینٹ شرٹ پہن کر عمرے کے لئے جانا

سوال: ... ہمارے گھر والے یہاں سے عمرے پر جاتے ہیں تو پینٹ شرٹ پہن کر جاتے ہیں، جیسے کوئی امریکا کی سیر پر جا رہا ہوتا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ ان کا بغیر احرام کے جدہ پہنچنا کیسا ہے؟ اگر ناجائز ہے تو آج تک کئی عمرے ایسے کئے ہیں، اس کا تاوان کیا ہوگا؟ اور کیا وہ عمرے ہمارے قبول ہوں گے یا نہیں؟

جواب: ... حج و عمرہ جہاں بہت بڑا عمل ہے، وہاں نازک بھی بہت ہے، جس شخص کی حالت میں حج و عمرہ سے دینی انقلاب نہیں آتا، اور وہ بدستور کفار کی وضع قطع اور ان کے لباس وغیرہ کو اپنائے ہوئے ہے، یہ اس کے حج و عمرہ کے مردود ہونے کی علامت

(۱) ثم الآفاق إذا انتهى إليها على قصد دخول مكة عليه أن يحرم. (الهداية مع البناية ج: ۵ ص: ۲۸)۔

(۲) ومن كان أهله في الميقات أو داخل الميقات إلى الحرم فميقاتهم للحج والعمرة الحل الذي بين المواقيت والحرم ولو أخر الإحرام إلى الحرم جاز. (فتاوى عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۱، الباب الثاني في المواقيت)۔

(۳) لو جاوز الميقات ويريد بستان بنى عامر دون مكة فلا شيء عليه. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۵۳)۔

(۴) لا يجوز لأحد منهم أن يجاوز ميقاته إذا أراد الحج أو العمرة إلا مُحَرَّمًا. (بدائع ج: ۱-۲ ص: ۱۶۳)۔

(۵) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: جواہر الفقہ ص: ۳۵۹ تا ۳۹۳۔

(۱) یہ گفتگو تو پینٹ شرٹ پہن کر عمرے پر جانے میں تھی۔ رہا جدہ پہنچ کر احرام باندھنا! تو اس میں بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ چونکہ درمیان میں میقات سے بغیر احرام کے گزرنا پڑتا ہے اس لئے یہ جائز نہیں، اور جو شخص میقات سے احرام باندھے بغیر آگے بڑھ جائے، اس پر دم لازم ہے، الا یہ کہ دوبارہ میقات کی طرف واپس لوٹے، اور وہاں سے احرام باندھ کر جائے۔ (۲) اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اگر جدہ جا کر احرام باندھا تو دم لازم نہیں آئے گا۔ پہلا قول زیادہ لائق اعتماد ہے۔ بہر حال جدہ جا کر احرام باندھنا غلط ہے، احرام، میقات سے باندھنا ضروری ہے، اور چونکہ ہوائی جہاز میں میقات کا پتا نہیں چل سکتا، اس لئے ہوائی جہاز سے سفر کرنے والوں کو جہاز پر سوار ہونے سے پہلے احرام باندھ لینا چاہئے۔ (۳)

## جس کی فلائٹ یقینی نہ ہو وہ احرام کہاں سے باندھے؟

سوال: ... میں پی آئی اے کا ملازم ہوں اور عمرہ کرنے کا قصد ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایئر لائن کے ملازمین کو فری ٹکٹ ملتا ہے مگر ان کی سیٹ کا تعین نہیں ہوتا۔ جس دن اور جس طیارے میں خالی سیٹ ہوتی ہے اس وقت ملازم جاسکتا ہے، لہذا اکثر دو تین دن تک ایئر پورٹ جانا آنا پڑتا ہے، اس وجہ سے کراچی سے احرام باندھ کر چلنا محال ہے، ایسی مجبوری کی حالت میں کیا یہ درست ہے کہ جدہ پہنچ کر وہاں ایک دن قیام کرنے کے بعد احرام باندھ لیا جائے؟

جواب: ... جب منزل مقصود جدہ نہیں، بلکہ مکہ مکرمہ ہے، تو احرام میقات سے پہلے باندھنا ضروری ہے۔ (۴) ایئر لائن کے ملازمین کو چاہئے کہ جب ان کی نشست کا تعین ہو جائے اور ان کو بورڈنگ کارڈ مل جائے تب احرام باندھیں، اگر انتظار گاہ میں احرام باندھنے کا وقت ہو تو وہاں باندھ لیں، ورنہ جہاز پر سوار ہو کر باندھ لیں۔ (۵)

## میقات سے بغیر احرام کے گزرنا

سوال: ... عمرہ ادا کرنے کے بعد ہم مدینہ روانہ ہوئے اور مغرب اور عصر کی نمازیں وہاں ادا کیں اور واپس جدہ آگئے، میقات سے گزر کر آئے اور رات جدہ میں گزری، اور صبح پھر مکہ مکرمہ عمرہ کے لئے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ کے قریب میقات سے احرام باندھا اور عمرہ کیا، کیا میقات سے گزر کر جو ہم نے عمرہ کیا اس میں کوئی حرج ہے؟

جواب: ... اگر میقات سے گزرتے وقت آپ کا قصد مکہ مکرمہ جانے کا تھا تو میقات پر آپ کے ذمہ احرام باندھنا لازم تھا،

(۱) ومن علامة القبول أن يرجع خيراً مما كان ولا يعاود المعاصي. (التعليق الصبيح على مشکوة المصابيح ج: ۳ ص: ۱۷۳)۔

(۲) ومن علامات القبول انه إذا رجع يكون حاله خيراً من حال الذي قبله. (معارف السنن ج: ۶ ص: ۱۲)۔

(۳) ومن جاوز الميقات ..... فإن عاد حلالاً ثم أحرم سقط عنه الدم. (فتاوى عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۵۳، طبع رشیدیہ)۔

(۴) وتقديم الإحرام على الميقات جائز بالإجماع. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۶۳، كتاب الحج)۔

(۵) ایضاً۔

(۶) ایضاً۔

اور اس کے کفارہ کے طور پر دم واجب ہے۔<sup>(۱)</sup> اور اگر اس وقت جدہ آنے ہی کا ارادہ تھا، یہاں آ کے عمرہ کا ارادہ ہوا تو آپ کے ذمہ کچھ لازم نہیں۔<sup>(۲)</sup>

سوال: ... یہ بتائیں کہ جو پاکستانی حضرات سعودی عرب میں جدہ اور طائف میں ملازم ہیں، اگر وہ عمرہ کی نیت سے مکہ (خانہ کعبہ) جاتے ہیں تو میقات سے احرام باندھنا پڑتا ہے، اگر کوئی شخص خالی طواف کی غرض سے مکہ جائے تو کیا احرام باندھنا لازمی ہے؟ کیونکہ یہاں مقیم اکثر لوگ بغیر احرام کے طواف کرنے مکہ چلے جاتے ہیں، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو آپ ہمیں اس کا صحیح مسئلہ بتائیں۔

جواب: ... آپ کا سوال بہت اہم ہے، اس سلسلے میں چند مسئلے اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے!

۱: ... مکہ شریف کے چاروں طرف کا کچھ علاقہ ”حرم“ کہلاتا ہے، جہاں شکار کرنا اور درخت کا ثنا ممنوع ہے۔ ”حرم“ سے آگے کم و بیش فاصلے پر کچھ جگہیں مقرر ہیں جن کو ”میقات“ کہا جاتا ہے، اور جہاں سے حاجی لوگ احرام باندھا کرتے ہیں۔<sup>(۳)</sup>

۲: ... جو لوگ ”حرم“ کے علاقے میں رہتے ہوں یا میقات کے اندر رہتے ہوں، وہ تو جب چاہیں مکہ مکرمہ میں احرام کے بغیر جاسکتے ہیں۔<sup>(۴)</sup> لیکن جو شخص میقات کے باہر سے آئے، اس کے لئے میقات پر حج یا عمرہ کا احرام باندھنا لازم ہے۔<sup>(۵)</sup> گویا ایسے شخص پر حج یا عمرہ لازم ہو جاتا ہے، خواہ اس شخص کا مکہ مکرمہ جانا حج و عمرہ کی نیت سے نہ ہو، بلکہ محض کسی ضروری کام سے مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہو یا صرف حرم شریف میں جمعہ پڑھنے یا صرف طواف کرنے کے لئے جانا چاہتا ہو۔ الغرض خواہ کسی مقصد کے لئے بھی مکہ مکرمہ جائے وہ میقات سے احرام کے بغیر نہیں جاسکتا۔

(۱) إذا دخل الآفاقى مكة بغير إحرام وهو لا يريد الحج والعمرة فعليه لدخول مكة إما حجة أو عمرة، فإن أحرم بالحج أو العمرة من غير أن يرجع إلى الميقات فعليه دم لتترك حق الميقات. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۵۳، کتاب الحج).

(۲) (و حل لأهل داخلها) یعنی لكل من وجد في داخل المواقيت (دخول مكة غير مُحرم) ما لم يرد نسكًا للحرج كما لو جاوزها حطابو مكة فهذا (ميقاته الحل) الذي بين المواقيت والحرم. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۴۷۸، کتاب الحج، طبع ایچ ایم سعید، ہدایہ ج: ۱ ص: ۲۳۵، کتاب الحج، طبع مکتبہ شرکت علمیہ).

(۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ..... إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمه الله إلى يوم القيامة ..... لا يعضد شوكة ولا ينفر صيده ..... وفي رواية أبي هريرة: لا يعضد شجرها ... الخ. (مشکوٰۃ ص: ۲۳۷، ۲۳۸). أن على الحرم علامات منصوبة في جميع جوانبه نصبها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكان جبريل يريه مواضعها ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديدها، ثم عمر، ثم عثمان، ثم معاوية وهي إلى الآن حجة في جميع جوانبه ... الخ. (رد المختار ج: ۲ ص: ۴۷۹، قبيل فصل في الإحرام، طبع ایچ ایم سعید). والمواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً. (هدایہ ج: ۱ ص: ۲۳۳، کتاب الحج).

(۴) ولو خرج من مكة إلى الحل ولم يجاوز الميقات ثم أراد أن يعود إلى مكة له أن يعود إليها من غير إحرام لأن أهل مكة يحتاجون إلى الخروج إلى الحل ..... فلو أئزمنهم الإحرام عند كل خروج لوقعوا في الحرج. (بدائع ج: ۱-۲ ص: ۱۶۷، طبع ایچ ایم سعید کراچی، بحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۱، عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۱، فتح القدير ج: ۲ ص: ۳۳۵).

(۵) المكى إذا خرج منها وجاوز المواقيت لا يحل له العود بلا إحرام لكن إحرامه من الميقات. (رد المختار ج: ۲ ص: ۴۷۸، مطلب في المواقيت، طبع ایچ ایم سعید کراچی).

۳: ... اگر کوئی شخص میقات سے احرام کے بغیر گزر گیا تو اس پر لازم ہے کہ مکہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے پہلے میقات پر واپس لوٹے اور وہاں سے احرام باندھ کر جائے۔<sup>(۱)</sup>

۴: ... اگر وہ واپس نہیں لوٹا تو اس کے ذمہ ”دم“ واجب ہوگا۔<sup>(۲)</sup>

۵: ... جو شخص میقات سے بغیر احرام مکہ مکرمہ چلا جائے، اس پر حج یا عمرہ لازم ہے، اگر کئی بار بغیر احرام کے میقات سے گزر گیا تو ہر بار ایک حج یا عمرہ واجب ہوگا۔ ان مسائل سے معلوم ہوا کہ جو لوگ میقات سے باہر رہتے ہیں وہ صرف طواف کرنے کے لئے مکہ مکرمہ نہیں جاسکتے بلکہ ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر جایا کریں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جتنی بار بغیر احرام کے جا چکے ہیں ان پر اتنے دم اور اتنے ہی عمرے واجب ہو گئے۔<sup>(۳)</sup>

۶: ... جدہ میقات سے باہر نہیں، لہذا جدہ سے بغیر احرام کے مکہ مکرمہ آنا صحیح ہے، جبکہ طائف میقات سے باہر ہے، لہذا وہاں سے بغیر احرام کے آنا صحیح نہیں۔<sup>(۴)</sup>

## بغیر احرام کے میقات سے گزرنا جائز نہیں

سوال: ... بعض لوگ جھوٹ بول کر بغیر احرام کے حدود حرم میں چلے جاتے ہیں اور پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھتے ہیں، کیا اس صورت میں دم لازم آتا ہے؟

جواب: ... بغیر احرام کے حدود حرم میں داخل ہونا گناہ ہے، اور ایسے شخص کے ذمہ لازم ہے کہ واپس میقات پر جا کر احرام باندھ کر آئے، اگر یہ شخص دوبارہ میقات پر گیا اور وہاں سے احرام باندھ کر آیا تو اس کے ذمہ سے دم ساقط ہو گیا، اگر واپس نہ گیا تو اس پر دم واجب ہے اور یہ دم اس کے ذمہ ہمیشہ واجب رہے گا جب تک اسے ادا نہ کرے، اور اس ترک واجب کا گناہ بھی اس کے ذمہ واجب رہے گا۔<sup>(۵)</sup> نفلی حج کے لئے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا عبادت نہیں بلکہ خواہش نفس کی پیروی ہے۔

(۱) ولو جاوز میقاتا فی المواقیت الخمسة یرید الحج أو العمرة فجاوزہ بغیر احرام ثم عاد قبل أن یحرم وأحرم من المیقات وجاوزہ محرماً لا یجب علیہ الدم بالإجماع۔ (بدائع ج: ۲ ص: ۱۶۵، کتاب الحج، بحر الرائق ج: ۳ ص: ۳۸)۔ ایضاً: ومن تجاوز المیقات دون احرام وجب علیہ الدم إلا إذا عاد إلیہ۔ (الفقه الإسلامی وأدلته ج: ۳ ص: ۷۲، أحكام الحج والعمرة)۔

(۲) فإن دخل مكة بغیر احرام ثم خرج فعاد إلی أهلہ ثم عاد إلی مكة فدخلها بغیر احرام وجب علیہ لكل واحد من الدخولین حجة أو عمرة۔ (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۶۶، کتاب الحج، فصل وأما بیان مکان الإحرام)۔

(۳) وكذا المكی إذا خرج من مكة لحاجة فبلغ الوقت ولم یجاوزہ یعنی له أن یدخل مكة راجعاً بغیر احرام۔ (فتح القدير ج: ۲ ص: ۱۳۳)۔ ولو جاوز میقاتا فی المواقیت الخمسة یرید الحج أو العمرة فجاوزہ بغیر احرام ثم عاد قبل أن یحرم وأحرم من المیقات وجاوزہ محرماً لا یجب علیہ الدم بالإجماع۔ (بدائع ج: ۲ ص: ۱۶۵، بحر الرائق ج: ۳ ص: ۳۸)۔

أيضاً: ومن تجاوز المیقات دون احرام وجب علیہ الدم إلا إذا عاد إلیہ۔ (الفقه الإسلامی وأدلته ج: ۳ ص: ۷۲)۔

(۵) ایضاً۔



نوٹ: ... جو لوگ میقات کے باہر سے آئے ہوں، ان کے لئے مسجدِ عائشہ سے احرام باندھ لینا کافی نہیں، بلکہ ان کو دوبارہ بیرونی میقات پر واپس جانا ضروری ہے، اگر بیرونی میقات پر دوبارہ واپس نہیں گئے اور مسجدِ عائشہ سے احرام باندھ لیا تو دم لازم آئے گا۔<sup>(۱)</sup>

## بغیر احرام کے میقات سے گزرنے والے پر دم

سوال: ... ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک شخص حج کی نیت سے سعودی عرب گیا، لیکن پہلے اس نے ریاض میں قیام کیا، پھر مدینہ منورہ آ گیا، اس کے بعد احرام باندھ کر مکہ مکرمہ جا کر عمرہ ادا کیا اور پھر ریاض واپس چلا گیا۔ اس کے بعد حج سے ایک ہفتہ پہلے بغیر احرام کے پھر مکہ مکرمہ آیا، کسی نے اسے بتلایا کہ تم نے غلطی کی ہے، تمہیں یہاں بغیر احرام کے نہیں آنا چاہئے تھا، لہذا اس نے تنعیم جا کر احرام باندھا اور عمرہ کیا۔ کیا یہ صحیح ہے اور غلطی کا ازالہ ہو گیا یا اس پر دم واجب ہوگا؟

جواب: ... صورتِ مسئلہ میں چونکہ اس شخص نے اپنے میقات سے گزرنے کے وقت فی الحال مکہ مکرمہ جانے کی نیت نہیں کی تھی بلکہ ریاض اور پھر مدینہ منورہ جا کر وہاں سے احرام باندھنے کا ارادہ تھا، اس لئے اس پر بغیر احرام کے میقات سے گزرنے کا دم واجب نہیں۔ دوسری دفعہ جو یہ شخص ریاض سے مکہ مکرمہ بغیر احرام کے آیا، اس کی وجہ سے اس پر دم واجب ہو چکا ہے، تنعیم پر آ کر عمرہ کا احرام باندھنے سے اس غلطی کا ازالہ نہیں ہوا، اور دم ساقط نہیں ہوا۔ ہاں! اگر یہ شخص اپنی میقات پر واپس لوٹ جاتا اور وہاں سے حج کا یا عمرہ کا احرام باندھ کر آتا تو دم ساقط ہو جاتا۔<sup>(۲)</sup>

میقات سے اگر بغیر احرام کے گزر گیا تو دم واجب ہو گیا، لیکن اگر واپس آ کر میقات سے احرام باندھ لیا تو دم ساقط ہو گیا

سوال: ... میں ۱۷ رمضان المبارک کو ریاض سے مکہ المکرمہ کو روانہ ہوا تھا، میری وہاں پر چند دن ڈیوٹی تھی، لیکن سفر کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی، اس لئے میں میقات پر احرام نہ باندھ سکا۔ دو دن مکہ میں قیام کرنے کے بعد دوبارہ مدینہ روڈ پر میقات سے آگے جا کر میں نے عمرہ کے لئے احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ احرام لازمی پہلے دن باندھنا چاہئے تھا، اس کے متعلق آپ صحیح جواب دیں، میرے سے جو غلطی ہوئی ہو اس کا کیا کفارہ ہے؟

جواب: ... آپ پر میقات سے بغیر احرام کے گزرنے کی وجہ سے دم لازم ہو گیا تھا، اگر آپ دوبارہ میقات سے باہر جا کر

(۱) واذا تجاوز الميقات بنية الإقامة في مكان غير الحرم جاز له ذلك ..... ومن تجاوز الميقات دون احرام وجب عليه الدم إلا إذا عاد إليه. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۷۲). وأيضاً: ولو جاوز ميقاتاً من المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة فجاوزه بغير احرام ثم عاد قبل أن يحرم وأحرم من الميقات وجاوزه محرماً لا يجب عليه دم بالإجماع لأنه لما عاد إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم التحقت تلك الجاوزة بالعدم وصار هذا ابتداءً احرام منه. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۶۵).

(۲) أيضاً.

احرام باندھ کر آئے تو آپ سے دم ساقط ہو گیا۔<sup>(۱)</sup> لیکن آپ کے سوال سے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ عمرہ کا احرام باندھنے کے لئے آفاقیوں کی میقات پر نہیں گئے بلکہ صرف حد و حرم سے باہر جا کر احرام باندھ آئے، اور اسی کو آپ نے میقات سمجھ لیا، کیونکہ مدینہ روڈ پر میقات یا تورانخ ہے یا ذوالحلیفہ، غالباً آپ دونوں میں سے کسی ایک جگہ بھی نہیں پہنچے ہوں گے۔ بہر حال آپ کے سوال سے میں نے جو کچھ سمجھا ہے اگر یہ صحیح ہے تو آپ کے ذمہ سے دم ساقط نہیں ہوا، اور اگر واقعی آپ آفاقیوں کی کسی میقات سے باہر جا کر احرام باندھ کر آئے تھے تو دم آپ سے ساقط ہو گیا۔<sup>(۲)</sup>

## بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہونا

سوال: ... میں یہاں طائف میں سروس کرتا ہوں، میں نے ایک حج کیا ہے اور عمرے بہت کئے ہیں، ابھی آٹھ مہینے ہوئے، میں ہر جمعہ کو مکہ مکرمہ جاتا ہوں، وہاں جمعہ کی نماز بیت اللہ شریف میں پڑھتا ہوں، میرا بڑا بھائی مکہ مکرمہ میں کام کرتا ہے، اس سے ملاقات بھی کرتا ہوں۔ میرا ایک ساتھی ہے، اس کا کہنا ہے کہ بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے دم دینا پڑتا ہے۔ یعنی آپ جتنی مرتبہ گئے ہیں اتنی بار دم دینا پڑے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ دم دینا پڑے گا؟ کیونکہ میں یہی ارادہ کر کے جاتا ہوں کہ مکہ مکرمہ جاؤں گا، طواف کروں گا، جمعہ کی نماز پڑھوں گا، پھر بھائی سے ملاقات کروں گا۔

جواب: ... جو لوگ میقات سے باہر رہتے ہیں، اگر وہ مکہ مکرمہ آئیں خواہ ان کا آنا کسی ذاتی کام ہی کے لئے ہو، ان کے ذمہ میقات سے حج یا عمرہ کا احرام باندھنا لازم ہے، اگر وہ احرام کے بغیر مکہ مکرمہ چلے گئے اور واپس آ کر میقات پر احرام نہیں باندھا تو وہ گناہ گار ہوں گے اور ان کے ذمہ حج یا عمرہ بھی واجب ہوگا۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ پابندی صرف ان لوگوں پر ہے جو حج و عمرہ کی نیت سے میقات سے گزریں، دوسرے لوگوں پر احرام باندھنا لازم نہیں۔ حنفی مذہب کے مطابق آپ جتنی مرتبہ بغیر احرام کے مکہ مکرمہ گئے، آپ کے ذمہ اتنے عمرے لازم ہیں اور جو کوتاہی ہو چکی ہے اس پر استغفار بھی کیا جائے۔<sup>(۳)</sup>

## مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لئے احرام ضروری ہے؟

سوال: ... میرے عزیز نے درج ذیل فتویٰ کی مزید تحقیق کے لئے ارسال کیا ہے، براہ کرم کتاب و سنت کی روشنی سے آپ کا

فتویٰ کیا ہے؟

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) ایضاً۔

(۳) وكذلك لو أراد بمجاورة هذه المواقيت دخول مكة لا يجوز له أن يجاوزها إلا مُحَرَّمًا سواء أراد بدخول مكة النسك من الحج أو العمرة أو التجارة أو حاجة أخرى عندنا وقال الشافعي: إن دخلها للنسك وجب عليه الإحرام، وإن دخلها لحاجة جاز دخوله من غير إحرام وجه قوله أنه تجوز السكنى بمكة من غير إحرام فالدخول أولى لأنه دون السكنى ولنا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن مكة حرام منذ خلقها الله تعالى لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراماً إلى يوم القيامة الحديث. والإستدلال به من ثلاثة أوجه. (بدائع الصنائع، فصل: وأما بيان مكان الإحرام ج: ۲ ص: ۱۶۳ طبع ايج ايم سعيد).

فتویٰ: "... رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میقات مقرر ہیں اور یہ ان کے لئے ہیں جو حج و عمرہ کے ارادے سے آنا چاہیں۔ (متفق علیہ) البتہ وہ لوگ جو حج و عمرہ کے ارادے کے بغیر، تجارتی غرض سے یا اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لئے مکہ مکرمہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بلا احرام مکہ مکرمہ میں داخلہ جائز ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں بغیر احرام داخل ہوئے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لامامہ باندھے ہوئے تھے، احرام باندھنے کا تعلق نیت سے ہے کہ میقات عبور کرنے والے کی نیت کیا ہے؟ اگر حج و عمرہ کی نیت ہو تب تو بغیر احرام کے میقات عبور کرنا جائز نہیں، اس سے دم لازم آئے گا، اور اگر میقات عبور کرنے والے کی نیت طواف بیت اللہ یا حرم میں نماز ادا کرنے یا کسی سے ملنے کی ہو، یا تجارتی غرض ہو تو میقات عبور کرنے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لئے احرام باندھنا ضروری نہیں۔"

کیا میقات سے باہر سے آنے والا مکہ مکرمہ میں بغیر احرام داخل ہو سکتا ہے؟

جواب: ... یہ فتویٰ دوسرے ائمہ کے مطابق ہے، ہمارے نزدیک میقات سے باہر رہنے والوں کو، خواہ وہ ذاتی کام سے جائیں بغیر حج یا عمرے کی نیت (احرام) کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونا جائز نہیں۔ اس جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا جو حوالہ دیا گیا ہے، ہمارے امام کے نزدیک صحیح نہیں، کیونکہ اس دن مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال کر دیا گیا تھا، اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ نہ حرم مکہ اس دن سے پہلے کسی کے لئے حلال ہوا، نہ قیامت تک بعد میں کسی کے لئے حلال ہوگا۔ الغرض! حنفی مذہب کے حضرات کو اس کے فتویٰ پر عمل کرنا صحیح نہیں، ہاں! حنبلی، شافعی حضرات عمل کریں تو صحیح ہے۔<sup>(۱)</sup>

کیا مدینہ سے طائف آتے ہوئے حدود حرم سے گزرتے وقت احرام باندھنا ضروری ہے؟

سوال: ... مدینہ منورہ سے واپسی پر طائف آتے ہوئے مکہ سے گزرنا پڑتا ہے، کیا حدود حرم میں داخل ہونے کے لئے احرام باندھنا اور عمرہ کرنا اس وقت بھی ضروری ہے جبکہ سفر کا دوران ہو، رات ہو گئی ہو اور بقیہ سفر اپنے شہر کا باقی ہو، اور وقت کی کمی بھی ہو کہ عمرہ کرنے میں کئی گھنٹے لگیں گے؟

جواب: ... احرام باندھنا اس شخص کے ذمے لازم ہے جو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہو، جو محض حدود حرم سے عبور کر رہا ہو، اس کے ذمے لازم نہیں۔<sup>(۲)</sup>

(۱) لو أراد بمجاورة هذه المواقيت دخول مكة لا يجوز له أن يجاوزها إلا مُحَرَّمًا سواء ..... أراد الحج أو العمرة أو التجارة أو حاجة أخرى. قال الشافعي ..... إن دخلها لحاجة جاز دخوله من غير إحرام. ولنا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن مكة حرام منذ خلقها الله تعالى، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرامًا إلى يوم القيامة. (بدائع ج: ۲، ص: ۱۶۳، كتاب الحج، فصل: وأما بيان مكان الإحرام).

(۲) لو أراد ..... دخول مكة لا يجوز له أن يجاوزها إلا مُحَرَّمًا ..... فإذا لم يرد البيت لم يصر ملتزمًا للإحرام فلا يلزمه شيء. (بدائع الصنائع ج: ۲، ص: ۱۶۳، ۱۶۶، كتاب الحج، فصل: وأما بيان مكان الإحرام).

## شوہر کے پاس جدہ جانے والی عورت پر احرام باندھنا لازم نہیں

سوال: ... میں عرصہ ساڑھے چار سال سے سعودی عرب میں مقیم ہوں۔ ہر سال ایک مہینہ چھٹی پر جاتا ہوں، گزشتہ رمضان میں حسب معمول چھٹی پر پاکستان چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے میں نے بیوی کے لئے وزٹ ویزا ارسال کیا تھا۔ ویزا ارسال کرتے وقت میرے دو مقصد تھے: ۱: ... وزٹ۔ ۲: ... حج۔

یعنی میرا خیال تھا کہ بچے حج بھی کر لیں گے اور میرے ساتھ بھی کچھ عرصہ گزار لیں گے، اور کچھ تو سب سے بھی کرالوں گا، کیونکہ وزٹ ویزا صرف تین مہینے کا ہوتا ہے۔ بہر حال ۲۹ شوال کو پاکستان سے میری مع اہل و عیال روانگی ہوئی، میں چونکہ ملازمت کے سلسلے میں رہتا تھا لیکن گھر والوں کو حج اور وزٹ مقصود تھا، کراچی ایئرپورٹ سے احرام نہیں باندھا تھا۔ ۲۹ شوال کو جدہ پہنچ گیا، ۳۰ شوال کا دن بھی جدہ میں گزار دیا، یعنی تیسرے دن میں بچوں کو عمرہ پر لے گیا اور پھر حج بھی ادا کیا اور پھر وہ تین مہینے کے بعد واپس پاکستان چلے گئے۔ چونکہ میری بیوی ان پڑھ تھی اور میں نے بھی خیال نہیں کیا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ میں تو جدہ میں مقیم ہوں، بیوی وزٹ ویزے پر آرہی ہے، احرام کی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے خیال میں حج کرانا بھی ضروری تھا اور بیوی کا بھی زیادہ تر حج کا مقصد تھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ وزٹ ویزے پر آئی تھی اور یہاں حج کا ارادہ ہو گیا، یعنی پاکستان سے بھی حج کا ارادہ ضرور تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا میری بیوی پر دم واجب ہے یا کہ نہیں؟ اگر ہے تو اب تک جتنی دیر ہو گئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ کیا میں بیوی کی طرف سے دم کی قربانی یہاں (مکہ مکرمہ) میں کر سکتا ہوں جبکہ ان کو پتا بھی نہیں؟

جواب: ... مندرجہ بالا صورت میں چونکہ آپ کا قیام جدہ میں ہے، اور آپ کی اہلیہ آپ کے پاس اصلاً جدہ گئی تھیں، اور ویزے کا مدعا بھی یہی تھا، گواصل مقصد حج کرنا ہی تھا، اس لئے میرے خیال میں اس کو میقات سے احرام باندھنا لازم نہیں تھا، اور نہ اس پر دم لازم ہوا۔<sup>(۱)</sup>

## حج و عمرہ کے ارادے سے جدہ پہنچنے والے کا احرام

سوال: ... اگر کوئی شخص پاکستان، امریکہ، انگلینڈ یا کسی بھی ملک سے حج و عمرہ کے ارادے سے روانہ ہو اور جدہ بغیر احرام کے پہنچا تو:

الف: ... اب وہ کس مقام پر لوٹ کر احرام باندھے؟

ب: ... اگر اس نے جدہ ہی سے احرام باندھا تو کیا ہوگا؟

جواب: الف: ... جو شخص بغیر احرام کے میقات سے گزر جائے اس کے لئے افضل تو یہ ہے کہ اپنے میقات پر واپس آ کر

(۱) ولو جاوز الميقات ويريد بستان بنى عامر دون مكة فلا شيء عليه. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۵۳، کتاب الحج، الباب العاشر فى مجاوزة الميقات بغیر احرام). أيضا: أما لو قصد موضعا من الحل كخليص وجدة حل له مجاوزته بلا احرام فاذا حل به التحق بأهله فله دخول مكة بلا احرام. (درمختار ج: ۲ ص: ۴۷۷، کتاب الحج، مطلب فى المواقيت).

احرام باندھ لے، البتہ کسی بھی میقات پر جا کر احرام باندھنے سے دم ساقط ہو جائے گا۔<sup>(۱)</sup>  
جواب: ب... اگر جدہ سے احرام باندھا تب بھی اس پر دم لازم نہیں آئے گا۔

### کیا احرام جدہ سے باندھ سکتے ہیں؟

سوال: ... عمرہ کے احرام کے سلسلے میں ایک ضروری مسئلہ یہ ہے کہ پی آئی اے کے ملازمین کو عمرہ کے لئے مفت ٹکٹ ملتا ہے، لیکن یہ ٹکٹ کنفرم نہیں ہوتا بلکہ جہاز کی روانگی سے چند منٹ پہلے اگر کچھ نشستیں باقی بچ جائیں تو اس ٹکٹ پر سیٹ ملتی ہے، اس وقت اتنا موقع نہیں ہوتا کہ احرام باندھا جاسکے، بعض اوقات کئی روز تک سیٹ نہیں ملتی اور ملازمین کی چھٹی ختم ہو جاتی ہے اور وہ عمرہ پر نہیں جاسکتے۔ ایسی صورت میں کیا وہ جدہ جا کر احرام باندھ سکتے ہیں؟ جہاز کے ٹوائٹ، واش روم میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ غسل کر کے احرام باندھا جاسکے۔ اگر کراچی سے احرام باندھیں اور سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے احرام کھولنا پڑے تو کیا کیا جائے؟ ملازمین بلکہ تمام لوگ جدہ جا کر احرام باندھتے ہیں۔

جواب: ... احرام باندھنے کے لئے غسل کرنا اور نوافل پڑھنا شرط نہیں، مستحب ہے، لہذا عذر کی صورت میں صرف سہلے ہوئے کپڑے اتار کر چادریں پہن لیں<sup>(۲)</sup> اور عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں، بس احرام بندھ گیا۔<sup>(۳)</sup> اور یہ کام جہاز پر سوار ہونے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور جہاز پر سوار ہو کر بھی ہو سکتا ہے، جدہ جا کر احرام باندھنا درست نہیں، کیونکہ بعض اوقات جہاز حرم کے اوپر سے جاتا ہے، اس لئے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے یا سوار ہو کر احرام باندھ لینا ضروری ہے، اور اس کا طریقہ اوپر عرض کر دیا ہے۔<sup>(۴)</sup>

### جدہ جا کر احرام باندھنا صحیح نہیں

سوال: ... کئی مرتبہ عمرہ پر دیکھا گیا کہ پاکستان سے جانے والے احباب جدہ ایئرپورٹ پر احرام باندھتے ہیں، آیا جدہ پر احرام باندھنے سے عمرہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہوتا تو اس کا بدل کیا ہے؟ آیا دم یا صدقہ جس سے ناقص عمرہ صحیح ہو جائے۔  
جواب: ... اگر پاکستان سے عمرہ کرنے کے ارادے سے گئے ہیں تو پھر جدہ میں احرام نہیں باندھنا چاہئے، بلکہ کراچی سے

(۱) ومن جاوز میقاتہ غیر مُحَرَّم ثم أتى میقاتاً آخر فأحرم منه أجزاءه إلا ان إحرامه من میقاته أفضل۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۱، کتاب الحج، کذا فی الجوہرۃ النیرۃ، شامی ج: ۲ ص: ۱۶۷، عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۵۳)۔  
(۲) والغسل هو سنة للإحرام مطلقاً أو الوضوء۔ (ارشاد الساری ص: ۶۳)۔ وینزع المخیط والخف ویبلس ثوبین إزاراً ورداء جدیدین أو غسلیین والجدید أفضل۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۲، کتاب الحج، الباب الثالث فی الإحرام)۔ إذا أراد أن یحرم اغتسل أو تویضاً والغسل أفضل۔ (بدائع ج: ۲ ص: ۱۳۳، کتاب الحج، فصل: وأما بیان سنن الحج)۔ والأمر بالإغتسال فی الحدیثین علی وجه الإستحباب دون الإیجاب۔ (بدائع ج: ۲ ص: ۱۳۳، عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۲)۔  
(۳) وأما شرطه فالنیة حتی لا یصیر مُحَرَّمًا بالتلبیة بدون نية الإحرام۔ (فتاویٰ عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۲، کتاب الحج، الباب الثالث فی الإحرام، إرشاد الساری ص: ۶۲، طبع دار الفکر)۔  
(۴) لا یجوز لأحد منهم أن یجاوز میقاته إذا أراد الحج أو العمرة إلا مُحَرَّمًا۔ (بدائع ج: ۲ ص: ۱۶۳، کتاب الحج)۔

احرام باندھ کر جانا چاہئے یا جہاز میں احرام باندھ لیا جائے۔<sup>(۱)</sup> اگر کسی نے جدہ سے احرام باندھا تو اس کے ذمہ دم لازم ہے یا نہیں؟ اس میں اکابر کا اختلاف رہا ہے۔ احتیاط کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کر چکا ہو تو دم دے دیا جائے اور آئندہ کے لئے اس سے پرہیز کیا جائے۔<sup>(۲)</sup>

### جدہ سے احرام کب باندھ سکتا ہے؟

سوال: ... اگر کسی کا عمرے کا ارادہ ہو لیکن اس کو جدہ میں بھی کوئی کام ہو، مثلاً: رشتہ داروں سے ملنا یا اور کوئی کاروباری کام ہو، تو کیا یہ شخص بغیر احرام کے جدہ جاسکتا ہے، جبکہ جدہ کا اور اس کے بعد عمرے کا ارادہ ہو؟

جواب: ... اگر وہ کراچی سے جدہ کا سفر عزیزوں سے ملنے کے لئے کر رہا ہے اور کراچی سے اس کی نیت عمرہ کے سفر کی نہیں تو اس کو میقات سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں،<sup>(۳)</sup> جدہ پہنچ کر اگر اس کا عمرہ کا ارادہ ہو جائے تو جدہ سے احرام باندھ لے۔ عمرہ ہی کے لئے سفر کر رہا ہو تو اس کو میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ لہذا مذکورہ صورت میں جب پہلے جدہ کا ارادہ ہے تو احرام باندھنا ضروری نہیں، اس کے بعد پھر جب جدہ سے عمرہ کا ارادہ کر لے تو وہاں سے احرام باندھ لے۔

### جدہ سے مکہ آنے والوں کا احرام باندھنا

سوال: ... کیا جدہ میں مستقل قیام یا جس کی نیت پندرہ دن قیام کی ہو یا اس سے کم مدت ٹھہرے، جدہ سے بغیر احرام کے مکہ مکرمہ آ سکتا ہے یا نہیں؟

جواب: ... جدہ میں رہنے والوں کو بغیر احرام کے مکہ مکرمہ آنا جائز ہے، جبکہ وہ حج و عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ نہ جائیں۔<sup>(۴)</sup> یہی حکم ان تمام لوگوں کا ہے جو کسی کام سے جدہ آئے تھے پھر وہاں آنے کے بعد ان کا ارادہ مکہ مکرمہ جانے کا ہو گیا، ان کو بھی احرام کے بغیر آنا جائز ہے۔

سوال: ... ایک شخص جدہ گیا، وہاں چند دن قیام کیا، پھر مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کی نیت سے گیا، لیکن احرام نہیں باندھا بلکہ پہلے حرم شریف کے پاس ہوٹل میں کمرہ لیا اور پھر تنعیم جا کر احرام باندھا، یہ صحیح ہو یا غلط ہوا؟

جواب: ... غلط ہوا، کیونکہ جب یہ شخص عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کو چلا تو حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے اس کو عمرہ کا احرام

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱، ۳ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) دیکھئے: جواهر الفقہ ج: ۱ ص: ۴۷۴-۴۸۰، طبع دارالعلوم کراچی۔

(۳) أما لو قصد موضعا من الحل كخليص وجدة حل له مجاوزته بلا إحرام فإذا حل به التحق بأهله فله دخول مكة بلا إحرام. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۴۷۷، کتاب الحج). وحل لأهل داخلها ..... دخول مكة غير مُحْرِم ..... ما لم يرد نسكا ..... فهذا ميقاته الحل الذي بين المواقيت والحرم. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۴۷۸، کتاب الحج).

(۴) ومن كان داخل الميقات كالبيستاني له أن يدخل مكة لحاجة بلا إحرام إلا إذا أراد النسك فالنسك لا يتأدى إلا بالإحرام كذا في الكافي. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۱، کتاب المناسك، طبع رشیدیہ).

باندھنا لازم تھا، اور حدود حرم میں بغیر احرام کے داخل ہونا اس کے لئے جائز نہیں تھا، اس لئے بغیر احرام کے حدود حرم میں داخل ہونے کی وجہ سے گناہ گار ہوا، تاہم جب اس نے حرم سے باہر آ کر تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھ لیا تو دم تو ساقط ہو گیا، مگر گناہ باقی رہا، تو یہ استغفار کرے۔<sup>(۱)</sup>

سوال: ... اگر یہ شخص عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کو نہ جائے بلکہ یونہی جائے یا طواف کی نیت سے جائے اور حرم شریف کے باہر ہوٹل میں کمرہ لے لے اور طواف کر کے واپس ہو جائے تو؟ یا ہوٹل میں قیام کے بعد عمرہ کرنے کا ارادہ پیدا ہو اور تنعیم جا کر احرام باندھا تو کیا اس صورت میں بھی گناہ گار ہوا؟

جواب: ... اس صورت میں گناہ گار نہیں، کیونکہ یہ شخص عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ نہیں آیا تھا، بلکہ مکہ شریف پہنچنے کے بعد اس کا ارادہ ہوا کہ عمرہ بھی کر لوں، اس لئے بغیر احرام کے حرم میں آنے کا گناہ اس کے ذمہ نہیں۔<sup>(۲)</sup> اب اگر یہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اہل مکہ کی طرح حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کر آئے۔<sup>(۳)</sup>

## احرام کھولنے کا کیا طریقہ ہے؟

سوال: ... حج یا عمرہ کا جب احرام باندھتے ہیں جس طرح احرام باندھنے کی شرائط ہیں، اسی طرح احرام کھولنے کی بھی شرائط ہیں۔ بال کٹوانا ہے تو بال کٹوانے کا طریقہ اور اصل مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔

جواب: ... احرام کھولنے کے لئے حلق (یعنی اُسترے سے سر کے بال صاف کر دینا) افضل ہے، اور قصر جائز ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک احرام کھولنے کے لئے یہ شرط ہے کہ کم سے کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کاٹ دیئے جائیں،<sup>(۴)</sup> اگر سر کے بال چھوٹے ہوں اور ایک پورے سے کم ہوں تو اُسترے سے صاف کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر احرام نہیں کھلتا۔<sup>(۵)</sup>

## عمرے سے فارغ ہو کر حلق سے پہلے کپڑے پہننا

سوال: ... دو سال قبل عمرہ کے لئے گیا تھا، تقریباً دس دن مکہ مکرمہ میں گزارے، آخری دن جب عمرہ کیا تو بہت جلدی میں

(۱) واذا تجاوز الميقات بنية الإقامة في مكان غير الحرم جاز له ذلك ..... ومن تجاوز الميقات دون احرام وجب عليه الدم إلا إذا عاد إليه. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۷۲). وأيضاً: ولو جاوز ميقاتاً من المواقيت الخمسة بريد الحج أو العمرة فجاوزه بغير احرام ثم عاد قبل أن يحرم وأحرم من الميقات وجاوزه محرماً لا يجب عليه دم بالإجماع لأنه لما عاد إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم التحقت تلك الجاوزة بالعدم وصار هذا ابتداء احرام منه. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۶۵).

(۲) ومن كان داخل الميقات كالبيستاسي له أن يدخل مكة لحاجة بلا احرام إلا إذا أراد النسك فالنسك لا يتأدى إلا بالإحرام. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۱، كتاب المناسك).

(۳) ايضاً حوالہ بالا۔

(۴) والحلق أفضل ..... ويكتفى في الحلق برقع الرأس اعتباراً بالمسح وحلق الكل الأوتلى والتقصير أن يأخذ من رؤس شعره مقدار الأنملة. (بحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۸۵، ۳۸۶، بدائع ج: ۲ ص: ۱۳۱، كتاب الحج، فصل: وأما مقدار الواجب).

(۵) هذا إذا كان على رأس شعر، فأما إذا لم يكن أجرى موسى على رأسه لما روى عن ابن عمر أنه قال: من جاء يوم النحر ولم يكن على رأسه شعر أجرى موسى على رأسه ... الخ. (بدائع الصنائع، فصل وأما الحلق أو التقصير ج: ۲ ص: ۱۳۰).

تھا، کیونکہ میری فلائٹ میں صرف چار گھنٹے رہ گئے تھے، ڈر تھا کہ کہیں فلائٹ نکل نہ جائے، اسی جلدی میں عمرہ سے فارغ ہو کر پہلے حلق کرانے کے بجائے پہلے احرام کھول کے کپڑے پہن کے حلق (بال کٹوائے) کرایا۔ اس وقت جلدی میں تھا تو یاد نہیں رہا کہ میں نے غلط کیا ہے، جب یہاں پہنچا تو ایک دوست سے باتوں باتوں میں مجھے یاد آیا کہ میں نے احرام کھول کر حلق کرایا تھا۔ برائے مہربانی مجھے بتائیں کہ کیا مجھ پر جزا (دم) واجب ہے یا نہیں؟ اگر جزا واجب ہے تو کیا میں مکہ مکرمہ سے باہر دم دے سکتا ہوں یا اس کے لئے مکہ مکرمہ میں حاضر ہونا ضروری ہے؟ ان شاء اللہ اس سال حج کا ارادہ ہے، کیا حج سے پہلے دم دینا ہوگا یا کہ حج کی قربانی کے ساتھ یہ جزا (دم) کے طور پر ایک بکرا ذبح کر دوں۔ امید ہے کہ آپ جلدی جواب دیں گے۔

جواب: ... اس غلطی کی وجہ سے آپ کے ذمہ دم لازم نہیں آیا، بلکہ صدقہ مفطر کی مقدار صدقہ آپ پر لازم ہے، اور یہ صدقہ آپ کسی بھی جگہ دے سکتے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

## احرام کھولنے کے لئے کتنے بال کاٹنے ضروری ہیں؟

سوال: ... حج یا عمرہ کے موقع پر سر کے بال کٹوائے جاتے ہیں، کچھ لوگ چند بال کٹواتے ہیں اور امام ابوحنیفہ کے مقلد ہیں، کیا اس طرح بال کٹوانے سے ان کا احرام کھل جاتا ہے؟ احرام کے ممنوعات حلال ہو جاتے ہیں؟

جواب: ... حضرت امام ابوحنیفہ کے نزدیک احرام کھولنے کے لئے کم سے کم چوتھائی سر کے بالوں کا ایک پورے کی مقدار کاٹنا شرط ہے۔<sup>(۲)</sup> اس لئے جو لوگ چند بال کاٹ لیتے ہیں ان کا احرام نہیں کھلتا اور اسی حالت میں ممنوعات کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ان پر دم لازم آتا ہے،<sup>(۳)</sup> (یہاں واضح رہے کہ سر کے چوتھائی حصے کے بال کاٹنا احرام کھولنے کی شرط ہے، لیکن سر کے کچھ بال کاٹ لینا اور کچھ چھوڑ دینا جائز نہیں، حدیث میں اس عمل کی ممانعت آئی ہے،<sup>(۴)</sup> اس لئے اگر کسی نے چوتھائی سر کے بال کاٹ لئے تو احرام تو کھل جائے گا، مگر باقی بال نہ کاٹنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔

سوال: ... اس مرتبہ عمرہ پر اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ عمرہ کے بعد بال کاٹے بغیر احرام کھول لیتے ہیں یا بعض لوگ چاروں طرف سے معمولی معمولی بال کاٹ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چوتھائی کاٹنے کا حکم ہے جو کہ اس طرح پورا ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ مشین سے کاٹتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کا احرام کا اُتارنا آیا دم وغیرہ کو واجب کرتا ہے یا

(۱) إذا لبس المُحَرَّم المَخِيطَ عَلَى وَجْهِ المَعْتَادِ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ فَعَلِيهِ دَمٌ، وَإِنْ كَانَ أَقْلٌ مِنْ ذَلِكَ فَصَدَقَةٌ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۴۲، فتح القدیر ج: ۲ ص: ۴۴۲، بحر الرائق ج: ۳ ص: ۶، شامی ج: ۲ ص: ۲۲۰)۔

(۲) فَإِنْ حَلَقَ أَقْلٌ مِنَ الرَّبْعِ الرَّأْسِ لَمْ يَجْزِ وَإِنْ حَلَقَ رُبْعَ الرَّأْسِ أَجْزَأُ وَيَكْرَهُ. (بدائع ج: ۲ ص: ۱۴۱، کتاب الحج)۔

(۳) لِأَنَّ الحَلْقَ وَالتَّقْصِيرَ وَاجِبٌ لَمَّا ذَكَرْنَا وَلَا يَقَعُ التَّحْلِيلُ إِلَّا بِأَحَدِهِمَا وَلَمْ يَوْجَدْ فَكَانَ إِحْرَامُهُ بَاقِيًا فَإِذَا غَسَلَ رَأْسَهُ بِالخَطْمِيِّ فَقَدْ أزالَ التَّفْثَ فِي حَالِ قِيَامِ الإِحْرَامِ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (بدائع ج: ۲ ص: ۱۴۰، کتاب الحج)۔

(۴) عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ القَزْعِ، قِيلَ لِنَافِعٍ: مَا القَزْعُ؟ قَالَ: يَحْلِقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيَتْرَكَ البَعْضَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حَلَقَ بَعْضَ رَأْسِهِ وَتَرَكَ بَعْضَهُ فَنَهَاهُمْ عَنِ ذَلِكَ وَقَالَ: إِحْلِقُوا كَلَّهُ أَوْ أَتْرَكُوا كَلَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (مشکوٰۃ، باب الترجل ص: ۳۸۰)۔



نہیں؟ اور مسنون طرز بقہ کیا ہے؟

جواب: حج و عمرہ کا احرام کھولنے کے لئے چار صورتیں اختیار کی جاتی ہیں، ہر ایک کا حکم الگ الگ لکھتا ہوں۔  
 اول یہ کہ حلق کرایا جائے، یعنی اُسترے سے سر کے بال اُتار دیئے جائیں، یہ صورت سب سے افضل ہے۔<sup>(۱)</sup> اور حلق کرانے والوں کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ رحمت کی دُعا فرمائی ہے۔<sup>(۲)</sup> جو شخص حج وغیرہ پر جا کر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا سے محروم رہے، اس کی محرومی کا کیا ٹھکانا...! اس لئے حج و عمرہ پر جانے والے تمام حضرات کو مشورہ دُوں گا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا سے محروم نہ رہیں، بلکہ حلق کرا کر احرام کھولیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ قینچی یا مشین سے پورے سر کے بال اُتار دیئے جائیں، یہ صورت بغیر کراہت کے جائز ہے۔<sup>(۳)</sup>  
 تیسری صورت یہ ہے کہ کم سے کم چوتھائی سر کے بال کاٹ دیئے جائیں، یہ صورت مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، کیونکہ ایک حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے،<sup>(۴)</sup> مگر اس سے احرام کھل جائے گا۔<sup>(۵)</sup> اب یہ خود سوچئے کہ جو حج و عمرہ جیسی مقدس عبادت کا خاتمہ ایک ناجائز فعل سے کرتے ہیں ان کا حج و عمرہ کیا قبول ہوگا...؟

چوتھی صورت میں جبکہ ادھر ادھر سے چند بال کاٹ دیئے جائیں جو چوتھائی سر سے کم ہوں، اس صورت میں احرام نہیں کھلے گا، بلکہ آدمی بدستور احرام میں رہے گا،<sup>(۶)</sup> اور اس کو ممنوعات احرام کی پابندی لازم ہوگی، اور سلا ہوا کپڑا پہننے اور دیگر ممنوعات احرام کا ارتکاب کرنے کی صورت میں اس پر دم لازم ہوگا۔<sup>(۷)</sup> آج کل بہت سے ناواقف لوگ دُوسروں کی دیکھا دیکھی اسی چوتھی صورت پر عمل کرتے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ احرام میں رہتے ہیں، اسی احرام کی حالت میں تمام ممنوعات کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ اپنی ناواقفی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے چند بال کاٹ کر احرام کھول دیا، حالانکہ ان کا احرام نہیں کھلا اور احرام کی حالت میں خلاف احرام چیزوں کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو مول لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں لوگوں میں کوئی ایک آدھ ہوگا جس کا حج و عمرہ شریعت کے مطابق ہوتا ہو، باقی لوگ سیر سپانا کر کے آجاتے ہیں اور ”حاجی“ کہلاتے ہیں، عوام کو چاہئے کہ حج و عمرہ کے مسائل اہل علم سے سیکھیں اور ان پر عمل کریں، محض دیکھا دیکھی سے کام نہ چلائیں۔

(۱) فاما الحلق فالأفضل حلق جميع الرأس لقوله عز وجل: "محلّقين رؤسكم" والرأس اسم للجمع وكذا روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه. (بدائع ج: ۲ ص: ۱۳۱، كتاب الحج، فصل: وأما مقدار الواجب).

(۲) الحلق أفضل لأنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلّقين ثلاثاً والمقصّرین مرة واحداً فقال: اللهم اغفر للمحلّقين والمقصّرین. (بدائع ج: ۲ ص: ۱۳۰، كتاب الحج، فصل: وأما الحلق أو التقصير).

(۳) فالحلق أو التقصير واجب عندنا إذا كان على رأسه شعر لا يتحلل بدونه. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۳۰، كتاب الحج).

(۴) گزشتہ صفحے کا حوالہ نمبر ۳ ملاحظہ فرمائیں۔

(۵) وإن حلق ربع الرأس أجزاءه ويكره. (بدائع ج: ۲ ص: ۱۳۱، كتاب الحج، فصل: وأما مقدار الواجب).

(۶) والحلق المطلق يقع على حلق جميع الرأس ولو حلق بعض الرأس فإن حلق أقل من الربع لم يجزه. (بدائع ج: ۲ ص: ۱۳۱، كتاب الحج، فصل: وأما مقدار الواجب).

(۷) گزشتہ صفحے کا حوالہ نمبر ۳ ملاحظہ ہو۔

## حج کا احرام طواف کے بعد کھول دیا تو کیا کیا جائے؟

سوال: ... میں نے کراچی سے ہی سب کے ساتھ حج کا احرام باندھ لیا تھا، مکہ شریف میں طواف کرنے کے بعد کھول دیا، تو اب مجھے کیا کرنا چاہئے؟

جواب: ... آپ پر حج کا احرام توڑنے کی وجہ سے دم لازم ہوا، اور حج کی قضا لازم ہوئی، حج تو آپ نے کر لیا ہوگا، دم آپ کے ذمہ رہا،<sup>(۱)</sup> اور اس فعل پر ندامت کے ساتھ توبہ استغفار بھی کیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگئے۔

## عمرہ کے احرام سے فراغت کے بعد حج کا احرام باندھنے تک پابندیاں نہیں ہیں

سوال: ... پاکستان سے حج تمتع کے لئے احرام باندھ کر چلے، مگر مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ ادا کیا اور احرام کھول دیئے۔ اب سوال یہ ہے کہ احرام کھولنے کے بعد جہاں وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں جو احرام کی حالت میں تھیں، وہاں کیا یہ پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے کہ بیوی شوہر پر حلال ہو جاتی ہے؟ کیونکہ احرام کی حالت میں حرام تھی۔ ابھی حج کے لئے عمرہ کے بعد دس دن باقی ہیں اور اگر ایسا کسی نے کیا تو کیا اس کا حج قبول ہوگا کہ نہیں؟ اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہوتا تو وہ کیا کرے؟ اگر دو بارہ آئندہ سال حج کرنے کا حکم ہے اور وہ آئندہ سال حج نہ کر سکے، وجہ مجبوری ہے، پیسہ نہ ہونے کی۔

جواب: ... عمرہ کے احرام سے فارغ ہونے کے بعد سے حج کا احرام باندھنے تک جو وقفہ ہے، اس میں جس طرح کسی اور چیز کی پابندی نہیں، اسی طرح میاں بیوی کے تعلق کی بھی پابندی نہیں۔ اس لئے عمرہ سے فارغ ہو کر حج کا احرام باندھنے سے پہلے بیوی سے ملنا جائز ہے، اس سے حج کا ثواب ضائع نہیں ہوتا، نہ آئندہ سال حج کرنا لازم آتا ہے۔<sup>(۲)</sup>

## احرام والے کے لئے بیوی کب حلال ہوتی ہے؟

سوال: ... کیا یہ صحیح ہے کہ طواف زیارت نہ کرنے والے پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ بحوالہ تحریر فرمائیں۔ اور کیا قربانی سے پہلے طواف زیارت کیا جاسکتا ہے؟

جواب: ... جب تک طواف زیارت نہ کرے بیوی حلال نہیں ہوتی، گویا بیوی کے حق میں احرام باقی رہتا ہے۔<sup>(۳)</sup> قربانی سے

(۱) ان المُحْرَمِ إِذَا نَوَى رَفْضَ الْأَحْرَامِ فَجَعَلَ يَصْنَعُ مَا يَصْنَعُهُ الْحَلَالُ مِنْ لِبْسِ الشِّيَابِ وَالتَّطْيِيبِ ..... وَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ كَمَا كَانَ مُحْرَمًا وَيَجِبُ دَمٌ لِجَمِيعِ مَا ارْتَكَبَ. (شامی ج: ۲ ص: ۲۲۳، کتاب الحج).

(۲) وَصِفَةُ الْمُتَمَتِّعِ الَّذِي لَا يَسُوقُ الْهَدْيَ أَنْ يَبْتَدِيَ مِنَ الْمَيْقَاتِ فِيحْرَمَ بِعَمْرَةٍ وَيَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَطُوفُ لَهَا وَيَسْعَى وَيَحْلِقُ أَوْ يَقْصُرُ وَقَدْ حَلَّ مِنْ عَمْرَتِهِ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۸). ثُمَّ يَقِيمُ بِمَكَّةَ حَلَالًا. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۸ كذا في الهداية).

(۳) وَلَوْ لَمْ يَطْفِ أَصْلًا لَمْ تَحِلْ لَهُ النِّسَاءُ وَإِنْ طَالَ وَمَضَتْ سَنُونَ وَهَذَا بِاجْتِمَاعِ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۲). أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ تَحِلُّ بِهَا النِّسَاءُ لِلْمُحْرَمِينَ ..... وَلِلْحَاجِّ بِطَوَافِ الزِّيَارَةِ. (خزانة الفقه ص: ۹۷، أيضًا الفقه الإسلامي وأدلته: وأما طواف الزيارة ج: ۳ ص: ۱۳۶). (وَإِذَا طَافَ) أَي طَوَافِ الزِّيَارَةِ (حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ). (إرشاد الساری ص: ۱۵۵). وَتَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ بِالْحَلْقِ السَّابِقِ لَا بِالطَّوْافِ وَإِذَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ حَلَّتْ لَهُ النِّسَاءُ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۲، کتاب الحج، الباب الخامس في كيفية أداء الحج، طبع مکتبہ ماجدیہ کوئٹہ، بدائع ج: ۲ ص: ۱۳۰، کتاب الحج).

پہلے طواف زیارت جائز ہے مگر افضل یہ ہے کہ بعد میں کرے۔<sup>(۱)</sup>

## احرام باندھنے کے بعد بغیر حج کے واپسی کے مسائل

سوال: ... ہوائی جہاز سے جانے والے حنفی عازمین حج گھر سے احرام باندھ کر نکلتے ہیں، اگر اتفاق سے کوئی حاجی (جو احرام باندھے گھر سے چلا ہو) کسی مجبوری کے سبب ایئر پورٹ سے واپس ہو جائے اور حج پر نہ جائے تو کیا وہ احرام نہیں اتار سکتا تا وقتیکہ قربانی کے جانور کی رقم حدود حرم میں نہ بھیج دے اور وہاں سے قربانی ہو جانے کی اطلاع نہ مل جائے، خواہ اس میں دس پندرہ دن لگ جائیں؟

جواب: ... گھر سے احرام کی چادریں پہن لینی چاہئیں، مگر احرام نہ باندھا جائے، احرام اس وقت باندھا جائے جب سیٹ پکی ہو جائے۔ احرام باندھنے کا مطلب ہے حج یا عمرہ کی نیت سے تلبیہ پڑھ لینا۔ اور اگر احرام باندھ چکا تھا اس کے بعد نہیں جاسکا، تو جیسا کہ آپ نے لکھا وہ قربانی کی رقم کسی کے ہاتھ مکہ مکرمہ بھیج دے اور آپس میں یہ طے ہو جائے کہ فلاں دن قربانی کا جانور ذبح ہوگا، جب قربانی کا جانور ذبح ہو جائے تب یہ احرام کھولے،<sup>(۲)</sup> اور آئندہ اس حج کی قضا کرے۔<sup>(۳)</sup>

## عمرہ ادا کئے بغیر احرام کھولنے والے پر دم واجب ہے اور قضا لازم ہے

سوال: ... دوسرے عمرے کے لئے میں نے جدہ سے احرام باندھ لیا تھا مگر میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، میں بالکل چل نہیں سکتا تھا، میں نے احرام عمرہ ادا کرنے کے بغیر کھول دیا ہے، میں نے مجبوری سے عمرہ ادا نہیں کیا ہے، اس گناہ کی بخشش کس طرح ہو سکتی ہے؟

جواب: ... آپ کے ذمے احرام توڑ دینے کی وجہ سے دم بھی واجب ہے اور عمرے کی قضا بھی لازم ہے۔<sup>(۴)</sup>

## کیا حالت احرام میں ناپاک ہونے پر دم واجب ہے؟

سوال: ... حالت احرام میں عورت یا مرد کسی عذر کی بنا پر ناپاک ہو گئے تو ان کی پاکی کا کیا طریقہ ہوگا؟ آیا ان پر دم وغیرہ ہوگا یا کچھ بھی نہیں؟

(۱) و ظاہر أنه لا يجب الترتيب بينه وبين الرمي والذبح والحلق وفي الدر المختار عند عد الواجبات والترتيب بين الرمي والحق والذبح يوم النحر وأما الترتيب بين الطواف وبين الرمي والحلق فسنة فلو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء عليه ويكره لباب آه. وبالأولى لو طاف القارن والمتمتع قبل الذبح لأن الذبح يجب قبل الرمي وقد علمت أن الطواف قبل الرمي لا يجب فيه شيء فبالأولى قبل الذبح. (منحة الخالق على هامش البحر الرائق ج: ۳ ص: ۲۶، باب الجنایات).

(۲) وأراد التحلل يجب أن يبعث الهدى أو ثمنه يشتري به الهدى فيذبح عنه ويجب أن يواعدهم يوماً... إلخ. (بدائع ج: ۲ ص: ۱۷۸، عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۵۵) لقوله تعالى: "وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَجْلَهُ".

(۳) والحاصل أن يجب عند الحنفية على المحصر قضاء ما أحرم به بعد التحلل. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۲۹۳).

(۴) من أهل في يوم النحر..... لزمته ويرفضها فإن رفضها فعليه دم لرفضها وعمره مكانها. (هداية ج: ۱ ص: ۲۷۲).

جواب: ... کوئی دم وغیرہ نہیں۔<sup>(۱)</sup>

اگر ناپاک احرام کے ساتھ عمرہ کر کے دم دے دیا تو کیا عمرہ ہو گیا؟

سوال: ... مجھے پیشاب کے بعد قطروں کی بیماری ہے، میں عمرے کے لئے جب روانہ ہوا تو میں نے احرام باندھتے وقت یہ طے کر لیا کہ اب عمرہ کرنے تک پیشاب نہیں کروں گا، اور یہ اس لئے طے کیا تھا کہ قطرے نہ نکلیں، حالانکہ اتنے عرصے تک پیشاب روکنا ناممکن ہے، یہی ہوا اور میرا پیشاب احرام کی حالت میں نکل گیا۔ پھر اس گناہ کے اوپر ایک اور گناہ ہو گیا کہ جہاز میں آنکھوں کے زنا کی وجہ سے قطرہ ناپاک بھی نکل گیا۔ مکہ پہنچ کر میں نے پہلے تو غسل کیا، لیکن ایک گناہ اور یہ بھی ہو گیا کہ غسل کے بعد میں نے بغیر پاک کئے وہی احرام باندھ لیا، اس خیال سے کہ چلو جو کچھ بھی ہوا، سوکھ گیا ہوگا۔ غرض میں نے اسی احرام کے ساتھ عمرہ کیا۔ پھر مدینہ سے واپسی پر دوسرا عمرہ کیا تو احرام دھو کر کیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھے وسوسے ڈالنا شروع کئے، وہاں سے آنے کے بعد میں نے ایک حاجی کے ہاتھ بکرا کاٹنے کے لئے روپے بھی بھیجے۔ سوال یہ ہے کہ میرا عمرہ ہوا یا نہیں؟ اور میں کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوا؟

جواب: ... پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کے دونوں عمرے صحیح ہو گئے، کیونکہ آپ نے دم بھی دے دیا۔ شیطان کے بہکانے میں نہ آئیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگئے، والسلام۔

ناپاکی کی وجہ سے احرام کی پختی چادر کا بدلنا

سوال: ... مجھ کو اکثر عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور میں کراچی سے احرام باندھ کر جاتا ہوں، مگر ضعیفی کی وجہ سے مجھے پیشاب جلدی جلدی آتا ہے اور ہوائی جہاز کے چار گھنٹے کے سفر میں تین مرتبہ غسل خانہ جانا پڑتا ہے۔ غسل خانہ اس قدر تنگ ہوتا ہے کہ احرام کا پاک رہنا قطعی ناممکن ہے، کیا اسی حالت میں عمرہ کر لوں یا نیچے کا احرام بدل سکتا ہوں؟ دوسری صورت کیا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جدہ میں میری ایک بیٹی رہتی ہے، اس کے ہاں ایک شب قیام کروں اور وہاں سے احرام باندھوں؟

جواب: ... احرام تو سوار ہونے سے پہلے یا بعد میں باندھ لینا چاہئے، احرام کی نیچے والی چادر بدل لیا کریں۔<sup>(۲)</sup>

احرام کی حالت میں بال گریں تو کیا قربانی کی جائے؟

سوال: ... میرے سر اور داڑھی کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، سنا ہے کہ احرام کی حالت میں جتنے بال گریں اتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، حج کی صورت میں، جبکہ میں معذور ہوں، مسئلہ واضح فرمائیں۔

جواب: ... جتنے بال گریں اتنی قربانیاں دینے کا مسئلہ غلط ہے، البتہ وضو احتیاط سے کرنا چاہئے تاکہ بال نہ گریں اور اگر گر

(۱) إذا حاضت المرأة أو نفست عند الإحرام اغسلت للإحرام وأحرمت وصنعت كما يصنع الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وإذا حاضت المرأة أو نفست فلا غسل عليها بعد الإحرام. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۱۶۲، أحكام الحج والعمرة، حج المرأة الحائض، بحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۷۰، كتاب الحج).

(۲) عن ابن عمر رضي الله عنه أنه عليه السلام أهل حين استوت به راحلته قائمة. (فتح القدير ج: ۲ ص: ۳۲۰).

جائیں تو صدقہ کر دینا کافی ہے۔<sup>(۱)</sup>

کیا حالتِ احرام میں چوٹ لگنے سے دم واجب ہے؟

سوال: ... احرام کی حالت میں اگر چوٹ لگ جائے اور خون نکل آئے تو کیا دم واجب ہے یا صدقہ دینا پڑے گا؟

جواب: ... اس سے دم لازم نہیں آتا، نہ کوئی صدقہ واجب ہے۔<sup>(۲)</sup>

عمرہ کرنے کے بعد حج کے لئے احرام دھونا

سوال: ... حج سے قبل تمتع کا احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا جائے گا، ۸ رذوالحجہ کو اس احرام کو دھو کر باندھنا چاہئے یا بغیر دھوئے

ہوئے استعمال کر لیں؟

جواب: ... تمتع کا عمرہ کرنے کے بعد احرام کی چادروں کو دھونا ضروری نہیں، اگر وہ پاک ہوں تو انہی چادروں میں حج کا

احرام باندھ سکتے ہیں۔

حالتِ احرام میں دانتوں سے خون نکلنے کا کیا حکم ہے؟

سوال: ... میں حج پر جا رہی ہوں اور احرام میں جو احتیاط اور آداب ہیں، ان میں ایک احتیاط یہ بھی ہے کہ کہیں سے خون نہ

نکلے، میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرے دانتوں سے خون آتا ہے، خاص طور پر سوتے وقت یا کبھی ٹھوکر لگنے سے یا دانت صاف کرتے

وقت برش یا انگلی لگ جائے، اس سے بھی نکل آتا ہے، اگر احرام کی حالت میں خون نکلا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: ... اس سے احرام تو نہیں جاتا، لیکن کوشش کی جائے کہ احرام کی حالت میں برش نہ کیا جائے۔<sup>(۳)</sup>

احرام کے سر پر لگنے، تکیے پر سونے، احرام سے آنکھ کا پانی صاف کرنے کا احرام پر اثر اور

اُس کا ازالہ

سوال: ... روناگی کے وقت احرام باندھا، آنکھ سے پانی آیا، احرام سے پونچھا، احرام پھنس گیا، سر سے اتارا، کپڑا سر پر لگا،

ایک شخص نے احرام کا پلو مارا، اس کا احرام سر پر لگا، تکیے پر سویا، گال پر کپڑا لگا، ایک صاحب نے کہا کہ اگر چت بھی لیٹو تو سر کے نیچے

(۱) إذا حك المحرم رأسه أو لحيته فانثر منها شعر فعليه صدقة. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۳، کتاب المناسک، الباب

الثامن فی الجنایات، الفصل الثالث فی حلق الشعر، وبدائع ج: ۲ ص: ۱۹۳، کتاب الحج).

(۲) ولا بأس للمحرم أن يحتجم أو يفتصد أو يجبر الكسر أو يختتن... الخ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۳، کتاب

المناسک، الباب الرابع فیما یفعله المحرم).

(۳) أيضًا.

ہاتھ رکھو، اس غلطی کا ازالہ کیسے ہو؟ آپ فرمائیں میں نے کبھی اخبار، کبھی پلاسٹک تھیلے تکیے پر رکھ لئے تھے سوتے وقت، یہ فعل میرا درست تھا یا غلط؟

جواب: ... ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، نہ ان کے ازالے کی ضرورت ہے۔<sup>(۱)</sup>

کیا ہر مرتبہ عمرہ کے لئے احرام دھونا پڑے گا؟

سوال: ... ہر مرتبہ عمرہ کرنے کے لئے احرام دھونا پڑے گا یا اسی احرام کو دوسری، تیسری مرتبہ پانچ دن تک بغیر دھلے استعمال کریں؟

جواب: ... احرام کی چادروں کا ہر مرتبہ دھونا کوئی ضروری نہیں۔

احرام کی چادر استعمال کے بعد کسی کو بھی دے سکتے ہیں

سوال: ... کیا ہم حج کے بعد احرام کسی غریب کو دے دیں کہ وہ اپنی ضرورت کے لئے استعمال کرے؟

جواب: ... احرام کی چادر خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو دینا چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں۔

احرام کو تولیہ کی جگہ استعمال کرنا

سوال: ... احرام جو کہ تولیہ کے کپڑا کا ہے، اس کو عام استعمال میں تولیہ کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب: ... کر سکتے ہیں۔

احرام کے کپڑے کو بعد میں دوسری جگہ استعمال کرنا

سوال: ... حج اور عمرہ کے دوران جو کپڑا بطور احرام استعمال کرتے ہیں، کیا اس کو عام کپڑوں کی طرح گھر میں استعمال

کر سکتے ہیں؟ یعنی تولیہ کو تولیہ کی جگہ اور لٹھے کو شلوار قمیص بنا کر پہن سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب: ... احرام کے کپڑوں کا عام استعمال جائز ہے۔

(۱) لَا بَأْسَ بَانَ يَسْتِظِلُّ بِالْبَيْتِ وَالْمَحْمَلِ ..... وَكَذَا لَوْ دَخَلَ تَحْتَ سِتْرِ الْكَعْبَةِ حَتَّى غَطَاهُ وَالسِّتْرَ لَا يَصِيبُ رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ لَا بَأْسَ بِهِ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۴، کتاب المناسک، الباب الرابع فيما يفعله المحرم بعد الإحرام).

## طواف

### حرم شریف کی تحیۃ المسجد طواف ہے

سوال: کیا عمرہ ادا کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصتی کے وقت طواف الوداع ضروری ہے؟ اور کیا عمرہ کے لئے جانے والے شخص کو حرم شریف میں تحیۃ المسجد کے نفل پڑھنا ضروری ہیں؟

جواب: ... طواف ووداع صرف حج میں واجب ہے،<sup>(۱)</sup> عمرہ میں نہیں،<sup>(۲)</sup> حرم شریف کی تحیۃ المسجد طواف ہے۔<sup>(۳)</sup>

### طواف سے پہلے سعی کرنا

سوال: ... حرمین شریفین میں نماز پڑھنے کے لئے عورتوں کا دوائی وغیرہ کا استعمال کرنا ماہواری کو روکنے کے لئے، آیا یہ عمل بغیر کراہت کے درست ہے یا نہیں؟

جواب: ... کوئی حرج نہیں۔

سوال: ... دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت اپنے ایام خاص میں سعی کو مقدم (طواف پر) کر سکتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کر سکتی تو کس طرح عمرے کو ادا کرے گی؟ آیا وہ تاخیر کرے گی حالت طہارت تک یا احرام کو اتار دے گی؟

جواب: ... اس صورت میں سعی طواف سے پہلے کرنا صحیح نہیں، پاک ہونے کے بعد طواف سعی کر کے احرام کھولے، اس وقت تک احرام میں رہے۔<sup>(۴)</sup>

### اذان شروع ہونے کے بعد طواف شروع کر دیا

سوال: ... کیا اذان شروع ہونے کے بعد طواف شروع کرنا جائز ہے؟

(۱) وأما واجبات الحج فخمسة: السعي بين الصفا والمروة..... وطواف الصدر. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۳۳، كتاب الحج). والطواف الوداع وهو واجب عندنا. (فتح القدير ج: ۲ ص: ۳۹۷، كتاب الحج).

(۲) وأما طواف الصدر فلا يجب على المعتمر. (بدائع ج: ۲ ص: ۲۲۷، كتاب الحج).

(۳) ان تحية هذا المسجد بخصوصه هو الطواف. (شامی ج: ۲ ص: ۱۷۹، إرشاد الساری ص: ۱۲۶).

(۴) ولو حاضت عند الإحرام أتت بغير الطواف، لقوله عليه السلام لعائشة رضي الله عنها حين حاضت بسرف إفعلى ما يفعل

الحاج غير أن لا سطوفاً. (بحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۷۰، طبع دار المعرفة، والدليل لفقہ الإسلامی ج: ۳ ص: ۱۶۶).

جواب: ... اگر اذان اور نماز کے درمیان اتنا وقفہ ہو کہ طواف کر سکتا ہے تو اذان کے وقت طواف شروع کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔<sup>(۱)</sup>

بیت اللہ میں اذانِ مغرب اور نمازِ مغرب کے درمیان طواف کا دو گانہ پڑھنا

سوال: ... حرم شریف میں اذانِ مغرب کے بعد کافی وقفہ ملتا ہے، آیا اس وقفے میں طواف کے دو رکعت نفل یا کوئی نماز قضا وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب: ... اس وقفے میں دو گانہ طواف اور نماز قضا پڑھنا صحیح ہے۔

طواف کے دوران ایذا رسانی

سوال: ... دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ طواف کے دوران تیز دوڑتے ہیں اور سامنے آنے والوں کو دھکادے کر آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟

جواب: ... طواف کے دوران لوگوں کو دھکے دینا بہت بُرا ہے۔<sup>(۲)</sup>

دورانِ طواف عورتوں کا ٹکرا جانا

سوال: ... طواف میں عورتیں بالکل احتیاط نہیں کرتیں اور ہمارے احتیاط کرنے کے باوجود آگے پیچھے، دائیں بائیں ٹکرا جاتی ہیں۔

جواب: ... حتی الوسع خود احتیاط سے کام لیا جائے۔

حجرِ اسود کے استلام کا طریقہ

سوال: ... کچھ حاجی صاحبان طواف کا ایک چکر پورا ہونے پر حجرِ اسود کا استلام کرتے ہوئے سات مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اگلا چکر شروع کرتے ہیں، جس سے طواف میں رُکاوٹ ہوتی ہے، کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟

جواب: ... سات مرتبہ ہاتھ اٹھانا غلط ہے، ایک مرتبہ استلام کافی ہے۔

استلام: ... طواف شروع کرنے سے پہلے اور طواف کے ہر چکر کے بعد حجرِ اسود کو چومنا اور اگر حجرِ اسود کا چومنا دشوار ہو تو اس

(۱) ولو أقيمت الصلوة والرجل يطوف أو يسعى يترك الطواف والسعي ويصلي ثم يبنى بعد الفراغ من الصلوة.

(عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۷، کتاب المناسک، الباب الخامس في كيفية أداء الحج، هكذا في فتح القدير).

(۲) لقوله عليه السلام: وايداء المسلم حرام. (بدائع ج: ۲ ص: ۱۴۶، کتاب الحج، شامی ج: ۲ ص: ۱۸۰).



کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کو چوم لینا۔<sup>(۱)</sup>

## حجرِ اسود اور رُکنِ یمانی کا بوسہ لینا

سوال: ... مسئلہ یہ ہے کہ اکثر طواف کے دوران دیکھا گیا ہے کہ مرد اور عورتیں رُکنِ یمانی اور حجرِ اسود کا بوسہ بہت اہتمام سے ادا کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ اس عمل کو ادا کرتے وقت کثرتِ ہجوم اور رش کی بنا پر وہ حالت ہوتی ہے جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا، یعنی کھلم کھلا مرد اور عورتوں کا اختلاط پایا جاتا ہے، اس کے باوجود اس عمل کو ترک نہیں کیا جاتا، پوچھنا یہ ہے کہ یہ عمل سنت ہے یا واجب؟ جس پر اتنا اہتمام ہوتا ہے، اگر ادا کرنا مشکل ہو (یعنی حجرِ اسود وغیرہ کا بوسہ) تو اس کا بدل کیا ہے؟ براہِ مہربانی تفصیل سے جواب دیں۔

جواب: ... حجرِ اسود کا استلام سنت ہے، بشرطیکہ بوسہ لینے سے اپنے آپ کو یا کسی اور کو ایذا نہ ہو، اگر اس میں دھکم پیل کی نوبت آئے اور کسی مسلمان کو ایذا پہنچے تو یہ فعل حرام ہے، اور طواف میں فعل حرام کا ارتکاب کرنا اور اپنی اور دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنا بہت ہی بے عقلی کی بات ہے۔ اگر آدمی آسانی سے حجرِ اسود تک پہنچ سکے تو اس کو چوم لے، ورنہ دُور سے اپنے ہاتھوں کو حجرِ اسود کی طرف بڑھا کر یہ تصور کرے کہ گویا میں نے ہاتھ حجرِ اسود پر رکھ دیئے ہیں اور پھر ہاتھوں کو چوم لے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان شاء اللہ۔<sup>(۲)</sup>

اور رُکنِ یمانی کو بوسہ نہیں دیا جاتا، نہ اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، بلکہ اگر چلتے چلتے اس کو داہنا ہاتھ لگانے کی گنجائش ہو تو ہاتھ لگا دے (ہاتھ کو بھی نہ چومے)، ورنہ بغیر اشارہ کئے گزر جائے۔<sup>(۳)</sup>

## حجرِ اسود کی توہین

سوال: ... جناب! ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے، وہ یہ کہ ایک سرمایہ دار خاتون حج کرنے کے لئے گئی اور واپس آ کر انہوں نے بتایا کہ دورانِ حج سنگِ اسود کو بوسہ دینے کے لئے جب میں گئی تو وہاں پر لوگوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھ کر مجھے گھن آئی، میں نے بوسہ نہیں دیا۔ اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تحریر فرمائیں کہ شریعت میں ایسی عورت کے لئے کیا حکم ہے؟ آیا وہ دائرہ اسلام میں ہے یا اس سے خارج ہے؟

(۱) (ثم ابتداء بالحجر الأسود (فاستقبله و كبر وهلل) لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فابتداء بالحجر فاستقبله و كبر وهلل (ويرفع يديه) أي عند التكبير. افتتاح الطواف لقوله عليه السلام: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن وذكر من جملتها استلام الحجر (واستلمه إن استطاع في غير أن يؤذى مسلماً) يعني بعد الرفع للإفتتاح والتكبير. .... أن يضع يده ويقبله... إلخ. (فتح القدير ج: ۲ ص: ۳۵۳، ۳۵۴، بدائع ج: ۲ ص: ۱۲۶، عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۵).

(۲) (الإستلام سنة والتحرز عن أذى المسلم واجب، وإن أمكنه أن يمس الحجر شيئاً في يده أو يمسه بيده أو يقبل ما مس به... إلخ. (فتح القدير ج: ۲ ص: ۲۵۴، كتاب الحج، بدائع ج: ۲ ص: ۱۲۷، بحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۲۶).

(۳) (أما ركن اليماني فإن استلمه فحسن وإن تركه لم يضره في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله... إلخ. (البنية في شرح الهداية ج: ۵ ص: ۷۷، كتاب الحج، طبع حقانيه ملتان).

جواب:۔۔۔ اگر اس عورت نے حجراً سود کی توہین و بے عزتی کے ارتکاب کی نیت سے یہ گفتگو کی ہو اور اس کا مقصد حجراً سود ہی کی توہین ہو اور اس بوسہ دینے کے عمل سے نفرت ہو تو یہ کلمہ کفر ہے<sup>(۱)</sup>، اس پر تجدید ایمان واجب ہے اور اس کا نکاح شوہر سے ٹوٹ گیا۔ اور اگر اس کا ارادہ یہ ہو کہ چونکہ اس پر لوگوں کا لعاب و تھوک پڑتا ہے جو قابل نفرت ہے، یا اس کا مقصد تکبر کی بنا پر لوگوں کی اہانت ہے تو کفر کا حکم تو نہیں ہوگا لیکن بدترین قسم کے فسق (گناہ) ہونے میں کلام نہیں ہے، اس عورت پر توبہ واجب ہے۔ اور اگر اس خاتون کو اس بات سے گھن آئی کہ سب مرد، عورتیں اکٹھے بوسے دے رہے ہیں اور اس کو حیا مانع آئی کہ وہ مردوں کے مجمع میں گھس کر بوسہ دے تو اس کا یہ فعل بلاشبہ صحیح ہے، اور کسی مسلمان کے قول و عمل کو حتی الوسع اچھے معنی پر ہی محمول کرنا چاہئے۔

### طواف کے ہر چکر میں نئی دُعا پڑھنا ضروری نہیں

سوال:۔۔۔ طواف میں سات چکر ہوتے ہیں، ہر چکر میں نئی دُعا پڑھنی ضروری ہے یا کوئی سی دُعا پڑھی جاسکتی ہے؟

جواب:۔۔۔ ہر چکر میں نئی دُعا پڑھنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جس دُعا یا ذکر میں خشوع زیادہ ہو اس کو پڑھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رُکنِ یمانی اور حجراً سود کے درمیان ”رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً“ والی دُعا منقول ہے۔ طواف کے سات چکروں کی جو دُعا نیں کتابوں میں لکھی ہیں یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں، بعض بزرگوں سے منقول ہیں۔ عام لوگ نہ تو ان کا صحیح تلفظ کر سکتے ہیں، نہ ان کے معنی و مفہوم سے واقف ہیں، اور پھر طواف کے دوران چلا چلا کر پڑھتے ہیں جس سے دُوسروں کو بھی تشویش ہوتی ہے، اور بعض قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرتے ہیں، ایسا کرنا نامناسب ہے۔ تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، دُروہ شریف یا کوئی دُعا جس میں دل لگے، زیر لب پڑھتے رہنا چاہئے۔<sup>(۳)</sup>

### اضطباع ساتوں چکروں میں ہے

سوال:۔۔۔ مجھ کو جو بھی کتاب دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے میں نے اس میں یہی لکھا ہوا پایا ہے کہ اضطباع ”جس طواف میں اضطباع مسنون ہے“ پورے طواف یعنی ساتوں چکروں میں مسنون ہے۔ لیکن ہماری مسجد کے امام صاحب کا کہنا ہے کہ رمل کی طرح یہ بھی صرف پہلے تین چکروں میں مسنون ہے، ان کو لوگوں نے ٹوکا کہ مسئلہ غلط بتلا رہے ہیں، لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ برائے مہربانی بتلائیں کہ حنفی فقہ میں واقعی ایسی کوئی روایت ہے؟

(۱) وفي تامة الفتاوى: من استخف بالقرآن ..... أو بنحو مما يعظم في الشرع كفر. (شرح فقه أكبر ص: ۲۰۵).

(۲) ما يكون كفراً اتفاقاً يبطل العمل والنكاح ..... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (در مختار ج: ۳ ص: ۲۳۶، باب المرتد، طبع ایچ ایم سعید).

(۳) عن يحيى بن عبيد عن أبيه أنه سمع عبد الله بن السائب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الركنين: ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. (السنن الكبرى للبيهقي ج: ۵ ص: ۸۴، شامی ج: ۲ ص: ۱۸۴). يكره أن يرفع صوته بالقراءة ولا بأس بقراءته في نفسه ..... وان الذكر أفضل منها مأثورًا أولًا كما هو مقتضى الإطلاق. (شامی ج: ۲ ص: ۱۸۳، باب الكسوف، طبع سعید).

جواب: ... مناسک ملا علی قاریؒ میں لکھا ہے کہ اضطباع ساتوں پھیروں میں مسنون ہے۔<sup>(۱)</sup> علامہ شامی رد المحتار میں

لکھتے ہیں:

”وفی شرح اللباب: واعلم ان الاضطباع سنة فی جميع اشواط الطواف. كما

صرح به ابن الضیاء۔“ (رد المحتار ج: ۲ ص: ۴۹۵)

ترجمہ: ... ”اور شرح لباب میں ہے: واضح ہو کہ اضطباع تمام چکروں میں مسنون ہے، جیسا کہ ابن

ضیاء نے اس کی تصریح کی ہے۔“

سوال: ... میں نے کتابوں میں یہی لکھا ہوا پایا ہے کہ اگر کوئی شخص احرام میں مرجائے تو غیر محرم کی طرح اس کو کفن دیا جائے،

اس کا سر ڈھانکا جائے، کافور اور خوشبو وغیرہ لگائی جائے، لیکن ہماری مسجد کے امام صاحب کا کہنا ہے کہ اس کو احرام ہی کے کپڑوں میں دفن کیا جائے، لیکن اگر عورت ہو تو اس کو کفن دیا جائے۔ برائے مہربانی بتلائیں کہ اس معاملے میں حنفی فقہ کیا ہے؟ کیا واقعی مرد کے لئے الگ حکم ہے اور عورت کے لئے الگ؟

جواب: ... حنفیہ کے نزدیک موت سے احرام ختم ہو جاتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص حالت احرام میں فوت ہو جائے تو اسے بھی

عام مرنے والوں کی طرح مسنون کفن دیا جائے گا، اس کا سر ڈھانکا جائے گا اور خوشبو بھی لگائی جائے گی۔<sup>(۲)</sup> یہ بات دوسری ہے کہ قیامت کے دن اس کو حالت احرام میں اٹھایا جائے گا۔<sup>(۳)</sup>

## طواف کے چودہ چکر لگانا

سوال: ... ہم عمرہ کے لئے گئے اور طواف کے سات شوٹ یعنی سات چکر کی جگہ چودہ چکر لگا دیئے، اس کے بعد سعی وغیرہ کی،

کیا یہ عمل درست ہوا؟

جواب: ... طواف تو سات ہی شوٹ کا ہوتا ہے، گویا آپ نے مسلسل دو طواف کر لئے، ایسا کرنا مناسب تھا، مگر اس پر

کوئی کفارہ یا جرمانہ نہیں، البتہ آپ کے ذمہ دو طوافوں کے دو دو گانے لازم ہو گئے تھے، یعنی چار رکعتیں، اگر آپ نے نہ پڑھی

(۱) واعلم ان الاضطباع سنة فی جميع اشواط الطواف كما صرح به ابن الضیاء. (مناسک لملا علی القاری ص: ۸۸)۔

(۲) والمُحرم وغير المُحرم فی ذالک سواء یطیب ویغطی وجهه ورأسه ..... هكذا فی المحيط. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۶۱، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل الثالث فی التکفین)۔

(۳) عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول: یبعث کل عبد علی ما مات علیه. وعن ابن عباس أن رجلاً کان مع رسول الله صلی الله علیه وسلم مُحرمًا فوقصته ناقته فمات، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وکفنوه فی ثوبه ولا تمسوه بطیب ولا تخمروا رأسه فإنه یبعث یوم القیامة ملبیًا، وفی رواية: ملبها. أخرجه البخاری. (التذکرة ص: ۲۱۱ فی أحوال الموتی وأمر الآخرة)۔

ہوں تو آب پڑھ لیں۔<sup>(۱)</sup>

بیت اللہ کی دیوار کو چومنا مکروہ اور خلافِ ادب ہے

سوال: ... بیت اللہ کی دیوار کو بوسہ دے سکتا ہے؟ اگر بوسہ لیا ہے تو گناہ گار ہوا یا نہیں؟

جواب: ... صرف حجرِ اسود کا بوسہ لیا جاتا ہے، کسی اور جگہ کا چومنا مکروہ ہے، اور ادب کے خلاف ہے۔<sup>(۲)</sup>

طوافِ عمرہ کا ایک چکر حطیم کے اندر سے کیا تو دم واجب ہے

سوال: ... میں اور میرا دوست اس مرتبہ حج کے لئے گئے تھے، ہم نے حجِ قرآن کا احرام باندھا تھا، جب ہم عمرے کا طواف

کر رہے تھے تو چونکہ جم غفیر تھا اس لئے ہم تیسرے یا چوتھے شوط میں حطیم کے اندر سے گزر گئے، پہلے ہمیں علم نہیں ہوسکا، جب حطیم کی دوسری طرف سے نکلے تو معلوم ہوا کہ یہ حطیم تھا۔ اس طرح ہمارا یہ شوط نامکمل ہوا، لیکن ہم نے اس کا اعادہ نہیں کیا۔ بس اس وقت ذہن سے بات نکل گئی۔ اب اس بارے میں مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل رہا، چونکہ ہم نے اکثر اشواط ادا کئے لہذا فرض ادا ہو گیا، اب اگر عمرے کا ہر شوط واجب ہے تو پھر ترک واجب ہوا، لہذا دم آئے گا اور قرآن والے کے لئے دو دم ہوں گے، بہر حال یہ تحقیق آپ کی ہے۔ الغرض مجھ پر دم ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ امید ہے اولین فرصت میں جواب دے کر تشفی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کو تاحیات جاری و ساری رکھے، آمین!

جواب: ... آپ پر اور آپ کے رفیق پر عمرے کے طواف کا ایک چکر ادھورا چھوڑنے کی وجہ سے ایک ایک دم واجب

ہے۔<sup>(۳)</sup> یہ جو قاعدہ ہے کہ قرآن والے کے ذمہ دو دم ہوتے ہیں، وہ یہاں جاری نہیں ہوتا۔ دم ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ کسی مکہ مکرمہ جانے والے کے ہاتھ اتنی رقم بھیج دیں جس سے بکرا خرید جاسکے، وہ صاحب بکرا خرید کر حد و حرم میں ذبح کرادیں اور گوشت فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیں، غنی اور مال دار لوگ اس گوشت کو نہ کھائیں۔

مقامِ ابراہیم پر نماز واجب الطواف ادا کرنا

سوال: ... بعض حضرات یہ جانتے ہوئے کہ مجمع زیادہ ہے مگر مقامِ ابراہیم پر نماز واجب الطواف پڑھنے لگتے ہیں، جس

(۱) (ثمانیۃ اشواط) ای بزیادة واحدة علی سبعة (ان كان) أي الطائف حين فی شرع فی هذا الشوط (علی ظن ان الثامن سابع فلا شيء عليه كالمظنون)۔ (ارشاد الساری ص: ۱۱۳، طبع دار الفکر، بیروت)۔ فعلیه لكل اسبوع ركعتان علی حدتین) فی ضمن فرض أو سنة۔ (ارشاد الساری ص: ۱۱۳)۔

(۲) (قوله ويكره استلام غيرهما) وهو الركن العراقي والشامي لأنهما ليسا ركنين حقيقة بل في وسط البيت لأن بعض الحطيم في البيت۔ (بحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۳۰، كتاب الحج)۔

(۳) ولو طاف في داخل الحجر فعليه أن يعيد لأن الحطيم لما كان من البيت فإذا طاف في داخل الحطيم فقد ترك الطواف ببعض البيت والمفروض هو الطواف بكل البيت لقوله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) والأفضل أن يعيد الطواف ..... ولو لم يعد حتى عاد إلى أهله يجب عليه الدم لأن الحطيم ربع البيت فقد ترك من طوافه ربعه۔ (بدائع ج: ۲ ص: ۱۳۲، كتاب الحج، عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۵، كتاب المناسك)۔

سے ان کو بھی چوٹ لگنے کا اندیشہ رہتا ہے، نیز ضعیف و مستورات کے زخمی ہو جانے کا احتمال ہے، کیا یہ نماز ہجوم سے ہٹ کر نہیں پڑھی جاسکتی؟

جواب: ... ضرور پڑھی جاسکتی ہے، اور اگر مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو مقام ابراہیم پر نماز نہ پڑھی جائے کہ کسی کو ایذا پہنچانا حرام ہے۔<sup>(۱)</sup>

### طواف کی دو رکعت نفل کیا مقام ابراہیم پر ادا کرنا ضروری ہے؟

سوال: ... طواف کے آخر میں دو رکعت نفل جو ادا کرتے ہیں، کیا وہ مقام ابراہیم پر ہی ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں اور کہیں مثلاً چھت وغیرہ پر ادا کیا جاسکتا ہے؟

جواب: ... اگر جگہ ہو تو مقام ابراہیم پر پڑھنا افضل ہے، یا حطیم میں گنجائش ہو تو وہاں پڑھ لے، ورنہ کسی جگہ بھی پڑھ سکتا ہے، بلکہ مسجد حرام سے باہر اپنے مکان پر پڑھے تب بھی جائز ہے، کوئی کراہت نہیں۔<sup>(۲)</sup>

### ہر طواف کی دو نفل غیر ممنوع اوقات میں ادا کرنا

سوال: ... بیت اللہ شریف کے طواف کے بعد دو رکعت نفل (واجب الطواف) ممنوع وقت (صبح فجر سے طلوع آفتاب تک اور شام عصر سے مغرب تک) پڑھنے چاہئیں یا نہیں؟ کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نفلوں کا ممنوع وقت نہیں ہے، ہر وقت پڑھے جاسکتے ہیں، اور کئی علماء کہتے ہیں کہ ممنوع وقت گزرنے کے بعد پڑھنے چاہئیں۔ اگر ممنوع وقت کے بعد پڑھے جائیں تو اس وقت جتنے بھی طواف کئے جائیں، ان سب کے ایک دفعہ دو نفل پڑھے جائیں یا دو نفل ہر طواف کے الگ الگ پڑھے جائیں؟

جواب: ... امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ممنوع اوقات (یعنی عصر کے بعد سے مغرب تک، فجر کے بعد سے اشراق تک اور زوال کے وقت) دو گانہ طواف ادا کرنا جائز نہیں، اس دوران جتنے طواف کئے ہوں، مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد ان کے دو گانے الگ الگ ادا کر لے۔<sup>(۳)</sup>

(۱) وإذا فرغ من الطواف يأتي مقام إبراهيم عليه السلام ويصلي ركعتين وإن لم يقدر على الصلوة في المقام بسبب المزاحمة يصلي حيث... إلخ. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۶، كتاب المناسك). ثم يأتي المقام (أي مقام إبراهيم عليه السلام) فيصلی عنده ركعتين أو حيث تيسر. (هداية ج: ۱ ص: ۲۲۲، كتاب الحج).

(۲) وإذا فرغ من الطواف يأتي مقام إبراهيم عليه السلام ويصلي ركعتين وإن لم يقدر على الصلوة في المقام بسبب المزاحمة يصلي حيث لا يعسر عليه من المسجد كذا في الظهيرية. وإن صلى في غير المسجد جاز. كذا في فتاوى قاضیخان. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۶، فتح القدير ج: ۲ ص: ۳۵۹، بحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۲۱).

(۳) ولو صلاها في وقت مكروه قيل صحت مع الكراهة ويجب قطعها فإن مضى فيها فالأحب أن يعيدها لباب... لا تنعقد في ثلاثة من الأوقات المنهية أعني الطلوع والإستواء والغروب... إلخ. (شامی ج: ۲ ص: ۱۸۴). (ولا يصلي في وقت مكروه) أي للفرانض والنوافل لأنمتنا. (ارشاد الساری ص: ۶۸).

## دورانِ طواف وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟

سوال: ... طوافِ کعبہ کے دوران یا حج کے ارکان ادا کرتے وقت اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ وضو کر کے ارکان ادا کرنے ہوں گے؟ عرفات میں قیام کے دوران یا سعی کرتے وقت؟ براہ کرم تفصیل سے جواب دیں۔

جواب: ... طواف کے لئے وضو شرط ہے، اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے دوبارہ طواف کیا جائے، اور اگر چار یا پانچ پھیرے پورے کر چکا ہو تو وضو کر کے باقی پھیرے پورے کر لے، ورنہ نئے سرے سے طواف شروع کرے۔<sup>(۱)</sup> البتہ سعی کے دوران وضو شرط نہیں، اگر بغیر وضو کے سعی کر لی تو ادا ہو جائے گی، یہی حکم وقوفِ عرفات کا ہے۔<sup>(۲)</sup>

## طواف میں بار بار وضو ٹوٹے تو کیا کیا جائے؟

سوال: ... مسئلہ یہ ہے کہ میں شوگر کی مریضہ ہوں، میرے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے کہ گیس کی وجہ سے میرا وضو نہیں رہتا، نماز کے لئے میں ہر وقت تازہ وضو کرتی ہوں، دورانِ طواف اگر اس طرح بار بار وضو ٹوٹ جائے تو کیا میرا طواف ہو جائے گا؟

جواب: ... کوشش کریں کہ آپ طواف با وضو کریں، اور اگر چار چکروں کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر کے باقی ماندہ چکر پورے کر لیں، اور کسی طبیب سے دوائیں لیں جس سے آپ کا وضو نہ ٹوٹے، اور اگر کسی حالت میں آپ کا وضو ٹھہرتا ہی نہیں، تو آپ معذور ہیں۔<sup>(۳)</sup>

## عمرہ کے طواف کے دوران ایام آنے والی لڑکی کیا کرے؟

سوال: ... ایک بچی اپنے والدین کے ہمراہ عمرہ اور زیارتِ مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہوئی، روانہ ہونے کے وقت بچی بلوغت کو نہیں پہنچی تھی، اس کی عمر تقریباً ۱۲ برس تھی، مکہ مکرمہ پہنچنے پر عمرہ کا طواف کیا اور پھر سعی کی، اور سعی کے بعد بچی نے اپنی والدہ کو حیض آنے کی اطلاع ناواقفیت کی وجہ سے بڑی گھبراہٹ کے عالم میں کی، میں نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کب سے شروع ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ طواف کے دوران شروع ہوا۔ گویا اس حالتِ حیض میں اس نے پورا یا طواف کا بیشتر حصہ ادا کیا، اور پھر اسی حالت میں سعی بھی کی۔ ایسی صورت میں اس بچی کے اس فعل پر جو ناواقفیت کے عالم میں ہوا، کوئی چیز واجب ہوگی؟ اگر ہوگی تو کیا چیز ادا کرنی ہوگی؟

(۱) إلا أنه يشترط أن يكون الطواف على الطهارة عن الجنابة والحیض، لأن السعی مرتب علیہ ومن توابعہ، والطواف مع الجنابة والحیض لا یعتد به حتی تجب إعادته... إلخ. (بدائع ج: ۲ ص: ۱۳۵، فتح القدیر ج: ۲ ص: ۴۵۸). عن عائشة رضی الله عنها، ان أول شیء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت. (السنن الكبرى للبيهقي ج: ۵ ص: ۸۶، البحر الرائق ج: ۱ ص: ۱۹۷).

(۲) وان سعی جنباً أو حائضاً أو نفساء فسعیہ صحیح. (هندیة ج: ۱ ص: ۲۴۷ طبع رشیدیہ).

(۳) والمستحاضة ومن به سلس البول ..... يتوضون لوقت كل صلاة ..... وكذا كل من هو في معناها وهو من ذكرناه ومن به استطلاق البطن وانفلات ریح لأن الضرورة بهذا يتحقق وهي نعم الكل. (هدایة، کتاب الطهارة ص: ۵۰ تا ۵۲).

جواب: ... اس کو چاہئے تھا کہ عمرہ کا احرام نہ کھولتی، بلکہ پاک ہونے کے بعد دوبارہ طواف اور سعی کرتی۔ بہر حال چونکہ اس نے احرام نابالغی کی حالت میں باندھا تھا اس لئے اس پر دم جنایت نہیں۔ مناسک ملاً علی قاریؒ میں ہے:

”وان ارتکب ائی الصبی شیئاً من المحظورات (لا شی علیہ) ائی ولو بعد بلوغه

لعدم تکلیفہ قبلہ۔“

(ارشاد الساری ص: ۴۹)

ترجمہ: ... ”اور اگر بچے نے ممنوعات احرام میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا تو اس کے ذمہ کچھ نہیں، خواہ

یہ ارتکاب بلوغ کے بعد ہو، کیونکہ وہ اس سے پہلے مکلف نہیں تھا۔“

## معذور شخص طواف اور دوگانہ نفل کا کیا کرے؟

سوال: ... معذور شخص کو طواف کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا کیسا ہے؟

جواب: ... جیسے فرض نماز پڑھتا ہے ویسے ہی دوگانہ طواف پڑھے، یعنی کھڑے ہو کر، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر بیٹھ کر

پڑھے،<sup>(۱)</sup> اور طواف خود یا کسی کے سہارے سے کرے یا پھر ڈولی میں جیسے کہ عام معذور لوگ وہاں کرتے ہیں۔<sup>(۲)</sup>

## آب زم زم پینے کا طریقہ

سوال: ... آب زم زم کے متعلق حدیث شریف میں حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پیا جائے۔ عرض ہے کہ یہ حکم صرف حج و عمرہ ادا

کرتے وقت ہے یا کسی بھی وقت اور کسی جگہ پیا جائے تو کھڑے ہو کر اور قبلہ رخ ہو کر پینا چاہئے؟ یا قبلہ رخ ہونے کی پابندی نہیں

ہے؟ کیونکہ حاجی صاحبان جب اپنے ساتھ آب زم زم لے جاتے ہیں تو وہاں بعض لوگ کھڑے ہو کر پیتے ہیں اور بعض لوگ بیٹھ کر

پیتے ہیں۔

جواب: ... آب زم زم کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر پینا مستحب ہے، حج و عمرہ کی تخصیص نہیں۔<sup>(۳)</sup>

(۱) تعذر علیہ القيام أو خاف زیادة المرض صلی قاعدًا یرکع ویسجد۔ (بحر الرائق ج: ۲ ص: ۱۱۲، عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۳۶)۔

(۲) أن طاووساً أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة برجل يقود رجلاً..... ثم أمره أن يقوده بيده۔ (السنن الكبرى للبيهقي ج: ۵ ص: ۸۸ و ۹۹، عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۶)۔

(۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم۔ (ترمذی ج: ۲ ص: ۱۰)۔ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائماً وقاعدًا. هذا حديث حسن صحيح۔

(ترمذی ج: ۲ ص: ۱۰)۔ وکیفیتہ أن یأتی زمزم فیستقی بنفسه الماء فیشربه مستقبل القبلة۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۰، شامی ج: ۱ ص: ۹۵ طبع مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔ أيضاً قوله شرب من ماء زمزم أى قائماً مستقبلاً القبلة... الخ۔ (شامی ج: ۲ ص: ۵۲۳)۔

## حج کے اعمال

### حج کے ایام میں دوسرے کو تلبیہ کہلوانا

سوال: ... حج کے ایام میں بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بس میں سوار ایک آدمی تلبیہ پڑھتا ہے اور باقی اس کی تکرار کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟

جواب: ... عوام کی آسانی کے لئے اگر ایسا کیا جاتا ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، ورنہ آواز میں آواز ملا کر تلبیہ نہ کہا جائے۔<sup>(۱)</sup>

### ان پڑھ والدین کو حج کس طرح کرائیں؟

سوال: ... زید حج کرنا چاہتا ہے، ساتھ ہی اپنے والد اور والدہ کو بھی حج کروانا چاہتا ہے، لیکن دونوں ماں باپ بالکل ان پڑھ ہیں۔ سورہ فاتحہ تک صحیح نہیں آتی، کوشش کے باوجود سکھانا ناممکن ہے، آیا اس صورت میں حج کے لئے زید اپنے والدین کو ساتھ لے جائے؟ حج صرف نام کے لئے تو نہیں ہوتا، ازراہ کرم تفصیل سے سمجھائیے۔

جواب: ... حج میں تلبیہ پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر احرام نہیں بندھے گا۔<sup>(۲)</sup> ان کو تلبیہ سکھا دیا جائے، حج ان کا ہو جائے گا، اور اگر ان کو تلبیہ کے الفاظ یاد نہیں ہوتے تو کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ احرام باندھتے وقت ان کو تلبیہ کے الفاظ کہلا دیئے جائیں، اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ کہتے جائیں، اس سے تلبیہ کا فرض ادا ہو جائے گا۔<sup>(۳)</sup>

(۱) (واذا كانوا جماعة) وأقلها هنا اثنان ولذا قال (لأيمشي أحد على تلبية الآخر) لأنه يشوش الخواطر، ويفوت كمال سمع الحاضر (بل كل إنسان يلبي بنفسه) أي منفرد بصوته (دون أن يمشي على صوت غيره) أي على وجه المعية لا الشبهية... الخ. (المسلك المتقسط في المنسك المتوسط ص: ۷۱ طبع دار الفكر بيروت، أيضًا غنية الناسك، باب الإحرام ص: ۷۶).

(۲) فصل وشرط التلبية أن تكون باللسان ..... والتلبية مرة فرض وهو عند الشروع لا غير... الخ. (المسلك المتقسط في المنسك المتوسط ص: ۷۰). أما فرائض الحج ..... فثلاث: الأول الإحرام قبل الوقوف بعرفة ..... وآية ثبوت هذا المعنى نية التزام نسك مع التلبية، أو ما يقوم مقامها كذا في الفتح. فله فرضان: النية والتلبية أو ما يقوم مقامها من الذكر. (غنية الناسك، باب فرائض الحج ص: ۴۴).

(۳) ولو كان مكان التلبية تسبيح أو تحميد أو تهليل ..... وما أشبه ذلك ونوى به الإحرام صار مُحَرَّمًا سواء كان يحسن التلبية أو لا يحسنها بالإجماع وكذا إذا أتى بلسان آخر أجزاءه سواء كان يحسن العربية أو لا يحسنها كذا في شرح الطحاوي. (فتاوى عالمگیری، كتاب الحج، الباب الثالث في الإحرام، ج: ۱ ص: ۲۲۲، أيضًا غنية الناسك ص: ۷۶ طبع إدارة القرآن).



## حرم اور حرم سے باہر صفوں کا شرعی حکم

سوال: ...حرم میں اور حرم کے باہر نماز کی صفوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حرم میں بھی صفوں کے درمیان خاصا فاصلہ ہوتا ہے، اور حرم میں جگہ ہونے کے باوجود حرم کے باہر بھی نماز ہوتی ہے۔ حرم کے باہر ۳، ۴ سو گز بلکہ زیادہ فاصلے تک کوئی صف نہیں ہوتی، سرنگِ منقلہ میں صفیں قائم کر لی جاتی ہیں، کیا ان صفوں میں شامل ہونے سے نماز ہو جاتی ہے؟

جواب: ...حرم شریف میں تو اگر صفوں کے درمیان، فاصلہ ہو تب بھی نماز ہو جائے گی،<sup>(۱)</sup> اور حرم شریف سے باہر اگر صفیں متصل ہوں درمیان میں فاصلہ نہ ہو تو نماز صحیح ہے، اور اگر درمیان میں سڑک ہو یا زیادہ فاصلہ ہو تو نماز صحیح نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## جن لوگوں کو حج کی دعائیں یاد نہ ہوں وہ کیا کریں؟

سوال: ...جو لوگ ارکانِ حج کی دعائیں یاد نہیں کر سکتے، ان کے لئے کیا حکم ہے؟

جواب: ...دُعائیں یاد نہیں تو جو دعائیں آتی ہوں وہ پڑھتے رہیں۔

## کیا عورتوں کو حرم شریف، مسجد نبوی میں جانا جائز ہے؟

سوال: ...مسجد میں عورتوں کا داخلہ منع ہے، جبکہ عورتیں حج اور عمرے میں مسجد نبوی اور حرم شریف میں جاتی ہیں، جبکہ عام مساجد میں نہیں جاتیں، اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب: ...بہتر یہ ہے کہ حرم شریف اور مسجد نبوی میں بھی نہ جایا کریں، گھر پر نماز پڑھا کریں۔<sup>(۳)</sup>

## دورانِ حج میاں بیوی کی ناراضی

سوال: ...ایک شخص حج کے لئے روانگی سے قبل اپنی بیوی کو اس کے والدین کے گھر دوسرے شہر لے گیا، مگر بیوی اپنی والدہ اور بھائیوں کے کہنے میں آکر شوہر کے ساتھ دوبارہ کراچی جانے سے انکاری ہو گئی۔ بیوی کی والدہ نے اس کے شوہر سے کہا کہ تم سامان لے جاؤ، میری بیٹی، بھائیوں کے ساتھ ایئر پورٹ پہنچ جائے گی۔ شوہر ناراض ہو کر چلا گیا۔ بیوی اپنے بھائیوں کے ساتھ کراچی آئی، مگر شوہر کی ناراضی برقرار رہی۔ سعودی عرب میں شوہر نے بیوی سے احسن طریقے سے برتاؤ کیا۔ رہائش، سفر وغیرہ میں ہر طرح کا

(۱) فبان المسجد مکان واحد ولذا لم يعتبر فيه الفصل بالخلاء إلا إذا كان المسجد كبيراً جذاً۔ (رد المختار ج: ۱ ص: ۵۸۶)۔

(۲) إذا كان بين الإمام وبين المقتدى طريق إن كان ضيقاً لا يمر فيه العجلة لا يمنع، وإن كان واسعاً يمر فيه العجلة يمنع إذا لم تكن الصفوف متصلة على الطريق أما إذا اتصلت الصفوف لا يمنع الإقتداء۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۸۷)۔ أيضاً: وعند اتصال الصفوف يصير المكان واحداً حكماً فلا يمنع كما مر۔ (رد المختار ج: ۱ ص: ۵۸۶)۔

(۳) صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها خارج۔ (طس عن أم سلمة، كنز العمال ج: ۷ رقم: ۲۰۸۶۹)۔ خير مساجد النساء قعر بيوتهن۔ (ج: ۷ رقم: ۲۰۸۶۸)۔

خیال رکھا، مگر اس کے دل میں بیوی کے لئے ناراضی برقرار رہی۔ اس طرح سے عورت کا حج قبول ہوتا ہے یا نہیں؟  
جواب: ... عورت کا یہ رویہ شریعت کے خلاف ہے، اور شوہر کی ناراضی کی وجہ سے وہ گناہگار ہے۔ حج کی فرضیت تو ادا ہوگئی، مگر برکات سے محرومی کا اندیشہ ہے۔<sup>(۱)</sup>

## حج کے دوران عورتوں کے لئے احکام

سوال: ... میرا اسی سال حج کا ارادہ ہے، مگر میں اس بات سے بہت پریشان ہوں کہ اگر حج کے دوران عورتوں کے خاص ایام شروع ہو جائیں تو کیا کرنا چاہئے اور مسجد نبوی میں چالیس نمازوں کا حکم ہے، اس دوران اگر ایام شروع ہو جائیں تو کیا کیا جائے؟  
جواب: ... آپ کی پریشانی مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہے، حج کے افعال میں سوائے بیت اللہ شریف کے طواف کے کوئی چیز ایسی نہیں جس میں عورتوں کے خاص ایام رُکاوٹ ہوں۔

اگر حج یا عمرہ کا احرام باندھنے سے پہلے ایام شروع ہو جائیں تو عورت غسل یا وضو کر کے حج کا احرام باندھ لے،<sup>(۲)</sup> احرام باندھنے سے پہلے جو دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ نہ پڑھے۔ حاجی کے لئے مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلا طواف (جسے طواف قدوم کہا جاتا ہے) سنت ہے، اگر عورت خاص ایام میں ہو تو یہ طواف چھوڑ دے، منیٰ جانے سے پہلے اگر پاک ہوگئی تو طواف کر لے ورنہ ضرورت نہیں، اور نہ اس پر اس کا کفارہ ہی لازم ہے۔<sup>(۳)</sup>

دوسرا طواف دس تاریخ کو کیا جاتا ہے، جسے ”طواف زیارت“ کہتے ہیں، یہ حج کا فرض ہے، اگر عورت اس دوران خاص ایام میں ہو تو طواف میں تاخیر کرے، پاک ہونے کے بعد طواف کرے۔<sup>(۴)</sup>

(۱) وأما آدابه ..... يبدأ بالتوبة وإخلاص النية واستحلال من خصومه ومن كل عاملة. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۱۹).  
(۲) مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة انها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير انها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. (مؤطا إمام مالك ص: ۳۵۲ طبع مير محمد كتب خانہ). أيضا: وإذا حاضت عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنع الحاج غير انها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لحديث عائشة رضي الله عنها حين حاضت بسرف، ولأن الطواف في المسجد والوقوف في المفازة وهذا الإغتسال للإحرام لا للصلاة فيكون مفيدا. (الهداية مع فتح القدير، كتاب الحج، قبيل باب الجنایات ج: ۲ ص: ۲۲۲ تا ۲۲۳).  
(۳) (ولو تركه) أي طواف القدوم (كله فلا شيء عليه لأنه ليس بواجب إلا أنه كره... إلخ). (المسلك المتقسط ص: ۲۳۶). أيضا: ويسقط طواف القدوم عمن وقف بعرفة قبل دخول مكة ولا شيء عليه بتركه أو لا يجب عليه شيء بترك السنة. (شرح الوقاية ج: ۱ ص: ۲۶۷).

(۴) وأما طواف الإفاضة أو الزيارة فهو ركن باتفاق الفقهاء، لا يتم الحج إلا به لقوله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر: هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۱۳۶). أيضا: ولو حاضت في وقت تقدر على أقل من ذلك لم يلزمها شيء ..... فقولهم أي مجملا (لا شيء على الحائض وكذا النفساء لتأخير الطواف أي طواف الزيارة كما في الفتاوى السراجية وغيرها مقيد بما إذا حاضت في وقت لم تقدر على أكثر الطواف أي قبل الحيض... إلخ). (المسلك المتقسط في المنسك المتوسط ص: ۲۳۵).

تیسرا طواف مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے کے وقت کیا جاتا ہے، یہ واجب ہے، لیکن اگر اس دوران عورت خاص ایام میں ہو تو اس طواف کو بھی چھوڑ دے، اس سے یہ واجب ساقط ہو جاتا ہے۔<sup>(۱)</sup> باقی منی، عرفات، مزدلفہ میں جو مناسک ادا کئے جاتے ہیں ان کے لئے عورت کا پاک ہونا کوئی شرط نہیں۔<sup>(۲)</sup>

اور اگر عورت نے عمرہ کا احرام باندھا تھا تو پاک ہونے تک عمرہ کا طواف اور سعی نہ کرے، اور اگر اس صورت میں اس کو عمرہ کے افعال ادا کرنے کا موقع نہیں ملا کہ منی روانگی کا وقت آ گیا تو عمرہ کا احرام کھول کر حج کا احرام باندھ لے اور یہ عمرہ جو توڑ دیا تھا اس کی جگہ بعد میں عمرہ کر لے۔<sup>(۳)</sup>

مسجد نبوی میں چالیس نمازیں پڑھنا مردوں کے لئے مستحب ہے، عورتوں کے لئے نہیں، عورتوں کے لئے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی مسجد کے بجائے اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور ان کو مردوں کے برابر ثواب ملے گا۔<sup>(۴)</sup>

## عورت کا باریک دوپٹہ پہن کر حرمین شریفین آنا

سوال: ... بعض ہماری بہنوں کو حرمین شریفین میں دیکھا گیا ہے کہ حرم میں نماز کے لئے اس حالت میں آتی ہیں کہ باریک دوپٹہ پہن کر اور بغیر پردے کے آتی ہیں، اسی حالت میں نماز و طواف وغیرہ کرتی ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ منع ہے تو وہ کہتی ہیں کہ یہاں کوئی منع نہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ وہاں کیا پردہ نہیں ہوتا؟ کیا وہاں اس طرح نماز و طواف ادا ہو جاتا ہے جس میں بال تک نظر آتے ہیں؟

(۱) وأما طواف الوداع لمن أراد الخروج من مكة ..... وواجب عند باقي المذاهب (غير المالكية) يجبر تركه بدم لما قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ..... وأخرج الترمذی عن عمر: من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت، إلا الحيض، ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في سقوطه عن المعذور ما يجوز سقوطه لغيره كالصلاة تسقط عن الحائض، وتجب على غيرها، بل تخصيص الحائض بإسقاطه عنها دليل على وجوبه على غيرها. (الفقه الإسلامي وأدلته، الحج والعمرة ج: ۳ ص: ۱۲۷). أيضا: فمن أهم شرائط الجواب إثنان .....  
 ۲- الطهارة من الحيض والنفاس، فلا تجب على الحائض والنفاس، ولا يجب عليهما الدم بتركه للحديث السابق... الخ. (أيضا ج: ۳ ص: ۱۲۸).

(۲) حج المرأة الحائض: إذا حاضت المرأة أو نفست عند الإحرام اغتسلت للإحرام وأحرمت وصنعت كما يصنع الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر... الخ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۱۶۲). أيضا: وفي المؤطا لمالك ص: ۳۵۲ (طبع مير محمد) وهي (أي المرأة الحائض) تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت.  
 (۳) إذا حاضت المرأة عند الإحرام صنعت كما يصنع الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ترفض العمرة وتهل بالحج. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۱۶۳، ۱۶۴).

(۴) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. (أبو داود، باب التشديد في خروج النساء إلى المساجد ج: ۱ ص: ۸۴).

جواب: ... آپ کے سوال کے جواب میں چند مسائل کا معلوم ہونا ضروری ہے۔

اول: ... عورت کا ایسا کپڑا پہن کر باہر نکلنا حرام ہے جس سے بدن نظر آتا ہو یا سر کے بال نظر آتے ہوں۔<sup>(۱)</sup>

دوم: ... ایسے باریک دوپٹے میں نماز بھی نہیں ہوتی جس سے بال نظر آتے ہوں۔<sup>(۲)</sup>

سوم: ... مکہ و مدینہ جا کر عام عورتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، اور مسجد نبوی میں چالیس نمازیں پوری کرنا ضروری سمجھتی ہیں۔ یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہئے کہ حرمین شریفین میں نماز باجماعت کی فضیلت صرف مردوں کے لئے ہے، عورتوں کو وہاں جا کر بھی اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور گھر میں نماز پڑھنا مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ذرا غور فرمائیے! کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بنفس نفیس نماز پڑھا رہے تھے اس وقت یہ فرما رہے تھے کہ: ”عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل ہے“ جس نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امام، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مقتدی ہوں، جب اس جماعت کے بجائے عورت کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہو تو آج کی جماعت عورت کے لئے کیسے افضل ہو سکتی ہے؟ حاصل یہ کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جا کر عورتوں کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنی چاہئے اور یہ گھر کی نماز ان کے لئے حرم کی نماز سے افضل ہے، حرم شریف میں ان کو طواف کے لئے آنا چاہئے۔<sup>(۳)</sup>

## حج کے مبارک سفر میں عورتوں کے لئے پردہ

سوال: ... اکثر دیکھا گیا کہ سفر حج میں چالیس حاجیوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، جس میں محرم اور نامحرم سب ہوتے ہیں، ایسے مبارک سفر میں بے پردہ عورتوں کو تو چھوڑیے باپردہ عورتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ پردے کا بالکل اہتمام نہیں کرتیں، جب ان سے پردے کا کہا جاتا ہے تو اس پر جواب یہ دیتی: ”اس مبارک سفر میں پردے کی ضرورت نہیں اور مجبوری بھی ہے۔“ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ حرم میں عورتیں نماز و طواف کے لئے باریک کپڑا پہن کر تشریف لاتی ہیں، اور ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ خوب آدمیوں کے ہجوم میں طواف کرتی ہیں اور اسی طرح حجرِ اسود کے بوسے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتی ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ آیا ایسی مجبوری کی حالت میں شریعت کے یہاں پردے میں کوئی رعایت ہے؟ چاہئے تو یہ تھا کہ ایسے مبارک سفر میں حرام سے بچنے تاکہ حج مقبول ہو، اس طرح کے کپڑے پہن کر طواف و نماز وغیرہ کے لئے آنا شریعت میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟

جواب: ... احرام کی حالت میں عورت کو حکم ہے کہ کپڑا اس کے چہرے کو نہ لگے، لیکن اس حالت میں جہاں تک اپنے بس

(۱) (بدین علیہن من جلابیہن) قال أبو بکر فی هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجانبين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج. (أحكام القرآن للجصاص ج: ۳ ص: ۳۷۲).

(۲) والشوب الرقيق الذي يصف ما تحته لا تجوز الصلاة بالإجماع. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۵۸). عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن. (أبو داؤد ج: ۱ ص: ۸۴).

(۳) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۴ ملاحظہ فرمائیں۔

میں ہو، نامحرموں سے پردہ کرنا ضروری ہے، اور جب احرام نہ ہو تو چہرے کا ڈھکنا لازم ہے<sup>(۱)</sup>۔ یہ غلط ہے کہ مکہ مکرمہ میں یا سفر حج میں پردہ ضروری نہیں۔ عورت کا باریک کپڑا پہن کر (جس میں سے سر کے بال جھلکتے ہوں) نماز اور طواف کے لئے آنا حرام ہے اور ایسے کپڑے میں ان کی نماز بھی نہیں ہوتی<sup>(۲)</sup>۔ طواف میں عورتوں کو چاہئے کہ مردوں کے ہجوم میں نہ گھسیں اور حجرِ اُسود کا بوسہ لینے کی بھی کوشش نہ کریں<sup>(۳)</sup>، ورنہ گناہ گار ہوں گی اور ”نیکی برباد، گناہ لازم“ کا مضمون صادق آئے گا۔ عورتوں کو چاہئے کہ حج کے دوران بھی نمازیں اپنے گھر پر پڑھیں، گھر پر نماز پڑھنے سے پورا ثواب ملے گا، ان کا گھر پر نماز پڑھنا حرم شریف میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور طواف کے لئے رات کو جائیں اس وقت ریش نسبتاً کم ہوتا ہے۔

### حج و عمرہ کے دوران ایام حیض کو دوا سے بند کرنا

سوال: کیا شرعاً یہ جائز ہے کہ عمرہ یا حج کے دوران خواتین کوئی ایسی دوا استعمال کریں کہ جس سے ایام نہ آئیں اور وہ اپنا عمرہ یا حج صحیح طور پر ادا کر لیں؟

جواب: ... جائز ہے، لیکن جبکہ ”ایام“ حج و عمرہ سے مانع نہیں تو انہیں بند کرنے کا اہتمام کیوں کیا جائے؟ ایام کی حالت میں صرف طواف جائز نہیں، باقی تمام افعال جائز ہیں۔<sup>(۴)</sup>

### حاجی، مکہ، منیٰ، عرفات اور مزدلفہ میں مقیم ہوگا یا مسافر؟

سوال: ... حاجی، مکہ میں مسافر ہوگا یا مقیم؟ جبکہ وہ پندرہ دن قیام کی نیت کرے، مگر اس قیام کے دوران وہ منیٰ اور عرفات میں بھی پانچ دن کے لئے جائے اور آئے، ایسی صورت میں وہ مقیم ہوگا یا مسافر؟ اور منیٰ اور مکہ شہر واحد کے حکم میں ہیں یا دو الگ الگ شہر؟

جواب: ... مکہ، منیٰ، عرفات اور مزدلفہ الگ الگ مقامات ہیں۔ ان میں مجموعی طور پر پندرہ دن رہنے کی نیت سے آدمی

(۱) والمرأة فی جمیع ذلک کالرجل غیر انها لا تکشف رأسها وتکشف وجهها ولو سدلّت علی وجهها شیئاً وجافته عنه جاز۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۵، کذا فی الہدایۃ، إرشاد الساری الی مناسک ملاً علی القاری ص: ۳۸، السنن الکبریٰ للبیہقی ج: ۵ ص: ۴۸)۔ ایضاً: قال اللہ تعالیٰ: ”وَلْيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ“ (النور: ۳۱)۔

(۲) والثوب الرقيق الذي يصف ما تحته لا تجوز الصلاة فيه كذا في التبيين۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۵۸)۔

(۳) (ولا تستلم الحجر) الأسود (عند المزاحمة) أي إذا كان هناك جمع من الرجال۔ (المسلك المتقسط ص: ۷۹)۔

(۴) حج المرأة الحائض: إذا حاضت المرأة أو نفست عند الإحرام اغتسلت للإحرام وأحرمت وصنعت كما يصنع الحاج غير انها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وإذا حاضت المرأة أو نفست فلا غسل عليها بعد الإحرام، وإنما يلزمها ان تشد الحفاظ الذي تضعه كل أنثى على محل الدم لمنع تسربه للخارج، ثم تفعل سائر مناسك الحج إلا الطواف بالبيت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت۔ (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۱۶۲ طبع دار الفكر، وكذا في البحر الرائق ج: ۱ ص: ۱۹۶)۔

مقیم نہیں ہوتا<sup>(۱)</sup>۔ پس جو شخص ۸ رذوالحجہ کو منیٰ جانے سے پندرہ دن پہلے مکہ مکرمہ آ گیا ہو تو وہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہو گیا۔ اب وہ منیٰ، عرفات اور مزدلفہ میں بھی مقیم ہوگا اور پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر مکہ مکرمہ آئے ہوئے ابھی پندرہ دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ منیٰ کو روانگی ہوگئی تو یہ شخص مکہ مکرمہ میں بھی مسافر ہوگا اور منیٰ، عرفات اور مزدلفہ میں بھی قصر نماز پڑھے گا۔ تیرہویں تاریخ کو منیٰ سے واپسی کے بعد اگر اس کا ارادہ پندرہ دن مکہ مکرمہ میں رہنے کا ہے تو اب یہ شخص مکہ مکرمہ میں مقیم بن جائے گا، لیکن اگر منیٰ سے واپسی کے بعد بھی مکہ مکرمہ میں پندرہ دن رہنے کا موقع نہیں تو یہ شخص بدستور مسافر ہی رہے گا۔<sup>(۲)</sup>

## آٹھویں ذوالحجہ کو کس وقت منیٰ جانا چاہئے؟

سوال: ... آٹھویں ذوالحجہ کو کس وقت منیٰ جانا چاہئے؟ کیا سورج نکلنے سے قبل منیٰ جانا جائز ہے؟

جواب: ... آٹھویں ذوالحجہ کو کسی وقت بھی منیٰ جانا مسنون ہے، البتہ مستحب یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد جائے اور ظہر کی نماز وہاں پڑھے۔ سورج نکلنے سے قبل جانا خلافِ اولیٰ ہے، مگر جائز ہے۔<sup>(۳)</sup>

(۱) فالمسافر یصیر مقیمًا بوجود الإقامة، والإقامة تثبت بأربعة أشياء، أحدها صريح نية الإقامة وهو أن ينوي الإقامة خمسة عشر يومًا في مكان واحد صالح للإقامة فلا بد من أربعة أشياء، نية الإقامة، ونية مدة الإقامة، واتحاد المكان، وصلاحيته للإقامة..... وأما اتحاد المكان فالشرط فيه نية مدة الإقامة في مكان واحد..... وإذا عرف هذا فنقول: اذی المسافر الإقامة خمسة عشر يومًا في موضعين فإن كان مصرًا واحدًا أو قرية واحدة صار مقيمًا لأنهما متحداً حكماً..... وإن كانا مصريين نحو مكة ومنى أو الكوفة والحيرة، أو قريتين أو أحدهما مصر والآخر قرية لا يصير مقيمًا، لأنهما مكانان متباينان حقيقة... إلخ. (البدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل: وأما بيان ما يصير المسافر به مقيمًا ج: ۱ ص: ۹۷، ۹۸). أيضًا: (قوله لا بمكة ومنى) أي لو نوى الإقامة بمكة خمسة عشرة يومًا فإنه لا يتم الصلاة لأن الإقامة لا تكون في مكانين إذ لو جازت في مكانين لجازت في أماكن فيؤدى إلى أن السفر لا يتحقق... إلخ. (البحر الرائق، باب المسافر ج: ۲ ص: ۱۳۳ طبع دار المعرفة). أيضًا: وذكر في كتاب المناسك: ان الحاج إذا دخل مكة في أيام العشر ونوى الإقامة نصف شهر لا يصح لأنه لا بد له من الخروج إلى عرفات فلا يتحقق الشرط. (البحر الرائق، باب المسافر ج: ۲ ص: ۱۳۳، وكذا في البدائع الصنائع، كتاب الصلاة ج: ۱ ص: ۹۸، إرشاد السارى مع المناسك ص: ۱۳۲).

(۲) انه إذا نوى الإقامة بمكة شهرًا ومن نيته أن يخرج إلى عرفات ومنى قبل أن يمكث بمكة خمسة عشر يومًا لا يصير مقيمًا لأنه يكون ناويًا بالإقامة مستقلة فلا تعتبر فإذا رجع من منى وعرفات إلى مكة وهو على نيته السابقة صار مقيمًا لأن الباقي من الشهر أكثر من خمسة عشر وهنا كذلك لأن فرض المسئلة انه دخل في أول العشر ومعلوم ان الحاج يخرج في اليوم الثامن إلى منى ويرجع إلى مكة في اليوم الثاني عشر فلما دخل إلى مكة أول العشر ونوى إقامة شهر ثم تصح نيته أول المدة لأنه لا يحصل له إقامة خمسة عشر يومًا إلا بعد رجوعه من منى فلذا أمره صاحب الإمام بالقصر أول المدة وبالإتمام بعد العودة. (منحة الخالق على هامش البحر الرائق، باب المسافر ج: ۲ ص: ۱۳۳ طبع دار المعرفة، البدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۹۸ طبع ايج ايم سعيد).

(۳) ثم يروح مع الناس إلى منى يوم التروية بعد صلوة الفجر وطلوع الشمس كذا في فتاوى قاضيخان، وهو الصحيح، ولو ذهب قبل طلوع الشمس جاز والأول أولى كذا في البدائع. (عالمگیری، كتاب الحج، الباب الخامس ج: ۱ ص: ۲۲۷). قال المرغينانی: بعد طلوع الشمس وهو الصحيح. (شامی ج: ۲ ص: ۱۸۷). وفي المبسوط: يستحب أن يصلى الظهر يوم التروية بمنى. (شامی ج: ۲ ص: ۱۸۷، طحطاوی ج: ۱ ص: ۵۰۱، بحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۳۵).

دس اور گیارہ ذوالحجہ کی درمیانی رات منیٰ کے باہر گزارنا خلاف سنت ہے

سوال: ... ایک شخص نے منیٰ میں قربانی کرنے اور احرام کھولنے کے بعد ۱۰ اور ۱۱ ذوالحجہ کی درمیانی شب مکمل اور ۱۱ ذوالحجہ کا آدھا دن مکہ مکرمہ میں گزارا اور باقی دن منیٰ میں، اور وہاں ۱۲ ذوالحجہ کی رمی تک رہا، اس شخص کا کیا حکم ہے؟  
جواب: ... منیٰ میں رات گزارنا سنت ہے، اس لئے اس نے خلاف سنت کیا، مگر اس کے ذمہ دم وغیرہ واجب نہیں۔<sup>(۱)</sup>

منیٰ کی حدود سے باہر قیام کیا تو حج ہو یا نہیں؟

سوال: ... جدہ سے بہت سے افراد گروپ حج کا انتظام کرتے ہیں جو مقررہ معاوضے کے عوض لوگوں کے خیمے (رہائش)، خوراک اور ٹرانسپورٹ کا انتظام کرتے ہیں اور حج کراتے ہیں۔ اس بار میں نے اپنی فیملی کے ہمراہ ایسے ہی ایک ادارے سے مقررہ رقم دے کر بنگلہ کرائی، منیٰ پہنچنے پر معلوم ہوا کہ ان کے خیمے حکومت کی بتائی ہوئی منیٰ کی حدود کے عین باہر ہیں، اب ایسے وقت آپ کچھ بھی بحث کریں نہ رقم واپس مل سکتی ہے، اور نہ باوجود کوشش کرنے کے کسی اور جگہ متبادل انتظام ہو سکتا ہے، لہذا ہم سب نے تمام مناسک حج پورے کئے اور منیٰ میں وہیں قیام کیا جو کہ منیٰ سے چند قدم باہر تھا، بہت سے سعودی اور دوسری قومیتوں کے لوگ بھی وہاں قیام پذیر تھے، اور حکومت کی دوسری سہولتیں وہاں بھی اسی طرح مہیا کی گئی ہیں جس طرح کہ منیٰ کے اندر دیگر جگہوں پر ہیں، بلکہ کچھ ملکوں جیسے عراق وغیرہ کے باقاعدہ حکومت سے منظور شدہ معلموں کے خیمے بھی وہاں تھے۔ اب آپ اپنی رائے سے مطلع فرمائیں کہ ان حالات میں منیٰ کی حد سے چند قدم باہر قیام کرنے پر ہمارے حج میں کیا کوئی نقص رہا یا نہیں؟

جواب: ... منیٰ کی حدود سے باہر رہنے کی صورت میں منیٰ میں رات گزارنے کی سنت ادا نہیں ہوگی، حج ادا ہو گیا۔<sup>(۲)</sup>

پاکستانی حجاج منیٰ اور عرفات میں پوری نماز پڑھیں گے یا قصر؟

سوال: ... پاکستانیوں کے لئے دوران حج منیٰ میں اور میدان عرفات میں پوری نماز ادا کرنا ہوگی یا قصر نماز؟  
جواب: ... اگر مکہ میں منیٰ سے پہلے پندرہ روز کا قیام ہو چکا ہو تو مقیم ہو گئے، پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اگر مکہ شریف میں پندرہ دن ٹھہرنا نہیں ہوا تھا کہ منیٰ کو روانگی ہوگئی، تو یہ مسافر ہیں، منیٰ، عرفات، مزدلفہ میں قصر پڑھیں گے، اور مکہ مکرمہ واپس آنے کے بعد اگر وہاں پندرہ دن کا قیام نہیں تو وہاں بھی مسافر رہیں گے، اور اگر منیٰ سے واپسی کے بعد مکہ مکرمہ میں پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا

(۱) كذلك في حديث جابر الطويل وابن عمر مع اتفاق الرواية انه صلى الظهر بمنى فالبیتوتة بها سنة والإقامة بها مندوبة كذا في المحيط، ولو لم يخرج من مكة إلا يوم عرفة أجزاء أيضا ولكن أساء لترك السنة. (بحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۳۵).  
ويكره أن يبیت في غير منى في أيام منى كذا في شرح الطحاوی. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۲۷ و ۲۳۲، فتح القدیر ج: ۲ ص: ۳۶۸، إرشاد الساری ص: ۵۱، بحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۳۸).

(۲) أيضا.

ہے تو اب مکہ میں مقیم ہوں گے۔<sup>(۱)</sup>

## حاجی، منیٰ اور عرفات میں نماز قصر کرے یا پوری پڑھے؟

سوال: ... اس سال میں نے حج کیا، چونکہ پہلے ہم مدینہ شریف کی زیارت کر کے آگئے، بعد میں حج کا ٹائم ہوا، اور پھر ہم مکہ سے منیٰ کے لئے روانہ ہوئے، منیٰ میں قیام کے دوران ہم نے تمام نمازیں قصر ادا کیں، کیا ہماری تمام نمازیں قبول ہو گئیں؟

جواب: ... اگر آپ منیٰ جانے سے پندرہ دن پہلے مکہ مکرمہ آگئے تھے تو آپ مکہ مکرمہ میں مقیم ہو گئے اور منیٰ، عرفات اور مزدلفہ میں مقیم ہی رہے، آپ کو پوری نماز پڑھنی لازم تھی، اس لئے آپ کی یہ نمازیں نہیں ہوئیں، ان کو دوبارہ پڑھیں۔ اور اگر منیٰ جانے سے پندرہ دن پہلے آپ نہیں آئے تھے، بلکہ منیٰ جانے میں اس سے کم مدت کا وقفہ تھا تو آپ مکہ مکرمہ میں بھی مسافر تھے اور منیٰ، عرفات میں بھی مسافر رہے، اس لئے آپ کا قصر پڑھنا صحیح تھا۔<sup>(۲)</sup>

## حج اور عمرہ میں قصر نماز

سوال: ... کوئی مسلمان جب عمرہ اور حج مبارک کی نیت سے سعودی عرب کا سفر کرتا ہے تو کیا اس سفر کے دوران اس کو (الف) فرائض کی رکعتیں پوری پڑھنی ہوں گی؟ (ب) قصر کرنا ضرور ہوگا؟ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس سفر کا مقصد صرف عمرہ کرنا، حج کرنا ہے، (د) کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی میں بھی قصر نماز پڑھنی ضروری ہوگی؟

جواب: ... کراچی سے مکہ مکرمہ تک تو سفر ہے، اس لئے قصر کرے گا، اگر مکہ مکرمہ میں پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا موقع ہو تو مقیم ہوگا اور پوری نماز پڑھے گا، اور اگر مکہ مکرمہ میں پندرہ دن ٹھہرنے کا موقع نہیں، مثلاً چودھویں دن اس کو منیٰ جانا ہے (یا اس سے پہلے مدینہ منورہ جانا ہے) تو مکہ مکرمہ میں بھی مسافر ہی رہے گا اور قصر کرے گا۔<sup>(۳)</sup>

## عرفات، منیٰ، مکہ مکرمہ میں نماز قصر پڑھنا

سوال: ... آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ تحریر کر رہا ہوں، یہ مسئلہ صرف میرا ہی نہیں ہے، بلکہ لاکھوں انسانوں کا ہے، براہ مہربانی تفصیل سے جواب دیجئے تاکہ لاکھوں انسانوں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ہوائی جہاز سے جانے والے عازمین حج کو اس سال

(۱) ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوماً أو أكثر، وإن نوى أقل من ذلك قصر لأبد من اعتبار مدة... الخ. (هداية ج: ۱ ص: ۱۶۶، باب صلاة المسافر).

(۲) قوله أيام العشر أي عشر ذي الحجة وهو تفریع على عدم صحة الإقامة بمكة ومنى وأما إذا دخلها قبل العشر بحيث يتم له خمسة عشر يوماً قبل الخروج صحت نية الإقامة... الخ. (حاشية طحطاوى على الدر المختار ج: ۱ ص: ۳۳۳، باب صلاة المسافر). انه إذا نوى الإقامة بمكة شهراً ومن نيته أن يخرج إلى عرفات ومنى قبل أن يمكث بمكة خمسة عشر يوماً لا يصير مقيماً. (منحة الخالق على البحر الرائق ج: ۲ ص: ۱۳۳، أيضاً بدائع ج: ۱ ص: ۹۸، شامی ج: ۱ ص: ۵۸۱).

(۳) صفحہ: ۱۲۱ کا حوالہ نمبر ۲، ۳ ملاحظہ ہو۔



گورنمنٹ کی طرف سے ایک ماہ دوروز کی واپسی کی تاریخ ملی تھی، تقریباً نصف حاجیوں کو روانہ ہونے سے پہلے اطلاع ملی کہ مدینہ شریف حج کے بعد جانے کی اجازت ہے، حج سے پہلے نہیں جاسکتے۔ میرا جہاز جس روز مکہ شریف پہنچا تو اس جہاز کے تمام حاجیوں کو منیٰ جانے میں صرف دس روز باقی تھے، اور ان تمام حاجیوں کو ۲۲ روز مکہ شریف اور حج کے سفر میں گزارنے ہیں، اور آخر کے دس دن مدینہ شریف اور جدہ میں گزارنے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو مدینہ شریف حج سے پہلے جانے کی اجازت نہیں تھی اور اس کی اطلاع جانے سے پہلے ہی کراچی میں مل گئی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پانچ روز جو حج کے سفر میں گزارے جو مکہ شریف سے تقریباً چار چھ میل کے فاصلے پر ہے، تو حج کے سفر کے دوران نمازیں بحیثیت مقیم پڑھنی ہیں یا قصر؟ اور مکہ شریف میں کوئی نماز کسی مجبوری کی وجہ سے باجماعت سے رہ جائے تو وہ نماز مقیم پڑھنی ہے یا قصر؟ مدینہ شریف اور جدہ میں تو بہر حال قصر ہی پڑھنی ہیں کیونکہ یہاں پندرہ روز سے کم کا قیام ہے۔

جواب: ... مقیم ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ ایک ہی جگہ کم از کم پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت ہو۔ اور مکہ مکرمہ، منیٰ، عرفات یہ ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ الگ الگ تین جگہیں ہیں، اس لئے جن لوگوں کو منیٰ جانے سے پہلے مکہ شریف میں پندرہ دن ٹھہرنے کا وقفہ مل جائے وہ مقیم ہوں گے، اور منیٰ، عرفات میں بھی پوری ہی نماز پڑھیں گے، اسی طرح منیٰ کے اعمال سے فارغ ہو کر پندرہ دن مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا ہو تب بھی مقیم ہوں گے،<sup>(۱)</sup> لیکن جن لوگوں کو منیٰ سے آنے کے بعد بھی مکہ شریف میں پندرہ دن ٹھہرنے کا موقع نہیں ملتا وہ مسافر ہوں گے، چنانچہ آپ مسافر تھے۔<sup>(۲)</sup>

## وقوف عرفہ کی نیت کب کرنی چاہئے؟

سوال: ... یوم عرفہ کو وقوف کی نیت کس وقت کرنی چاہئے؟

جواب: ... وقوف عرفہ کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے،<sup>(۳)</sup> یوم عرفہ کو زوال کے بعد جس وقت بھی میدان عرفات میں داخل ہو جائے وقوف عرفہ کی نیت کرنی چاہئے، اگر نیت نہ بھی کرے اور وقوف ہو جائے تو فرض ادا ہو جائے گا۔<sup>(۴)</sup>

(۱) صفحہ ۱۳۱ کا حوالہ نمبر ۲، ۳ دیکھیں۔

(۲) انہ اذا نوى الإقامة بمكة شهرًا ومن نيته أن يخرج إلى عرفات ومنى قبل أن يمكث بمكة خمسة عشر يومًا لا يصير مقيمًا. (حاشية منحة الخالق على البحر الرائق ج: ۲ ص: ۱۳۳، كتاب الحج، شامی ج: ۱ ص: ۵۸۱)۔

(۳) ثالثًا: زمان الوقوف (أى العرفة) يقف الحاج بالإتفاق من حين زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأن النبى صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم... الخ. (الفقه الإسلامى وأدلته، المطلب الرابع الوقوف بعرفة ج: ۳ ص: ۱۷۵)۔ أيضًا: ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يومها إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج فأول وقت الوقوف بعد الزوال عندنا. (الهداية مع البناية ج: ۵ ص: ۱۶۰، باب الإحرام، طبع حقانيه)۔

(۴) ومن وقف بعرفات ولو مرورًا أو نائمًا أو معصيًا عليه، أو لم يعلم أنها عرفة فى هذا الوقت، أجزاءه ذلك عند الحنفية عن الوقوف. (الفقه الإسلامى وأدلته ج: ۳ ص: ۱۷۶، طبع دار الفكر، أيضًا فتح القدير، كتاب الحج ج: ۲ ص: ۱۹۲)۔

## میدانِ عرفات اور نمازِ قصر

سوال: ...حج میں عرفات کے میدان میں جو پیش امام صاحب مسجدِ نمرہ میں نماز پڑھاتے ہیں تو سنا ہے کہ چونکہ وہ بظاہر مقيم ہوتے ہیں اس لئے ان کا نماز کو قصر کر کے پڑھنا صحیح نہیں ہے، لہذا حاجی حضرات الگ سے اپنی جماعت کر لیا کریں۔ اور اب یہ بھی سنا ہے کہ سعودی حکومت نے یہ انتظام کیا ہے کہ وہ پیش امام صاحب مسافر کی حیثیت رکھتے ہوں۔ برائے مہربانی اس سلسلے میں تفصیل سے ارشاد فرمائیں۔

جواب: ...حنفیہ کے نزدیک اگر امام مقيم ہو تو اس کی اقتدا میں پوری نماز پڑھی جائے گی، اور سعودی حضرات کے نزدیک مسجدِ نمرہ میں قصر کرنا مناسکِ حج میں سے ہے، اس لئے امام مسافر ہو یا مقيم، ہر حال میں قصر کرے گا۔ سنا ہے کہ امام ریاض سے لایا جاتا ہے، اس لئے حنفیہ کو اس کی اقتدا میں قصر کرنا صحیح ہے، لیکن اس کی تحقیق نہیں، اور جب تک یقینی بات نہ ہو اس پر فتویٰ نہیں دیا جاتا، اس لئے احناف کو چاہئے کہ یا تو امام کے بارے میں تحقیق کر لیں کہ وہ مسافر ہے یا نہیں؟ یا اپنی نماز الگ پڑھیں، مسجدِ نمرہ کے امام کی اقتدا نہ کریں۔<sup>(۱)</sup>

## عرفات کے میدان میں ظہر و عصر کی نماز قصر کیوں کی جاتی ہے؟

سوال: ...یوم الحج یعنی ۹ رذوالحجہ کو مقامِ عرفات میں مسجدِ نمرہ میں جو ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں وہ ہمیشہ قصر کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ جبکہ مکہ معظمہ سے عرفات کے میدان کا فاصلہ تین چار میل ہے، اور قصر کے لئے مقامِ قیام سے ۲۸ میل یا ایسے ہی کچھ فاصلے کا ہونا ضروری ہے۔

جواب: ...ہمارے نزدیک عرفات میں قصر صرف مسافر کے لئے ہے، مقيم پوری نماز پڑھے گا۔ سعودی حضرات کے نزدیک قصر مناسک کی وجہ سے ہے، اس لئے امام خواہ مقيم ہو، قصر ہی کرے گا۔<sup>(۲)</sup>

## عرفات میں نمازِ ظہر و عصر جمع کرنے کی شرط

سوال: ...عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نمازیں قصر ملا کر جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص امام کے ساتھ جماعت میں شریک نہیں ہو سکا اور اب اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اسے دونوں نمازیں اپنے وقت پر پڑھنی ہوں گی یا دونوں نمازیں اکیلے ہونے کی صورت میں بھی اکٹھی پڑھے گا؟ نیز اگر اپنے خیمے میں دوسری جماعت کے ساتھ شریک ہو تو امام کو صرف ظہر پڑھانی چاہئے یا ظہر اور عصر اکٹھی؟

(۱) وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصلاة سواء أدرك أولها أو آخرها لأنه التزم متابعة الإمام بالاقْتداء. (الجوهرة النيرة ص: ۸۷، كتاب الصلاة، باب صلاة المقيم).

(۲) وَلَا يجوز للمقيم أن يقصر الصلاة، وَلَا للمسافر أن يقتدى به إن قصر، وقال مالك رحمه الله تعالى: يقصر المقيم يقتدى به المسافر فهو قصر نسك. (غنية الناسك، باب مناسك عرفات ص: ۱۵۰، طبع إدارة القرآن).

جواب: عرفات میں ظہر اور عصر جمع کرنے کے لئے امام اکبر کے ساتھ جو مسجد نمبرہ میں ظہر و عصر پڑھاتا ہے، اس جماعت میں شرکت شرط ہے، پس جو لوگ مسجد نمبرہ کی دونوں نمازوں (ظہر و عصر) یا کسی ایک کی جماعت میں شریک نہ ہوں ان کے لئے ظہر و عصر کو اپنے اپنے وقت پر پڑھنا لازم ہے، خواہ وہ جماعت کرائیں یا اکیلے اکیلے نماز پڑھیں، ان کے لئے ظہر و عصر کو جمع کرنا جائز نہیں۔<sup>(۱)</sup>

کیا عرفات میں نماز ظہر، نماز عصر اکیلے پڑھنے والا دونوں کو الگ الگ پڑھے؟

سوال: عرفات کے میدان میں ۹ رذی الحجہ کو جو خطبہ حج پڑھا جاتا ہے اور ظہر اور عصر کی نماز ایک ہی وقت میں ادا کی جاتی ہے، ہمارے ساتھ چند لوگ تھے جو دین کے متعلق واقفیت رکھتے تھے، انہوں نے ہمیں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، اور عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھنے کو کہا، لہذا معلوم یہ کرنا تھا کہ ہمیں یہ نمازیں عرفات کے میدان میں ایک وقت میں ادا کرنا چاہئے تھی یا انہیں اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا چاہئے تھا؟ برائے مہربانی درست طریقے کی وضاحت فرمادیتے۔

جواب: اگر کوئی حاجی عرفات میں ”امام الحج“ کے ساتھ مسجد نمبرہ میں نماز پڑھے، وہ تو امام کے ساتھ ظہر اور عصر کو جمع کرے گا، اور جو لوگ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھتے ہیں، وہ ظہر کی ظہر کے وقت، اور عصر کی عصر کے وقت پڑھیں گے۔<sup>(۲)</sup>

عرفات سے عصر کے بعد ہی نکلنا کیسا ہے؟

سوال: رش کی وجہ سے عصر بعد ہی لوگ عرفات سے نکل کر باہر سڑک پر آ کر بس میں بیٹھنے کے لئے انتظار کرتے ہیں جبکہ وقت مغرب کے بعد تک کا ہے، اگر مغرب بعد نکلتے ہیں تو معلم کی بسیں ان لوگوں کو لے کر جا چکی ہوتی ہیں جو پہلے باہر سڑک پر آ چکے ہوتے ہیں، مغرب بعد نکلنے سے پھر پرائیویٹ یا کرایوں کی گاڑیوں میں جانا پڑتا ہے، لہذا مزدلفہ میں اپنے ساتھیوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، پھر وہاں سے منیٰ بھی تنہا ہی جانا پڑتا ہے۔

(۱) فصل فی شرائط جواز الجمع: ..... الثانی: الجماعة فیہما فلو صلاهما، أو إحداهما منفردًا لم یجز عند أبی حنیفة، والجماعة شرط لازم فی حق غیر الإمام، فلا تسقط بحال ..... الثالث: الإمام الأعظم أو نائبہ فیہما ..... والحاصل أن مکان الجمع هو المسجد وما فی معناه اتفاقًا ..... ولو فقد شرط منہما یصلی کل صلاة فی الخیمة علیحدہ فی وقتہا بجماعة أو غیرها۔ (غنیة الناسک ص: ۱۵۱، ۱۵۳، فصل فی شرائط جواز الجمع، طبع إدارة القرآن)۔ أيضًا: وشرط لصحة هذا الجمع الإمام الأعظم أو نائبہ وآ صلووا وحدانًا ..... فلا تجوز العصر للمنفرد فی إحداهما فلو صلی وحده لم یصل العصر مع الإمام وفي الشامية: أي بل یصلیہا فی وقتہا ومثله ما لو صلی الظهر فقط مع الإمام لا یصلی العصر إلا فی وقتہا۔ (رد المحتار مع الدر المختار، مطلب فی شروط الجمع بین الصلاتین بعرفة ج: ۲ ص: ۵۰۳، ۵۰۵، طبع سعید)۔

(۲) فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلی الإمام بالناس الظهر والعصر بأذان وإقامتین ..... ومن صلی فی رحلہ وحده صلی کل واحدة منہما فی وقتہا ... الخ۔ (الجوہرة النيرة ص: ۱۶۰، کتاب الحج، طبع دہلی)۔ أيضًا: والحاصل أن مکان الجمع هو المسجد ..... ولو فقد شرط منہما (أی الستة) یصلی کل صلاة فی الخیمة علیحدہ فی وقتہا بجماعة أو غیرها۔ (غنیة الناسک، فصل فی شرائط جواز الجمع ص: ۱۵۳، طبع إدارة القرآن)۔

جواب: ... مغرب سے پہلے عرفات کا چھوڑنا جائز نہیں، اگر غروب سے پہلے عرفات سے نکل گیا اور دوبارہ واپس نہیں آیا تو دم لازم آئے گا۔<sup>(۱)</sup>

### عرفات میں ظہر و عصر اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء یکجا پڑھنا

سوال: ... حج کے موقع پر حجاج کرام کو ایک مقام پر دو نمازوں کو یکجا پڑھنے کا حکم ہے، لہذا مطلع کریں وہ دو وقت کی نمازیں کون سی ہیں؟ اور اگر کوئی شخص ان دو نمازوں کو یکجا نہ پڑھے (جان بوجھ کر) بلکہ اپنے اوقات میں پڑھے تو کیا اس شخص کی نمازیں قبول ہوں گی؟

جواب: ... عرفات کے میدان میں عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نماز، ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے بشرطیکہ مسجدِ منبرہ کے امام کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اگر اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا کی جائیں، اور ہر نماز کی جماعت اس کے وقت میں کرائی جائے۔<sup>(۲)</sup> اور یومِ عرفہ کی شام کو غروبِ آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں اور نمازِ مغرب اور عشاء دونوں مزدلفہ پہنچ کر ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی نے مغرب کی نماز عرفات میں یا راستے میں پڑھ لی تو جائز نہیں، مزدلفہ پہنچ کر دوبارہ مغرب کی نماز پڑھے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھے۔<sup>(۳)</sup>

سوال: ... کیا مزدلفہ میں نمازیں جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں، فرداً فرداً پڑھتے ہیں؟

جواب: ... نہیں! بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔<sup>(۴)</sup>

(۱) قولہ: فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه ..... ولا يدفع أحد قبل الغروب فإن دفع أحد قبل الغروب إن جاوز حد عرفة بعد الغروب فلا شيء عليه وإن جاوزها قبله فعليه دم... الخ۔ (الجوهرة النيرة، كتاب الحج ص: ۱۶۱، طبع دہلی)۔ فإذا وقف نهاراً ودفع قبل الغروب، فإن جاوز حدود عرفة بعد الغروب مع الإمام، أو قبله فلا شيء عليه، وإن جاوز قبل الغروب فعليه دم إماماً كان أو غيره، ولو كان يخاف الزحام لنحو عجز، أو مرض، أو كانت امرأة تخاف الزحام، فإن لم يعد أو عاد بعد الغروب لا يسقط عنه الدم في ظاهر الرواية، وعليه الجمهور۔ (غنية الناسك في بغية المناسك، فصل في ركن الوقوف وقدر الواجب ص: ۱۵۹، ۱۶۰)۔

(۲) أيضاً حوالہ نمبر ۲۔

(۳) إذا صلى المغرب في يوم عرفة في وقتها في الطريق أو بعرفات يجب عليه الإعادة عندهما۔ (إرشاد الساری ص: ۱۴۴، ۱۴۵، طبع دار الفكر، وأيضاً في الفتاوى الهندية ج: ۱ ص: ۲۳۰، الباب الخامس في كيفية أداء الحج)۔

(۴) وإذا أتوا مزدلفه ..... فإذا دخل وقت العشاء يؤذن المؤذن ويقيم فيصلي الإمام بهم صلاة المغرب في وقت صلاة العشاء ثم يصلي بهم صلاة العشاء بأذان وإقامة واحدة في قول أصحابنا الثلاثة كذا في البدائع۔ (فتاوى عالمگیری، الباب الخامس في كيفية أداء الحج ج: ۱ ص: ۲۳۰)۔ أيضاً: (فإذا دخل وقت العشاء) أي تحقق دخوله (أذن المؤذن ويقيم) ..... (فيصلي الإمام المغرب) أي صلاته (بجماعة في وقت العشاء) أي أولاً (ثم يتبعها) أي تعقب صلاة المغرب (العشاء) بجماعة أي ثانياً جمع تأخير۔ (مناسك ملاً على القارى ص: ۱۴۳، طبع دار الفكر، أيضاً شرح الوقاية ج: ۱ ص: ۲۶۵)۔

## مزدلفہ اور عرفات میں نمازیں جمع کرنا اور ادا کرنے کا طریقہ

سوال: عرفات میں ظہر و عصر کو جو اکٹھے یعنی جمع کر کے ایک وقت میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے لئے کیا شرائط ہیں؟ کیونکہ میں نے اس مرتبہ عرفہ کی مسجد میں نماز پڑھی تو ہماری مسجد کے مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہماری شرائط کے مطابق نہیں ہے۔ آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی شخص ان شرائط کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے نماز پڑھ لے تو اس کے لئے کیا تاوان ہے اور کیا حکم ہے؟

جواب: مسجد نمبرہ کے امام کے ساتھ ظہر و عصر کی نمازیں جمع کرنا جائز ہے، مگر اس کے لئے چند شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قصر صرف امام مسافر کر سکتا ہے، اگر امام مقیم ہو تو اس کو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ سنا یہ تھا کہ مسجد نمبرہ کا امام مقیم ہونے کے باوجود قصر کرتا ہے، اس لئے حنفی ان کے ساتھ جمع نہیں کرتے تھے، لیکن اگر یہ تحقیق ہو جائے کہ امام مسافر ہوتا ہے تو حنفیہ کے لئے امام کی ان نمازوں میں شریک ہونا صحیح ہے، ورنہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر اپنے خیموں میں ادا کریں۔<sup>(۱)</sup>

سوال: اسی طرح مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، اس صورت حال میں کوئی خاص احکام ہیں؟ دونوں نمازوں کو جمع کرنا ضروری ہے؟ کیا مغرب کی نماز کو اس کے وقت میں ادا نہیں کر سکتے؟ دوسری بات یہ کہ کیا خواتین کے لئے بھی یہی حکم ہے؟

جواب: مزدلفہ میں مغرب و عشاء کا جمع کرنا حاجیوں کے لئے ضروری ہے، مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھنا ان کے لئے جائز نہیں، اس میں مرد اور عورت دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔<sup>(۲)</sup>

سوال: اسی طرح مزدلفہ میں جو مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کی جاتی ہیں، ان کی جماعت شرط ہے یا انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اگر جماعت کروائیں تو دونوں کے لئے الگ الگ اذان و اقامت ضروری ہے؟ کیا مغرب کی سنتیں عشاء کے فرائض کے بعد ادا کریں؟

جواب: مغرب و عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں، اگر جماعت نہ ملے تو اکیلا پڑھ لے۔ دونوں نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں، دونوں نمازوں کے درمیان سنتیں نہ پڑھی جائیں بلکہ سنتیں بعد میں پڑھیں، اور اگر مغرب پڑھ کر اس کی سنتیں پڑھیں تو عشاء کے لئے دوبارہ اقامت کی جائے۔<sup>(۳)</sup>

(۱) والحاصل ان الإمام ان كان مقيماً فلا يجوز القصر للمسافرين والمقيمين وان كان مسافراً فلا يجوز القصر للمقيمين۔ (ارشاد الساری ص: ۱۲۹ و ۱۳۱، شامی ج: ۲ ص: ۱۸۸، ۱۸۹)۔

(۲) فيصلی الإمام المغرب أى صلواته بجماعة فى وقت العشاء أولاً..... ثم يتبعها العشاء بجماعة. (المسلك المتقسط ص: ۱۳۳)۔

(۳) فبأذا دخل وقت العشاء أذن المؤذن ويقيم فيصلی الإمام المغرب بجماعة فى وقت العشاء. ثم يتبعها العشاء بجماعة، ولا يعيد الأذان ولا الإقامة للعشاء بل يكتفى بأذان واحد وإقامة واحدة ولا يتطوع بينهما، أى بل يصلى سنة المغرب والعشاء والوتر بعدهما كما صرح به مولانا عبدالرحمن الجامى قدس الله سبحانه وتعالى سره السامى فى منسكه،..... (باقى الكلى سنخى پر)

## مزدلفہ میں نمازِ مغرب و عشاء کو جمع کرنا

سوال:۔۔۔ مسئلہ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز میں جو جمع کر کے ایک وقت میں پڑھتے ہیں، اس کے لئے بھی کیا شرائط ہیں؟ اور ان دونوں کو جمع کرنے کے لئے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے؟ اور کیا مرد اور عورتوں تمام پر ضروری ہے؟ کوئی مستثنیٰ بھی ہے؟ اور جو اس کو قصد اترک کرے یا سہواً تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟

جواب:۔۔۔ مزدلفہ میں مغرب و عشاء کا جمع کرنا سب حاجیوں کے لئے ضروری ہے، مغرب کے وقت میں پڑھنا ان کے لئے جائز نہیں۔ اس میں مرد اور عورت دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔<sup>(۱)</sup>

## کیا مزدلفہ میں نمازِ مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھنے کے لئے جماعت ضروری ہے؟

سوال:۔۔۔ مزدلفہ میں جو مغرب و عشاء کو جمع کریں گے آیا اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ آیا ان دونوں نمازوں کو دو اذان و اقامت کے ساتھ پڑھیں گے یا ایک اذان و اقامت کے ساتھ پڑھیں گے؟ ساتھ یہ بھی بتلائیں کہ مغرب و عشاء کے درمیان مغرب کی سنتیں یا نوافل بھی پڑھیں گے یا فقط فرض نماز پڑھ کر فوراً عشاء کی نماز پڑھیں گے؟ واضح رہے کہ ہمارا تعلق فقہ حنفی سے ہے۔

جواب:۔۔۔ مزدلفہ میں مغرب و عشاء دونوں جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں، اگر چند فقہاء ہوں تو دونوں نمازوں کی جماعت کرالیں، اور اگر کسی کو جماعت نہ مل سکے تو خیراً کیلا پڑھ لے۔ فقہ حنفی کے مطابق دونوں نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھی جائیں، دونوں نمازوں کے درمیان سنتیں نہ پڑھی جائیں، بلکہ سنتیں بعد میں پڑھیں، اور اگر مغرب پڑھ کر اس کی سنتیں پڑھیں تو عشاء کے لئے دوبارہ اقامت کہی جائے۔<sup>(۲)</sup>

## رش کی وجہ سے مزدلفہ میں ۱۰ رزی الحجہ کی فجر کے وقت پہنچنے سے مغرب و عشاء قضا ہوگئی تو کیا کرے؟

سوال:۔۔۔ رش کی وجہ سے اکثر لوگ مزدلفہ ۱۰ رزی الحجہ کی فجر کی اذان پر یا فجر بعد پہنچتے ہیں، ایسی صورت میں ۹ رزی الحجہ کی

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)..... وَلَا يَشْتَغَلُ بِشَيْءٍ آخَرَ فَإِنْ تَطَوَّعَ أَوْ تَشَاغَلَ أَعَادَ الْإِقَامَةَ لِلْعِشَاءِ دُونَ الْأَذَانِ ..... وَالْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ فِي هَذَا الْجَمْعِ وَلَيْسَ بِشَرَطٍ فَلَوْ صَلَّاهُمَا وَحْدَهُ جَازٌ... إلخ. (لباب المناسك للسندی ص: ۱۳۳، ۱۳۴، أيضًا فتاوى عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۰).

(۱) فيصلی الإمام المغرب أى صلاته بجماعة فى وقت العشاء أولاً ثم يتبعها ..... العشاء بجماعة... إلخ. (المسلك المتقسط ص: ۱۳۳).

(۲) فيصلی الإمام بالناس المغرب ثم يتبعها العشاء بذلك الأذان والإقامة ولا يتطوع بينهما، فإن تطوع بينهما أو تشاغل بشىء أعاد الإقامة... إلخ. (الجوهرية النبيرة ص: ۱۶۲). نیز گزشتہ صفحہ کا حاشیہ نمبر ۳ ملاحظہ فرمائیں۔

مغرب اور عشاء کی نماز قضا ہو جاتی ہے، مغرب و عشاء کی نماز مزدلفہ میں بغیر قضا ادا کرنی ہوتی ہے۔  
جواب: ... نمازیں قضا نہ کی جائیں بلکہ ایسی صورت میں راستے میں پڑھ لی جائیں۔<sup>(۱)</sup>

## مزدلفہ میں وتر اور سنتیں پڑھنے کا حکم

سوال: ... مزدلفہ پہنچ کر عشاء اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سنت اور وتر واجب پڑھنے ضروری ہیں یا کہ نہیں؟  
جواب: ... وتر کی نماز تو واجب ہے، اور اس کا ادا کرنا مقیم اور مسافر ہر ایک کے ذمہ لازم ہے۔<sup>(۲)</sup> باقی رہیں سنتیں! تو سنن مؤکدہ کا ادا کرنا مقیم کے لئے تو ضروری ہے،<sup>(۳)</sup> مسافر کو اختیار ہے کہ پڑھے یا نہ پڑھے۔<sup>(۴)</sup>

## مزدلفہ کا وقوف کب ہوتا ہے؟ اور وادی محسر میں وقوف کرنا اور نماز ادا کرنا

سوال: ... مسئلہ یہ ہے کہ مزدلفہ میں تو رات کو عرفہ سے پہنچیں گے، اس کے بعد اس کا وقوف کب سے شروع ہوتا ہے جو کہ واجب ہے اور کب تک ہوتا ہے؟ اور اس میں (مزدلفہ میں) فجر کی نماز کس وقت پڑھیں گے، آیا اول وقت میں یا آخر وقت میں؟ ساتھ یہ بتلائیں کہ اگر کوئی شخص اس وادی میں جو کہ مزدلفہ کے ساتھ ہے جس میں اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تھا، نماز ادا کر لے، پھر معلوم ہو کہ یہ وہ جگہ ہے جس میں جلدی سے گزرنے کا حکم ہے تو کیا نماز کو لوٹائے گا یا ادا ہو جائے گی؟

جواب: ... وقوف مزدلفہ کا وقت ۱۰ ذوالحجہ کو صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے تک ہے۔<sup>(۵)</sup> سنت یہ ہے کہ صبح صادق ہوتے ہی اول وقت نماز فجر ادا کی جائے، نماز سے فارغ ہو کر وقوف کیا جائے اور سورج نکلنے سے پہلے تک دعا و استغفار اور تضرع

(۱) ولو خشى أن يطلع الفجر قبل أن يصل إلى مزدلفة صلى المغرب لأنه إذا طلع الفجر فات وقت الجمع. (الجوهرة النيرة ص: ۱۶۲، کتاب الحج)۔

(۲) عن أبي حنيفة رضى الله عنه في الوتر ثلاث روايات ..... وفي رواية واجب وهي آخر أقواله وهو الصحيح، كذا في محيط السرخسى ..... ويجب القضاء بتركه ناسياً أو عامداً وإن طالت المدة... الخ. (فتاوى عالمگیری، کتاب الصلاة، الباب الثامن في الوتر ج: ۱ ص: ۱۱۰، ۱۱۱)۔ أيضاً: ولا يتطوع بينهما أى بل يصلى سنة المغرب والعشاء والوتر بعدهما كما صرح به مولانا عبدالرحمن الجامى قدس الله سبحانه وتعالى سره السامى فى منسكه. (المسلك المتقسط ص: ۱۳۳ طبع دار الفكر)۔

(۳) وقد ذكرنا مراراً أنها بمنزلة الواجب ولهذا كان الأصح أنه ياتم بترك السنة المؤكدة كالواجب. (رد المختار ج: ۲ ص: ۱۶۶، باب العيدین، مطلب فى الفأل والطيرة)۔

(۴) ولا قصر فى السنن ..... وبعضهم جوزوا للمسافر ترك السنن والمختار أنه لا يأتى بها فى حال الخوف ويأتى بها فى حال القرار والأمن. (فتاوى عالمگیری، کتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فى صلاة المسافر ج: ۱ ص: ۱۳۹)۔

(۵) وأول وقته طلوع الفجر الثانى من يوم النحر وآخره طلوع الشمس منه. (شامى ج: ۲ ص: ۵۱۱، وقوف المزدلفة)۔

وہ ہتال میں مشغول ہوں<sup>(۱)</sup>۔ جب سورج نکلنے کے قریب ہو تو منیٰ کی طرف چل پڑیں اور وادیٰ محسّر میں وقوف جائز نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## دورانِ حج مزدلفہ میں قیامِ ضروری ہے

سوال: ... عرفات سے منیٰ آتے ہوئے بسوں کا قافلہ دونوں پہاڑوں کے درمیان رش کی وجہ سے رُک جاتا ہے، اور صبح رش

کم ہونے پر روانہ ہوتا ہے، بس مزدلفہ میں نہیں رُکتی، کیا اس صورت میں دم دینا ہوگا؟

جواب: ... اگر طلوع فجر سے پہلے آپ مزدلفہ پہنچ گئے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لی تو آپ کے ذمے کچھ نہیں،

ورنہ آپ پر دم لازم ہے۔<sup>(۳)</sup>

## مزدلفہ کے وقوف کا ترک ہو جانا

سوال: ... گزشتہ سال حج کے موقع پر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہاں پر روڈ بند ہونے کی وجہ سے بروقت نہیں پہنچ سکا،

یعنی مزدلفہ میں قیام کا موقع (رات) نہ مل سکا، برائے مہربانی یہ بتائیں کہ ۱: ... مزدلفہ میں قیام کئے بغیر حج ہو گیا یا نہیں؟ ۲: ... اگر نہیں تو

اس صورت میں دم دینا واجب ہے؟ ۳: ... دم کس مقام پر دینا چاہئے؟ ۴: ... کیا مرد اور خواتین سب کی طرف سے دینا ہوگا؟ یا صرف

دم مرد پر واجب ہوگا؟ ۵: ... کیا ایسا سال کسی کی معرفت دم دلا سکتے ہیں؟

جواب: ... اگر ایسے (غیر اختیاری) عذر کی وجہ سے مزدلفہ کا وقوف رہ جائے تو دم واجب نہیں، گزشتہ سال بے شمار لوگوں کو

یہ حادثہ پیش آیا۔<sup>(۴)</sup>

## یوم النحر کے کن افعال میں ترتیب واجب ہے؟

سوال: ... ”فضائل حج“ صفحہ: ۲۱۴، ۲۱۵ پر دسویں تاریخ کا ذکر ہے، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”اس دن میں

چار کام کرنے ہیں: رمی، ذبح، سر منڈانا اور طواف زیارت کرنا“ یہی ترتیب ان کی ہے۔ اس میں بہت سے حضرات سے بھول وغیرہ کی

وجہ سے ترتیب میں تقدم و تاخر ہوا، ہر شخص آ کر عرض کرتا کہ مجھ سے بجائے اس کے ایسا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: ”اس میں

(۱) فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر بغلس ثم وقف ووقف الناس معه كذا في القدوري ..... ويحمد الله تعالى

ويشني عليه ويهلل ويكبر ويلبى ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوا الله بحاجته رافعاً يديه إلى السماء. (فتاوى

هندية ج: ۱ ص: ۲۳۰، الباب الخامس في كيفية أداء الحج، شرح وقاية ج: ۱ ص: ۲۶۶، كتاب الحج).

(۲) والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسّر كذا في فتاوى قاضی خان، واذ بلغ بطن محسّر أسرع إن كان ماشياً وحرک

دابته إن كان راكباً ..... فإذا أسفر جذاً دفع منها قبل طلوع الشمس والناس معه حتى يأتوا منى كذا في الزاد. (فتاوى

عالمگیری، كتاب الحج، الباب الخامس في كيفية أداء الحج ج: ۱ ص: ۲۳۰، ۲۳۱، طبع رشیدیہ، وهكذا في اللباب في

شرح الكتاب ج: ۱ ص: ۱۷۲، طبع قديمی کتب خانہ).

(۳) ومن ترك الوقوف بمزدلفة فعليه دم لأنه من الواجبات... إلخ. (الجوهرة النيرة ص: ۱۷۷).

(۴) لكن لو تركه بعذر كرحمة لا شيء عليه. وفي رد المحتار: وكذا كل واجب إذا ترك بعذر لا شيء عليه كما في البحر.

(فتاوى شامی ج: ۲ ص: ۵۱۲).



کوئی گناہ نہیں۔“ اب اس ترتیب میں تقدیم و تاخیر ہو تو دم واجب بتایا جاتا ہے (معلم الحجاج ص: ۲۵۳)۔ اگر مفرد یا قارن نے یا متمتع نے رمی سے پہلے سر منڈایا، یا قارن اور متمتع نے ذبح سے پہلے سر منڈایا، قارن اور متمتع نے رمی سے پہلے ذبح کیا تو دم واجب ہوگا، کیونکہ ان چیزوں میں ترتیب واجب ہے۔ یہ فرق سمجھ میں نہیں آیا، برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمادیں۔

جواب: ... یوم النحر کے چار افعال ہیں، یعنی رمی، ذبح، حلق اور طواف زیارت۔ اول الذکر تین چیزوں میں ترتیب واجب ہے، تقدیم و تاخیر کی صورت میں دم واجب ہوگا۔ مگر طواف زیارت اور تین افعال مذکورہ کے درمیان ترتیب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ پس اگر طواف زیارت ان تین سے پہلے کر لیا جائے تو کوئی دم لازم نہیں<sup>(۱)</sup>۔ حدیث میں ان تین افعال کے آگے پیچھے کرنے والوں کو جو فرمایا گیا ہے کہ: ”کوئی حرج نہیں!“ حنفیہ اس میں یہ تاویل کرتے ہیں کہ اس وقت افعال حج کی تشریح ہو رہی تھی، اس لئے خاص اس موقع پر بھول چوک کر تقدیم و تاخیر کرنے والوں کو گناہ سے بری قرار دیا، مگر چونکہ دوسرے دلائل سے ان افعال میں ترتیب کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس لئے دم واجب ہوگا،<sup>(۲)</sup> واللہ اعلم!

## دم کہاں ادا کیا جائے؟

سوال: ... عرض یہ ہے کہ ہم سب سے دوران حج احرام باندھنے کے سلسلے میں غلطی ہو گئی تھی جس کا ہم کو دم ادا کرنا ہے، لیکن

(۱) قال فی معراج الدراية: اعلم ان ما يفعل فی أيام النحر أربعة أشياء: الرمی والنحر والحلق والطواف، وهذا الترتیب واجب عند أبی حنیفة ومالك وأحمد لأثر ابن مسعود وابن عباس من قدم نسكا علی نسك لزمه دم، وظاهره أنه إذا قدم الطواف علی الحلق يلزمه دم عنده، وقد نص فی المعراج فی مسألة حلق القارن قبل الذبح أنه إذا قدم الطواف علی الحلق لا يلزمه شيء فالحاصل: أنه إن حلق قبل الرمی لزمه دم مطلقاً، وإن ذبح قبل الرمی لزمه دم إن كان قارناً أو متمتعاً... إلخ. (البحر الرائق، باب الجنایات ج: ۳ ص: ۲۶ طبع دار المعرفة، بیروت). أيضاً: (قوله وقد نص فی المعراج إلخ) قد ذکر المؤلف عنه قول المتن ثم إلى مكة ان أول وقت صحة الطواف إذا طلع الفجر يوم النحر ولو قبل الرمی والحلق وأما الواجب فهو فعله فی يوم من الأيام الثلاثة عند أبی حنیفة رحمه الله، وظاهره أنه لا يجب الترتیب بینہ وبين الرمی والذبح والحلق، وفي الدر المختار عند عد الواجبات، والترتیب بین الرمی والحلق والذبح يوم النحر، وأما الترتیب بین الطواف وبين الرمی والحلق فسنة فلو طاف قبل الرمی والحلق لا شيء عليه ويكره. لباب، ۵۱. (منحة الخالق علی هامش البحر الرائق ج: ۳ ص: ۲۶، باب الجنایات، طبع دار المعرفة بیروت).

(۲) وله (أی لأبی حنیفة) ان التأخیر عن المكان یوجب الدم..... والمراد بالحرج المنفی الإثم بدلیل أنه قال: لم أشعر فعذرهم لعدم العلم بالمناسك قبل ذلك. (البحر الرائق، باب الجنایات ج: ۳ ص: ۲۶ طبع دار المعرفة). أيضاً: وأجاب أبو حنیفة عما استدل به الشافعی وهو ما روى البخاری ومسلم، واللفظ للبخاری: عن ابن عباس رضی الله عنهما قال رجل للنبی صلی الله علیه وسلم: زرت قبل أن أرمی، قال: لا حرج! قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج! قال: ذبحت قبل أن أرمی، قال: لا حرج. قال: إن المراد بالحرج المنفی هو... ثم ولا يستلزم من ذلك نفی الفدية... إلخ. (الفقه الحنفی وأدلته، کتاب الحج، حکم التأخیر والتقدیم فی الرمی والذبح والحلق ج: ۱ ص: ۳۵۶ طبع دار الکلم الطیب، بیروت).

ہم یہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ مکہ و مدینہ دوبارہ جانے کی سعادت ابھی تک نصیب نہیں ہوئی، کچھ عرصہ بعد ہم چھٹی پر کراچی جا رہے ہیں، پس عرض یہ ہے کہ یہ دم جو ہم کو ادا کرنا ہے، کیا کراچی میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب: ... حج و عمرہ کے سلسلے میں جو دم واجب ہوتا ہے اس کا حد و حرم میں ذبح کرنا ضروری ہے، دوسری جگہ ذبح کرنا درست نہیں۔<sup>(۱)</sup> آپ کسی حاجی کے ہاتھ اتنی رقم بھیج دیں اور اس کو تاکید کر دیں کہ وہ وہاں بکرا خرید کر حد و حرم میں ذبح کرادے، اس کا گوشت صرف فقراء و مساکین کھا سکتے ہیں، مال دار لوگ نہیں کھا سکتے۔<sup>(۲)</sup>

(۱) وَلَا يَجْزِي دَمَ الْفَدْيَةِ إِلَّا فِي الْحَرَمِ كَدَمِ الْإِحْصَارِ وَدَمِ الْمَتَعَةِ وَالْقِرَانِ - (بدائع الصنائع، كتاب الحج، واما حكم الإحصار ج: ۲ ص: ۱۷۹) - أَيْضًا: وَيَذْبَحُ بَقِيَةَ الْهَدَايَا مَتَى شَاءَ، لِأَنَّهَا جُنَايَاتٌ وَكَفَّارَاتٌ فَلَا تَتَوَقَّتُ بَوَاقِيتَ، وَمَصْرُفَهَا الْفُقَرَاءَ، فَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا ..... وَكُلُّ الذَّبَائِحِ تَذْبَحُ فِي الْحَرَمِ، قَالَ تَعَالَى فِي جِزَاءِ الصَّيْدِ: هَدِيَاً بِالِغِ الْكَعْبَةِ [المائدة: ۹۵] وَفِي دَمِ الْإِحْصَارِ: حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ [البقرة: ۱۹۶] - (الفقه الحنفى وأدلته ج: ۱ ص: ۳۵۰، الهدى) - أَيْضًا: (ويختص) أَى جَوَازِ ذَبْحِهِ (بِالْمَكَانِ وَهُوَ الْحَرَمُ) فَلَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ فِي غَيْرِهِ أَصْلًا - (المسلك المتقسط ص: ۱۷۵) -

(۲) وَأَمَّا بَيَانُ مَا يَتَحَلَّلُ بِهِ الْمُحْصِرُ نَوْعَانِ، نَوْعٌ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِالْهَدْيِ وَنَوْعٌ يَحْتَلِلُ بِغَيْرِ الْهَدْيِ، أَمَّا الَّذِي لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِالْهَدْيِ فَكُلُّ مَنْ مَنَعَ مَنْ مَضَى فِي مَوْجِبِ الْإِحْرَامِ حَقِيقَةً ..... فَهَذَا لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِالْهَدْيِ وَهُوَ أَنْ يَبْعَثَ بِالْهَدْيِ أَوْ بِشَمْنِهِ يَشْتَرِي بِهِ هَدِيَاً فَيَذْبَحُ عَنْهُ وَمَا لَمْ يَذْبَحْ لَا يَحِلُّ وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ... الخ - (بدائع الصنائع، كتاب الحج، واما حكم الإحصار ج: ۲ ص: ۱۷۷، ۱۷۸) -

## رمی

## (شیطان کو کنکریاں مارنا)

## شیطان کو کنکریاں مارنے کی کیا علت ہے؟

سوال: ... حج مبارک کے موقع پر شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں، کیا اس کی علت وہ ہاتھیوں کا لشکر ہے جس پر اللہ جل شانہ نے کنکریاں برسوا کر پامال کیا تھا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جس میں شیطان نے متعدد دفعہ بہکایا تھا؟ ممکن ہے اس موقع کی علتیں بہت سی ہوں، اُمید ہے رائج علت تحریر فرما کر ہمارے مسئلے کا حل فرمادیں گے۔

جواب: ... غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ ہی اس کا سبب ہے، مگر یہ علت نہیں<sup>(۱)</sup>۔ ایسے اُمور کی علت تلاش نہیں کی جاتی، بس جو حکم ہو اس کی تعمیل کی جاتی ہے اور حج کے اکثر افعال و ارکان عاشقانہ انداز کے ہیں، کہ عقلاء ان کی علتیں تلاش کرنے سے قاصر ہیں۔

## اگر جمرات کے لئے مزدلفہ سے کنکریاں نہ لے تو کیا کرے؟

سوال: ... اگر کوئی شخص جمرات کے لئے مزدلفہ سے کنکریاں نہ چنے تو پھر کہاں سے لے؟  
جواب: ... منیٰ میں کسی جگہ سے بھی لے لے، مگر جمرات کے پاس سے نہ اٹھائے۔<sup>(۲)</sup>

## شیطان کو کنکریاں مارنے کا وقت

سوال: ... شیطان کو کنکریاں مارنے کا وقت کس وقت سے شروع ہوتا ہے اور کب تک کنکریاں مارنا جائز ہے؟ برائے مہربانی

(۱) و ذکر فی مبسوط شیخ الإسلام انما سمیت جمرة لأن ابراهيم عليه السلام لما أمر بذبح الولد جاء الشيطان يوسوسه فكان ابراهيم عليه السلام يرمي اليه الجمار طرداً له، وكان يجر بين يديه أي يسرع في المشى والجمار الإسراع في المشى. (البنية في شرح الهداية، باب الإحرام ج: ۵ ص: ۱۲۸ طبع حقانيه ملتان، وكذا في الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۱۹۲، المطلب الثاني، رمي الجمار في منى وحكم المبيت فيها، طبع دار الفكر).

(۲) يستحب أن يأخذ حصي الجمار من المزدلفة أو من الطريق ولا يرمى بحصاة أخذها من عند الجمرة فإن رمى بها جاز وقد أساء. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۳، الباب الخامس في كيفية أداء الحج). مأخذها: وتؤخذ حصي الجمار من مزدلفة أو من الطريق من مجسر وغيره أو من أي مكان غير نجس، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس رضي الله عنهما أن يأخذ الحصى من مزدلفة، وعليه فعل المسلمین. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الحج ج: ۳ ص: ۱۹۸، طبع دار الفكر).

اس کو بھی تفصیل سے تحریر فرمائیں۔

جواب: ... پہلے دن دسویں ذوالحجہ کو صرف جمرہ عقبہ (بڑا شیطان) کی رَمی کی جاتی ہے، اس کا وقت صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے مگر طلوع آفتاب سے پہلے رَمی کرنا خلاف سنت ہے، اس کا وقت مسنون طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، زوال سے غروب تک بلا کراہت جواز کا وقت ہے، اور غروب سے اگلے دن کی صبح صادق تک کراہت کے ساتھ جائز ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہو تو غروب کے بعد بھی بلا کراہت جائز ہے۔<sup>(۲)</sup> گیارہویں اور بارہویں کی رَمی کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب تک بلا کراہت، اور غروب سے صبح صادق تک کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ مگر آج کل ہجوم کی وجہ سے غروب سے پہلے رَمی نہ کر سکے تو غروب کے بعد بلا کراہت جائز ہے۔<sup>(۳)</sup> تیرہویں تاریخ کی رَمی کا مسنون وقت تو زوال کے بعد ہے، لیکن صبح صادق کے بعد زوال سے پہلے اس دن کی رَمی کرنا امام ابوحنیفہ کے نزدیک کراہت کے ساتھ جائز ہے۔<sup>(۴)</sup>

## رات کے وقت رَمی کرنا

سوال: ... رَمی جمرات کے وقت کافی رش ہوتا ہے اور حجاج پاؤں تلے دب کر مر جاتے ہیں، تو کیا کمزور مرد و عورت بجائے دن کے رات کے کسی حصے میں رَمی کر سکتے ہیں؟ جبکہ وہاں کے علماء کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹے رَمی جمار کر سکتے ہیں۔

جواب: ... طاقت ور مردوں کو رات کے وقت رَمی کرنا مکروہ ہے، البتہ عورتیں اور کمزور مرد اگر عذر کی بنا پر رات کو رَمی کریں تو ان کے لئے نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔<sup>(۵)</sup>

(۱) (الثانی عشر) أنه فی الیوم الأول یرمی جمرة العقبة لا غیر وفی بقیة الایام یرمیها، یبدأ بالأولی ثم بالوسطی ثم بجمرة العقبة... الخ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۳ الباب الخامس فی کیفیة أداء الحج)۔ أيضًا: ثالثًا: وقت الرمی: رمی جمرة العقبة (أو الكبرى)..... ووقته عند المالکیة والحنفیة بعد طلوع الشمس یوم العید، لقوله صلی الله علیه وسلم: لا ترموا حتی تطلع الشمس... الخ۔ (الفقه الإسلامی وأدلته، کتاب الحج ج: ۳ ص: ۱۹۳، طبع دار الفکر)۔

(۲) أوقات الرمی: وله أوقات ثلاثة یوم النحر، وثلاثة من أيام التشریق، أولها: یوم النحر، ووقت الرمی ثلاثة أنواع: مکروه ومسنون ومباح، فما بعد طلوع الفجر إلى وقت الطلوع مکروه، وما بعد طلوع الشمس إلى زوالها وقت مسنون، وما بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس وقت مباح، واللیل وقت مکروه، کذا فی محیط السرخسی۔ (عالمگیری، کتاب الحج، الباب الخامس فی کیفیة أداء الحج ج: ۱ ص: ۲۳۳، طبع رشیدیہ کوئٹہ)۔

(۳) وأما وقت الرمی فی الیوم الثانی والثالث فهو ما بعد الزوال إلى طلوع الشمس من الغد حتی لا یجوز الرمی فیہما قبل الزوال إلا ان ما بعد الزوال إلى غروب الشمس وقت مسنون وما بعد الغروب إلى طلوع الفجر وقت مکروه هنکذا روى فی ظاهر الروایة۔ (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الحج، الباب الخامس ج: ۱ ص: ۲۳۳، وبکذا البدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۳۷)۔

(۴) وأما وقته فی الیوم الرابع فعند أبی حنیفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا أن ما قبل الزوال وقت مکروه وما بعده مسنون۔ کذا فی محیط السرخسی۔ (عالمگیری، کتاب الحج، الباب الخامس ج: ۱ ص: ۲۳۳، طبع رشیدیہ کوئٹہ)۔

(۵) واللیل وقت مکروه (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۳، الباب الخامس) والرجل والمرأة فی الرمی سواء إلا ان رمیها فی اللیل أفضل۔ (ارشاد الساری، فصل فی أحكام الرمی وشرائطه ص: ۱۶۷، أيضًا الفقه الإسلامی وأدلته ج: ۳ ص: ۱۹۵)۔

## رَمی جمار میں ترتیب بدل دینے سے دَم واجب نہیں ہوتا

سوال: ... ایک صاحب نے اس سال حج بیت اللہ ادا فرمایا، اور شیطانوں پر کنکریاں مارنے کے سلسلے میں تاریخ دس، گیارہ، بارہ یعنی تین یوم میں بھول یا غلطی سے جمرہ عقبہ سے شروع ہو کر جمرہ اول پر ختم کیں، تو اس غلطی و بھول کی کیا سزا و جزا ہے؟ اس سے حج میں فرق آیا یا نہیں؟

جواب: ... چونکہ جمرات میں ترتیب سنت ہے، واجب نہیں، اور ترک سنت پر دَم نہیں آتا، اس لئے نہ حج میں کوئی خرابی آئے گی اور نہ دَم واجب ہوگا۔ البتہ ترک سنت سے کچھ اساءت آتی ہے، یعنی خلاف سنت کام کیا۔ صورتِ مسئلہ میں اگر یہ شخص جمرہ اولیٰ کی رَمی کے بعد علی الترتیب جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کی رَمی دوبارہ کر لیتا تو اس کا فعل سنت کے مطابق ہو جاتا اور اساءت ختم ہو جاتی۔<sup>(۱)</sup>

## اگر کسی نے تینوں دن کی رَمی چھوڑ دی تو کتنے دَم واجب ہوں گے؟

سوال: ... اگر کسی نے دسویں، گیارہویں اور بارہویں کی رَمی نہیں کی، یعنی کسی دن کی بھی نہیں کی، یا کسی ایک دن کی نہیں کی، یا کسی ایک دن میں تینوں رمیوں میں سے ایک فوت کر دی، تو کیا ان تمام صورتوں میں ایک ہی دَم ہوگا یا الگ دَم آئیں گے؟

جواب: ... تمام صورتوں میں ایک ہی دَم ہوگا، اور گناہ بقدر جرم ہوگا۔<sup>(۲)</sup>

## اگر مزدلفہ کا قیام نہ ہو سکے اور قربانی، رَمی، حلق کی ترتیب تبدیل ہوگئی ہو تو دَم آئیں گے

سوال: ... ۹ رذی الحجہ کو عرفات سے معلم کی بس پر رات دس بجے مزدلفہ کے لئے روانگی ہوئی، راہ میں بس خراب ہوئی، دوسری بس میں سوار ہوئے، اس بس میں ایک شخص عربی زبان سے واقف تھا، اس نے بتایا کہ ڈرائیور کا مطالبہ ہے کہ ہر سواری دو تین ریال دے، میں نے انکار کر دیا۔ ڈرائیور نے بس روک دی، بولا: خراب ہوگئی ہے۔ تیسری بس میں سب سوار ہوئے۔ راستہ بلاک (جام) ہونے کے سبب بس ریٹکتی تھی، اسی اثنا میں صبح کے چارج گئے، وہیں لوگوں نے نماز پڑھی (عشاء قضا ہوئی)، کنکریاں چنیں، پھر بس چلی، آٹھ بجے مزدلفہ کی حدود میں داخل ہوئے، وہاں قوف نہ ہوا، بس چلتی رہی، گیارہ بجے دن ایک پل کے نیچے بس والے نے سب کو اتار دیا، تلاشِ بسیار کے بعد ایک بجے خیمے میں منیٰ پہنچے، قربانی بینک کے ذریعے صبح دس بجے ہوگئی (یہی وقت بینک نے دیا تھا)، رات بھر کے جاگے بھوکے پیاسے تھے، سب سو گئے، مغرب و عشاء کے بعد رمی کی گئی، دوسرے دن صبح کو حلق کرایا، اس طرح مزدلفہ کا

(۱) فلتترکہ الترتیب فإنه مسنون لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رتب فإذا ترک المسنون تستحب الإعادة ولا یعید الأولى لأنه إذا أعاد الوسطی والعقبہ صارت ہی الأولى۔ (بدائع ج: ۱-۲ ص: ۱۳۹، کتاب الحج)۔ فحسن مراعاة للترتیب وان رمی الأولى وحدها أجزاء عندنا، هكذا فی التاتارخانیة۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۴)۔

(۲) ومن ترک رمی الجمار فی الأيام کلها فعليه دم ویکفیه دم واحد..... وان ترک رمی یوم فعليه دم۔ (هدایة ج: ۱ ص: ۲۵۵، کتاب الحج)۔ ایضاً: ولو ترک رمی الكل وهو الجمار الثلاث لزمه دم عند أبی حنیفة، لأن جنس الجنایة واحد. حظرها إحرام واحد، فیکفیه دم واحد... إلخ۔ (الفقه الإسلامی وأدلته، کتاب الحج، سادساً کیفیة الرمی ج: ۳ ص: ۲۰۲)۔

وقوف نہ ہو سکا، اور رَمی، قربانی، حلق کی ترتیب بھی نہ ہوئی، آپ فرمائیے کہ اس غلطی کا ازالہ کیسے ہو؟

جواب: ... اس میں دو دم لازم ہوئے، ایک تو وقوف مزدلفہ کے ترک کی وجہ سے جو کہ واجب ہے۔<sup>(۱)</sup> دوسرا رَمی اور حلق سے پہلے قربانی کرنے کی وجہ سے کہ قارن اور متمتع کے لئے ان تین افعال (رَمی، پھر قربانی، پھر حلق) کے درمیان ترتیب واجب ہے۔<sup>(۲)</sup>

## دسویں ذی الحجہ کو مغرب کے وقت رَمی کرنا

سوال: ... لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ دسویں ذی الحجہ کو رَمی کرنے میں کافی دُشواری ہوتی ہے، خواتین ہمارے ساتھ تھیں، ہم نے صبح کے بجائے مغرب کے وقت رَمی کی، کیا یہ عمل صحیح ہوا؟

جواب: ... مغرب تک رَمی کی تاخیر میں کوئی حرج نہیں،<sup>(۳)</sup> لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک رَمی نہ کر لیں تب تک متمتع اور قرآن کی قربانی نہیں کر سکتے، اور جب تک قربانی نہ کر لیں، بال نہیں کٹا سکتے، اگر آپ نے اس شرط کو ملحوظ رکھا تو ٹھیک کیا۔<sup>(۴)</sup>

## کسی سے کنکریاں مروانا

سوال: ... میں نے اپنے شوہر کے ساتھ حج کیا ہے، چونکہ میرے شوہر بہت بیمار ہو گئے تھے اور میرے ساتھ اپنا کوئی خاص نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں کنکریاں خود نہیں مار سکی، نہ میرے شوہر۔ ہمارے ساتھ جو اور لوگ تھے ان کی بھی کوئی عورت نہیں گئی کنکریاں مارنے، ان کی طرف سے اور میری اور میرے شوہر کی طرف سے ہمارے ساتھ والے مردوں نے ہی کنکریاں مار دیں۔ میں

(۱) ومن ترک الوقوف بمزدلفۃ فعليه دم لأنه من الواجبات۔ (الجوهرة النيرة ص: ۱۷۷، کتاب الحج، باب الجنایات)۔  
 (۲) فلو أن القارن حلق أولاً ثم ذبح فعليه دم ..... لأن عليه أن يذبح ثم يحلق۔ (الجوهرة النيرة، باب القران ص: ۱۶۸، طبع دہلی)۔  
 (۳) وما بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس وقت مباح۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۳، الباب الخامس في كيفية أداء الحج، أيضاً الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۱۹۵، رمی الجمرات الثلاث أيام التشريق)۔  
 (۴) قال: أي القدوري رحمه الله (ثم يذبح) بعد رمي جمرۃ العقبة (إن أحب) أي الذبح یعنی إن شاء، وأما على الحجة باعتبار الدم على المفرد مستحب لا واجب، والكلام في المفرد لا في القارن والمتمتع، فإن الدم واجب عليهما (ثم يحلق أو يقصر) إنما يردد بين الحلق والتقصير لأن أحدهما واجب، سواء كان مفرداً أو قارناً أو متمتعاً ..... (لما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نرمى ثم نذبح ثم نحلق) ..... (ولأن الحلق من أسباب التحلل، وكذا الذبح حتى يتحلل به المحصر) أي الذبح أيضاً من أسباب التحلل كالحلق ..... (فيقدم الرمي عليها) أي على الذبح (ثم الحلق من محظورات الإحرام) أي من ممنوعاته بلغ (فيقدم عليه الذبح) أي على الحلق فأخر لذلك... الخ۔ (البنية في شرح الهدية ج: ۵ ص: ۱۳۵، باب الإحرام)۔ أيضاً: قال في معراج الدراية: أعلم أن ما يفعل في أيام النحر أربعة أشياء: الرمي والنحر والحلق والطواف، وهذا الترتيب واجب عند أبي حنيفة ومالك وأحمد لأثر ابن مسعود وابن عباس من قدم نسكاً على نسك لزمه دم ..... وقد نص في المعراج في مسألة حلق القارن قبل الذبح إنه إذا قدم الطواف على الحلق لا يلزمه شيء... الخ۔ (البحر الرائق، كتاب الحج، باب الجنایات ج: ۳ ص: ۲۶، طبع دار المعرفة، وهكذا في منحة الخالق حاشية البحر الرائق ج: ۳ ص: ۲۶، كتاب الحج، باب الجنایات)۔

نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جو آدمی نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے وہ کنکریاں خود مارے، اور اگر ایسا نہ کرے تو اس کا فدیہ دے۔ اب مجھے بہت فکر ہو گئی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہئے؟ ہم نے اپنی قربانی بھی انہیں لوگوں کی معرفت کرائی تھی۔

جواب: ... آپ کے ذمہ قربانی لازم ہو گئی، مکہ جانے والے کسی آدمی کے ہاتھ رقم بھیج دیجئے اور اس کو تاکید کر دیجئے کہ وہ بکری ذبح کرادے۔<sup>(۱)</sup>

### کیا ہجوم کے وقت خواتین کی کنکریاں دوسرا مار سکتا ہے؟

سوال: ... خواتین کو کنکریاں خود مارنی چاہئیں، دن کو ریش ہو تو رات کو مارنی چاہئیں، کیا خواتین خود مارنے کے بجائے دوسروں سے کنکریاں مروا سکتی ہیں؟

جواب: ... رات کے وقت ریش نہیں ہوتا، عورتوں کو اس وقت رَمی کرنی چاہئے۔ خواتین کی جگہ کسی دوسرے کا رَمی کرنا صحیح نہیں، البتہ اگر کوئی ایسا مریض ہو کہ رَمی کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کی جگہ رَمی کرنا جائز ہے۔<sup>(۲)</sup>

### وزارت مذہبی امور کا کتابچہ

سوال: ... گزارش ہے کہ آج آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ اس سال ”وزارت مذہبی امور و اقلیتی امور اسلام آباد“ سے ایک کتابچہ حجاج کرام کے نام بھیجا گیا ہے جس کا نام ہے ”آپ حج کیسے کریں؟“ یہ ذی الحجہ ۱۴۰۰ھ اور اکتوبر ۱۹۸۰ء کا شائع شدہ ہے، اس کے صفحہ: ۸۹ پر رَمی کے سلسلے میں تحریر ہے کہ: ”بھیڑ زیادہ ہوتی ہے اس لئے عورتیں، بوڑھے اور کمزور مرد وہاں نہ جائیں، وہ اپنی کنکریاں دوسروں کو دے دیں۔“ اور صفحہ: ۹۴ پر بھی عورتوں کو کنکریاں مارنے کے لئے منع کیا ہے۔ چنانچہ اس سال بہت سی عورتوں نے اس مسئلے پر آنکھ بند کر کے عمل کیا اور تین دن میں ایک دن بھی کنکریاں مارنے، نہ دن میں اور نہ رات میں گئی تھیں، اسی صفحہ: ۸۹ پر لکھا ہے کہ: ”عورتیں اگر جانا چاہیں تو مغرب کی نماز کے بعد جائیں۔“ چنانچہ میں نے بھی اسی پر عمل کیا اور میری خوش دامن نے بھی جو میرے ہمراہ تھیں، اور بھی بہت سی عورتوں نے کہا کہ جب مذہبی امور کی وزارت نے اور اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت نے لکھا ہے، تب تو بالکل صحیح ہی ہوگا۔

یہاں آنے پر علماء سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو کنکریاں مارنا واجب ہے، اگر دن میں بھیڑ تھی تو رات کو دیر کر کے جب بھیڑ کم ہو جاتی تب جانا چاہئے تھا، اور اس طرح سے ترک واجب پر ہر عورت پر ایک ایک دم واجب ہوتا ہے جو کہ حد و حرم ہی میں دیا جائے گا۔ لہذا ہم اب کیسے وہاں دم دینے کا بندوبست کریں؟ اور دم نہ دینے کی وجہ سے جن جن عورتوں کو معلوم بھی نہیں ہے اور وزارت مذہبی امور پاکستان کے کتابچے کے مطابق عمل کر کے مطمئن ہیں کہ ہمارا حج مکمل ہو گیا ہے، ان ہزاروں عورتوں کو کس طرح بتلا دیا جائے

(۱) ص: ۳۶۱ کا حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ کیجئے۔

(۲) (والرجل والمرأة فی الرمی سواء) إلا ان رمیها فی اللیل أفضل وفيه ایماة الی انه لا تجوز النيابة عن المرأة بعیر عذر۔ (ارشاد الساری ص: ۱۶۷، فصل فی الرمی، طبع دار الفکر، بیروت)۔

کہ ایک ایک دم حدودِ حرم میں مزید دینے کا بندوبست کرو؟ اور اس کا گناہ کس پر آئے گا؟ اور اس طرح ہزاروں عورتوں کا حج ناقص کرانے کا گناہ کس پر ہوگا؟ جو حکم شرعی ہو مطلع فرمائیں۔ (نوٹ) فوٹو اسٹیٹ کتاچے کا منسلک ہے۔

جواب: ... مسئلہ وہی ہے جو علمائے کرام نے بتایا، خود رمی نہ کرنا بلکہ کسی دوسرے سے رمی کرا لینا، اس کی اجازت صرف ایسے کمزور مریض کے لئے ہے جو خود وہاں تک جانے اور رمی کرنے پر قادر نہ ہو۔<sup>(۱)</sup>

عورتوں کے لئے یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ رات کے وقت رمی کر سکتی ہیں، اس لئے جن عورتوں نے بغیر عذرِ صحیح کے خود رمی نہیں کی، وہ واجبِ حج کی تارک ہیں، اور ان کے ذمہ دم لازم ہے،<sup>(۲)</sup> وہ کسی ذریعہ سے اتنی رقم مکہ مکرمہ بھیجیں جس کا جانور خرید کر ان کی طرف سے حدودِ حرم میں ذبح کیا جائے،<sup>(۳)</sup> ورنہ ان کا حج، ترک واجب کی وجہ سے ہمیشہ ناقص رہے گا، اور وہ گناہگار رہیں گی۔

رہا یہ کہ ہزاروں عورتوں نے اس غلط مشورے پر عمل کر کے جو اپنے حج خراب کئے اس کا گناہ کس کے ذمہ ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں گناہگار ہیں، ایسی غلط کتابیں لکھنے والے بھی، اور ایسے کچے کتے کتابچوں پر عمل کرنے والے بھی۔

جو لوگ حج کا طویل سفر کرتے ہیں، ہزاروں روپے کے مصارف اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، وہ تھوڑی سی یہ زحمت بھی برداشت کر لیا کریں کہ حج پر جانے سے پہلے محقق اور معتبر علمائے دین سے حج کے مسائل معلوم کر لیا کریں، محض غلط سلط کتابچوں پر اعتماد کر کے اپنا سفر کھوٹا نہ کیا کریں۔

ہم وزارتِ مذہبی امور سے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ غلط قسم کے کتابچے شائع کر کے ہزاروں لوگوں کا حج برباد نہ کریں۔

## حجرات کی رمی کرنا

سوال: ... دوسرے کی طرف سے منیٰ میں شیطان کو کنکریاں مارنے کا طریقہ کیا ہے؟

جواب: ... حالتِ عذر میں دوسرے کی طرف سے رمی کرنے کا طریقہ فقہاء نے یوں لکھا ہے کہ پہلے اپنی طرف سے سات کنکریاں مارے اور پھر دوسرے کی طرف سے نیابت کے طور پر سات کنکریاں مارے۔ ایک کنکری اپنی طرف سے مارنا اور دوسری دوسرے شخص کی طرف سے مارنے کو مکروہ لکھا ہے۔<sup>(۴)</sup>

(۱) ومن كان مريضاً لا يستطيع الرمي يوضع في يده ويرمي بها أو يرمي عنه غيره. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۷۵، كتاب الحج، طبع دار المعرفة بيروت).

(۲) ولو ترك الجمار كلها أو رمى واحدة أو جمرة العقبة يوم النحر فعليه شاة. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۷).

(۳) ويتعين الحرم لا منى للكل... الخ. الدر المختار. وفي الشرح: قوله للكل بيان لكون الهدى مؤقتاً بالمكان سواء كان دم شکر أو جنایة. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ۲ ص: ۶۱۶، باب الهدى).

(۴) (ولو رمى بحصاتين احدهما عن نفسه والآخر عن غيره جاز ويكره) أى لترك السنة فإنه ينبغى أن يرمى السبعة عن نفسه أولاً ثم يرميها عن غيره نيابة. (ارشاد الساری ص: ۱۶۶، طبع دار الفکر).



## بیماریا کمزور آدمی کا دوسرے سے رَمی کروانا

سوال: ... ایک شخص بیماری یا کمزوری کی حالت میں حج کرتا ہے، اب وہ جمرات کی رَمی کس طرح کرے؟ کیا وہ کسی دوسرے سے رَمی کروا سکتا ہے؟

جواب: ... جو شخص بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو، اور جمرات تک پیدل یا سوار ہو کر آنے میں سخت تکلیف ہوتی ہو تو وہ معذور ہے، اور اگر اس کو آنے میں مرض بڑھنے یا تکلیف ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، تو اب اس کو خود رَمی کرنا ضروری ہے، اور دوسرے سے رَمی کروانا جائز نہیں۔ ہاں! اگر سواری یا اٹھانے والا نہ ہو تو وہ معذور ہے اور معذور دوسرے سے رَمی کر سکتا ہے، جس کو معذور نہ ہو اس کا دوسرے کے ذریعہ رَمی کروانا جائز نہیں۔ بہت سے لوگ محض ہجوم کی وجہ سے دوسرے کو کنکریاں دے دیتے ہیں، ان کی رَمی نہیں ہوتی۔ البتہ سخت ہجوم میں ضعیف و ناتواں لوگ پس جاتے ہیں، گو وہ چلنے سے معذور نہیں، لہذا ان کے لئے رات کو رَمی کرنا افضل ہے۔<sup>(۱)</sup>

## ۱۰۔ اِذی الحجہ کو رَمی رَش کی وجہ سے نہ کر سکے تو کیا کرے؟

سوال: ... ۱۰۔ اِذی الحجہ کو زوال سے پہلے جمرہ اولیٰ کی رَمی کرنی ہوتی ہے، لیکن بہت بھیڑ ہوتی ہے، کیا کریں؟

جواب: ... ۱۱۔ اِذی الحجہ کی صبح صادق تک رَمی کا وقت ہے، جب موقع ملے، کر لی جائے۔<sup>(۲)</sup>

## دس ذوالحجہ کو رَمی جمار کے لئے کنکریاں دوسرے کو دے کر چلے آنا جائز نہیں

سوال: ... میرے ایک دوست جن کا تعلق انڈیا سے ہے، اس مرتبہ ان کا ارادہ حج کرنے کا بھی ہے اور اپنے وطن جا کر گھر والوں کے ساتھ عید کرنے کا بھی۔ جبکہ عربی کیلنڈر کے مطابق عربی کی دس بروز جمعات ہے اور اس طرح سے حج جمعات کو ہو جاتا ہے، لیکن شیطان کو کنکریاں مارنے کے لئے تین دن تک منیٰ میں رُکنا پڑتا ہے، میرے دوست چاہتے ہیں کہ جمعہ کی صبح والی فلائٹ سے انڈیا روانہ ہو جائیں اور اپنی کنکریاں مارنے کے لئے کسی دوسرے شخص کو دے دیں، تو کیا اس صورت میں اس کے حج کے تمام فرائض ادا ہو جاتے ہیں اور حج مکمل ہو جاتا ہے یا کہ نہیں؟

(۱) ثم المريض ليس على اطلاقه ففي الحاوي عن المنتقى عن محمد إذا كان المريض بحيث يصلّي جالساً رمى عنه، ولا شيء عليه، ولعل وجهه أنه إذا كان يصلّي قائماً فله القدرة على حضور المرمى ركباً أو محمولاً فلا يجوز النيابة عنه... الخ. (المسلك المتقسط في المنسك المتوسط، فصل في أحكام الرمي وشرائطه وواجباته ص: ۱۶۶). فصل في شرائط الرمي وهي عشرة... السادس: أن يرمى بنفسه فلا تجوز النيابة فيه عند القدرة، وتجوز عند العذر، فلو رمى عن مريض بأمره، أو مغمى عليه، ولو بغير أمره، أو صبي، أو معتوه، أو مجنون جاز، والأفضل أن توضع الحصاة في أكفهم فيرمونها، أو يرمونه بأكفهم، ولو رمى بهم يجرزهم ذلك... الخ. (غنية الناسك في بغية المناسك ص: ۱۸۷ طبع إدارة القرآن كراچی).

(۲) ابتداءه من طلوع الفجر يوم النحر وانتهاءه إذا طلع الفجر من اليوم الثاني. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۷۱).

جواب: ...جمرات کی رَمی واجب ہے اور اس کے ترک پر دم لازم آتا ہے۔<sup>(۱)</sup> آپ کے دوست بارہویں تاریخ کو زوال کے بعد رَمی کر کے جانا چاہیں تو جاسکتے ہیں۔<sup>(۲)</sup> اپنی کنکریاں کسی دوسرے کے حوالے کر کے خود چلے آنا جائز نہیں، ان کا حج ناقص رہے گا، ان کا دم لازم آئے گا، اور وہ قصد حج کا واجب چھوڑنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ تعجب ہے! کہ ایک شخص اتنا خرچ کر کے آئے اور پھر حج کو ادھورا اور ناقص چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اگر ایک سال عید گھر والوں کے ساتھ نہ کی جائے تو کیا حرج ہے...؟ واضح رہے کہ جو شخص خود رَمی کرنے پر قادر ہو اس کی طرف سے کسی دوسرے شخص کا رَمی کر دینا کافی نہیں، بلکہ اس کے ذمہ بذاتِ خود رَمی کرنا لازم ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایسا بیمار یا معذور ہو کہ خود جمرات تک آنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کی طرف سے نیابت جائز ہے کہ اس کے حکم سے دوسرا شخص اس کی طرف سے رَمی کر دے۔<sup>(۳)</sup>

### بیمار اہلیہ کی طرف سے رَمی کرنا

سوال: ...گزشتہ سال حج مبارک کی سعادت نصیب ہوئی، میرے ساتھ میری اہلیہ بھی تھی، عرفات جاتے ہوئے بس میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو کر سفر کرنا پڑا، میری اہلیہ موٹاپے کی وجہ سے بلڈ پریشر کی مریضہ ہے، جس کی دورانِ سفر طبیعت خراب ہوگئی، بمشکل عرفات پہنچایا۔ واپسی کے لئے بھی بس میں جگہ نہ مل سکی، پرائیویٹ گاڑی پر مزدلفہ آئے، صبح بھی پیدل منیٰ آنا پڑا، اہلیہ کی طبیعت بدستور خراب تھی، پہلے دن کی رَمی میں نے اہلیہ کی طرف سے کرتے ہوئے کنکریاں ماریں۔ دورانِ رَمی دیکھا کہ چند عورتیں جو رَمی کے لئے آئی تھیں، بھیڑ میں ایسی پھنس گئیں کہ ان کے احرام اتر گئے اور کنکریاں بھی نہ مار سکیں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے باقی دنوں دنوں کی رَمی بھی اہلیہ کی طرف سے میں نے خود کی ہے۔ ہمارے کیمپ میں جتنی عورتیں تھیں، ان کی طرف سے بھی ان کے محرم حضرات نے کنکریاں ماریں، ان کا کہنا تھا کہ عورتوں کا ایسے حالات میں کنکریاں مارنا ممکن نہیں ہے، لہذا یہ معذور ہیں، اس حوالے سے آپ سے چند سوالات درکار ہیں:

۱: ...اہلیہ کی طرف سے تینوں دن جو میں نے رَمی کی ہے، کیا ادا ہوگئی؟

۲: ...اس پر دم وغیرہ تو واجب نہیں ہوا؟

(۱) ولو ترک الكل وهو الجمار الثلاث فيه للزمه عنده دم فيجب في أقلها الصدقة بخلاف اليوم الأول وهو يوم النحر إذا ترك الجمره وهو سبع حصيات انه يلزمه دم عنده... إلخ. (بدائع ج: ۱-۲ ص: ۱۳۹، کتاب الحج، وشرح الوقایة ج: ۱ ص: ۲۶۶، والفقہ الإسلامی وأدلته ج: ۳ ص: ۲۰۲).

(۲) وأما في اليوم الثاني والثالث وقت الرمي ما بعد الزوال ولو رمى قبل الزوال لا يجزيه هكذا ذكر في الأصل وفي التجريد عن أبي حنيفة ولو أراد أن ينفر في اليوم الثالث فله أن يرمى قبل الزوال. (التاتارخانية ج: ۲ ص: ۲۶۱، إرشاد الساری ص: ۱۵۸). أيضًا: وأما وقت الرمي في اليوم الثاني والثالث فهو ما بعد الزوال إلى طلوع الشمس من الغد حتى لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال. (عالمگیری، کتاب الحج ج: ۱ ص: ۲۳۳، بدائع، کتاب الحج ج: ۱ ص: ۱۳۷).

(۳) الخامس: ان يرمى بنفسه فلا تجوز النيابة عن القدرة، وتجاوز عند القدرة فلو رمى عن مريض بأمره..... جاز. (لباب المناسك مع إرشاد الساری، فصل في أحكام الرمي وشرائطه وواجباته ص: ۱۶۶ طبع دار الفكر بيروت).

۳: جن عورتوں کے احرام بھیڑ میں کھل گئے اور کنکریاں بھی نہ مار سکیں، ان کے لئے کیا احکام ہیں؟

۴: جن عورتوں کی طرف سے ان کے محرم حضرات نے یہ کہتے ہوئے رَمی کی کہ عورتوں کا اس حال میں رَمی کرنا ممکن نہیں

ہے، کیا ان عورتوں کی رَمی ہوگئی؟

جواب: رَمی کا وقت پہلے دن طلوع آفتاب سے لے کر اگلے دن کی صبح صادق تک رہتا ہے، اور اس طویل عرصے میں

رات کو بارہ ایک بجے کے قریب رَش بالکل نہیں ہوتا، اور آدمی آسانی کے ساتھ رَمی کر سکتا ہے۔<sup>(۱)</sup> اس لئے آپ کی بیوی نے جو رَمی نہیں

کی، یہ اس کی کوتاہی تھی، اور آپ کی مسئلے سے ناواقفیت۔ اسی طرح جن مردوں نے بغیر عذر کے عورتوں کی طرف سے رَمی کی، ان

عورتوں کی رَمی نہیں ہوئی، ان سب پر دم لازم ہے۔<sup>(۲)</sup>

## ۱۲ رَمی الحجہ کو زوال سے پہلے رَمی کرنا درست نہیں

سوال: ۱۲ رَمی الحجہ کو اکثر دیکھا گیا کہ لوگ زوال سے پہلے رَمی کرنے نکل جاتے ہیں کہ بعد میں رَش ہو جائے گا، اس

لئے قبل از وقت مار کر نکل جاتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ عمل درست ہے؟ اور اگر درست نہیں تو جس نے کر لیا اس پر کیا تاوان آئے

گا؟ اس کا حج درست ہو یا فاسد؟

جواب: صرف دس ذوالحجہ کی رَمی زوال سے پہلے ہے۔<sup>(۳)</sup> ۱۱، ۱۲ کی رَمی زوال کے بعد ہی ہو سکتی ہے، اگر زوال سے

پہلے کر لی تو وہ رَمی ادا نہیں ہوئی،<sup>(۴)</sup> اس صورت میں دم واجب ہوگا۔<sup>(۵)</sup> البتہ تیرہویں تاریخ کی رَمی زوال سے پہلے کر کے جانا جائز

ہے۔<sup>(۶)</sup>

(۱) أما الرمی فی الیوم الأول فلأدائه وقت الجواز من الفجر إلى الفجر، ووقت مسنون من طلوع الشمس إلى الزوال، ووقت مباح من الزوال إلى الغروب، ووقت مکروه قبل طلوع الشمس وبعد الغروب، وإن کان بعذر لا کراهة فیهما... الخ۔ (غنیة الناسک ص: ۱۸۱، طبع إدارة القرآن)۔

(۲) الخامس: أن یرمی بنفسه فلا تجوز النيابة عند القدرة۔ (إرشاد الساری ص: ۱۶۶)۔ أيضًا: لو ترک رمی الكل وهو الجمار الثالث لزمه دم عند أبي حنيفة... الخ۔ (الفقه الإسلامی وأدلته ج: ۳ ص: ۲۰۲ طبع دار الفکر)۔

(۳) أما الرمی فی الیوم الأول فلأدائه وقت الجواز من الفجر إلى الفجر، ووقت مسنون من طلوع الشمس إلى الزوال... الخ۔ (غنیة الناسک ص: ۱۸۱)۔

(۴) وأما وقت الجواز فی الیوم الثاني والثالث من أيام النحر، فمن الزوال إلى طلوع الفجر من الغد، فلا يجوز قبل الزوال فی ظاهر الرواية، وعليه الجمهور من أصحاب المتون والشروح والفتاوی... وقال الشارح: والصحيح أنه لا یصح فی الیومين إلا بعد الزوال مطلقاً۔ (غنیة الناسک ص: ۱۸۱ أيضًا إرشاد الساری ص: ۱۵۸)۔

(۵) رمی الجمار واجب كما عرفنا، فإن تأخر عن وقته أو فات، وجب دم على النحو المقرر فقها فقال الحنفية... ولو ترک رمی الكل وهو الجمار الثالث لزمه دم عند أبي حنيفة لأن جنس الجنابة واحد، حظرها إحرام واحد، فيكفيها دم واحد۔ (الفقه الإسلامی وأدلته، كتاب الحج، حکم تأخير الرمی عن وقته ج: ۳ ص: ۲۰۱، ۲۰۲)۔

(۶) وأما وقته فی الیوم الرابع فعند أبي حنيفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا أن ما قبل الزوال وقت مکروه وما بعده مسنون۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۳، الباب الخامس فی كيفية أداء الحج)۔

## عورتوں اور ضعفاء کا بارہویں اور تیرہویں کی درمیانی شب میں رَمی کرنا

سوال: ... عورتوں اور ضعفاء کے لئے تو رات کو کنکریاں مارنا جائز ہے، لیکن بارہویں ذوالحجہ کو اگر وہ غروبِ آفتاب کے بعد ٹھہریں اور رات کو رَمی کریں تو کیا ان پر تیرہویں کی رَمی بھی لازم ہوتی ہے؟ صحیح مسئلہ کیا ہے؟

جواب: ... بارہویں تاریخ کو بھی عورتیں و دیگر ضعفاء و کمزور حضرات رات کو رَمی کر سکتے ہیں<sup>(۱)</sup>۔ بارہویں تاریخ کو منیٰ سے غروبِ آفتاب کے بعد بھی تیرہویں کی فجر سے پہلے آنا کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ اس لئے اگر تیرہویں تاریخ کی صبح صادق ہونے سے پہلے منیٰ سے نکل جائیں تو تیرہویں تاریخ کی رَمی لازم نہیں ہوگی<sup>(۲)</sup>، اور اس کے چھوڑنے پر دم لازم نہیں آئے گا۔ ہاں! اگر تیرہویں کی فجر بھی منیٰ میں ہوگئی تو پھر تیرہویں کی رَمی بھی واجب ہو جاتی ہے، اس کے چھوڑنے سے دم لازم آئے گا<sup>(۳)</sup>۔

## تیرہویں کو صبح سے پہلے منیٰ سے نکل جائے تو رَمی لازم نہیں

سوال: ... مسئلہ یہ ہے کہ بارہویں تاریخ کو ہم یعنی عورتوں نے رات کو رَمی کا فعل ادا کیا اور پھر غروب کے بعد وہاں سے نکلے۔ پوچھنا میں یہ چاہتی ہوں کہ غروب کے بعد نکلنے سے تیرہ کا ٹھہرنا ضروری تو نہیں ہو گیا؟ کیونکہ بعض لوگوں نے وہاں بتلایا کہ بارہ کو منیٰ سے دیر سے نکلنے پر تیرہ کی رَمی کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی بتلائیں کہ ہمارے ان عملوں سے کوئی حج میں نقص و فساد تو نہیں آیا؟ اگر آیا تو اس کا تاوان کیا ہے؟

جواب: ... بارہویں تاریخ کا سورج غروب ہونے کے بعد منیٰ سے نکلنا مکروہ ہے، مگر اس صورت میں تیرہویں تاریخ کی رَمی لازم نہیں ہوتی، بشرطیکہ صبح صادق سے پہلے منیٰ سے نکل گیا ہو<sup>(۴)</sup> اور اگر منیٰ میں تیرہویں تاریخ کی صبح صادق ہوگئی تو اب تیرہویں تاریخ کی رَمی بھی واجب ہوگئی، اب اگر رَمی کے بغیر منیٰ سے جائے گا تو دم لازم ہوگا<sup>(۵)</sup>۔

(۱) ولو لم يرم يوم النحر أى اليوم الأول أو الثانى أو الثالث رماه فى الليلة المقبلة. (ارشاد السارى ص: ۱۶۱، طبع دار الفكر، بيروت).

(۲) وان لم يقم أى لم يرد الإقامة (فى اليوم الثانى) نفر قبل غروب الشمس أى من يومه فإن لم ينفر حتى غربت الشمس يكره له أى الخروج فى تلك الليلة عندنا. (ارشاد السارى ص: ۱۶۳، طبع دار الفكر، بيروت).

(۳) ولو نفر من الليل قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع لآ شىء عليه ..... ولو نفر بعد طلوع الفجر قبل الرمى يلزمه الدم اتفاقاً. (ارشاد السارى ص: ۱۶۳، طبع دار الفكر، بيروت).

(۴) ايضاً حاشية نمبر ۲۔

(۵) ايضاً حاشية نمبر ۳۔

## حج کے دوران قربانی

کیا حاجی پر عید کی قربانی بھی واجب ہے؟

سوال: ... جو حضرات پاکستان سے حج کے لئے جاتے ہیں، ان کے لئے وہاں حج کے دوران ایک قربانی واجب ہے یا دو واجب ہیں؟ اور اگر ایک قربانی کر دی ہو تو اب کیا کیا جائے؟

جواب: ... جو حاجی صاحبان مسافر ہوں اور انہوں نے حج تمتع یا قرآن کیا ہو ان پر صرف حج کی قربانی واجب ہے، اور اگر انہوں نے حج مفرد کیا ہو تو ان کے ذمہ کوئی قربانی واجب نہیں<sup>(۱)</sup>۔ اور جو حاجی مسافر نہ ہوں بلکہ مقیم ہوں ان پر بشرط استطاعت عید کی قربانی بھی واجب ہے۔<sup>(۲)</sup>

حج کے موقع پر کتنا مال ہو تو قربانی کرنا واجب ہے؟

سوال: ... حج کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے (یعنی عید الاضحیٰ) اس کے لئے شرعی طور پر کتنے مال کا ہونا ضروری ہے کہ جس پر قربانی کا کرنا واجب ہو جاتا ہے؟

جواب: ... اگر حج تمتع یا قرآن کیا ہو، تو حج کی قربانی واجب ہے، اگر قربانی نہ کر سکتا ہو تو تین روزے حج کے دنوں میں

(۱) فاذا فرغ من الرمي يوم النحر انصرف إلى رحله، ويشغل بشيء آخر، فذبح إن شاء، لأنه مفرد والذبح أفضل، وإنما يجب على القارن والمتمتع أما الأضحية فإن كان مسافراً فلا يجب عليه، وآلا فكالمكي فتجب كما في البحر. (غنية الناسك، فصل في الذبح وأحكامه ص: ۱۷۲). أيضاً: (فصل في هدى القارن والمتمتع): (يجب) أي إجماعاً على القارن والمتمتع هدى شكراً لما وفقه الله تبارك وتعالى للجمع بين النسكين في أشهر الحج بسفر واحد... إلخ. (مناسك ملاً على القارئ ص: ۱۷۳). أيضاً: فاذا وصل منزله بمنى..... وإن كان قارناً أو متمتعاً يجب عليه ذبح الهدى، وصفاته كصفات الأضحية. (البحر العميق، الباب الثاني عشر ج: ۳ ص: ۱۷۰۰ طبع مؤسسة الريان، مصر).

(۲) وأما شرائط الوجوب..... ومنها الإقامة، فلا تجب على المسافر، لأنه لا تتأدى بكل مال، وفي كل زمان..... وقال في "الأصل" لا تجب الأضحية على الحاج، وأراد به المسافر، فأما أهل مكة فتجب عليهم الأضحية وإن حجوا. (البحر العميق، الباب الثاني عشر في الأعمال المشروعة يوم النحر، مطلب شرائط الوجوب ج: ۳ ص: ۱۷۰۵، طبع مصر).

رکھے، یعنی ۹ رذوالحجہ تک اور سات روزے حج سے فارغ ہو کر رکھے۔<sup>(۱)</sup>

## کیا دوران حج مسافر کو قربانی معاف ہے؟

سوال: کیا مسافرت میں قربانی معاف ہے؟ دوران حج جبکہ حالت سفر ہوتی ہے اس وقت بھی قربانی معاف ہے؟

جواب: دوران سفر عام طور پر حاجی سفر میں ہوتا ہے، اس لئے اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں، البتہ اگر حاجی نے

حج تمتع یا حج قرآن کا احرام باندھا ہے تو اس پر حج کی قربانی واجب ہوگی، عید الاضحیٰ کی نہیں۔ البتہ اگر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی کر لے تو ثواب ہوگا۔<sup>(۲)</sup>

## حج افراد میں قربانی نہیں، چاہے پہلا ہو یا دوسرا، تیسرا

سوال: ہمارا تیسرا حج ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی صرف پہلے حج پر لازمی ہے۔

جواب: حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی، خواہ پہلا ہو یا دوسرا، تیسرا۔ اور تمتع یا قرآن ہو تو قربانی لازم ہے، خواہ پہلا ہو یا

دوسرا، تیسرا۔<sup>(۳)</sup>

## حج میں قربانی کریں یا دم شکر؟

سوال: اب تک تو میں نے سنا تھا کہ قربانی ایک ہوتی ہے جو کہ عرصے سے ہم ادھر کرتے آئے ہیں، آج ہمارے ایک

مولوی صاحب نے بتایا کہ قربانی کے دنوں میں جو قربانی ہوتی ہے وہ دم ہے حج کا، اور قربانی کرنا حاجی پر ضروری نہیں کیونکہ حاجی مسافر

ہوتا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ آیا یہ بات کہاں تک درست ہے؟

(۱) "فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ" (البقرة: ۱۹۶)۔

أَيْضًا: (يجب) أي إجماعًا (على القارن والمتمتع هدى شكرًا لما وفقه الله تبارك وتعالى للجمع بين النسكين في أشهر الحج بسفر واحد وهذا عندنا. (مناسك ملاء على القارئ، فصل في هدى القارن والمتمتع ص: ۱۷۴)۔

أَيْضًا: فصل في بدل الهدى إذا عجز القارن أو المتمتع عن الهدى أي هدى القارن أو المتمتع، بأن لم يكن في ملكه فضل أي مال زائد عن كفاف..... قدر ما يشتري به الدم أي من النقود أو العروض ولا هو أي الدم أو الهدى بعينه في ملكه، وجب الصيام عليه عشرة أيام أي كاملة بجملة فيصوم ثلاثة أيام قبل الحج..... وسبعة بعده أي إذا رجع كما في الآية... الخ.

(المسلك المتقسط في المنسك المتوسط ص: ۱۷۵ طبع دار الفكر بيروت)۔

(۲) أيضًا، نیز گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱، ۲ ملاحظہ فرمائیں۔

(۳) أيضًا، نیز گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ کیجئے۔

جواب:۔۔۔ جس شخص کا حج تمتع یا قرآن ہو اس پر حج کی وجہ سے قربانی واجب ہے، اس کو دم شکر کہتے ہیں۔<sup>(۱)</sup> اسی طرح اگر حج و عمرہ میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کی وجہ سے بھی بعض صورتوں میں قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس کو ”دم“ کہتے ہیں۔<sup>(۲)</sup>

بقر عید کی عام قربانی دو شرطوں کے ساتھ واجب ہے، ایک یہ کہ آدمی مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ دوم یہ کہ حج کے ضروری اخراجات ادا کرنے کے بعد اس کے پاس قربانی کی گنجائش ہو۔ اگر مقیم نہیں تو قربانی واجب نہیں اور اگر حج کے ضروری اخراجات کے بعد قربانی کی گنجائش نہیں تب بھی اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں۔<sup>(۳)</sup>

## رمی مؤخر ہونے پر قربانی بھی بعد میں ہوگی

سوال:۔۔۔ ہجوم وغیرہ کی وجہ سے اگر عورت رات تک رمی مؤخر کرے تو کیا اس کے حصے کی قربانی پہلے کی جاسکتی ہے؟

جواب:۔۔۔ جس شخص کا تمتع یا قرآن کا احرام ہو اس کے لئے رمی اور قربانی میں ترتیب واجب ہے کہ پہلے رمی کرے، پھر قربانی کرے، پھر احرام کھولے۔ پس جس عورت نے تمتع یا قرآن کیا ہو اگر وہ ہجوم کی وجہ سے رات تک رمی کو مؤخر کرے تو قربانی کو بھی رمی سے فارغ ہونے تک مؤخر کرنا لازم ہوگا۔ جب تک وہ رمی نہ کرے اس کے حصے کی قربانی نہیں ہو سکتی اور جب تک قربانی نہ ہو جائے، اس کا احرام نہیں کھل سکتا۔<sup>(۴)</sup>

## کسی ادارے کو رقم دے کر قربانی کروانا

سوال:۔۔۔ حج کے موقع پر ایک ادارہ رقم لے کر رسید جاری کرتا ہے اور وقت دے دیتا ہے کہ فلاں وقت تمہاری طرف سے قربانی ہو جائے گی، چنانچہ فلاں وقت بال کٹوا کر احرام کھول دینا۔ لیکن بغیر تصدیق کئے بال کٹوا کر احرام کھولنا چاہئے یا نہیں؟

(۱) فہذا فرغ من الرمی یوم النحر انصرف الی رحلہ، ویشتغل بشیء آخر، فذبح إن شاء، لأنه مفرد والذبح أفضل، وانما یجب علی القارن والمتمتع، أو ما الأضحیة فإن کان مسافراً فلا یجب علیہ، وألا فکالمکی فتجب کما فی البحر۔ (غنیۃ الناسک، فصل فی الذبح وأحكامہ ص: ۱۷۲)۔ ایضاً: (فصل فی ہدی القارن والمتمتع): (یجب) ای إجماعاً علی القارن والمتمتع ہدی شکرًا لما وفقہ اللہ تبارک وتعالیٰ للجمع بین النسکین فی أشهر الحج بسفر واحد... إلخ۔ (مناسک ملاً علی القاری ص: ۱۷۳)۔ ایضاً: فہذا وصل منزله بمنی..... وان کان قارناً أو متمتعاً یجب علیہ ذبح الہدی، وصفاتہ کصفات الأضحیة۔ (البحر العمیق، الباب الثانی عشر ج: ۳ ص: ۱۷۰۰ طبع مؤسسة الریان، مصر)۔

(۲) الدم فی جنایة الحج: هو ذبح حیوان من الإبل والبقر والغنم۔ (قواعد الفقہ ص: ۲۹۳، طبع صدف پبلشرز کراچی)۔

(۳) وأما شرائط الوجوب..... ومنها الإقامة، فلا تجب علی المسافر، لأنه لا تتأدی بكل مال، وفی کل زمان..... وقال فی ”الأصل“: لا تجب الأضحیة وإن حجوا..... ومنها: الغنی لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”من وجد سعة فلیضح“ شرط السعة، وهی الغنی... إلخ۔ (البحر العمیق، الباب الثانی عشر ج: ۳ ص: ۱۷۰۶ طبع مؤسسة الریان، المكتبة المکیة، مصر)۔

(۴) قال ابن عباس: من قدم من حجه شيئاً أو أخره فعليه دم وهو قول النخعی والحسن وقتادة وبه قال أبو حنیفة..... الرمی أولاً، ثم الذبح، ثم الحلق، روى أنس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أتى منی فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنی ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار الی جانبہ الأيمن ثم الأيسر۔ (الفقہ الحنفی وأدلته ج: ۱ ص: ۴۵۶، ۴۵۷ طبع دار الکلم الطیب، بیروت، ایضاً البحر الرائق، باب الجنایات ج: ۳ ص: ۲۶، ۲۷ طبع دار المعرفة، بیروت)۔

جواب:۔۔۔ اگر قربانی سے پہلے بال کٹا دیئے جائیں تو دم لازم آتا ہے،<sup>(۱)</sup> چونکہ اس صورت میں یہ یقین نہیں کہ احرام کھولنے سے پہلے قربانی ہوگئی، اس لئے یہ صورت صحیح نہیں۔

## حج کی قربانی کس جگہ کی جاسکتی ہے؟

سوال:۔۔۔ حج کی قربانی منیٰ کے علاوہ مکہ، مزدلفہ، عرفات میں بھی ہو سکتی ہے یا منیٰ میں ہی قربانی کرنا شرط ہے؟ اگر کسی حاجی نے حج کی قربانی رمی کرنے کے فوراً بعد مکہ آ کر قربانی کر لی، تو اس کی قربانی ہوگئی یا دوبارہ قربانی کرنی ہوگی؟

جواب:۔۔۔ حج سے متعلقہ قربانیوں کا حد و حریم میں ذبح کیا جانا شرط ہے، مزدلفہ حد و حریم کے اندر ہے، عرفات نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## حاجی کا قربانی کے لئے کسی جگہ رقم جمع کروانا

سوال:۔۔۔ قربانی کے لئے مدرسہ صولتیہ میں رقم جمع کروائی، اپنے ہاتھ سے یہ قربانی نہیں کی، یہ عمل صحیح ہوا؟

جواب:۔۔۔ حاجی کو مزدلفہ سے منیٰ آ کر چار کام کرنے ہوتے ہیں۔ ۱۔ رمی، ۲۔ قربانی، ۳۔ حلق، ۴۔ طوافِ افاضہ، پہلے تین کاموں میں ترتیب واجب ہے، یعنی سب سے پہلے رمی کرے، پھر قربانی کرے (جبکہ حج تمتع یا قرآن کیا ہو)، اس کے بعد بال کٹائے، اگر ان تین کاموں میں ترتیب قائم نہ رکھی، مثلاً رمی سے پہلے قربانی کر دی، یا حلق کرالیا، یا قربانی سے پہلے حلق کرالیا تو دم واجب ہے۔ اب آپ نے جو صولتیہ میں رقم جمع کروائی تو ضروری تھا کہ وہ قربانی آپ کی رمی کے بعد اور حلق سے پہلے ہو، اگر آپ نے رمی نہیں کی تھی کہ انہوں نے آپ کی طرف سے قربانی کر دی تو دم لازم آیا، یا انہوں نے قربانی نہیں کی تھی اور آپ نے حلق کرالیا تب بھی دم لازم آگیا، اس لئے ان سے تحقیق کر لی جائے کہ انہوں نے قربانی کس وقت کی تھی؟

یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جبکہ آپ نے حج قرآن یا تمتع کیا ہو،<sup>(۳)</sup> لیکن اگر آپ نے صرف حج مفرد کیا تھا تو قربانی آپ کے

(۱) گزشتہ صفحہ کا حاشیہ نمبر ۴ ملاحظہ فرمائیں، نیز صفحہ موجودہ کا حاشیہ نمبر ۳ دیکھئے۔

(۲) وَلَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْهَدَايَا إِلَّا فِي الْحَرَمِ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۶۱، الباب السادس عشر في الهدى)۔

(۳) قَالَ فِي مَعْرَاجِ الدَّرَايَةِ: اعْلَمُ أَنَّ مَا يَفْعَلُ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: الرَّمْيُ وَالنَّحْرُ وَالْحَلْقُ وَالطَّوَافُ، وَهَذَا التَّرْتِيبُ وَاجِبٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ قَدَمِ نَسْكَا عَلَى نَسْكَ لَزَمَهُ دَمٌ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إِذَا قَدَّمَ الطَّوَافَ عَلَى الْحَلْقِ يَلْزَمُهُ دَمٌ عِنْدَهُ، وَقَدْ نَصَّ فِي الْمَعْرَاجِ فِي مَسْئَلَةِ حَلْقِ الْقَارِنِ قَبْلَ الذَّبْحِ أَنَّهُ إِذَا قَدَّمَ الطَّوَافَ عَلَى الْحَلْقِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ إِنْ حَلَّقَ قَبْلَ الرَّمْيِ لَزَمَهُ دَمٌ مَطْلَقًا، وَإِنْ ذَبَحَ قَبْلَ الرَّمْيِ لَزَمَهُ دَمٌ إِنْ كَانَ قَارِنًا أَوْ مَتَمِّعًا... إلخ۔ (البحر الرائق، باب الجنایات ج: ۳ ص: ۲۶ طبع دار المعرفة، بیروت)۔ أَيْضًا: (قوله وقد نص في المعراج إلخ) قد ذكر المؤلف عنه قول المتن ثم إلى مكة ان أول وقت صحة الطواف إذا طلع الفجر يوم النحر ولو قبل الرمي والحلق وأما الواجب فهو فعله في يوم من الأيام الثلاثة عند أبي حنيفة رحمه الله، وظاهره أنه لا يجب الترتيب بينه وبين الرمي والذبح والحلق، وفي الدر المختار عند عد الواجبات، والترتيب بين الرمي والحلق والذبح يوم النحر، وأما الترتيب بين الطواف وبين الرمي والحلق فسنة فلو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء عليه ويكره۔ لباب، ۱۵۔ (منحة الخالق على هامش البحر الرائق ج: ۳ ص: ۲۶، باب الجنایات، طبع دار المعرفة، بیروت)۔



ذمہ واجب نہیں تھی، اور آپ رمی کے بعد حلق کر سکتے تھے۔<sup>(۱)</sup>

## بینک کے ذریعے قربانی کروانا

سوال: ... میں اور میری بیوی کا حج پر جانا ہوا، حج سے پہلے ہم نے قربانی کے پیسے وہاں کے بینک میں جمع کرادیئے تاکہ اس دن مذبح خانہ جانے کی پریشانی نہ ہو، لیکن یہاں آ کر میرے بھائی نے بتلایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس بنا پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اور پھر اس عمل سے حج میں کوئی نقص آیا ہوگا، وہ نقص کیا ہے؟ اور اب اس کا کیا تاوان ہے جس کی وجہ سے وہ غلطی پوری ہو جائے؟

جواب: ... جس شخص کا حج تمتع یا قرآن کا ہو اس کے ذمہ قربانی واجب ہے،<sup>(۲)</sup> اور یہ بھی واجب ہے کہ پہلے قربانی کی جائے اس کے بعد حلق کرایا جائے، اگر قربانی سے پہلے حلق کرالیا تو ذمہ واجب ہوگا۔ آپ نے بینک میں جو رقم جمع کرائی، آپ کو کچھ معلوم نہیں کہ آپ کے نام کی قربانی ہو جانے کے بعد آپ نے حلق کرایا یا پہلے کرالیا؟ اس لئے آپ کے ذمہ احتیاطاً ذمہ لازم ہے۔<sup>(۳)</sup>

سوال: ... اکثر حج کے دنوں میں دیکھا گیا ہے کہ حاجی حضرات وہاں کے بینک میں قربانی کی رقم جمع کراتے ہیں اور پھر دسویں ذوالحجہ کو رمی کے بعد فوراً حلق کر کے احرام اتار لیتے ہیں، حالانکہ بینک والے قربانی بے ترتیب اور بغیر حساب کے مسلسل تین دن تک کرتے ہیں، جس میں کوئی معلوم نہیں کہ پہلے کس کی قربانی ہوگی تاکہ اس اعتبار سے حلال ہو۔ پوچھنا یہ ہے کہ حاجیوں کا یہ عمل کیسا ہے؟ کیا یہ لوگ بغیر قربانی کے احرام اتار سکتے ہیں یا نہیں؟ اور مسنون اور واجب طریقہ کیا ہے؟

جواب: ... جس شخص کا حج تمتع یا قرآن ہو اس پر قربانی واجب ہے، اور اس قربانی کا حلق سے پہلے کرنا واجب ہے، اگر حلق کرالیا اور قربانی نہیں کی تو ذمہ لازم آئے گا۔ جو لوگ بینک میں قربانی کی رقم جمع کراتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ بینک والوں

(۱) لا إن كان مفردًا لأن أفعاله ثلاثة الرمي والحلق والطواف، وأما ذبحه فليس بواجب فلا يضره تقديمه وتأخيره... الخ. (البحر الرائق، باب الجنایات ج: ۳ ص: ۲۶، طبع دار المعرفة، بیروت).

(۲) فإذا فرغ من الرمي يوم النحر انصرف إلى رحله، ويشتغل بشيء آخر، فذبح إن شاء، لأنه مفرد والذبح أفضل، وإنما يجب على القارن والمتمتع، أما الأضحية فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه، وآلا فكالمكي فتجب كما في البحر. (غنية الناسك، فصل في الذبح وأحكامه ص: ۱۷۲). أيضًا: (فصل في هدى القارن والمتمتع): (يجب) أي إجماعًا على القارن والمتمتع هدى شكرًا لما وفقه الله تبارك وتعالى للجمع بين النسكين في أشهر الحج بسفر واحد... الخ. (مناسك ملا على القارئ ص: ۱۷۳). أيضًا: فإذا وصل منزله بمنى... وان كان قارنًا أو متمتعًا يجب عليه ذبح الهدى، وصفاته كصفات الأضحية. (البحر العميق، الباب الثاني عشر ج: ۳ ص: ۱۷۰۰ طبع مؤسسة الريان، مصر).

(۳) قال في البحر وأفاد بالفاء التي للتعقيب في قوله فيتحلل إلى أنه لا يتحلل إلا بالذبح ولهذا قالوا إنه يواعد من يبعثه بأن يذبحها في يوم معين فلو ظن أنه ذبح هديه ففعل ما يفعله الحلال ثم ظهر أنه لم يذبح كان عليه ما على الذي ارتكب محظورات إحرامه لبقاء إحرامه كذا في النهاية. (بحر الرائق ج: ۳ ص: ۵۴، كتاب الحج، طبع دار المعرفة، بيروت). ويدل على أن الذبح مقدم على الحلق في القران والتمتع لأنه عموم في كل من عليه حلق وهدى في وقت واحد فيحتج فيمن حلق قبل أن يذبح أن عليه دما لمواقفته المحذور في تقديم الحلق على الهدى. (أحكام القرآن للجصاص ج: ۱ ص: ۲۷۵ باب وقت ذبح هدى الإحصار، طبع سهيل اكيڈمی لاہور).

سے وقت کا تعین کرالیں اور پھر قربانی کے دن قربان گاہ پر اپنا آدمی بھیج کر اپنے نام کی قربانی کو ذبح کرادیں، اس کے بعد حلق کرالیں۔ جب تک کسی حاجی کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی قربانی ہو چکی ہے یا نہیں؟ اس وقت تک اس کا حلق کرانا جائز نہیں، ورنہ دم لازم آئے گا۔ اس لئے یا تو اس طریقے پر عمل کیا جائے جو میں نے لکھا ہے، یا پھر بینک میں رقم جمع ہی نہ کرائی جائے بلکہ اپنے طور پر قربانی کا انتظام کیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

## ایک قربانی پر دو دعویٰ کریں تو پہلے خریدنے والے کی شمار ہوگی

سوال: ... پچھلے سال حج کے دوران میرے دوست نے قربانی کے لئے وہاں موجود قصائی کو رقم ادا کی، جب جانور ذبح ہو گیا اور میرے دوست نے اس میں سے کچھ گوشت نکالنا چاہا تو وہاں کچھ لوگ آگئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جانور تو ہمارا ہے اور ہم نے قصائی کو اس کی رقم ادا کی ہے۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ قصائی نے دونوں پارٹیوں سے الگ الگ پیسے لئے اور ایک ہی جانور ذبح کر دیا، اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا میرے دوست کی قربانی کا فرض ادا ہو گیا یا اسے دوبارہ کرنی پڑے گی؟

جواب: ... چونکہ اس قصائی نے دوسری پارٹی سے پہلے سودا کیا تھا اس لئے وہ جانور ان کا تھا، پتہ چلنے پر آپ کے دوست کو اپنی رقم واپس لے کر دوسرا جانور خرید کر ذبح کرنا چاہئے تھا۔ بہر حال قربانی ان کے ذمہ باقی ہے، اور چونکہ انہوں نے قربانی سے پہلے احرام اتار دیا اس لئے ایک دم اس کا بھی ان کے ذمہ لازم آیا۔ اب دو قربانیاں کریں۔ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جبکہ ان کا احرام تمتع یا قرآن ہو، اور اگر حج مفرد کا احرام تھا تو ان کے ذمہ کوئی چیز بھی واجب نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## حاجی کس قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے؟

سوال: ... گزارش یہ ہے کہ جو لوگ حج و عمرہ کرتے ہیں، ان کو ایک قربانی کرنی ہوتی ہے جو کہ دم کہلاتا ہے، اور ۱۰ ارذو الحج کو جو عام لوگ قربانی کرتے ہیں وہ سنت ابراہیمی (علیہ السلام) کہلاتا ہے، اب دریافت کرنا ہے کہ دم کا گوشت سوائے مساکین کے اہل ثروت کو کھانا منع ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں قریب قریب سب حاجی صاحبان یہی گوشت کھاتے ہیں، مجھے اس میں کافی تردد ہے، اس کا حل کیا ہوگا؟

جواب: ... حج تمتع یا حج قرآن کرنے والا ایک ہی سفر میں حج و عمرہ ادا کرنے کی بنا پر جو قربانی کرتا ہے اسے ”دم شکر“ کہا جاتا

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) وأما القارن إذا جنى يجب عليه دمان لأجل الجنابة إلا أنه لو حلق المفرد قبل الذبح لا يلزمه دم عند أبي حنيفة لأنه لا ذبح على المفرد۔ (البنية في شرح الهداية ج: ۵ ص: ۱۹۴، كتاب الحج، باب القران)۔ أيضًا: فإن حلق قبل الذبح فعليه دمان، دم للحلق قبل ودم القران عند أبي حنيفة كذا في التبيين۔ (فتاوى عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۴۴)۔

ہے۔<sup>(۱)</sup> اس کا حکم بھی عام قربانی جیسا ہے، اس سے خود قربانی کرنے والا، امیر و غریب سب کھا سکتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں پر حج و عمرہ میں کوئی جنایت (غلطی) کرنے کی وجہ سے دم واجب ہوتا ہے وہ ”دمِ جبر“ کہلاتا ہے، اس کا فقراء و مساکین میں صدقہ کرنا ضروری ہے، مال دار لوگ اور دم دینے والا خود اس کو نہیں کھا سکتے۔<sup>(۲)</sup>

(۱) قال فی معراج الدراية: اعلم ان ما يفعل في أيام النحر أربعة أشياء: الرمي والنحر والحلق والطواف، وهذا الترتيب واجب عند أبي حنيفة ومالك وأحمد لأثر ابن مسعود وابن عباس من قدم نسكا على نسك لزمه دم، وظاهره أنه إذا قدم الطواف على الحلق يلزمه دم عنده، وقد نص في المعراج في مسألة حلق القارن قبل الذبح أنه إذا قدم الطواف على الحلق لا يلزمه شيء فالحاصل: أنه إن حلق قبل الرمي لزمه دم مطلقاً، وإن ذبح قبل الرمي لزمه دم إن كان قارناً أو متمتعاً... إلخ. (البحر الرائق، كتاب الحج، باب الجنایات ج: ۳ ص: ۲۶ طبع دار المعرفة، بيروت). أيضاً: (قوله وقد نص في المعراج إلخ) قد ذكر المؤلف عنه قول المتن ثم إلى مكة ان أول وقت صحة الطواف إذا طلع الفجر يوم النحر ولو قبل الرمي والحلق وأما الواجب فهو فعله في يوم من الأيام الثلاثة عند أبي حنيفة رحمه الله، وظاهره أنه لا يجب الترتيب بينه وبين الرمي والذبح والحلق، وفي الدر المختار عند عد الواجبات، والترتيب بين الرمي والحلق والذبح يوم النحر، وأما الترتيب بين الطواف وبين الرمي والحلق فسنة فلو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء عليه ويكره. لباب، ۵. (منحة الخالق على هامش البحر الرائق ج: ۳ ص: ۲۶، كتاب الحج، باب الجنایات).

(۲) (قوله ويأكل من هدى التطوع والمتعة والقران فقط) أي يجوز له الأكل ..... والمستحب أن يفعل كما في الأضحية وهو أن يتصدق بالثلث ويطعم الأغنياء الثلث ويأكل ويدخر الثلث ..... وأفاد بقوله فقط: أنه لا يجوز الأكل من بقية الهدايا كدماء الكفارات كلها والندور وهدى الإحصار... إلخ. (البحر الرائق، كتاب الحج، باب الهدى ج: ۳ ص: ۷۶، طبع دار المعرفة، أيضاً فتاوى عالمگیری، كتاب الحج، الباب السادس عشر في الهدى ج: ۱ ص: ۲۶۲).

## حلق

## (بال منڈوانا)

## رَمی جمار کے بعد سر منڈوانا

سوال: ... بعض حاجی صاحبان ۱۰ ارذو الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنے سے پہلے ہی بال کٹوا لیتے یا سر منڈوا لیتے ہیں، حالانکہ قربانی کے بعد ہی احرام سے فارغ ہوا جاسکتا ہے، اس صورت میں کیا کوئی جزا واجب ہوتی ہے یا نہیں؟

جواب: ... اگر حج مفرد کا احرام ہو تو قربانی اس کے ذمہ واجب نہیں، اس لئے رَمی کے بعد سر منڈوا سکتا ہے۔<sup>(۱)</sup> اور اگر تمتع یا قرآن کا احرام تھا تو رَمی کے بعد پہلے قربانی کرے پھر احرام کھولے، اگر قربانی سے پہلے احرام کھول دیا تو اس پر دم لازم ہوگا۔<sup>(۲)</sup>

## احرام کھولنے کا طریقہ

سوال: ... حج یا عمرے کا جب احرام باندھتے ہیں، جس طرح احرام باندھنے کی شرائط ہیں، اسی طرح احرام کھولنے کی بھی شرائط ہیں، بال کٹوانا ہے تو بال کٹوانے کا طریقہ اور اصل مسئلہ وضاحت فرمائیں۔

جواب: ... احرام کھولنے کے لئے حلق (یعنی اُسترے سے سر کے بال صاف کر دینا) افضل ہے، اور قصر جائز ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک احرام کھولنے کے لئے یہ شرط ہے کہ کم سے کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کاٹ دیئے جائیں، اگر سر کے بال چھوٹے ہوں اور ایک پورے سے کم ہوں، تو اُسترے سے صاف کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر احرام نہیں کھلتا۔<sup>(۳)</sup>

(۱) فباذا فرغ من الرمی یوم النحر انصرف الی رحله، ویتنفل بشیء آخر، فذبح إن شاء، لأنه منفردٌ والذبح له أفضل، وانما یجب علی القارن والمتمتع، وأما الأضحیة فإن كان مسافرًا فلا یجب علیه وآلا فکالمکی فتجب کما فی البحر۔ (غنیة الناسک ص: ۱۷۲، أيضًا: البناية فی شرح الهدایة، باب التمتع، ج: ۵ ص: ۱۹۵)۔

(۲) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ فرمائیں۔

(۳) أن الحلق والتقصیر واجب لکن الحلق أفضل ..... من جاءه یوم النحر ولم یکن علی رأسه شعر أجرى الموسی علی رأسه۔ (بدائع ج: ۲ ص: ۱۴۰، کتاب الحج، فصل وأما الحلق أو التقصیر، أيضًا فتاوی عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۱)۔ یکتفی فی الحلق بربع الرأس وحلق الكل أولى۔ (هدایة، کتاب الحج، باب الإحرام ج: ۱ ص: ۲۵۰)۔

## بار بار عمرہ کرنے والے کے لئے حلق لازم ہے

سوال: ... حج و عمرہ کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حج یا عمرہ کے بعد اگر سر کے بال اُنکلی کے پورے سے چھوٹے ہیں تو قصر نہیں ہو سکتی، حلق ہی کرنا پڑے گا، اگر بال اُنکلی کے پورے سے بڑے ہیں پھر قصر ہو سکتی ہے۔ عرض ہے کہ جو لوگ طائف، جدہ یا مکہ مکرمہ کے قریب رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے تو وہ ہر مہینے ۲، ۳ عمرے ادا کرنا چاہیں اور ان کے بال چھوٹے ہوں تو کیا وہ ہمیشہ حلق ہی کرتے رہیں گے؟ کیونکہ ایک مرتبہ حلق کروانے سے کم از کم دو ماہ تو بال اتنے نہیں بڑھتے کہ قصر کرائی جاسکے، اگر کوئی خوش نصیب ہر جمعہ کو عمرہ ادا کرنا چاہے اور حلق نہیں کروانا چاہتا تو کیا قصر کر سکتا ہے؟

جواب: ... قصر اس وقت ہو سکتا ہے جب سر کے بال اُنکلی کے پورے کے برابر ہوں، لیکن اگر بال اس سے چھوٹے ہوں تو حلق متعین ہے، قصر صحیح نہیں<sup>(۱)</sup>۔ اس لئے جو حضرات بار بار عمرے کرنے کا شوق رکھتے ہیں، ان کو لازم ہے کہ ہر عمرہ کے بعد حلق کرایا کریں، قصر سے ان کا احرام نہیں کھلے گا۔<sup>(۲)</sup>

## حج و عمرہ میں کتنے بال کٹوائیں؟

سوال: ... حج یا عمرہ مسلمان کے لئے ایک بہت بڑی فضیلت ہے، ان کو ادا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ رکن مقرر کئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو حج یا عمرہ نہیں ہوتا۔ ان دونوں فریضوں میں ایک آخری رکن ہے، سر کے بال کٹانا، اُسترے سے یا مشین سے، یعنی سر کے ہر ایک بال کا چوتھا حصہ کٹانا چاہئے۔ آج کل جو لوگ حج یا عمرہ کے لئے آتے ہیں تو وہ تمام کے تمام بال یا بالوں کا چوتھا حصہ کٹانے کے بجائے قینچی سے ایک دو جگہ سے تھوڑے تھوڑے بال بالکل کاٹ دیتے ہیں، اور یہ رکن اس طرح پورا کرتے ہیں۔ کیا اس طرح بال کٹانے سے رکن پورا ہو جاتا ہے؟ جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بال اُسترے سے موئذنا زیادہ افضل ہے، نہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا۔

جواب: ... احرام کھولنے کے لئے سر کے بال اتارنا ضروری ہے اور اس کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ حلق کرانا ہے، یعنی اُسترے سے سر کے بال صاف کر دینا، یہ سب سے افضل ہے، اور ایسے لوگوں کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار رحمت کی

(۱) وَأَمَّا التَّقْصِيرُ فَالتَّقْدِيرُ فِيهِ بِالْأَنْمَلَةِ. (البدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۴۱). أَيْضًا: وَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الْحَلْقِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَأْسِهِ شَعْرٌ بَانَ حَلْقٌ قَبْلَ ذَلِكَ سَبَبٌ آخَرَ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يَجْرِي الْمَوْسِيُّ عَلَى رَأْسِهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ شَعْرٌ كَانَ الْمَأْخُودَ عَلَيْهِ أَجْرَاءَ الْمَوْسِيِّ وَإِزَالَةَ لِلشَّعْرِ فَأَعْجَزَ عَنْهُ سَقَطَ وَمَا لَمْ يَعْبُزْ عَنْهُ يَلْزَمُهُ. (فتاوى عالمگیری، كتاب الحج، الباب الخامس في كيفية أداء الحج ج: ۱ ص: ۲۳۱).

(۲) فدل ان الحلق والتقصير واجب ..... هذا إذا كان على رأسه شعر فأما إذا لم يكن أجرى موسى على رأسه. (البدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۴۰، كتاب الحج، فصل وأما الحلق أو التقصير).

دُعا فرمائی۔<sup>(۱)</sup> جو لوگ دُور دُور سے سفر کر کے حج و عمرہ کے لئے جاتے ہیں اس کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تین باریک دُعا سے محروم رہتے ہیں، ان کی حالت بہت ہی افسوس کے لائق ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بالوں کے عشق میں دُعا سے خیر سے محروم ہو جانے کو گوارا کر لیا، گویا ان کی حالت اس شعر کے مصداق ہے:

کعبے بھی گئے، پر نہ چھٹا عشق بتوں کا  
اور زمزم بھی پیا، پر نہ بھھی آگ جگر کی

دُوسرا درجہ یہ ہے کہ پورے سر کے بال مشین یا قینچی سے اتار لئے جائیں، اس کی فضیلت حلق (سر مندوانے) کے برابر نہیں، لیکن تین مرتبہ حلق کرانے والوں کے لئے دُعا کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ دُعا میں ان لوگوں کو بھی شامل فرمایا ہے۔<sup>(۲)</sup>

تیسرا درجہ یہ ہے کہ کم سے کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کاٹ دیئے جائیں۔<sup>(۳)</sup> جو شخص چوتھائی سر کے بال نہ کٹوائے اس کا احرام ہی نہیں کھلتا،<sup>(۴)</sup> اور اس کے لئے سلعے ہوئے کپڑے پہننا اور بیوی کے پاس جانا بدستور حرام رہتا ہے، جو لوگ اوپر اوپر سے دو چار بال کٹا کر کپڑے پہن لیتے ہیں وہ گویا احرام کی حالت میں کپڑے پہنتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ذمہ جنایت کا دم لازم آتا رہتا ہے۔

سوال: ... ہم لوگ یہاں سعودی عرب میں بغرض ملازمت مقیم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمیں حج اور عمرہ ادا کرنے کی سعادت اکثر نصیب ہوتی رہتی ہے۔ مگر عمرہ ادا کرنے کے بعد ہم لوگ اکثر یہ غلطی کرتے رہے ہیں کہ مقامی لوگوں، مصری، یمنی اور سوڈانی لوگوں کی دیکھا دیکھی سر کے بال صرف دو تین جگہ سے معمولی کاٹ کر احرام کھول دیتے ہیں۔ جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے احرام سے خارج نہیں ہوتے، کیونکہ فقہ حنفیہ میں اس طرح کرنا جائز نہیں، بلکہ کم از کم سر کے چوتھائی بال کاٹنے چاہئیں۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہر بال کا چوتھائی حصہ کاٹنا ضروری ہے، جو کہ بہت مشکل ہے۔ عمرہ کی کتابوں سے بھی یہ بات واضح طور سے نہیں ملتی ہے۔ آپ سے مؤذبانہ عرض ہے کہ برائے مہربانی بال کٹوانے کا مسئلہ اور اب تک جو عمرے غلطی کے ساتھ کئے ہیں ان کا

(۱) فالحلق أو التقصير واجب عندنا إذا كان على رأسه شعر لا يتحلل بدونه ..... فدل أن الحلق أو التقصير واجب لكن الحلق أفضل لأنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلّقين ثلاثاً وللمقصرين مرة واحدة فقال: اللهم اغفر لحلقين، فقيل له: والمقصرين، فقال: اللهم اغفر للمحلّقين، فقيل له: والمقصرين، فقال: اللهم للمحلّقين والمقصرين... الخ. (البدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۴۰، كتاب الحج، فصل وأما الحلق أو التقصير).

(۲) أيضاً حوالہ بالا۔

(۳) وأما التقصير فالتقدير فيه بالأنملة لما روينا من حديث عمر رضي الله عنه لكن أصحابنا قالوا: يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة، لأن الواجب هذا القدر من أطراف جميع الشعر، وأطراف جميع الشعر لا يساوي طولها عادة بل تفاوت... الخ. (البدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۴۱، كتاب الحج، فصل وأما الحلق أو التقصير).

(۴) ولو حلق بعض الرأس فإن حلق أقل من الربع لم يجزه وإن حلق ربع الرأس أجزأه ويكره. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۴۱). أيضاً: لأن الحلق أو التقصير واجب لما ذكرنا فلا يقع التحلل إلا بأحدهما ولم يوجد فكان إحرامه باقياً فإذا غسل رأسه بالخمطى فقد أزال التفت في حال قيام الإحرام فيلزمه الدم والله أعلم. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۴۰).

کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟ تفصیلاً اور واضح طور سے روزنامہ ”جنگ“ جمعہ ایڈیشن کے اسلامی صفحہ میں چھاپ کر ان لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح فرمائیں جو یہ غلطی کر رہے ہیں۔ مشاہدے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ عمرہ ادا کرنے آنے والے پاکستانی اور انڈین حضرات میں سے نوے فیصد مقامی لوگوں کی تقلید کرتے ہوئے اسی غلطی کا اعادہ کرتے رہتے ہیں۔

جواب: ... احرام خواہ حج کا ہو یا عمرہ کا، امام ابوحنیفہ کے نزدیک کم سے کم چوتھائی سر کے بال کا ثنا احرام کھولنے کے لئے شرط ہے۔ اگر چوتھائی سر کے بال نہیں کاٹے تو احرام نہیں کھلا، اس صورت میں احرام کے منافی عمل کرنے سے دم لازم آئے گا۔<sup>(۱)</sup>

### سعی کے بعد بال نہ کٹوانے والی عورت کے لئے کیا حکم ہے؟

سوال: ... رمضان سے کچھ عرصہ قبل میں اور میرے شوہر عمرے پر گئے تھے، اس کے بعد میرے شوہر نے کہا کہ تم چلی جانا میں بال کٹوا کر پہنچ جاؤں گا۔ مجھے بالکل خیال نہ رہا کہ مجھے بھی بال کاٹنے ہیں، وہاں سے مدینہ شریف چلے گئے، اور ایک ہفتہ وہاں رہے، واپس آ کر دوبارہ عمرہ ادا کیا، پھر کراچی آ گئے، ایک ماہ بعد یہ احساس ہوا کہ عمرے کا ایک رکن تو چھوٹ گیا، کسی مولوی صاحب سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ دم دینا ہوگا۔ اسی سلسلے میں، میں نے آپ سے رجوع کیا ہے کہ آیا بکرا ہی دینا ضروری ہوگا یا بکرے کی رقم کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں؟

جواب: ... جب تک بال نہ کاٹے جائیں، آدمی احرام میں رہتا ہے، اس کے لئے وہ تمام چیزیں ممنوع رہتی ہیں جو احرام میں ممنوع ہیں، اور میاں بیوی کا آپس میں ملنا بھی جائز نہیں۔ اگر اس دوران آپ لوگوں نے وظیفہ زوجیت ادا کیا، یا دوسری چیزیں کیں جو احرام میں ممنوع ہیں، تو آپ کے ذمے دم لازم آیا۔<sup>(۲)</sup>

۲: ... اور جب تک ایک احرام نہ کھول دیا جائے، دوسرا احرام باندھنا جائز نہیں۔ مدینہ شریف سے واپس آتے ہوئے آپ نے احرام باندھا ہوگا، اور اگر اور عمرے کئے ہوں تو ان کا بھی احرام باندھا ہوگا، الغرض اتنے دم آپ کے ذمے لازم آئے۔<sup>(۳)</sup>

۳: ... دم بکرا ذبح کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ صرف حد و حرم میں ادا ہو سکتا ہے۔<sup>(۴)</sup> اپنے بال کاٹ کر کے احرام کھول دیجئے، اور جتنے دم آپ کے ذمے لازم آئے ہیں، اتنے پیسے کسی حاجی کے ہاتھ بھیج دیجئے کہ وہاں اتنے بکرے ذبح کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے۔

(۱) گزشتہ صفحہ کا حاشیہ نمبر ۴ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) (والحلق) أى نفسه (أو التقصير) أى بدله مقدار الربع من الرأس عند الإحلال فإن قلت الحلق عد من الواجبات وهو شرط للخروج من الإحرام۔ (إرشاد الساری ص: ۴۸، مطلب فى تحقيق قول الشارح الحلق عد... الخ)۔

(۳) ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى فعليه دم لإحرامه قبل الوقت لأنه جمع بين إحرامى العمرة وهذا مكروه فيلزمه الدم وهو دم جبر وكفارة۔ (الهداية مع الدراية ج: ۱ ص: ۲۹۱، كتاب الحج، باب إضافة الإحرام)۔

(۴) وإن ذبح فى غير الحرم لا يجوز عن الذبح۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۴۳، كتاب الحج، الباب الثامن فى الجنایات)۔

## احرام کی حالت میں کسی دوسرے کے بال کاٹنا

سوال: ... گزشتہ سال میں نے اپنے دوست کے ساتھ حج کیا، ۱۰ رذوالحجہ کو قربانی سے فارغ ہو کر بال کٹوانے کے لئے ہم نے حجام کو خاصا تلاش کیا لیکن اتفاق سے کوئی نہ مل سکا۔ اس پر میرے دوست نے خود ہی میرے بال کاٹ دیئے۔ واضح رہے کہ وہ اس وقت احرام ہی میں تھے۔ اتنے میں ایک بال کاٹنے والا بھی مل گیا اور میرے دوست نے اپنے بال اس سے کٹوائے۔ اب بعد میں کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ میرے دوست کو میرے بال نہیں کاٹنے چاہئے تھے کیونکہ وہ اس وقت احرام کی حالت میں تھے۔ اب براہ مہربانی آپ اس صورت حال میں یہ بتائیں کہ کیا میرے دوست پر دم واجب ہو گیا؟ یا اصل مسئلے سے ناواقفیت کی بنا پر یہ کوئی غلطی نہیں تھی۔

جواب: ... احرام کھولنے کی نیت سے محرم خود بھی اپنے بال اتار سکتا ہے اور کسی دوسرے محرم کے بال بھی اتار سکتا ہے۔ آپ کے دوست نے آپ کا احرام کھولنے کے لئے جو آپ کے بال اتار دیئے تو ٹھیک کیا، اس کے ذمہ دم واجب نہیں ہوا۔<sup>(۱)</sup>

## شوہر یا باپ کا اپنی بیوی یا بیٹی کے بال کاٹنا

سوال: ... کیا شوہر یا باپ اپنی بیوی یا بیٹی کے بال کاٹ سکتا ہے؟

جواب: ... احرام کھولنے کے لئے شوہر اپنی بیوی کے اور باپ اپنی بیٹی کے بال کاٹ سکتا ہے، عورتیں یہ کام خود بھی کر لیا کرتی ہیں۔<sup>(۲)</sup>

(۱) وإذا حلق أي المحرم رأسه أو رأس غيره أي ولو كان مُحْرِمًا عند جواز التحلل ..... لم يلزمه شيء. (إرشاد الساری ص: ۱۵۴، مبحث فی تحقیق حلق الرأس لابن الهمام).  
(۲) ایضاً حوالہ بالا۔



## طواف زیارت و طواف وداع

طواف زیارت، رمی، ذبح وغیرہ سے پہلے کرنا مکروہ ہے

سوال: حج تمتع اور حج قرآن کرنے والوں کے لئے رمی، قربانی اور بال کٹوانا اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہوتا ہے یا اس کی اجازت ہے کہ رمی کے بعد احرام کی حالت میں مسجد حرام جا کر طواف زیارت کر لیا جائے اور پھر منیٰ آ کر قربانی اور بال کٹوائے جائیں؟

جواب: جس شخص نے تمتع یا قرآن کیا ہو اس کے لئے تین چیزوں میں تو ترتیب واجب ہے، پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کرے، پھر قربانی کرے، پھر بال کٹائے۔ اگر اس ترتیب کے خلاف کیا تو دم لازم ہوگا۔<sup>(۱)</sup> لیکن ان تین چیزوں کے درمیان اور طواف زیارت کے درمیان ترتیب واجب نہیں، بلکہ سنت ہے۔ پس ان تین چیزوں سے علی الترتیب فارغ ہو کر طواف زیارت کے لئے جانا سنت ہے، لیکن اگر کسی نے ان تین چیزوں سے پہلے طواف زیارت کر لیا تو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے، مگر اس پر دم لازم نہیں ہوگا۔

کیا ضعیف مرد یا عورت ۷ یا ۸ رذوالحجہ کو طواف زیارت کر سکتے ہیں؟

سوال: کوئی مرد یا عورت جو نہایت کمزوری کی حالت میں ہو، اور ۱۰ رذوالحجہ یا ۱۱ رذوالحجہ کو حرم شریف میں بہت رش ہوتا ہے، تو کیا ایسا شخص سات یا آٹھ رذوالحجہ کو طواف زیارت کر سکتا ہے یا نہیں؟ تاکہ آنے جانے کے سفر سے بچ جائے۔ نیز اگر کوئی تیرہ یا چودہ تاریخ کو طواف زیارت کر لے تو کیا فرض ادا ہو جائے گا؟

جواب: طواف زیارت کا وقت ذوالحجہ کی دسویں تاریخ (یوم النحر) کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے طواف زیارت جائز نہیں۔ اور اس کو بارہویں تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے ادا کر لینا واجب ہے، پس اگر بارہویں تاریخ کا سورج غروب ہو گیا اور اس نے طواف زیارت نہیں کیا تو اس کے ذمہ دم لازم آئے گا۔<sup>(۲)</sup>

(۱) قال فی معراج الدراية: اعلم ان ما يفعل فی أيام النحر أربعة أشياء: الرمی والنحر والحلق والطواف، وهذا الترتیب واجب عند أبی حنیفة ومالك وأحمد لأثر ابن مسعود وابن عباس من قدم نسكا علی نسك لزمه دم، وظاهره أنه إذا قدم الطواف علی الحلق يلزمه دم عنده، وقد نص فی المعراج فی مسألة حلق القارن قبل الذبح أنه إذا قدم الطواف علی الحلق لا يلزمه شيء فالحاصل أنه إن حلق قبل الرمی لزمه دم مطلقاً، وإن ذبح قبل الرمی لزمه دم إن كان قارناً أو متمتعاً... إلخ. (البحر الرائق ج: ۳ ص: ۲۶، کتاب الحج، باب الجنایات، فصل ولأشياء إن نظر... إلخ).

(۲) ولو طاف قبل الرمی الحلق لأشياء عليه ويكره. (غنية الناسك ص: ۲۸۰).

(۳) فصل: أول وقت طواف الزيارة طلوع الفجر الثاني من يوم النحر فلا يصح قبله..... لكن يجب فعله فی أيام النحر فلو أخره عنها..... لزمه دم. (إرشاد الساری ص: ۱۵۵، باب طواف الزيارة، فصل أول وقت... إلخ).

کیا طواف زیارت میں رمل، اضطباع کیا جائے گا؟

سوال: کیا طواف زیارت میں رمل، اضطباع اور سعی ہوگی؟

جواب: اگر پہلے سعی نہ کی ہو، بلکہ طواف زیارت کے بعد کرنی ہو تو اس میں رمل ہوگا۔ مگر طواف زیارت عموماً سادہ کپڑے

پہن کر ہوتا ہے، اس لئے اس میں اضطباع نہیں ہوگا۔ البتہ اگر احرام کی چادریں نہ اُتاری ہوں تو اضطباع بھی کر لیں۔<sup>(۱)</sup>

طواف زیارت سے قبل میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا

سوال: کیا طواف زیارت سے پہلے میاں بیوی کا تعلق جائز ہے؟

جواب: حج میں حلق کرانے کے بعد اور طواف زیارت سے پہلے تمام ممنوعات احرام جائز ہو جاتے ہیں، لیکن میاں بیوی

کا تعلق جائز نہیں جب تک کہ طواف زیارت نہ کر لے۔<sup>(۲)</sup>

طواف زیارت سے پہلے جماع کرنے سے اونٹ یا گائے کا دم دے

سوال: میرا تعلق مسلک حنفیہ سے ہے، گزشتہ سال حج کے ایام میں ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی، وہ یہ کہ ۱۲ رذوالحجہ کو کنکریاں

مارنے کے بعد رات کو ہم میاں بیوی نے صحبت کر لی، جبکہ بیوی کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہم نے طواف زیارت ۱۳ رذوالحجہ کو کیا۔

جوں ہی غلطی کا احساس ہوا، ہم نے کتاب ”معین الحجاج“ پڑھی جس میں ایسی غلطی پر دم تحریر تھا۔ کیونکہ میں یہاں پرسروس میں ہوں اور

ہم دونوں نے ایام الحج میں عمرہ بھی نہیں کیا تھا، اور ہم حد و حرم میں رہتے ہیں۔ ہم نے جن صاحب کو قربانی کے پیسے حج کے ایک ہفتے

بعد دیئے تھے انہوں نے قربانی ماہ محرم کے پہلے ہفتے میں کروائی تھی۔ براہ کرم مجھے حنفی مسلک کے اعتبار سے بتائیے کہ یہ حج ہمارا ٹھیک

ہو گیا کہ کمی باقی ہے؟ اس بیان سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا، کیونکہ ایسا ہی مسئلہ ایک اور صاحب کے ساتھ درپیش تھا اور وہ

امریکہ سے آئے تھے اور غالباً بغیر کسی دم دیئے چلے گئے، واللہ اعلم۔

جواب: آپ دونوں کا حج تو بہر حال ہو گیا، لیکن دونوں نے دو جرم کئے، ایک طواف زیارت کو بارہویں تاریخ سے مؤخر

کرنا، اور دوسرا طواف زیارت سے پہلے صحبت کر لینا۔ پہلے جرم پر دونوں کے ذمہ دم لازم آیا، یعنی حد و حرم میں دونوں کی طرف سے

(۱) فإن كان سعی بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف ولم يسع وآلا رمل وسعى كذا في الكافي۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۲، کتاب الحج، الباب الخامس في كيفية أداء الحج)۔

(۲) ثم إذا حلق أو قصر حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء كذا في فتاوى قاضی خان۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۲)۔ ثم يذبح ان أحب ثم يحلق أو يقصر..... وقد حل له كل شيء إلا النساء... الخ۔ (هدایة ج: ۱ ص: ۲۵۰)۔

ولو لم يطف أصلاً لم تحل له النساء وان طال ومضت سنون وهذا ياجماع كذا في غاية السروجی شرح الهدایة۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۲، کتاب الحج، الباب الخامس في كيفية أداء الحج)۔

ایک ایک بکری ذبح کی جائے۔<sup>(۱)</sup> اور دوسرے جرم پر دونوں کے ذمہ ”بڑا دم“ لازمی آیا، یعنی دونوں کی جانب سے ایک ایک اونٹ یا گائے حد و حرم میں ذبح کی جائے، اس کے علاوہ دونوں کو استغفار بھی کرنا چاہئے۔<sup>(۲)</sup>

## خواتین کو طواف زیارت ترک نہیں کرنا چاہئے

سوال: ... بعض خواتین طواف زیارت خصوصی ایام کے باعث وقت مقررہ پر نہیں کر سکتیں اور ان کی فلائٹ بھی پہلے ہوتی ہے۔ کیا ایسی خواتین کو فلائٹ چھوڑ دینی چاہئے یا طواف زیارت چھوڑ دینا چاہئے؟

جواب: ... طواف زیارت حج کا رکن عظیم ہے، جب تک طواف زیارت نہ کیا جائے میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے حلال نہیں ہوتے، بلکہ اس معاملے میں احرام بدستور باقی رہتا ہے۔ اس لئے خواتین کو ہرگز طواف زیارت ترک نہیں کرنا چاہئے، بلکہ پرواز چھوڑ دینی چاہئے۔<sup>(۳)</sup>

## عورت کا ایام خاص کی وجہ سے بغیر طواف زیارت کے آنا

سوال: ... اگر کسی عورت کی ۱۲ رذوالحجہ کی فلائٹ ہے اور وہ اپنے خاص ایام میں ہے تو کیا وہ طواف زیارت ترک کر کے وطن آجائے اور دم دیدے یا کوئی مانع چیز (دوائی وغیرہ) استعمال کر کے طواف ادا کرے؟ براہ مہربانی واضح فرمائیں کہ ایسی صورت میں کیا کرے؟

جواب: ... بڑا طواف حج کا فرض ہے،<sup>(۴)</sup> وہ جب تک ادا نہ کیا جائے میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے حلال نہیں ہوتے اور احرام ختم نہیں ہوتا۔<sup>(۵)</sup> اگر کوئی شخص اس طواف کے بغیر آجائے تو اس پر لازم ہے کہ نیا احرام باندھے بغیر واپس جائے اور جا کر طواف کرے، جب تک نہیں کرے گا، میاں بیوی کے تعلق میں احرام رہے گا، اور اس کا حج بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی بدل بھی نہیں۔ دم دینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ واپس جا کر طواف کرنا ضروری ہوگا۔<sup>(۶)</sup>

جو خواتین ان دنوں میں ناپاک ہوں ان کو چاہئے کہ اپنا سفر ملتوی کر دیں اور جب تک پاک ہو کر طواف نہیں کر لیتیں مکہ مکرمہ

(۱) (فصل اول وقت طواف الزيارة طلوع الفجر من يوم النحر ..... فلو أخره عنها) أي بغیر عذر (ولو إلى آخر أيام التشريق لزمه دم)۔ (ارشاد الساری ص: ۱۵۵، باب طواف الزيارة، فصل اول وقت طواف الزيارة)۔

(۲) قال فی البحر قوله (أو جامع بعد الحلق) أي يجب شاة إن جامع بعد الحلق قبل الطواف ثم اعلم أن أصحاب المتون على ما ذكره المصنف من التفصيل فيما إذا جامع بعد الوقوف فإن كان قبل الحلق فالواجب بدنة وإن كان بعد الحق فالواجب شاة ومشى جماعة من المشايخ كصاحب المبسوط وغيره والبدائع والسيبجانی على وجوب البدنة مطلقاً ..... وقال فی فتح القدير انه الأوجه لأن إيجابها ليس إلا بقول ابن عباس والمروى عنه ظاهره فيما بعد الحلق۔ (بحر الرائق ج: ۳ ص: ۱۶)۔

(۳) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ فرمائیں۔

(۴) وهذا الطواف أي الزيارة هو المفروض فی الحج۔ (ارشاد الساری ص: ۱۵۵)۔

(۵) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ فرمائیں۔

(۶) ولو لم يطف أصلاً لم تحل له النساء وإن طال ومضت سنون ... الخ۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۲، کتاب المناسک)۔

سے واپس نہ جائیں<sup>(۱)</sup>۔ اگر کوئی تدبیر ایام کے روکنے کی ہو سکتی ہے تو پہلے سے اس کا اختیار کر لینا جائز ہے۔

عورت ناپاکی یا اور کسی وجہ سے طواف زیارت نہ کر سکے تو حج نہ ہوگا

سوال: ... ناپاکی (حیض) کے باعث عورت طواف زیارت نہ کر سکی کہ واپسی کا سرکاری حکم ہو گیا، اب اس کے لئے کیا

حکم ہے؟

جواب: ... طواف زیارت حج کا اہم ترین رکن ہے، جب تک یہ طواف نہ کر لیا جائے، نہ تو حج مکمل ہوتا ہے<sup>(۲)</sup>، نہ میاں بیوی

ایک دوسرے کے لئے حلال ہوتے ہیں<sup>(۳)</sup>۔ جن خواتین کو طواف زیارت کے دنوں میں ”خاص ایام“ کا عارضہ پیش آجائے، انہیں

چاہئے کہ پاک ہونے تک مکہ مکرمہ سے واپس نہ ہوں، بلکہ پاک ہونے کے بعد طواف زیارت سے فارغ ہو کر واپس ہوں<sup>(۴)</sup>۔ اگر ان

کی واپسی کی تاریخ مقرر ہو تو اس کو تبدیل کر لیا جائے۔ اگر طواف زیارت کے بغیر واپس آگئی تو اس کا حج نہیں ہوگا اور نہ وہ اپنے شوہر

کے لئے حلال ہوگی، جب تک کہ واپس جا کر طواف زیارت نہ کر لے، اور جب تک طواف زیارت نہ کر لے، احرام کی حالت میں

رہے گی۔ جو شخص طواف زیارت کے بغیر واپس آ گیا ہو، اسے چاہئے کہ بغیر نیا احرام باندھنے کے مکہ مکرمہ جائے اور طواف زیارت

کرے، تاخیر کی وجہ سے اس پر دم بھی لازم ہوگا<sup>(۵)</sup>۔

طواف زیارت اگر ۱۲ ذوالحجہ سے پہلے نہ کر سکے تو کیا کرے؟

سوال: ... ۱۲ ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک اگر طواف زیارت کرنے کی ہمت نہ ہو تو کیا کرے؟ اور ۱۲ ذوالحجہ بھٹ

(رش) کی وجہ سے طواف زیارت کو مغرب تک نہ پہنچ سکے تو کیا کرے؟

جواب: ... طواف زیارت ۱۲ کے غروب سے پہلے کر لینا واجب ہے، ورنہ دم لازم آئے گا<sup>(۶)</sup>۔

طواف زیارت میں تاخیر کا دم

سوال: ... ایک خاتون ناپاک ہونے کی وجہ سے ۱۲ ذوالحجہ تک طواف زیارت نہ کر سکی، ۱۲ ذوالحجہ کو پاک ہو گئی تو بارہ

(۱) وان حاضت المرأة يوم النحر قبل أن تطوف بالبيت ليس لها أن تنفر حتى تطهر وتطوف بالبيت ... الخ. (التاترخانية ج: ۲، ص: ۴۷۱، کتاب الحج)۔

(۲) وهذا الطواف هو المفروض في الحج ولا يتم الحج إلا به أي لكونه ركناً بالجماع. (ارشاد الساری ص: ۱۵۵)۔

(۳) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۶ ملاحظہ فرمائیں۔

(۴) ایضاً حاشیہ نمبر ۱، ۲ ملاحظہ کیجئے۔

(۵) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ فرمائیں۔

(۶) وأما زمان هذا الطواف ..... مؤقت بأيام النحر وجوباً في قول أبي حنيفة حتى لو أخره عنها فعليه دم عنده. (بدائع

ج: ۲، ص: ۱۳۲، کتاب الحج، فصل: وأما زمان هذا الطواف)۔

بجے شیطان کو کنکریاں مارنے چلے گئے، کوئی چار گھنٹوں کے بعد فارغ ہوئے تو مکہ شریف روانہ ہو گئے، مکہ پاک میں مغرب کے وقت پہنچ گئے، مگر ٹیکسی والے نے اتنا گھمایا کہ رات کے بارہ بج گئے، کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ مغرب سے پہلے طواف زیارت کرنا ہے، اس لئے وہ خاتون اس دن طواف نہ کر سکی، بلکہ دوسرے دن کیا۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ آیا اس پر دم ہے یا نہیں؟

جواب: ... سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاتون ۱۲ تاریخ کو دوپہر سے پہلے پاک ہو چکی تھی، جس وقت یہ پاک ہوئی اگر اسی وقت طواف کے لئے چلی جاتی تو بڑی آسانی کے ساتھ غروب سے پہلے طواف کر سکتی تھی۔ لیکن یہ بجائے طواف کو جانے کے، رمی کے لئے چلی گئی، اس لئے اس کا غروب سے پہلے طواف نہ کر سکتا، اس کی لاعلمی اور کوتاہی کی وجہ سے ہوا، لہذا اس کے ذمے دم لازم ہے،<sup>(۱)</sup> حد و حرم میں ایک بکرا ذبح کرادیں۔<sup>(۲)</sup>

### طواف وداع کب کیا جائے؟

سوال: ... زیادہ تر لوگوں سے یہ بات سننے میں آئی ہے کہ طواف وداع کے بعد حرم شریف میں نہیں جانا چاہئے، یعنی اگر مغرب کے بعد طواف وداع کیا اور عشاء کے بعد مکہ مکرمہ سے روانگی ہے تو عشاء کی نماز کے لئے حرم شریف میں نہ جائے۔ کیا یہ خیال درست ہے؟ نیز اگر گیا تو کیا طواف وداع کا اعادہ ضروری ہے؟

جواب: ... اگر کسی نے طواف وداع کر لیا اور اس کے بعد مکہ معظمہ میں رہا تو وہ مسجد حرام میں جاسکتا ہے اور اس پر طواف وداع کا اعادہ واجب نہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ جب مکہ سے چلنے لگے تو طواف وداع کرے تاکہ اس کی آخری ملاقات بیت اللہ شریف کے ساتھ ہو،<sup>(۳)</sup> چنانچہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اگر کوئی دن کو طواف وداع کر کے عشاء تک مکہ میں ٹھہر گیا تو میرے نزدیک بہت پسندیدہ ہے کہ وہ وداع کی نیت سے دوسرا طواف کرے تاکہ نکلنے کے ساتھ اس کا طواف متصل ہو۔<sup>(۴)</sup> الغرض یہ خیال کہ طواف وداع کے بعد حرم شریف میں نہیں جانا چاہئے، بالکل غلط ہے۔

### طواف وداع کا مسئلہ

سوال: ... اس سال خانہ کعبہ کے حادثے کی وجہ سے بہت سے حاجی صاحبان کو یہ صورت پیش آئی کہ اس حادثے سے

(۱) ولو طاف طواف الزيارة... إلخ وان أعاده بعد أيام النحر يجب الدم عند أبي حنيفة بالتأخير. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۵، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات)۔

(۲) ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۶۱، الباب السادس عشر فی الهدی)۔

(۳) وهذا عند الحنفية بيان الوقت المستحب أو الأفضل، فلو أطال الإقامة بمكة ولم يستوطنها صح طوافه وان أقام سنة بعد الطواف ويجوز طواف الوداع عند الحنفية في أيام النحر وبعدها ويكون أداء لا قضاء. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۱۴۹، شروط طواف الوداع، قدره، وکيفيته وسننه، طبع دار الفكر بيروت)۔

(۴) والثاني أن يوقعه عند إرادة السفر حتى روى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لو طاف ثم أقام إلى العشاء فأحب إلى أن يطوف طوافاً آخر ليكن توديع البيت آخر عهده عن مورده، كذا في البحر الرائق. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳۴، کتاب المناسک، الباب الخامس فی كيفية أداء الحج)۔

پہلے وہ جب تک مکہ شریف میں رہے نفلی طواف تو کرتے رہے مگر آتے وقت طواف وداع کی نیت سے طواف نہیں کر سکے۔ میں نے ایک مسجد کے خطیب صاحب سے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو دم بھیجنا ہوگا، مگر ”معلم الحجاج“ میں مسئلہ اس طرح لکھا ہے کہ: ”طواف زیارت کے بعد اگر نفلی طواف کر چکا ہے تو وہ بھی طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حاجی صاحبان کا طواف وداع ادا ہو گیا اور ان کو دم بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ خطیب صاحب فرماتے ہیں کہ ”معلم الحجاج“ کا یہ مسئلہ غلط ہے، ان لوگوں کا طواف وداع ادا نہیں ہوا، اس لئے ان کو دم بھیجنا چاہئے۔ چونکہ یہ صورت بہت سے حاجی صاحبان کو پیش آئی ہے، اس لئے برائے مہربانی آپ بتائیں کہ ان کو دم بھیجنا ہوگا یا یہ مسئلہ صحیح ہے کہ اگر طواف زیارت کے بعد نفلی طواف کر چکا ہے تو وہ بھی طواف وداع کا قائم مقام ہوگا۔ جواب اخبار جنگ کے ذریعہ دیں تاکہ تمام حاجی صاحبان پڑھ لیں۔

جواب:.... ”فتح القدر“ میں ہے:

”والحاصل أن المستحب فيه أن يوقع عند ارادة السفر أما وقته على التعيين

فأوله بعد طواف الزيارة اذا كان على عزم السفر۔“ (ج: ۲ ص: ۸۸)

ترجمہ:.... ”حاصل یہ کہ مستحب تو یہ ہے کہ ارادہ سفر کے وقت طواف وداع کرے، لیکن اس کا وقت

طواف زیارت کے بعد شروع ہو جاتا ہے، جبکہ سفر کا عزم ہو (مکہ مکرمہ میں رہنے کا ارادہ نہ ہو)۔“

اور ذمہ مختار میں ہے:

”فلو طاف بعد ارادة السفر ونوى التطوع اجزاه عن الصدر“ (رد المحتار ج: ۲ ص: ۵۲۳)

ترجمہ:.... ”پس اگر سفر کا ارادہ ہونے کے بعد نفل کی نیت سے طواف کر لیا تو طواف وداع کے قائم

مقام ہو جائے گا۔“

اس عبارت سے دو باتیں معلوم ہوئیں:

ایک یہ کہ طواف وداع کا وقت طواف زیارت کے بعد شروع ہو جاتا ہے، بشرطیکہ حاجی مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر ہونے کی

نیت نہ رکھتا ہو، بلکہ وطن واپسی کا عزم رکھتا ہو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ طواف وداع کے وقت میں اگر نفل کی نیت سے طواف کر لیا

جائے تب بھی طواف وداع ادا ہو جاتا ہے، البتہ مستحب یہ ہے کہ واپسی کے ارادے کے وقت طواف وداع کرے۔ اس سے معلوم ہوا

کہ ”معلم الحجاج“ کا مسئلہ صحیح ہے، جن حضرات نے طواف زیارت کے بعد نفلی طواف کئے ہیں ان کا طواف وداع ادا ہو گیا، ان کے

ذمہ دم واجب نہیں۔

طواف وداع میں رمل، اضطباع اور سعی ہوگی یا نہیں؟

سوال:.... کیا طواف وداع میں رمل، اضطباع اور سعی ہوگی؟

جواب:.... ”طواف وداع“ اس طواف کو کہتے ہیں جو اپنے وطن کو واپسی کے وقت بیت اللہ شریف سے رخصت ہونے کے

لئے کیا جاتا ہے۔<sup>(۱)</sup> یہ سادہ طواف ہوتا ہے، اس میں رمل اور اضطباع نہیں کیا جاتا، نہ اس کے بعد سعی ہوتی ہے۔<sup>(۲)</sup> رمل اور اضطباع ایسے طواف میں مسنون ہے جس کے بعد سعی ہو۔<sup>(۳)</sup>

نوٹ:.... اضطباع کے معنی یہ ہیں کہ احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں بغل سے نکال کر اس کے دونوں کنارے بائیں کندھے پر ڈال لئے جائیں۔<sup>(۴)</sup> یہ اضطباع اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ احرام کی چادر پہنی ہوئی ہو۔ اضطباع طواف کے صرف تین چکروں میں مسنون ہے، باقی چار چکروں میں بھی اسی طرح رہنے دیا جائے۔ طواف کے بعد نماز کے لئے دونوں کندھوں کو ڈھانپ لینا چاہئے۔ اسی طرح صفا و مروہ کی سعی کے دوران بھی اضطباع مسنون نہیں۔ اور رمل کے معنی یہ ہیں کہ ایسا طواف جس کے بعد سعی کرنا ہو اس کے پہلے تین شطوں میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اور پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاتے ہوئے ذرا سا تیز چلا جائے۔<sup>(۵)</sup>

### سعی ۱۲ رذی الحجہ کے بعد کرنے والے پر دم یا کفارہ تو نہیں؟

سوال:.... میں نے ۱۹۸۶ء میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کیا، طواف زیارت تو میں نے (میاں بیوی دونوں نے) حج کے ایام میں ہی کر لیا، لیکن سعی ۱۲ رذی الحجہ کے بعد مکہ واپس آنے کے بعد کی۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ حج مکمل ہو گیا، کوئی نقص تو نہیں رہا؟ اگر کوئی غلطی ہوئی یعنی دم واجب ہو گیا ہو تو اس کی اب کیا صورت ہے؟

جواب:.... سعی کا وقت مستحب یہ ہے کہ ۱۲ رذی الحجہ کی مغرب سے پہلے کر لی جائے، تاہم اگر تاخیر ہو جائے تو کوئی کفارہ یا دم لازم نہیں آتا، واللہ اعلم!<sup>(۶)</sup>

(۱) وهذا طواف الصدر، ويسمى طواف الوداع وطواف آخر عهد بالبيت لأنه يودع البيت. (الهداية مع البناية ج: ۵ ص: ۱۵۷، كتاب الحج، باب الإحرام).

(۲) فصل في صفة طواف الوداع..... ثم يطوف سبعا..... بلا رمل ولا اضطباع ولا سعی بعده. (إرشاد الساري ص: ۱۷۰، باب طواف الصدر، فصل في صفة طواف الوداع).

(۳)..... لأن السعي لم يشرع إلا مرة، والرمل ما يشرع إلا مرة في طواف بعده سعی. (هداية ص: ۲۷۳، كتاب الحج).

(۴) والاضطباع أن يجعل رداءه تحت ابطه الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسر. (هداية، كتاب الحج ج: ۱ ص: ۲۲۱ طبع شركت علمية).

(۵) ويرمل في الثلاث الأول من الأشواط، والرمل أن يهز في مشيته الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفيين وذلك مع الاضطباع. (هداية ص: ۲۶۱، كتاب الحج، باب التمتع).

(۶) أما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته الأصلي وهي أيام النحر..... ولا شيء عليه لأنه أتى بما وجب عليه ولا يلزمه بالتأخير شيء. (بدائع ج: ۲ ص: ۱۳۵، كتاب الحج، فصل: وأما بيان حكمه).

## مدینہ منورہ کی حاضری

### زیارتِ روضہ اطہر اور حج

سوال: ... اگر کوئی شخص حج کے لئے جائے اور زیارتِ روضہ کئے بغیر آجائے تو اس کا حج مکمل ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر ہو جائے گا تو حدیث کے ساتھ اس کا ٹکراؤ آتا ہے، لہذا ضروری تاکید کی جاتی ہے کہ احقر کی ان مشکلات کا حل تحریر فرما کر ہمیشہ کے لئے مشکور فرمائیں۔

جواب: ... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے بغیر جو شخص واپس آجائے، حج تو اس کا ادا ہو گیا، لیکن اس نے بے مروّتی سے کام لیا اور زیارت شریفہ کی برکت سے محروم رہا۔ یوں کہہ لیجئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لئے جانا ایک مستقل عمل مندوب ہے، جو حج کے اعمال میں تو داخل نہیں مگر جو شخص حج پر جائے اس کے لئے یہ سعادت حاصل کرنا آسان ہے، اس لئے حدیث میں فرمایا:

”من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني۔“

(رواہ ابن عدی بسند حسن، ”شرح مناسک“ لمؤلا علی قاری ص: ۳۳۴)

ترجمہ: ... ”جس شخص نے بیت اللہ شریف کا حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا، اس نے مجھ سے بے مروّتی کی۔“

### مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا اور شفاعت کی درخواست کرنا

سوال: ... میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سفر نہیں کر سکتا، اور سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر شفاعت کی درخواست ممنوع ہے۔ بتلائیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور روضہ مبارک پر دعائیں مانگنا کیسا ہے؟ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کس طرف منہ کر کے مانگیں گے؟ آیا کعبہ کی جانب یا روضہ مبارک کی جانب؟ اور مسجد نبوی میں کثرت سے دُرود افضل ہے یا تلاوتِ قرآن؟

جواب: ... یہ تو آپ نے غلط سنا ہے یا غلط سمجھا ہے کہ مسجد نبوی (علی صاحبها الصلوات والتسليمات) کی نیت سے سفر نہیں کر سکتے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ مسجد شریف کی نیت سے سفر کرنا صحیح ہے۔<sup>(۱)</sup> البتہ بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ روضہ

(۱) كما في الحديث المتفق عليه: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدى هذا، والمسجد الأقصى. والمعنى كما أفاده في الإحياء أنه لا تشد الرحال لمسجد من المساجد إلا لهذه الثلاثة لما فيها من المضاعفة. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۶۲۷، مطلب في تفضيل قبره المكرم صلى الله عليه وسلم، طبع سعيد كراچی).



اقدس کی زیارت کی نیت سے سفر جائز نہیں، لیکن جمہور اکابر اُمت کے نزدیک روضہ شریف کی زیارت کی بھی ضرورت نیت کرنی چاہئے۔ اور روضہ اطہر پر حاضر ہو کر شفاعت ممنوع نہیں، فقہائے اُمت نے زیارت نبوی کے آداب میں تحریر فرمایا ہے کہ بارگاہ عالی میں سلام پیش کرنے کے بعد شفاعت کی درخواست کرے۔ امام جزریؒ ”حصن حصین“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (کی قبر مبارک) کے پاس دُعا قبول نہ ہوگی تو اور کہاں ہوگی...؟<sup>(۱)</sup> صلوٰۃ وسلام اور شفاعت کی درخواست پیش کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دُعا مانگے۔<sup>(۲)</sup> مدینہ طیبہ میں دُرد شریف کثرت سے پڑھنا چاہئے اور تلاوت قرآن کریم کی مقدار بھی بڑھادینی چاہئے۔

### مسجد نبوی (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) میں چالیس نمازیں

سوال: ... میں یہاں عمرہ پر گیا، عمرہ ادا کر کے مسجد نبوی کی حاضری دی اور اپنی نیت کے مطابق دونوں جگہ ایک ایک جمعہ پڑھ کر واپس آ گیا، یعنی مدینہ شریف میں چالیس نمازیں پوری نہیں کیں۔ کیا اس کا کوئی گناہ ہے؟

جواب: ... گناہ تو کوئی نہیں، مگر مسجد نبوی (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) میں اس طرح چالیس نمازیں پڑھنے کی ایک خاص فضیلت ہے کہ تکبیر تحریر فوت نہ ہو،<sup>(۳)</sup> یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔

سوال: ... میں نے اپنے امام سے سنا ہے کہ مسجد نبوی میں چالیس نمازوں کا ادا کرنا ضروری ہے، پوچھنا یہ ہے کہ آیا یہ ضروری ہے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے جس میں ضروری یا فضیلت کا ہونا بتلایا گیا ہو؟ براہ مہربانی تفصیل سے جواب دیں۔

جواب: ... ایک حدیث میں مسجد نبوی شریف میں چالیس نمازیں تکبیر تحریر کے ساتھ ادا کرنے کی خاص فضیلت آتی ہے، اس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے میری مسجد میں چالیس نمازیں اس طرح ادا کیں کہ اس کی کوئی بھی نماز (باجاماعت) فوت نہ ہو، اس کے لئے دوزخ سے اور عذاب سے براءت لکھی جائے گی، اور وہ نفاق سے بری ہوگا“ (مسند احمد ج: ۳ ص: ۱۵۵)۔<sup>(۴)</sup>

(۱) وان لم يجب الدعاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ففي أي موضع يُستجاب؟ (حصن حصين، أماكن الإجابة ص: ۶۷، طبع دار الإشاعت).

(۲) تفصیل کے لئے دیکھئے: عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۶۵، کتاب الحج، خاتمة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

(۳ و ۴) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة، كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. رواه أحمد وغيره. (مسند أحمد ج: ۳ ص: ۱۵۵).

## حج کے متفرق مسائل

### حقانی صاحب کی حج تجاویز

سوال: ... بتاریخ ۱۶ جون ۱۹۹۳ء کالم نویس جناب ارشاد احمد حقانی صاحب نے حالیہ نگران حکومت کے زیر انتظام حج بیت اللہ سے واپسی پر ”حج کے انتظامات، بعض توجہ طلب پہلو“ کے عنوان سے جن خیالات کا اظہار اخبار ”جنگ“ کراچی میں کیا ہے، اس کو پڑھ کر سخت تکلیف ہوئی اور طرح طرح کے خیالات کے اظہار سے ایسا محسوس ہوا کہ وہ منیٰ کی ساری غلاظت کو اپنے ساتھ کراچی لے آئے ہیں۔ جس شہر میں ہر راستے پر، ہر زمانے میں اور خصوصاً سخت گرمی کے زمانے میں جو گٹر بہہ رہا ہے اور حتیٰ کہ ہمارے مکان کے دروازے پر پڑوس کے گٹر کا سیاہ سیلاب سارے راستے پر پھیلا ہوا ہے اس کی طرف کسی کی نظر نہیں، جہاں مستقلاً لوگ رہائش پذیر ہیں اور سارے شہر میں گٹر کے ناپاک پانی نے طہارت اور صفائی کو مستقل عذاب اور خطرہ میں ڈال دیا ہے، اس کی اصلاح کے لئے زور قلم اور حکومت اور عمال کی توجہ مبذول نہ کرا کر مفت کی مہمانی کا حق اس ذہنیت سے ادا کر رہے ہیں جو پاکستان کی بدنامی کا باعث ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ فقہی مسائل میں بھی اپنی قابلیت کا جس طرح اظہار کیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت کی معلومات کی داد دینے والا سارے عالم اسلام میں کوئی نہیں۔

میں، آپ جیسے مسلم بزرگ اور مفتی وقت سے اس سلسلے میں رجوع کرنا ایک اسلامی فریضہ سمجھ کر یہ خط لکھ رہا ہوں کہ برائے کرم جناب ارشاد احمد حقانی صاحب کے اظہار خیال کی روشنی میں جو انہوں نے ”طواف زیارت“ کے سلسلے میں تحریر فرمایا ہے، اس کی اسلامی اور فقہی حیثیت کیا ہے؟ جیسا کہ ارشاد احمد حقانی نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ:

”بعض فقہاء کے نزدیک اس بات کی اجازت موجود ہے کہ ”طواف زیارت“ عرفات جانے سے پہلے بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ میرے بہت سے قارئین کے لئے یہ بات باعث حیرت ہوگی، لیکن یہ اجازت موجود ہے۔ مگر اس کا علم بہت کم لوگوں کو ہے اور اس پر عمل بھی شاذ ہی کیا جاتا ہے۔“ (کیا یہی صحیح ہے؟)

”اگر کمزور اور ضعیف حجاج اور خواتین کو اس کی اطلاع دی جائے اور انہیں طواف زیارت عرفات جانے سے پہلے ادا کرنے کی ترغیب دی جائے تو دو چار لاکھ حاجی تو ایسا کر سکتے ہیں، جس سے بعد از عرفات کے دنوں میں رش کم کیا جاسکتا ہے۔“

”ویسے میں اس بات کا بھی حامی اور قائل ہوں کہ عرفات سے واپسی پر کئے جانے والے طواف

زیارت کے وقت میں بھی توسیع کا جائزہ لیا جانا چاہئے اور جید علماء اس مسئلے پر غور کریں۔“  
 ”حرم شریف کی غیر معمولی توسیع کے باوجود بیس پچیس لاکھ افراد کا تین روز میں طواف زیارت مکمل کرنا شدید اثر دہام پیدا کئے بغیر نہیں رہ سکتا، جس سے ضعیف مردوں اور عورتوں کا تو کجا مضبوط اور جوان حاجیوں کا عہدہ برا ہونا آسان نہیں۔“

”طواف زیارت کو آسان کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔“

اس کے بعد حقانی صاحب نے منیٰ اور عرفات کے سلسلے میں عام حجاج کی سہولت کے حوالے سے جس طرح جو کچھ لکھا ہے اس سے ہم جیسے مسلمان دین دار حاجیوں کو قطعی اتفاق نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے علم و قلم مسلمان کو اس لئے عطا نہیں کیا کہ وہ اپنے کو ساری مخلوق سے بالاتر اور اپنی محدود عقل کو سب سے افضل و برتر سمجھے اور ان خیالات کا ہر موقع پر اظہار خیال کرے۔ سعودی حکومت تو ٹھنڈے پانی کا تھیلا مفت میں حجاج کرام کے لئے منیٰ اور عرفات میں مسلسل تقسیم کیا کرتی ہے، اور روز بروز ہر طرح کی سہولت فراہم کر رہی ہے، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔

منیٰ میں میرا بھی قیام تھا، مگر میں نے وہ تعفن اور گندگی نہیں دیکھی جو حقانی صاحب کو نظر آئی، اگر کسی کا قیام بد قسمتی سے کوڑا کرکٹ اور گٹر کے پاس ہو تو پھر بھی اس کا اظہار عوامی انداز سے ہونا چاہئے، یہ اخبار والوں کو بھی لازم ہے کہ ایسے جذباتی براہمنگتی کے مضامین کو اخبار میں جگہ نہ دیں، جو اخبار کے رویہ کو متنازع بنا دے اور نفرت و فساد کو جنم دے۔ بہر کیف! اس مسئلے پر علماء اور حجاج کرام کو اپنے مسلمہ واضح خیالات کا اظہار کرنا لازم ہے۔

جواب: ... جناب حقانی صاحب کا کالم میں نے آپ کا خط موصول ہونے کے بعد اخبار منگوا کر پڑھا، موصوف نے اپنے مضمون (۱۶ جون ۱۹۹۳ء) کی قسط میں چند مسائل شرعیہ پر اظہار خیال فرماتے ہوئے ان میں اجتہاد کی ضرورت پر زور دیا ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

### پہلا مسئلہ

جناب حقانی صاحب رقم طراز ہیں:

”سعودی وزارت اطلاعات کے حکام نے عظمندی کی ہمیں مزدلفہ سے رات کے گیارہ بجے ہی بسوں پر سوار کر دیا اور سیدھے جمرۃ العقیقی پر لے گئے، اس وقت وہاں کوئی ہجوم نہیں تھا اور ہم سب نے سات سات کنکریاں ماریں۔“

موصوف کی اس تحریر سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ رات ڈھلنے سے پہلے ہی گیارہ بجے مزدلفہ سے چل کھڑے ہوئے اور آدھی رات سے پہلے پہلے وہ جمرۃ العقبہ کی رمی سے بھی فارغ ہو چکے تھے۔ اگر میں نے ان کی اس عبارت کا مفہوم صحیح سمجھا ہے تو سعودی حکام کی ”عظمندی“ نے ان سے مناسک حج کی ادائیگی میں دو سنگین غلطیاں کرادیں۔ ایک یہ کہ مزدلفہ پر وقوف کرنا حج کے واجبات میں سے ہے، اس کے فوت ہو جانے پر دم لازم آتا ہے اور اسے قصداً چھوڑ دینا حرام ہے۔

وقوف مزدلفہ کا وقت حنفیہ کے نزدیک یوم النحر (ذوالحجہ کی دسویں تاریخ) کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔<sup>(۱)</sup> شافعیہ و حنابلہ کے نزدیک نصف شب کے بعد ہے، البتہ مالکیہ کے نزدیک رات کے کسی حصے پر وہاں ٹھہرنا واجب ہے۔<sup>(۲)</sup> چونکہ حقانی صاحب اور ان کے رفقاء رات کے گیارہ بجے ہی مزدلفہ سے چل پڑے، اس لئے حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے قول کے مطابق ان کا وقف مزدلفہ فوت ہو گیا، جس کی وجہ سے ان پر دم بھی واجب ہوا اور گناہ بھی لازم آیا۔

دوسری غلطی یہ کہ یوم النحر کو جمرۃ العقبہ کی رمی کا وقت شافعیہ و حنابلہ کے نزدیک آدھی رات کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک صبح صادق کے بعد سے۔ اب اگر حقانی صاحب صبح صادق سے پہلے جمرۃ العقبہ کی رمی سے فارغ ہو چکے تھے تب تو حنفیہ و مالکیہ کے نزدیک ترک واجب کی وجہ سے ان پر دم لازم آیا اور اگر نصف شب سے پہلے ہی رمی کر لی تھی تو تمام ائمہ کے نزدیک ان پر دم لازم ہوا۔<sup>(۳)</sup>

### دوسرا مسئلہ

حقانی صاحب سفارش کرتے ہیں:

”اس ضمن میں کمزور حجاج بالخصوص خواتین کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہئے کہ وہ اپنا وکیل مقرر کر کے

رمی جمرات کا فرض ادا کریں۔“

اس ضمن میں یہ وضاحت کافی ہے کہ شریعت نے رمی جمرات کا وقت بہت وسیع رکھا ہے، مثلاً: پہلے دن یوم النحر کو صرف جمرۃ العقبہ کی رمی کرنی ہے، مگر اس کا وقت پورے آٹھ پہر (چوبیس گھنٹے) تک پھیلا ہوا ہے، کیونکہ یہ وقت یوم النحر کی صبح صادق سے شروع ہو کر گیارہویں تاریخ کی صبح صادق تک ہے۔<sup>(۴)</sup> اور رات کے وقت خصوصاً بارہ بجے کے بعد جمرات پر کوئی ہجوم نہیں ہوتا، اس لئے کمزور مرد اور خواتین رات کو اطمینان سے رمی کر سکتے ہیں۔ اور رمی جمرات کے لئے کسی کو وکیل بنانا صرف اس صورت میں صحیح ہے کہ کوئی دن

(۱) واذا طلع الفجر يصلى الإمام بالناس الفجر بغلس ..... ثم وقف ووقف معه الناس فدعا، لأن النبي عليه السلام وقف في هذا الموضع يدعو ..... ثم هذا الوقوف واجب عندنا وليس بركن حتى لو تركه بغير عذر يلزمه الدم. (هداية ج: ۱ ص: ۲۳۸، كتاب الحج، باب الإحرام).

(۲) زمان الوقوف بالمزدلفة: للفقهاء آيان: رأى الحنفية: أن زمان الوقوف هو ما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم فى حديث جابر وابن عمر دفع قبل طلوع الشمس فمن وقف بها قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لا يعتد به... إلخ. ۲- ورأى الجمهور: أن زمان الوقوف هو الليل، وتفصيل ذلك ما يأتى: قال المالكية: زمان الوقوف فى أى جزء من أجزاء الليل بقدر حط الرحال ..... وقال الشافعية: وقت الوقوف بالمزدلفة بعد نصف الليل فمن لم يكن فيها فى النصف الثانى أراق دمًا. وقال الحنابلة: المبيت بالمزدلفة حتى يطلع الفجر واجب، من تركه فعليه دم. (الفقه الإسلامى وأدلته ج: ۳ ص: ۱۸۸، ۱۸۹، زمان الوقوف بالمزدلفة).

(۳) وقت الرمی: رمی جمرۃ العقبۃ أو الكبرى: يدخل وقته عند الشافعية والحنابلة من نصف ليلة النحر ..... ووقته عند المالكية والحنفية: بعد طلوع الشمس يوم العيد. (الفقه الإسلامى وأدلته ج: ۳ ص: ۱۹۳).

(۴) وقال الحنفية: إن آخر الرمی إلى الليل، ورمى قبل طلوع الفجر جاز ولا شىء عليه، لأن الليل وقت الرمی فى أيام الرمی. (الفقه الإسلامى وأدلته ج: ۳ ص: ۱۹۵، كتاب الحج، رمی الجمرات الثلاث أيام التشريق).

میں یارات میں خود چل کر جمرات تک پہنچنے اور رمی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔<sup>(۱)</sup> اس لئے حقانی صاحب کی یہ سفارش کہ معذور اور غیر معذور مرد اور خواتین کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہئے کہ بغیر عذر شرعی کے وہ کسی کو اپنا وکیل مقرر کر دیں، قطعاً لائق التفات نہیں۔

### حقانی صاحب کا اپنے اجتہاد پر عمل

حقانی صاحب خود معذور نہیں تھے، لیکن انہوں نے پہلے دن کی رمی تو وقت سے پہلے کر لی اور باقی دنوں کی رمی کے بارے میں وہ لکھتے ہیں:

”بقیہ دو دنوں کے لئے میں نے تو اپنے نوجوان ساتھیوں کو وکیل مقرر کیا اور انہی کے ذریعہ اپنے حصے

کے پتھر مروائے۔“

حالانکہ منی کے دنوں میں حاجی کو رمی جمرات کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا۔

اب اس کو تساہل پسندی کے سوا کیا کہا جائے کہ بغیر کسی عذر شرعی کے موصوف نے رمی کے لئے نوجوان ساتھیوں کو وکیل مقرر کر دیا اور انہی کے ذریعہ رمی کروالی۔ ظاہر ہے کہ شرعاً ان کا وکیل مقرر کرنا درست نہ تھا، اور وہ ترک واجب کے مرتکب ہوئے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انہیں اس ترک واجب پر افسوس بھی نہیں بلکہ وہ اس ضمن میں فقہائے اُمت کی ”اصلاح“ کے درپے ہیں، چنانچہ تحریر فرماتے ہیں:

”فقہاء نے رمی جمرات کے حوالے سے بعض ایسے احکام اور شرائط مقرر کر رکھی ہیں غالباً جن میں

قدرے اجتہاد کی گنجائش ہے۔“

حضرات فقہائے اُمت نے رمی جمرات کے بارے میں جو احکام و شرائط مقرر کی ہیں وہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ سے مستنبط ہیں، تمام فقہائے اُمت کے اجماعی فیصلوں کو نظر انداز کر کے نئی راہ اختیار کرنے کا نام ”اجتہاد“ نہیں بلکہ خواہش نفس کی پیروی ہے۔

### تیسرا مسئلہ

تیسرا مسئلہ جس میں موصوف نے ”اجتہاد“ کی ضرورت پر زور دیا ہے وہ ہے وقوف عرفات سے پہلے طواف زیارت سے فارغ ہو جانا، موصوف لکھتے ہیں کہ:

”بعض فقہاء کے نزدیک اس بات کی اجازت موجود ہے کہ طواف زیارت، عرفات جانے سے پہلے

بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ میرے بہت سے قارئین کے لئے یہ بات باعث حیرت ہوگی، لیکن یہ اجازت موجود

ہے، مگر اس کا علم بہت کم لوگوں کو ہے اور اس پر عمل بھی شاذ ہی کیا جاتا ہے۔ اگر کمزور اور ضعیف حجاج اور خواتین کو

(۱) وتجاوز الإنبابة في الرمي لمن عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس أو كبر سن أو حمل المرأة، فيصح للمريض بعلة لا يرجع زوالها قبل انتهاء وقت الرمي. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۱۹۳، وجوب الرمي والإنبابة فيه).

اس کی اطلاع دی جائے اور انہیں طواف زیارت، عرفات جانے سے پہلے ادا کرنے کی ترغیب دی جائے تو دو چار لاکھ حاجی تو ایسا کر سکتے ہیں، جس سے بعد از عرفات کے دنوں میں رش کم کیا جاسکتا ہے۔“

جناب حقانی صاحب نے جو تحریر فرمایا ہے کہ بعض فقہاء کے نزدیک وقوف عرفات سے پہلے طواف زیارت کرنے کی اجازت موجود ہے۔ یہ اس ناکارہ کے لئے بالکل جدید انکشاف ہے، قریباً نصف صدی تک فقہی کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہوئے بال سفید ہو گئے، لیکن افسوس ہے کہ مجھے ایسے کسی فقیہ کا سراغ نہیں مل سکا جو وقوف عرفات سے پہلے طواف زیارت سے فارغ ہو جانے کا فتویٰ دیتا ہو۔ اگر موصوف ان ”بعض فقہاء“ کا نام نشان بتادیں تو اہل علم ان کے ممنون ہوں گے اور اس پر غور کر سکیں گے کہ ان ”بعض فقہاء“ کے فتویٰ کی قدر و قیمت کیا ہے...؟

جہاں تک اس ناکارہ کے ناقص مطالعے کا تعلق ہے، مذاہب اربعہ اس پر متفق ہیں کہ وقوف عرفات سے قبل طواف زیارت نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام ابوحنیفہ<sup>(۱)</sup> اور امام مالک<sup>(۲)</sup> کے نزدیک طواف زیارت کا وقت یوم النحر کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور امام شافعی<sup>(۳)</sup> اور احمد<sup>(۴)</sup> کے نزدیک یوم النحر کی نصف شب کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، گویا یوم النحر کی نصف شب سے پہلے طواف زیارت کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ اور جس مسئلے میں مذاہب اربعہ متفق ہوں ان کے خلاف فتویٰ دینا ”اجتہاد“ نہیں بلکہ ”الحاذ“ ہے۔

## حج و عمرہ کے بعد بھی گناہوں سے نہ بچے تو گویا اس کا حج مقبول نہیں ہوا

سوال: ... میرے چار پاکستانی دوست ہیں جو کہ تبوک میں مقیم ہیں، حج اور عمرہ کر کے واپس آ کر انہوں نے وی سی آر پر عریاں فلمیں دیکھی ہیں، اب ان کے لئے کیا حکم لاگو ہے؟ اب وہ پچھتا رہے ہیں، ان کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟

جواب: ... معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے صحیح معنوں میں حج و عمرہ نہیں کیا، بس گھوم پھر کر واپس آ گئے ہیں۔ حج کے مقبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ حج کے بعد آدمی کی زندگی میں دینی انقلاب آجائے، اور اس کا رخ خیر اور نیکی کی طرف بدل جائے، ان صاحبوں کو اپنے فعل سے توبہ کرنی چاہئے، فرائض کی پابندی اور محرمات سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اگر سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان

(۱) والحاصل أن وقت الطواف أوله طلوع الفجر من يوم النحر لا من ليلة كما يقوله الشافعي لأن ذلك وقت الوقوف. (فتح القدير ج: ۲ ص: ۱۸۰). أيضاً: (أول وقت طواف الزيارة طلوع الفجر الثاني من يوم النحر فلا يصح قبله) خلافاً للشافعي حيث يجوز بعد نصف الليل منه. (مناسك لملا على القارئ ص: ۱۵۵، طبع دار الفكر، بيروت).

(۲) وطواف الإفاضة بعد رمي جمره العقبة يوم النحر ..... وجمهورهم على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة لكونه قبل يوم النحر. (بداية المجتهد ج: ۱ ص: ۲۵۱، القول في الطواف ... الخ).

(۳) (فصل) ولهذا الطواف وقتان، وقت فضيلة، ووقت اجزاء، فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق ..... وأما وقت الجواز فأوله من نصف الليل من ليلة النحر، وبهذا قال الشافعي وقال أبوحنيفة أوله طلوع الفجر من يوم النحر. (المغني ج: ۳ ص: ۳۶۵، ۳۶۶).

کے قصور معاف فرمادیں گے۔<sup>(۱)</sup> اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔

## حج کے بعد اعمال میں سستی آئے تو کیا کریں؟

سوال: ... حج کرنے کے بعد زیادہ عبادات میں سستی، کاہلی یعنی ذکر، اذکار، صبح کے وقت نماز دیر سے پڑھنا، اور دل میں وساوس یعنی حج سے پہلے دینی کاموں تبلیغ اور نیک کاموں میں دلچسپی لیتا تھا لیکن اب اس کے برعکس ہے۔ آپ سے معلوم کرنا ہے کہ حج کرنے میں کوئی فرق تو نہیں ہے؟ کیا دوبارہ حج کے لئے جانا ضروری ہوگا؟

جواب: ... اگر پہلا حج صحیح ہو گیا تو دوبارہ کرنا ضروری نہیں، حج کے بعد اعمال میں سستی نہیں بلکہ چستی ہونی چاہئے۔<sup>(۲)</sup>

## جمعہ کے دن حج اور عید کا ہونا سعادت ہے

سوال: ... اکثر ہمارے مسلمان بھائی پڑھے لکھے اور ان پڑھ پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا حج ”حج اکبر“ ہوتا ہے، اور اس کا ثواب سات حجوں کے برابر ملتا ہے اور حکومتیں جمعہ کے دن کو حج نہیں ہونے دیتیں کیونکہ دو خطبے اکٹھے کرنے سے حکومت پر زوال آجاتا ہے۔ اور یہی عقیدہ و یقین وہ عیدین کے بارے میں رکھتے ہیں، اس کی شرعی تشریح فرمادیں۔

جواب: ... جمعہ کے حج کو ”حج اکبر“ کہنا تو عوام کی اصطلاح ہے، البتہ ”معلم الحج“ ہے۔ بُرانی کی روایت نقل کی ہے کہ جمعہ کے دن کا حج ستر حجوں کی فضیلت رکھتا ہے۔ مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں۔ اور یہ غلط ہے کہ حکومتیں جمعہ کے دن حج یا عید نہیں ہونے دیتیں، متعدد بار جمعہ کا حج ہوا ہے جس کی سعادت بے شمار لوگوں کو حاصل ہوئی ہے، اور جمعہ کو عیدیں بھی ہوئی ہیں۔<sup>(۳)</sup>

## ”حج اکبر“ کی فضیلت

سوال: ... جیسا کہ مشہور ہے کہ جمعہ کے دن کا حج پڑ جائے تو وہ ”حج اکبر“ ہوتا ہے، جس کا اجر ستر حجوں کے اجر سے بڑھا ہوا ہے۔ آیا یہ حدیث ہے؟ اور کیا یہ حدیث صحیح ہے یا کہ عوام الناس کی زبانوں پر ویسے ہی مشہور ہے۔ جبکہ بعض حوالہ جات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ”حج اکبر“ کی اصطلاح مذکورہ حج کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر حج ”حج اکبر“ کہلاتا ہے عمرہ کے مقابلے میں، یا عرفہ کے دن کو ”حج اکبر“ کہتے ہیں، یا جس دن حج قربانی کرتے ہیں وہ ”حج اکبر“ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان تمام باتوں کی موجودگی میں ذہن شدید الجھن کا شکار ہو جاتا ہے کہ ”حج اکبر“ کا کس پر اطلاق کیا جاسکتا ہے؟

جواب: ... جمعہ کے دن کے حج کو ”حج اکبر“ کہنا تو عوام کی اصطلاح ہے، قرآن مجید میں ”حج اکبر“ کا لفظ عمرہ کے مقابلے

(۱) ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا“ الآية (التحریم: ۸)۔

(۲) فرض مرّة لأن سببه البيت وهو واحد۔ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۵۵ طبع ایچ ایم سعید)۔

(۳) أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة۔ رواه رزين بن معاوية في تجريد الصحاح لكن نقل المناوي عن بعض الحفاظ أن هذا حديث باطل لا أصل له۔ (رد المختار ج: ۲ ص: ۶۲۱، مطلب في فضل وقفة الجمعة، طبع ایچ ایم سعید)۔

میں استعمال ہوا ہے۔<sup>(۱)</sup> باقی رہا یہ کہ جمعہ کے دن جو حج ہوا اس کی فضیلت ستر گنا ہے، اس مضمون کی ایک حدیث بعض کتابوں میں طبرانی کی روایت سے نقل کی ہے، مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں۔

## حج کے ثواب کا ایصالِ ثواب

سوال: ... اگر ایک شخص اپنا حج کر چکا ہے اور وہ کسی کے لئے بغیر نیت کئے حج کر کے اس کو بخش دیتا ہے مرحوم کو، تو کیا اس کا حج ادا ہو جائے گا؟ اگر نہیں ہو سکتا تو صحیح طریقہ اور نیت بتادیں۔

جواب: ... اگر مرحوم کے ذمہ حج فرض تھا اور یہ شخص اس کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتا ہے تو اس مرحوم کی طرف سے احرام باندھنا لازم ہوگا، ورنہ حج فرض ادا نہیں ہوگا، اور اگر مرحوم کے ذمہ حج فرض نہیں تھا تو حج کا ثواب بخشنے سے اس کو حج کا ثواب مل جائے گا۔<sup>(۲)</sup>

## کیا حجرِ اسود جنت سے ہی سیاہ رنگ کا آیا تھا؟

سوال: ... حجرِ اسود جو کہ کالے رنگ کا ایک پتھر ہے، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ حجرِ اسود لوگوں کے کثرتِ گناہ کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ جب یہ جنت سے آیا تھا تو اس کا رنگ کیسا تھا؟ اس وقت اسے ”حجرِ اسود“ نہ کہتے تھے، کیونکہ ”اسود“ کے تو معنی ہیں کالا، کیا حدیث سے اس پتھر کا اصلی رنگ کا پتہ چلتا ہے؟

جواب: ... جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے،<sup>(۳)</sup> وہ ترمذی، نسائی وغیرہ میں ہے، اور امام ترمذی نے اس کو ”حسن صحیح“ کہا ہے، اس حدیث میں مذکور ہے کہ یہ اس وقت سفید رنگ کا تھا، ظاہر ہے کہ جب یہ نازل ہوا ہوگا اس وقت اس کو ”حجرِ اسود“ نہ کہتے ہوں گے۔

## حرمین شریفین کے ائمہ کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بڑی محرومی ہے

سوال: ... میں چند دوستوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں کام کرتا ہوں، ابھی کچھ دنوں کے لئے پاکستان آیا ہوں، جب ہم مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے تو میرے دوستوں میں سے کوئی بھی حرمین شریفین کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے یہ کئی مرتبہ ان کو سمجھایا، وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ وہابی ہیں، پھر میں خاموش ہو جاتا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد بھی ان کے عمل میں تبدیلی نہیں آئی بلکہ ادھر تو کسی بھی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ چند خاص مسجدیں ہیں ان کے سوا سب کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں، ظاہری حالت ان کی یہ ہے کہ

(۱) ”وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ“ (التوبة: ۳)۔

(۲) تقبل النيابة عند العجز فقط وعن نية الحج عنه لأن الحج النقل يقبل النيابة من غير اشتراط عجز۔ (رد المختار ج: ۲ ص: ۵۹۸، مطلب فی الفرق بین العبادۃ والقربۃ والطاعة، طبع ایچ ایم سعید)۔

(۳) نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم۔ (ترمذی، باب ما جاء فی فضل الحجر والركن والمقام ج: ۱ ص: ۱۰۷ طبع مکتبہ رشیدیہ ساہیوال)۔



پگڑیاں پہنتے ہیں اور کندھوں پر دونوں جانب لمبا سا کپڑا بھی لٹکاتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی بات کہاں تک درست ہے؟ اور ان کی پیروی اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا کہاں تک ٹھیک ہے؟ اب تو ہمارے محلہ کی مسجد کے امام کو بھی نہیں مانتے، براہ مہربانی تفصیل سے جواب دیں۔

جواب: ... حریم شریفین پہنچ کر وہاں کی نماز باجماعت سے محروم رہنا بڑی محرومی ہے، حریم شریفین کے ائمہ، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، اہل سنت ہیں، اگرچہ ہمارا ان کے ساتھ بعض مسائل میں اختلاف ہے، لیکن یہ نہیں کہ ان کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھی جائے۔

## حج صرف مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے

سوال: ... میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ اگر پچیس اولیاء سندھ میں اور پیدا ہو جاتے تو حج یہاں ہوتا۔ وضاحت سے یہ بات بتائیں۔

جواب: ... اولیاء تو خدا جانے سندھ میں لاکھوں ہوئے ہوں گے، مگر حج تو ساری دنیا میں صرف ایک ہی جگہ ہوتا ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں<sup>(۱)</sup>۔ ایسی فضول باتیں کرنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔

## کیا لڑکی کا رخصتی سے پہلے حج ہو جائے گا؟

سوال: ... ایک لڑکی کا نکاح ایک لڑکے کے ساتھ ہو گیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اور نہ ہی دونوں فریقوں کا دو سال تک مزید رخصتی کرنے کا ارادہ ہے۔ لڑکا ملازمت کے سلسلے میں سعودی عرب میں مقیم ہے، لڑکا چاہتا ہے کہ وہ اپنے سعودی عرب کے قیام کے دوران اور رخصتی سے پہلے لڑکی کو اپنے ساتھ حج کروائے۔ تو کیا بغیر رخصتی کے لڑکی کو لڑکے کے ساتھ حج پر بھیجنا جائز ہے؟

جواب: ... حج کرا لے، دونوں کام ہو جائیں گے، رخصتی بھی اور حج بھی۔ جب نکاح ہو گیا تو دونوں میاں بیوی ہیں، رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔

## حاجی کو دریاؤں کے کن جانوروں کا شکار جائز ہے؟

سوال: ... قرآن مجید کی آیت ہے کہ دریاؤں کے جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے، مگر ہم صرف مچھلی حلال سمجھتے ہیں، جبکہ سمندروں میں اور بھی جاندار ہوتے ہیں۔

جواب: ... قرآن کریم نے احرام کی حالت میں دریائی جانوروں کے شکار کو حلال فرمایا ہے،<sup>(۲)</sup> خود ان جانوروں کو حلال نہیں فرمایا۔ کسی جانور کا شکار جائز ہونے سے خود اس جانور کا حلال ہونا لازم نہیں آتا، مثلاً: جنگلی جانوروں میں شیر اور چیتے کا شکار جائز ہے،

(۱) ہو زیارة مکان مخصوص ای الکعبة و عرفة۔ (تنویر الابصار ج: ۲ ص: ۴۵۳ طبع ایچ ایم سعید)۔

(۲) "أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَانَهُ مَتَعَاكُمْ وَلِلْسِيَارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا ذُمُّمُ حُرْمًا" (المائدة: ۹۶)۔

مگر یہ جانور حلال نہیں۔ اسی طرح تمام دریائی جانوروں کا شکار تو جائز ہے، مگر دریائی جانوروں میں سے صرف مچھلی کو حلال فرمایا گیا ہے (نصب الرایۃ ج: ۴ ص: ۲۰۲) اس لئے ہم صرف مچھلی کو حلال سمجھتے ہیں۔

### حدودِ حرم میں جانور ذبح کرنا

سوال: ... جیسا کہ حکم ہے کہ حدودِ حرم کے اندر ماسوائے ان کیڑے مکوڑوں کے جو کہ انسانی جان کے دشمن ہیں، کسی جاندار چیز کا حتیٰ کہ درخت کی ٹہنی توڑنا بھی منع ہے۔ لیکن یہ جو روازنہ سینکڑوں کے حساب سے مرغیاں اور دوسرے جانور حدودِ حرم میں ذبح ہوتے ہیں، تفصیل سے واضح کریں کہ ان جانوروں کا حدودِ حرم میں ذبح کرنا کیا جائز ہے؟

جواب: ... حدودِ حرم میں شکار جائز نہیں،<sup>(۲)</sup> پالتو جانوروں کو ذبح کرنا جائز ہے۔<sup>(۳)</sup>

### سانپ بچھو وغیرہ کو حرم میں، اور حالتِ احرام میں مارنا

سوال: ... آیامِ حج میں بحالتِ احرام اگر کسی موذی جانور مثلاً: سانپ، بچھو وغیرہ کو مارا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ یا ان جیسی چیزوں کے مارنے سے بھی ”دم“ دینا لازم ہو جاتا ہے؟

جواب: ... ایسے موذی جانوروں کو حرم میں اور حالتِ احرام میں مارنا جائز ہے۔<sup>(۴)</sup>

### حج کے دوران تصویر بنوانا

سوال: ... ایک شخص حج پر جاتا ہے، مناسکِ حج ادا کرتے وقت وہ اجرت دے کر ایک فوٹو گرافر سے تصویریں اُترواتا ہے، مثلاً: احرام باندھے ہوئے، قربانی کرتے وقت وغیرہ۔ تصویر اُترانا تو ویسے ہی ناجائز ہے، لیکن حج کے دوران تصویر اُتروانے سے حج کے ثواب میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے یا نہیں؟

جواب: ... حج کے دوران گناہ کا کام کرنے سے حج کے ثواب میں ضرور خلل آئے گا، کیونکہ حدیث میں ”حجِ مبرور“ کی فضیلت آئی ہے، اور ”حجِ مبرور“ وہ کہلاتا ہے جس میں گناہوں سے اجتناب کیا جائے، اگر حج میں کسی گناہ کا ارتکاب کیا جائے تو حج

(۱) یحل لنا من المیتة اثنتان ومن الدم اثنان، فأما المیتة فالسمک والجراد وأما الدم فالکبد والطحال۔ (نصب الرایة ج: ۴ ص: ۲۰۲، طبع دار الکتب العلمیة، بیروت)۔

(۲) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ..... ان هذا البلد حرّمہ اللہ ..... لا یعضد شوکہ ولا ینفر صیدہ ولا یلتقط القطنہ إلا من عرفہا۔ (مشکوٰۃ ص: ۲۳۷، ۲۳۸، باب حرم مکة)۔

(۳) ولا بأس للمُحرم أن یذبح الشاة والبقرۃ والعیر ..... لأن هذه الأشياء لیست بصیود۔ (الهدایة مع البناية ج: ۵ ص: ۳۱۲، کتاب الحج، باب الجنایات)۔

(۴) عن ابن عمر رضی اللہ عنہما من الدواب لیس علی المحرم فی قلتہن جُناح العقرب والفارة والغراب والحدأة۔ (البناية فی شرح الهدایة ج: ۵ ص: ۲۷۸، کتاب الحج، باب الجنایات)۔

”حج مبرور“ نہیں رہتا۔<sup>(۱)</sup> علاوہ ازیں اس طرح تصویریں کھنچوانا اس کا منشا تفاخر اور ریاکاری ہے کہ اپنے دوستوں کو دکھاتے پھریں گے، اور ریاکاری سے اعمال کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔

## ہیچڑہ کی زندگی گزارنے سے توبہ اور حرام رقم سے حج

سوال: ... میں پانچویں جماعت میں پڑھتا تھا، مجھے ایک بردہ فروش نے بنوں سے اغوا کر کے ہیچڑوں کے پاس فروخت کر دیا، جنہوں نے مجھے رضا کارانہ طور پر ناچ گانا سیکھنے اور زنانہ لباس پہننے کو کہا، لیکن میرے انکار پر کھانے میں بے ہوشی کی دواملا کر مجھے بے ہوش کیا گیا، پھر میرا آپریشن کر کے مجھے مردانہ اجزا سے محروم کر دیا گیا، اس طرح میں دوبارہ گھر جانے یا کسی اور جگہ پناہ لینے کے قابل نہ رہا۔ مجھے ناچ گانا سکھایا گیا، میرے بال بڑھوا دیئے گئے، میرے کان چھدوا کر بالیاں پہنائی گئیں اور ناک چھدوا کر کیل ڈالی گئی۔ ظاہر ہے مجھے کوئی انکار نہیں ہو سکتا تھا، اور میں بیس سال تک ہیچڑوں میں رہا ہوں۔ اب سب مرکھپ گئے ہیں اور میں ڈیرے کا مالک ہوں۔ میرے پاس کافی رقم ہے، چاہتا ہوں کہ حج کر آؤں، لوگ کہتے ہیں پیسہ حرام کا ہے اور تم بھی مجرم ہو، آپ مہربانی کر کے بتائیں کہ میرا حج ہو سکتا ہے؟

جواب: ... آپ ان تمام غیر شرعی افعال سے توبہ کریں، جو روپیہ آپ کے پاس ہے، اس سے حج نہ کریں بلکہ کسی غیر مسلم سے حج کے لئے قرض لے کر حج کریں اور جو رقم آپ کے پاس جمع ہے اس سے قرض ادا کر دیں۔ آئندہ کے لئے زنانہ وضع ترک کر دیں، مردانہ لباس پہنیں اور اپنا ڈیرہ بھی ختم کر دیں۔<sup>(۲)</sup>

## حرم میں چھوڑے ہوئے جوتوں اور چپلوں کا شرعی حکم

سوال: ... حرم میں چپلوں اور جوتوں کے بارے میں کیا حکم ہے جو عام طور پر تبدیل ہو جاتے ہیں؟ کیا ایک بار اپنی ذاتی چپل پہن کر جانا اور تبدیل ہونے پر ہر بار ایک نئی چپل پہن کر آنا جانا جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے جائز ہے؟

جواب: ... جن چپلوں کے بارے میں خیال ہو کہ مالک ان کو تلاش کرے گا، ان کا پہننا صحیح نہیں، اور جن کو اس خیال سے چھوڑ دیا گیا کہ خواہ کوئی پہن لے، ان کا پہننا صحیح ہے۔ یوں بھی ان کو اٹھا کر ضائع کر دیا جاتا ہے۔<sup>(۳)</sup>

(۱) عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من حجّ لہ فلم یرفت ولم یفسق رجوع کیوم ولدتہ أمہ۔ (مشکوٰۃ ص: ۲۲۱، کتاب المناسک)۔ والفسوق أى الخروج عن طاعة اللہ۔ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۸۷ طبع ایچ ایم سعید)۔

(۲) ویجتہد فی تحصیل نفقۃ حلال فبانہ لا یقبل بالنفقۃ الحرام کما ورد فی الحدیث مع أنّہ یسقط الفرض عنہ معہا۔ (رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۵۶، مطلب فیمن حج بمال حرام، طبع ایچ ایم سعید)۔

(۳) ولو من الحرم..... فینتفع الرافع بہا۔ وفی رد المحتار: أى الی أن غلب علی ظنہ أن صاحبہا لا یطلبہا۔ (رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۷۹، کتاب اللقطة، طبع ایچ ایم سعید)۔

## حج کے دنوں میں غیر قانونی طور پر گاڑی کرایہ پر چلانا

سوال: ... یہاں سعودیہ میں کام کرنے والے دین دار حضرات کو حج اور عمرہ کرنے کا بے حد شوق ہوتا ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ زندگی کے اس آخری رکن اور صرف زندگی میں ایک مرتبہ ادا ایگی کی فرضیت ہونے کے باوجود مندرجہ ذیل فریب دہی اور حیلہ سازی و جھوٹ سے کام لے کر ان مقدس فریضوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان اور حج کے زمانے میں لوگ گاڑیاں اس نیت سے خرید لیتے ہیں کہ دوسروں کو عمرہ اور حج پر کرائے پر لے جائیں گے، اس طرح گاڑی کی اچھی خاصی رقم کرائے سے قلیل مدت میں وصول ہو جائے گی، اور عمرہ و حج بھی ہو جائے گا۔

یاد رہے کہ یہاں غیر سعودی کو کرایہ پر گاڑی چلانے کی اجازت نہیں، اور بیشتر راستے کی چوکیوں پر معلوم کیا جاتا ہے تو حالت احرام میں بھی بر ملا کہتے ہیں کہ ہم دوست ہیں، کرائے پر نہ لے جا رہے ہیں اور نہ کرائے پر جا رہے ہیں، (لے جانے والا اور جانے والے جھوٹ بولتے ہیں)۔

جواب: ... حج کے لئے گاڑی لینے اور اس کو کرائے پر چلانے میں تو کوئی حرج نہیں، مگر چونکہ قانوناً منع ہے اور اس کی خاطر جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس لئے حج گناہ سے پاک نہ ہوا۔<sup>(۱)</sup>

## بغیر اجازت کے کمپنی کی گاڑی وغیرہ حج کے لئے استعمال کرنا

سوال: ... ملازمین، عمرہ اور حج کے لئے کمپنی کی گاڑیاں جو ان کے شہر میں استعمال کے لئے ہوتی ہیں، ان کو لے کر خاموشی سے سفر پر چلے جاتے ہیں یا جن کے تعلقات ان کے افسروں سے اچھے ہوتے ہیں ان سے اجازت لے کر اس مقدس فریضے کے سفر پر جاتے ہیں۔ اسی طرح ملازمین، حج اور عمرے پر جاتے وقت کمپنی کا سامان مثلاً: تکیے، کمل، واٹر کولر، چادریں، برتن وغیرہ بھی خاموشی سے یا تعلقات کی بنا پر اجازت لے کر لے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ عام ملازمین ایسی مراعات کمپنیوں سے نہیں حاصل کر پاتے اور ان کو کمپنی اجازت نہیں دیتی۔

جواب: ... اگر کمپنی کی اجازت نہیں تو کمپنی کی گاڑیوں اور دوسرے سامان کا استعمال جائز نہیں، یہ خیانت اور چوری ہے۔<sup>(۲)</sup>

## حاجیوں کا تحفے تحائف دینا

سوال: ... اکثر لوگ جب عمرہ یا حج کے لئے جاتے ہیں تو ان کے عزیز نہیں تحفے میں مٹھائی، نقد روپے وغیرہ دیتے ہیں، اور جب یہ لوگ حج کر کے آتے ہیں تو تبرک کے نام سے ایک رسم ادا کرتے ہیں جس میں وہ کھجوریں، زمزم اور ان کے ساتھ دوسری

(۱) وبعده أى الإحرام يتقى الرفث ..... والفسوق أى الخروج عن طاعة الله. (در مختار ج: ۲ ص: ۴۸۶)۔

(۲) أيضاً۔

چیزیں رہنا بنتے ہیں، کیا یہ رواج درست ہے؟

جواب: ... عزیز واقارب اور دوست احباب کو تحفے تحائف دینے کا تو شریعت میں حکم ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔<sup>(۱)</sup> مگر دلی رغبت و محبت کے بغیر محض نام کے لئے یا رسم کی لیکر پیٹنے کے لئے کوئی کام کرنا بڑی بات ہے۔ حاجیوں کو تحفے دینا اور ان سے تحفے وصول کرنا آج کل ایسا رواج ہو گیا ہے کہ محض نام اور شرم کی وجہ سے یہ کام خواہی نخواہی کیا جاتا ہے، یہ شرعاً لائق ترک ہے۔

## حج کے ولیمے کی شرعی حیثیت

سوال: ... لوگ حج ولیمے پر بڑا زور دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر حج ولیمہ نہ کیا جائے تو وبال آتا ہے، آپ سے دریافت کرنا ہے کہ حج ولیمے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ سنت ہے یا صحابہ کرامؓ نے کیا ہے؟

جواب: ... حج کا ولیمہ سنت سے، صحابہ کرامؓ کے عمل سے ثابت نہیں۔

## ادا ینگى حج کا عقیقہ

سوال: ... میری نانی گزشتہ سال حج کر کے آئی ہیں، ان سے کسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ حج کے بعد حج کا عقیقہ کرنا ضروری ہے۔ اب نانی اس بات پر اصرار کر رہی ہیں کہ میرے حج کا عقیقہ کیا جائے۔ کیا یہ درست ہے؟

جواب: ... یہ کسی نے غلط کہا ہے کہ حج کا عقیقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نانی کے حج کو قبول فرمائیں، حج کا عقیقہ نہیں ہوتا۔

## حج کرنے کے بعد ”حاجی“ کہلانا اور نام کے ساتھ لکھنا

سوال: ... حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اپنے نام میں لفظ ”حاجی“ لگانا کیا جائز ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں تاکہ میں بھی اپنے نام میں ”حاجی“ لگا لوں یا نہ لگاؤں، بہتر کیا ہے؟

جواب: ... اپنے نام کے ساتھ ”حاجی“ کا لقب لگانا بھی ریا کاری کے سوا کچھ نہیں۔ حج تو رضائے الہی کے لئے کیا جاتا ہے، لوگوں سے ”حاجی“ کہلانے کے لئے نہیں۔ دوسرے لوگ اگر ”حاجی صاحب“ کہیں تو مضائقہ نہیں لیکن خود اپنے نام کے ساتھ ”حاجی“ کا لفظ لکھنا بالکل غلط ہے۔

## حاجیوں کا استقبال کرنا شرعاً کیسا ہے؟

سوال: ... اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ حج کی سعادت حاصل کر کے آنے والے حضرات کو لواحقین ایئر پورٹ یا بندرگاہ پر بڑی

(۱) حلال من الجانین کا اہداء للتودد و حرام منہما کا اہداء لبعینہ علی الظلم۔ (رد المحتار ج: ۵ ص: ۳۶۲، مطلب فی الکلام علی الرشوة والهدية، طبع ایچ ایم سعید)۔

تعداد میں لینے جاتے ہیں، حاجی کے باہر آتے ہی اسے پھولوں سے لاد دیتے ہیں، پھر ہر شخص حاجی سے گلے ملتا ہے، حاجی صاحبان ہار پہنے ہوئے ہی ایک سچی سجائی گاڑی میں ڈولہا کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، گلی اور گھر کو بھی خوب حاجی صاحب کی آمد پر سجایا جاتا ہے، جگہ جگہ ”حج مبارک“ کی عبارت کے کتبے لگے نظر آتے ہیں، بعض لوگ تو مختلف نعرے بھی لگاتے ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ ہار، پھول، کتبے، نعرے اور گلے ملنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے کیا اس طرح اخلاص برقرار رہتا ہے؟

جواب: ... حاجیوں کا استقبال تو اچھی بات ہے، ان سے ملاقات اور مصافحہ اور معانقتہ بھی جائز ہے، اور ان سے دُعا کرانے کا بھی حکم ہے۔<sup>(۱)</sup> لیکن یہ پھول اور نعرے وغیرہ حدود سے تجاوز ہے، اگر حاجی صاحب کے دل میں عُجب پیدا ہو جائے تو حج ضائع ہو جائے گا۔ اس لئے ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہئے۔<sup>(۲)</sup>

(۱) وقد كان من سنة الخلف أن يشيعوا الغزاة ..... وأن يستقبلوا الحاج إذا قدموا ويقبلوا بين أعينهم ... الخ. (اتحاف بحوالہ عمدة الفقه ج: ۴ ص: ۲۰).

(۲) العُجب عبارة عن تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكون مستحقاً لها. (قواعد الفقه ص: ۳۷۳).

## عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے مسائل کی تفصیل

(یہ حضرت مصنف مدظلہ کا ایک مفید مضمون ہے، اس لئے شامل کیا جا رہا ہے)

### فضائل قربانی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، کسی سال ترک نہیں فرمائی، اس سے مواظبت ثابت ہوئی جس کا مطلب ہے لگا تار کرنا، اس طرح اس سے وجوب ثابت ہوا۔<sup>(۱)</sup> آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے پر وعید فرمائی، احادیث میں بہت سی وعیدیں مذکور ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ: ”جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔“<sup>(۲)</sup> قربانی کی بہت سی فضیلتیں ہیں، مسند احمد کی روایت میں ایک حدیث پاک ہے، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”قربانی تمہارے باپ (ابراہیم علیہ السلام) کی سنت ہے۔“ صحابی نے پوچھا: ”ہمارے لئے اس میں کیا ثواب ہے؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔“<sup>(۳)</sup> اُون کے متعلق فرمایا: ”اس کے ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔“ (مشکوٰۃ ص: ۱۲۹)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”قربانی سے زیادہ کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، الا یہ کہ رشتہ داری کا پاس کیا جائے۔“ (طبرانی)۔<sup>(۴)</sup>

قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بہت بڑا عمل ہے، حدیث میں ہے کہ: ”قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز

(۱) عن ابن عمر قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي. رواه الترمذی. (مشکوٰۃ ص: ۱۲۹)۔

(۲) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مُصلانا. (الترغيب ج: ۲ ص: ۱۵۵، الترغيب في صدقة الفطر وبيان تأكيدها)۔

(۳) عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام! قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة! قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. (مشکوٰۃ، باب في الأضحية ص: ۱۲۹، الترغيب ج: ۲ ص: ۱۵۳)۔

(۴) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أضحي: ما عمل آدم في هذا اليوم أفضل من دم يهراق إلا أن يكون رحماً مقطوعة توصل. رواه الطبرانی في الكبير. (مجمع الزوائد، باب فضل الأضحية وشهود ذبحها ج: ۴ ص: ۵ طبع دار الكتب العلمية، بيروت)۔

اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے“ (مشکوٰۃ شریف ص: ۱۲۸)۔<sup>(۱)</sup>

## قربانی کس پر واجب ہے؟

چند صورتوں میں قربانی کرنا واجب ہے:

- ۱: ... کسی شخص نے قربانی کی منت مانی ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔<sup>(۲)</sup>
- ۲: ... کسی شخص نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی ہو اور اتنا مال چھوڑا ہو کہ اس کے تہائی مال سے قربانی کی جاسکے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔<sup>(۳)</sup>
- ۳: ... جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔<sup>(۴)</sup> پس جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزمرہ استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کا نقد روپیہ، مال تجارت یا دیگر سامان ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔<sup>(۵)</sup>
- \* ... مثلاً: ایک شخص کے پاس دو مکان ہیں، ایک مکان اس کی رہائش کا ہے اور دوسرا خالی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، جبکہ اس خالی مکان کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو۔<sup>(۶)</sup>
- \* ... یا مثلاً: ایک مکان میں وہ خود رہتا ہو اور دوسرا مکان کرایہ پر اٹھایا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، البتہ اگر اس کا

(۱) عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم ..... وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفساً. رواه الترمذی وابن ماجه. (مشکوٰۃ ص: ۱۲۸، کتاب الأضحیة، الفصل الثانی).

(۲) أما الذی یجب علی الغنی والفقیر فالمنذور به ..... أو قال جعلت هذه الشاة ضحیة أو أضحیة وهو غنی أو فقیر لأن هذه قربة لله تعالیٰ عز شأنه. (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۶۱، کتاب التضحیة).

(۳) ولو أوصی بأن یشتري بقرة بجميع ماله ویضحی بها عنه فمات ولم تجز الورثة فالوصیة جائزة بالثلث بلا خلاف ویشتري بالثلث شاة ویضحی بها عنه. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۳۰۶). ولو مات بعد مضي أيام النحر لم یسقط التصدق بقيمة الشاة حتی یلزمه الإیضاء به هكذا فی الظهيرية. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۷، کتاب الأضحیة، الباب الرابع).

(۴) (وأما شرائط الوجوب) منها اليسار وهو ما یعلق به وجوب صدقة الفطر دون ما یعلق به وجوب الزکوة. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۲، کتاب الأضحیة، الباب الأول).

(۵) والیسار بان ملک مائتی درهم أو عرضا یساویها غیر مسکنه وثیاب اللبس. (الدر المختار ج: ۶ ص: ۳۱۲). أو متاع یحتاجه إلى أن یذبح الأضحیة ولو له عقار یستغله فقیل تلزم لو قیمته نصاباً. (رد المختار ج: ۶ ص: ۳۱۲).

(۶) ولو كان له دار فیها بیتان شتوی و صیفی وفرش شتوی و صیفی لم یکن بها غنیاً فإن كان له فیها ثلاثة بیوت وقيمة الثالث مائتا درهم فعليه الأضحیة وكذا الفرش الثالث. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۳). ولو كان فی دار بأجرة فاشتري أرضاً بنصاب وبنی فیها منزلاً یسکنه لزمت. (فتاویٰ بزازیة علی هامش الهندیة ج: ۶ ص: ۲۸۷).



ذریعہ معاش یہی مکان کا کرایہ ہے تو یہ بھی ضروریاتِ زندگی میں شمار ہوگا اور اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگی۔<sup>(۱)</sup>

\*... یا مثلاً: کسی کے پاس دو گاڑیاں ہیں، ایک عام استعمال کی ہے اور دوسری زائد تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔<sup>(۲)</sup>

\*... یا مثلاً: کسی کے پاس دو پلاٹ ہیں، ایک اس کے سکونتی مکان کے لئے ہے اور دوسرا زائد، تو اگر اس کے دوسرے

پلاٹ کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔<sup>(۳)</sup>

\*... عورت کا مہر معجل اگر اتنی مالیت کا ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، یا صرف والدین کی طرف سے دیا گیا زیور اور

استعمال سے زائد کپڑے نصاب کی مالیت کو پہنچتے ہوں تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔<sup>(۴)</sup>

\*... ایک شخص ملازم ہے، اس کی ماہانہ تنخواہ سے اس کے اہل و عیال کی گزر بسر ہو سکتی ہے، پس انداز نہیں ہو سکتی، اس پر

قربانی واجب نہیں جبکہ اس کے پاس کوئی اور مالیت نہ ہو۔<sup>(۵)</sup>

\*... ایک شخص کے پاس زرعی اراضی ہے، جس کی پیداوار سے اس کی گزر اوقات ہوتی ہے، وہ زمین اس کی ضروریات

میں سے سمجھی جائے گی۔

\*... ایک شخص کے پاس بل جوتنے کے لئے نیل اور دو دھیاری گائے بھینس کے علاوہ اور مویشی اتنے ہیں کہ ان کی مالیت

نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔<sup>(۶)</sup>

۴... ایک شخص صاحبِ نصاب نہیں، نہ قربانی اس پر واجب ہے، لیکن اس نے شوق سے قربانی کا جانور خرید لیا تو قربانی

واجب ہے۔<sup>(۷)</sup>

۵... مسافر پر قربانی واجب نہیں۔<sup>(۸)</sup>

(۱) لها دار تبلغ نصاباً تسكنها مع الزوج إذا قدر زوجها على الإسكان تلزمها وآلا لا۔ (فتاویٰ بزازیة علی هامش الہندیة ج: ۶ ص: ۲۸۷، طبع رشیدیہ کوئٹہ)۔

(۲) فإن كان له فرسان أو حماران أحدهما يساوي مائتين فهو نصاب۔ (عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۳، کتاب الأضحیة، الباب الأول)۔  
(۳) حوالہ سابقہ۔

(۴) والمرأة موسرة بالمعجل لو الزوج ملياً وبالمؤجل لا۔ (حاشیة رد المختار ج: ۶ ص: ۳۱۲، کتاب الأضحیة)۔ وصاحب الثياب الأربعة لو ساوي الرابع نصاباً غني وثلاثة فلا، لأن أحدها للبدلة والآخر للمهنة والثالث للجمع والوفد والأعياد۔ (رد المختار ج: ۶ ص: ۳۱۲، کتاب الأضحیة)۔

(۵) واليسار بأن ملك مائة درهم أو عرضاً يساويها غير مسكنة وثياب اللبس۔ (الدر المختار ج: ۶ ص: ۳۱۲)۔

(۶) والدهقان بفرس واحد وبحمار واحد لا يكون غنياً وبالزائد عليه لو بلغ نصاباً غني۔ (فتاویٰ بزازیة علی هامش الہندیة ج: ۶ ص: ۲۸۷، کتاب الأضحیة)۔

(۷) وأما يجب على الفقير دون الغني فالمشترى للأضحیة إذا كان المشتري فقيراً... الخ۔ (عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۱)۔

(۸) وأما شرائط الوجوب..... ومنها الإقامة فلا تجب على المسافر۔ (فتاویٰ عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۲)۔

۶: صحیح قول کے مطابق بچے اور مجنون پر قربانی واجب نہیں، خواہ وہ مال دار ہوں۔<sup>(۱)</sup>

## قربانی کا وقت

۱: بقر عید کی دسویں تاریخ سے لے کر بارہویں تاریخ تک کی شام (آفتاب غروب ہونے سے پہلے) تک قربانی کا وقت ہے، ان دنوں میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے، لیکن پہلا دن افضل ہے، پھر گیارہویں تاریخ، پھر بارہویں تاریخ۔<sup>(۲)</sup>

۲: شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں، اگر کسی نے عید سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو یہ گوشت کا جانور ہوا، قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ دیہات میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، عید کے دن صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد قربانی کرنا درست ہے۔<sup>(۳)</sup>

۳: اگر شہری آدمی خود تو شہر میں موجود ہے، مگر قربانی کا جانور دیہات میں بھیج دے اور وہاں صبح صادق کے بعد قربانی ہو جائے تو درست ہے۔<sup>(۴)</sup>

۴: ان تین دنوں کے دوران رات کے وقت قربانی کرنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر نہیں۔<sup>(۵)</sup>

۵: اگر ان تین دنوں کے اندر کوئی مسافر اپنے وطن پہنچ گیا یا اس نے کہیں اقامت کی نیت کر لی اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہوگی۔<sup>(۶)</sup>

۶: جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے، اس کے لئے ان دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کرنا ہی لازم ہے، اگر اتنی رقم صدقہ خیرات کر دے تو قربانی ادا نہیں ہوگی اور یہ شخص گناہ گار ہوگا۔<sup>(۷)</sup>

۷: جس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی اور ان تین دنوں میں اس نے قربانی نہیں کی تو اس کے بعد قربانی کرنا درست نہیں، اس شخص کو توبہ و استغفار کرنی چاہئے اور قربانی کے جانور کی مالیت صدقہ خیرات کر دے۔<sup>(۸)</sup>

(۱) إتفق الفقهاء على أن المطالب بالأضحية هو المسلم الحر البالغ العاقل... إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۶۰۳). إن الأضحية تستحب ولا تجب عن الولد الصغير. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۶۰۴).

(۲) وقت الأضحية ثلاثة أيام: العاشر والحادي عشر والثاني عشر، أولها أفضلها وآخرها أدونها... إلخ. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۵، كتاب الأضحية، الباب الثالث في وقت الأضحية).

(۳) لا يجوز لأهل الأمصار الذبح..... إلا بعد صلاة العيد..... وأما أهل القرى..... فيذبحون بعد الفجر اليوم الأول. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۶۰۶، الأضحية، طبع دار الفكر، بيروت).

(۴) ولو أن رجلاً من أهل السواد دخل المصر لصلاة الأضحية وأمر أهله أن يضحوا عنه جاز أن يذبحوا عنه بعد طلوع الفجر قال محمد رحمه الله تعالى: أنظر في هذا إلى موضع الذبح دون المذبح عنه كذا في الظهيرية. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۶، كتاب الأضحية، الباب الرابع فيما يتعلق بالمكان والزمان).

(۵) ويجوز في نهارها وليلها..... إلا أنه يكره الذبح في الليل. (عالمگیری، كتاب الأضحية ج: ۵ ص: ۲۹۵).

(۶) حتى لو كان مسافراً في أول الوقت ثم أقام في آخره تجب عليه. (عالمگیری، كتاب الأضحية ج: ۵ ص: ۲۹۲).

(۷) ومنها أن لا يقوم غيرها مقامها في الوقت حتى لو تصدق بعين الشاة أو قيمتها في الوقت لا يجزئه عن الأضحية. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۳، ۲۹۴، كتاب الأضحية).

(۸) ايضاً حوالہ بالا۔

- ۸: ... ایک شخص نے قربانی کا جانور باندھ رکھا تھا، مگر کسی عذر کی بنا پر قربانی کے دنوں میں ذبح نہیں کر سکا تو اس کا اب صدقہ کر دینا واجب ہے، ذبح کر کے گوشت کھانا درست نہیں۔<sup>(۱)</sup>
- ۹: ... قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا مستحب ہے، لیکن جو شخص ذبح کرنا نہ جانتا ہو یا کسی وجہ سے ذبح نہ کرنا چاہتا ہو اسے ذبح کرنے والے کے پاس موجود رہنا بہتر ہے۔<sup>(۲)</sup>
- ۱۰: ... قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت کے الفاظ پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ دل میں نیت کر لینا کافی ہے، اور بعض دعائیں جو حدیث پاک میں منقول ہیں اگر کسی کو یاد ہوں تو ان کا پڑھنا مستحب ہے۔<sup>(۳)</sup>

## کسی دوسرے کی طرف سے نیت کرنا

- ۱: ... قربانی میں نیابت جائز ہے، یعنی جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے اگر اس کی اجازت سے یا حکم سے دوسرے شخص نے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو جائز ہے، لیکن اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی۔<sup>(۴)</sup> اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم کے بغیر شریک کیا گیا تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔<sup>(۵)</sup>
- ۲: ... آدمی کے ذمہ اپنی اولاد کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں، اگر اولاد بالغ اور مال دار ہو تو خود کرے۔<sup>(۶)</sup>
- ۳: ... اسی طرح مرد کے ذمہ بیوی کی جانب سے قربانی کرنا لازم نہیں، اگر بیوی صاحب نصاب ہو تو اس کے لئے الگ قربانی کا انتظام کیا جائے۔<sup>(۷)</sup>
- ۴: ... جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو وہ اپنی واجب قربانی کے علاوہ اپنے مرحوم والدین اور دیگر بزرگوں کی طرف سے بھی قربانی کرے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔<sup>(۸)</sup> آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بھی ہم پر بڑے احسانات اور حقوق ہیں،

(۱) ولو لم يضح حتى مضت أيام النحر فقد فاته الذبح ..... تصدق بقيمة شاة. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۶، کتاب الأضحية، الباب الرابع). أيضا: وإن كان أوجب شاة بعينها أو اشترى شاة يضحى بها فلم يفعل حتى مضت أيام النحر تصدق به حية ولا يجوز الأكل منها. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۶، کتاب الأضحية، الباب الرابع فيما يتعلق بالمكان والزمان).

(۲) فالأفضل أن يذبح بنفسه إن قدر عليه هذا إذا كان الرجل يحسن الذبح فأما إذا لم يحسنه فتوليته غيره فيه أولى. (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۷۹، کتاب الأضحية).

(۳) ويكفيه أن ينوي بقلبه ولا يشترط أن يقول بلسانه. (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۷۱، کتاب الأضحية، فصل شرائط الجواز).

(۴) ولو ضحى عن أولاده الكبار وزوجته لا يجوز إلا بإذنهم. (رد المحتار ج: ۶ ص: ۳۱۵، کتاب الأضحية).

(۵) في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وإن فعل بغير أمرهم أو بغير أمر بعضهم لا تجوز عنه ولا عنهم في قولهم جميعا لأن نصيب عن لم يأمر صار لحما فصار الكل لحما. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۳۰۲، الباب السابع في الأضحية عن الغير).

(۶ و ۷) وليس على الرجل أن يضحى عن أولاده الكبار وامراته إلا بإذنه. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۳، کتاب الأضحية).

(۸) مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير (قوله بعبادة ما) أي سواء كانت صلاة أو صوماً أو صدقة أو قراءة أو ذكراً أو طوافاً أو حجاً أو عمرة أو غير ذلك ..... الأفضل لمن يتصدق نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۵۹۵، باب الحج عن الغير).

اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، مگر اپنی واجب قربانی لازم ہے، اس کو چھوڑنا جائز نہیں۔

## قربانی کن جانوروں کی جائز ہے؟

۱: ... بکری، بکرا، مینڈھا، بھیڑ، ڈنبہ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی کی قربانی درست ہے، ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔<sup>(۱)</sup>

۲: ... گائے، بھینس، اونٹ میں اگر سات آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ ساتویں حصے سے کم نہ ہو۔<sup>(۲)</sup> اور یہ بھی شرط ہے کہ سب کی نیت قربانی یا عقیقہ کی ہو،<sup>(۳)</sup> صرف گوشت کھانے کے لئے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو، اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہ ہوگی۔<sup>(۴)</sup>

۳: ... کسی نے قربانی کے لئے گائے خریدی اور خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شریک کر لیں گے، اور بعد میں دوسروں کا حصہ رکھ لیا تو یہ درست ہے۔<sup>(۵)</sup>

لیکن اگر گائے خریدتے وقت دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت تھی، مگر اب دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے، تو یہ دیکھیں گے کہ آیا اس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اگر واجب ہے تو دوسروں کو بھی شریک کر تو سکتا ہے مگر بہتر نہیں، اور اگر اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی تو دوسروں کو شریک کرنا درست نہیں۔<sup>(۶)</sup>

۴: ... اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا اور اس نے دوسرا خرید لیا، پھر اتفاق سے پہلا بھی مل گیا، تو اگر اس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی تب تو صرف ایک جانور کی قربانی اس کے ذمہ ہے، اور اگر واجب نہیں تھی تو دونوں جانوروں کی قربانی لازم ہوگئی۔<sup>(۷)</sup>

(۱) أما جنسه فهو أن يكون من الأجناس الثلاثة الغنم أو الإبل أو البقر ويدخل في كل جنس نوعه الذكر والأنثى منه ..... والمعز نوعان من الغنم والجاموس نوع من البقر. (فتاوى عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۷، الباب الخامس).

(۲) والبقر والبقر يعجزى عن سبعة إذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى والتقدير بالسبع يمنع الزيادة ولا يمنع النقصان. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۳۰۳، كتاب الأضحية، الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة في الضحايا).

(۳) ولو أرادوا القرية الأضحية أو غيرها من القرب أجزاءهم ..... وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له ... الخ. (فتاوى عالمگیری ج: ۵ ص: ۳۰۳، كتاب الأضحية، الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة في الضحايا).

(۴) لا يشارك المضحى فيما يحتمل الشركة من لا يريد القرية رأساً فإن شارك لم يعجز عن الأضحية. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۳۰۳، كتاب الأضحية، الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة في الضحايا).

(۵) ولو اشترى بقرة يريد أن يضحي بها ثم أشرك فيها ستة يكره ..... إلا أن يريد حين اشتراها أن يشركهم فيها فلا يكره. (فتاوى عالمگیری ج: ۵ ص: ۳۰۳، كتاب الأضحية، الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة في الضحايا).

(۶) وإن فعل ذلك قبل أن يشتريها كان أحسن وهذا إذا كان موسراً وإن كان معسراً فقد أوجب بالشراء فلا يجوز أن يشرك فيها وكذلك لو أشرك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه لم يسعه ... الخ. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۳۰۳).

(۷) ضلت أو سرفت فاشترى أخرى ثم وجدها فالأفضل ذبحهما وإن ذبح الأولى جاز ..... قال بعضهم إن وجبت عن يسار فكذا الجواب وإن عن إعسار ذبحهما ... الخ. (الدر المختار ج: ۶ ص: ۳۲۳، كتاب الأضحية).

۵: ... بکری اگر ایک سال سے کم عمر کی ہو خواہ ایک ہی دن کی کمی ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں، پورے سال کی ہو تو درست ہے۔ اور گائے یا بھینس پورے دو سال کی ہو تو قربانی درست ہوگی، اس سے کم عمر کی ہو تو درست نہیں۔ اور اونٹ پورے پانچ سال کا ہو تو قربانی درست ہوگی۔<sup>(۱)</sup>

۶: ... بھیڑ، یا ذنبہ اگر چھ مہینے سے زائد کا ہو اور اتنا فرہ یعنی موٹا تازہ ہو کہ اگر پورے سال والے بھیڑ ذنبوں کے درمیان چھوڑا جائے تو فرق معلوم نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور اگر کچھ فرق معلوم ہوتا ہے تو قربانی درست نہیں۔<sup>(۲)</sup>

۷: ... جو جانور اندھایا کا نا ہو یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زائد جاتی رہی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔<sup>(۳)</sup>

۸: ... جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف تین پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں یا رکھتا ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر چلنے میں چوتھے پاؤں کا سہارا تو لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔<sup>(۴)</sup>

۹: ... اگر جانور اتنا ڈبلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ رہا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر ایسا ڈبلا نہ ہو تو قربانی درست ہے۔<sup>(۵)</sup> جانور جتنا موٹا، فرہ ہو اسی قدر قربانی اچھی ہے۔<sup>(۶)</sup>

۱۰: ... جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا زیادہ دانت جھڑ گئے ہوں اس کی قربانی درست نہیں۔<sup>(۷)</sup>

۱۱: ... جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں اس کی قربانی کرنا درست نہیں، اگر کان تو ہوں مگر چھوٹے ہوں اس کی قربانی درست ہے۔<sup>(۸)</sup>

(۱) وجاز الثی من الكل والجذع من الضان ..... والثی من الضان والمعز ابن سنة ومن البقر ابن سنتین ومن الابل ابن خمس سنین... الخ۔ (البحر ج: ۸ ص: ۲۰۱، ۲۰۲، کتاب الأضحیة، طبع دار المعرفة، بیروت)۔

(۲) ويجوز الجذع من الضان أضحیة..... هذا إذا كان الجذع عظیمًا بحيث لو خلط بالشیات یشبه علی الناظرین... الخ۔ (البحر الرائق ج: ۸ ص: ۲۰۲، کتاب الأضحیة، طبع دار المعرفة، بیروت)۔

(۳) لا بالعمیاء والعوراء والعجفاء..... ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو العین الخ۔ (وفی الشامیة) روی محمد عنه فی الأصل والجامع الصغیر أن المانع ذهاب أكثر من الثلث وعنه أنه الثلث... الخ۔ (الفتاوی الشامیة ج: ۶ ص: ۳۲۳)۔

(۴) العرجاء التي تمشی بثلاثة قوائم وتحافی الرابع عن الأرض لا تجوز الأضحیة بها وإن كانت تضع الرابع علی الأرض وتستعین به إلا أنها تتمایل مع ذالك وتضعه وضعًا خفیفًا يجوز... الخ۔ (البحر الرائق ج: ۸ ص: ۲۰۱، کتاب الأضحیة)۔

(۵) لا بالعمیاء والعوراء والعجفاء والمهزولة التي لا مخ فی عظامها... الخ۔ (درمختار ج: ۶ ص: ۳۲۳)۔

(۶) فالمستحب أن یكون أسمتها وأحسنها وأعظمها لأنها مطیة الآخرة فقال علیه الصلاة والسلام: عظموا ضحایا کم فإنها علی الصراط مطایا کم ومهما كانت المطیة أعظم وأسمن كانت علی الجواز علی الصراط أقدر۔ (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۸۰، کتاب التضحیة، فصل: وأما بیان ما یستحب قبل التضحیة، طبع سعید کراچی)۔

(۷) ولا بالهتماء التي لا أسنان لها ویكفی بقاء الأكثر... الخ۔ (درمختار ج: ۶ ص: ۳۲۳، کتاب الأضحیة، أيضًا: البحر الرائق ج: ۸ ص: ۲۰۱، کتاب الأضحیة، طبع دار المعرفة، بیروت)۔

(۸) والسکاء التي لا أذن لها حلقة فلو لها أذن صغيرة حلقة أجزاء۔ (درمختار ج: ۶ ص: ۳۲۳، کتاب الأضحیة)۔

۱۲: جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہوں اس کی قربانی درست ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے، تو صرف اوپر سے خول اترے اندر کا گودا باقی ہے تو قربانی درست ہے، اگر جڑھی سے نکل گئے ہوں تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔<sup>(۱)</sup>

۱۳: خصی جانور کی قربانی جائز، بلکہ افضل ہے۔<sup>(۲)</sup>

۱۴: جس جانور کے خارش ہو تو اگر خارش کا اثر صرف جلد تک محدود ہے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہو اور جانور اس کی وجہ سے لاغر اور ڈبلا ہو گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔<sup>(۳)</sup>

۱۵: اگر جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب ایسا پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں، تو اگر یہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے تو اس کی جگہ تندرست جانور خرید کر قربانی کرے، اور اگر اس شخص کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی تو وہ اسی جانور کی قربانی کر دے۔<sup>(۴)</sup>

۱۶: جانور پہلے تو صحیح سالم تھا مگر ذبح کرتے وقت جو اس کو لٹایا تو اس کی وجہ سے اس میں کچھ عیب پیدا ہو گیا تو اس کا کچھ حرج نہیں، اس کی قربانی درست ہے۔<sup>(۵)</sup>

## قربانی کا گوشت

۱: قربانی کا گوشت اگر کئی آدمیوں کے درمیان مشترک ہو تو اس کو اٹکل سے تقسیم کرنا جائز نہیں، بلکہ خوب احتیاط سے تول کر برابر حصہ کرنا درست ہے۔ ہاں! اگر کسی کے حصے میں سر اور پاؤں لگا دیئے جائیں تو اس کے وزن کے حصے میں کمی جائز ہے۔<sup>(۶)</sup>

۲: قربانی کا گوشت خود کھائے، دوست احباب میں تقسیم کرے، غریب مسکینوں کو دے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے تین حصے کرے، ایک اپنے لئے، ایک دوست احباب، عزیز واقارب کو ہدیہ دینے کے لئے اور ایک ضرورت مند ناداروں میں تقسیم کرنے کے لئے۔ الغرض کم از کم تہائی حصہ خیرات کر دے، لیکن اگر کسی نے تہائی سے کم گوشت خیرات کیا، باقی سب کھا لیا یا عزیز واقارب کو دے دے تب بھی گناہ نہیں۔<sup>(۷)</sup>

(۱) ویضحیٰ بالجماء ہی التي لا قرن لها وكذا الغطاء التي ذهب بعض قرنھا بالكسر أو غيره فإن بلغ الكسر إلى المخ لم يجز... الخ۔ (فتاویٰ شامی ج: ۶ ص: ۳۲۳، کتاب الأضحیة، طبع ایچ ایم سعید)۔

(۲) والخصی افضل من الفحل لأنه أطيب لحمه۔ (عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۹، کتاب الأضحیة، الباب الخامس)۔

(۳) ویضحی..... والجرباء السمينة فلو مهزولة لم يجز الخ۔ (وفی الشامیة) قال فی الخانیة وتجوز بالثولاء والجرباء السمینتین فلو مهزولتین لا تنقی لا يجوز إذا ذهب مخ عظمها... الخ۔ (فتاویٰ شامی ج: ۶ ص: ۳۲۳، کتاب الأضحیة)۔

(۴) ولو اشتراها سليمة ثم تصیبت بعیب مانع فعليه اقامة غيرھا إن كان غنياً وإن كان فقيراً أجزاءه ذلك۔ (حاشیة رد المحتار ج: ۶ ص: ۳۲۵، کتاب الأضحیة)۔

(۵) ولا یضر تعيها من اضطرابها عند الذبح۔ (حاشیة رد المحتار ج: ۶ ص: ۳۲۳، کتاب الأضحیة)۔

(۶) يقسم اللحم وزناً لا جزافاً إلا إذا ضمّ معه من الأكارع أو الجلد۔ (حاشیة رد المحتار ج: ۶ ص: ۳۱۷، ۳۱۸)۔

(۷) والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث زیافة لأقربانه وأصدقائه ويدخر الثلث ويستحب أن يأكل منها ولو حبس الكل لنفسه جاز۔ (حاشیة رد المحتار ج: ۶ ص: ۳۲۸، کتاب الأضحیة)۔

۳:... قربانی کی کھال اپنے استعمال کے لئے رکھ سکتا ہے، کسی کو ہدیہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو فروخت کر دیا تو اس کے پیسے نہ خود استعمال کر سکتا ہے، نہ کسی غنی کو دینا جائز ہے، بلکہ کسی غریب پر صدقہ کر دینا واجب ہے۔<sup>(۱)</sup>

۴:... قربانی کی کھال کے پیسے مسجد کی مرمت میں یا کسی اور نیک کام میں لگانا جائز نہیں، بلکہ کسی غریب کو ان کا مالک بنا دینا ضروری ہے۔<sup>(۲)</sup>

۵:... قربانی کی کھال یا اس کی رقم کسی ایسی جماعت یا انجمن کو دینا درست نہیں جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ وہ مستحقین کو نہیں دیں گے، بلکہ جماعتی پروگراموں مثلاً کتابوں اور رسالوں کی طباعت و اشاعت، شفا خانوں کی تعمیر، کارکنوں کی تنخواہ وغیرہ میں خرچ کریں گے، کیونکہ اس رقم کا کسی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، البتہ ایسے ادارے کو دینا درست ہے جو واقعی مستحقین میں تقسیم کرے۔<sup>(۳)</sup>

۶:... قربانی کے جانور کا دودھ نکال کر استعمال کرنا، یا اس کی پشم اتارنا درست نہیں، اگر اس کی ضرورت ہو تو وہ رقم صدقہ کر دینی چاہئے۔<sup>(۴)</sup>

۷:... قربانی کے جانور کی جھول اور رستی بھی صدقہ کر دینی چاہئے۔<sup>(۵)</sup>

۸:... قربانی کی کھال یا گوشت قصاب کو اجرت میں دینا جائز نہیں۔<sup>(۶)</sup>

۹:... اسی طرح امام یا مؤذن کو بطور اجرت دینا بھی درست نہیں۔<sup>(۷)</sup>

## چند غلطیوں کی اصلاح

۱:... بعض لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ طاقت نہ ہونے کے باوجود شرم کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ

(۱) ویتصدق بجلدها أو يعمل منه غربال وجراب أو يبدله بما ينتفع به باقيا... الخ. فإن بيع اللحم أو الجلد به أي بمستهلك أو بدراهم تصدق بثمنه. (حاشية رد المختار ج: ۶ ص: ۳۲۸، كتاب الأضحية، طبع ايج ايم سعيد).

(۲) أيضا.

(۳) ولا يجوز أن يبنى بالزكوة المسجد وكذا القناطر والسقايات واصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تملك فيه. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۸۸، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف).

(۴) وكره جز صوفها قبل الذبح لينتفع به فإن جزه تصدق به..... ويكره الإنتفاع بلبنها قبله كما في الصوف. (الدر المختار مع الرد المختار ج: ۶ ص: ۳۲۹، كتاب الأضحية).

(۵) قوله ویتصدق بجلدها وكذا بجلالها وقلائدها فإنه يستحب إذا أوجب بقرة أن يجعلها ويقلدها وإذا ذبحها تصدق بذلك كما في التاترخانية. (رد المختار ج: ۶ ص: ۳۲۸، كتاب الأضحية).

(۶) ولا يعطى أجرة بجزار منها. (حاشية رد المختار ج: ۶ ص: ۳۲۸، كتاب الأضحية).

(۷) أيضا حاشية نمبر ۳ اور ۶ ملاحظہ فرمائیں۔

انہوں نے قربانی نہیں کی، محض دکھاوے کے لئے قربانی کرنا درست نہیں، جس سے واجب حقوق فوت ہو جائیں۔<sup>(۱)</sup>

۲:.... بہت سے لوگ محض گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی نیت کر لیتے ہیں، اگر عبادت کی نیت نہ ہو تو ان کو ثواب نہیں ملے گا، اور اگر ایسے لوگوں نے کسی اور کے ساتھ حصہ رکھا ہو تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔<sup>(۲)</sup>

۳:.... بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک قربانی ہو جانا کافی ہے، اس لئے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال اپنی طرف سے قربانی کر لی، ایک سال بیوی کی طرف سے کر دی، ایک سال لڑکے کی طرف سے، ایک سال لڑکی کی طرف سے، ایک سال مرحوم والد کی طرف سے، ایک سال مرحوم والدہ کی طرف سے۔ خوب یاد رکھنا چاہئے کہ گھر کے جتنے افراد پر قربانی واجب ہو ان میں سے ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلاً: میاں بیوی اگر دونوں صاحب نصاب ہوں تو دونوں کی طرف سے دو قربانیاں لازم ہیں، اسی طرح اگر باپ بیٹا دونوں صاحب نصاب ہوں تو خواہ اکٹھے رہتے ہوں مگر ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہے۔<sup>(۳)</sup>

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی عمر بھر میں ایک دفعہ کر لینا کافی ہے، یہ خیال بالکل غلط ہے، بلکہ جس طرح زکوٰۃ اور صدقہ فطر ہر سال واجب ہوتا ہے، اسی طرح ہر صاحب نصاب پر بھی قربانی ہر سال واجب ہے۔ بعض لوگ گائے یا بھینس میں حصہ رکھ لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کے حصے رکھے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ بڑی غلطی ہے، اگر سات حصہ داروں میں سے ایک بھی بے دین ہو یا اس نے قربانی کی نیت نہیں کی بلکہ محض گوشت کھانے کی نیت کی تو سب کی قربانی برباد ہوگئی، اس لئے حصہ ڈالتے وقت حصہ داروں کا انتخاب بڑی احتیاط سے کرنا چاہئے۔<sup>(۴)</sup>

## قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے

سوال:.... قربانی کے بارے میں علماء سے تقریروں میں سنا ہے کہ سنت ابراہیمی ہے، ایک مولوی صاحب نے دوران تقریر فرمایا کہ سنت نبوی ہے، لہذا اس سنت پر حتی الوسع عمل کی کوشش کرنی چاہئے نہ کہ گوشت کھانے کا ارادہ، ایک آدمی مجمع سے اٹھا اور اس نے کہا: مولوی صاحب! سنت ابراہیمی ہے، ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے فرمایا: واقعی سنت ابراہیمی ہے، مگر ہم کو سنت نبوی سمجھ کر قربانی کرنی چاہئے۔ آدمی نے کہا: آپ غلط مسئلہ بتا رہے ہیں۔ آدھ گھنٹے کی بحث کے باوجود وہ شخص قائل نہیں ہوا۔

(۱) قید..... وباليسار لأنها لا تجب إلا على القادر وهو الغنى دون الفقير ومقداره مقدار ما تجب فيه صدقة الفطر. (البحر الرائق ج: ۸، ص: ۱۹۷، کتاب الاضحیۃ).

(۲) وشرعاً ذبح حیوان مخصوص بنية القرية في وقت مخصوص. (وفى الشامية) قال فى البدائع فلا تجزى التضحية بدونها لأن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقرية والفعل لا يقع قرية بدون النية وللقرية جهات من المتعة والقران والإحصار وغيره فلا تتعين الأضحیة إلا بنيتها. (فتاویٰ شامی ج: ۶، ص: ۳۱۲، کتاب الاضحیۃ).

(۳) تجب على حر مسلم مقيم مومر عن نفسه... الخ. (البحر الرائق ج: ۸، ص: ۱۹۷، کتاب الاضحیۃ).

(۴) لا يشارك المضحي فيما يحتمل الشركة من لا يريد القرية رأساً فإن شارك لم يجز عن الأضحیة... الخ. (عالمگیری ج: ۵، ص: ۳۰۳، الباب الثامن فيما يتعلق بالشركة).



براہ کرم اس مسئلے پر روشنی ڈال کر ہمیں اندھیرے سے نکالیں۔

جواب: ... لغو بحث تھی، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو ہے ہی، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا، اور اس کا حکم دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہوئی، دونوں میں کوئی تعارض یا تضاد تو ہے نہیں۔<sup>(۱)</sup>

## قربانی کی شرعی حیثیت

سوال: ... قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: ... ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے، اسی طرح آج تک بھی دوسرے مذاہب میں ”قربانی“ مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے، مشرکین اور عیسائی بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہئے۔<sup>(۲)</sup> دوسری ایک آیت میں اسی مفہوم کو دوسرے عنوان سے بیان فرمایا ہے: ”بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لئے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔“<sup>(۳)</sup>

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت دس سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا، ہر سال برابر قربانی کرتے تھے۔<sup>(۴)</sup> (ترمذی) جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ میں حج کے موقع پر واجب نہیں بلکہ ہر شخص پر، ہر شہر میں واجب ہوگی، بشرطیکہ شریعت نے قربانی کے واجب ہونے کے لئے جو شرائط اور قیود بیان کی ہیں وہ پائی جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے، اسی لئے جمہور علمائے اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے (شامی)۔<sup>(۵)</sup>

## قربانی واجب ہے، سنت نہیں

سوال: ... ہمارے ایک رشتہ دار جو کافی صاحب حیثیت ہیں، ان کا کہنا ہے کہ قربانی فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟

جواب: ... قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے، آپ کے عزیز کا سنت کہنا لاعلمی پر مبنی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔<sup>(۶)</sup>

(۱) قوله عليه السلام: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. (فتح القدير ج: ۸، ص: ۶۹، كتاب الأضحية).

(۲) "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ" (الكوثر: ۲).

(۳) "قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" (الأنعام: ۱۶۲).

(۴) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي. (ترمذی، ج: ۱، ص: ۱۸۲، أبواب الأضاحی).

(۵) ونحن نقول بأنها غير فرض وإنما هي واجبة. (فتح القدير ج: ۸، ص: ۷۰). والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأضحية، وحكمه اللزوم عملاً كالفرض لا علمًا على اليقين للشبهة حتى لا يكفر جاحده ويفسق تاركه بلا تاويل كما هو مبسوط في كتب الأصول. (رد المختار ج: ۶، ص: ۳۱۳). والوجوب هو قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. (رد المختار ج: ۶، ص: ۳۱۳، كتاب الأضحية).

(۶) روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، أمر عليه الصلاة والسلام بالتضحية والأمر المطلق عن القرينة يقتضى الوجوب فى حق العمل. (بدائع ج: ۵، ص: ۶۲، كتاب التضحية).

## قربانی کیا صرف حاجی پر ہے؟

سوال: ...قربانی کے متعلق ایک مضمون مورخہ ۱۰/۵/۱۹۹۵ء کے ”جنگ“ میں چھپا ہے، جس میں مضمون نگار نے قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت کی ہے کہ قربانی ہر صاحب حیثیت مسلمان پر واجب نہیں ہے، سوائے ان مسلمانوں کے جو فریضہ حج ادا کر رہے ہوں، اور ان جانوروں کی قربانی کی جگہ مقرر ہے جو کہ ”بیت عتیق“ ہے، اس کے علاوہ کہیں اور قربانی بھی جائز نہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں کے لئے بھی لکھا ہے کہ ان کے لئے بھی کوئی خاصیت نہیں بلکہ وہ جانور بھی آپ قربان کر سکتے ہیں جن سے آپ حج کے دوران فائدہ سواری یا بار برداری کا کام لے چکے ہوں، مگر ہوں حلال جانور۔ باقی مضمون آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ اس مضمون سے یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرت اسماعیل کی جگہ کوئی ذنبہ وغیرہ نہیں آیا تھا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ خط کی طوالت کی وجہ سے میں مزید کچھ نہیں لکھ رہا۔

آپ سے معلوم یہ کرنا ہے کہ واقعی مندرجہ بالا مضمون درست ہے؟ ہم تمام لوگ خواہ مخواہ لاکھوں جانوروں کا ہر سال زیاں کرتے ہیں اور گناہ کماتے اور رقم ضائع کرتے ہیں؟ اور اگر مضمون غلط ہے تو مہربانی کر کے اس خط کا جواب ایسا مدلل دیں کہ اس مضمون کے پڑھنے کے بعد جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھے ہیں ان سب کا تدارک ہو جائے۔

جواب: ... جو باتیں آپ نے نقل کی ہیں، یہ مضمون نگار کی خود ذاتی ہے۔ شاید وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحابہ کرام سے بہتر سمجھتے ہیں... نعوذ باللہ... کیونکہ:

۱: ... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے ہر سال قربانی کرتے تھے۔<sup>(۱)</sup>

۲: ... فرماتے تھے کہ قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنا ہے۔<sup>(۲)</sup>

۳: ... حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر سال دو بکروں کی قربانی کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی وصیت فرمائی تھی، لہذا میں ایک قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔<sup>(۳)</sup>

۴: ... صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا: یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جاری کردہ طریقہ ہے! عرض کیا گیا کہ: ہمیں قربانی کرنے سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا: ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔<sup>(۴)</sup>

یہ تمام احادیث مشکوٰۃ شریف ص: ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹ میں مذکور ہیں۔

(۱) عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي. (مشکوٰۃ، باب في الأضحية ص: ۱۲۹، الفصل الثالث).

(۲) وعن عائشة... ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من اهرق الدم. (مشکوٰۃ ص: ۱۲۸، باب في الأضحية).

(۳) عن حنشل قال: رأيت عليًا يضحي بكبشين فقلت له: ما هذا؟ فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه. رواه أبو داود وروى الترمذي نحوه. (مشکوٰۃ ص: ۱۲۸، باب في الأضحية، الفصل الثاني).

(۴) وعن زيد بن أرقم رضی اللہ عنہ قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام! قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة... إلخ. (مشکوٰۃ، أضحية ص: ۱۲۹).

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت زمانے سے لے کر آج تک مشرق و مغرب کے مسلمان آج تک قربانیاں کرتے آرہے ہیں، مضمون نگار نے جن آیات کا حوالہ دیا ہے، ان کا تعلق قربانی سے نہیں، بلکہ ”ہدی“ کے جانوروں سے ہے۔ مضمون نگار نے ”اضحیہ“ اور ”ہدی“ کے فرق کو نہیں سمجھا۔

اسی مضمون نگار کا یہ دعویٰ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کوئی ذنبہ نہیں آیا تھا، یہ بھی صریحاً غلط ہے۔ سورہ صافات کی آیت: ۱۰۷ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”اور ہم نے اس کے فدیے میں دے دیا ایک بڑا ذبیحہ“<sup>(۱)</sup> حضرت علیؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت حسن بصریؒ اور دیگر اکابر سے منقول ہے کہ اس بڑے ذبیحے سے مراد وہ ذنبہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں نازل کیا گیا۔<sup>(۲)</sup> لیکن فاضل مضمون نگار اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں: ”اور ہم نے اسے (حضرت اسماعیل کو) ایک عظیم ذبیحے کے لئے بچالیا۔“

مضمون نگار کا یہ ترجمہ مذکورہ بالا آیات کی تفسیر کے بھی خلاف ہے، اردو، فارسی کے تمام تراجم کے بھی خلاف ہے، اور خود عربی زبان کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ اول تو عظیم ذبیحے کے لئے بچالیا آیت کے کسی لفظ کا ترجمہ نہیں، محض فاضل مضمون نگار کی اختراع ہے۔ علاوہ ازیں اس ترجمے کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچائی، وہ ایک عظیم ذبیحے کے لئے تھی۔ سوال یہ ہے کہ وہ عظیم ذبیحہ کیا تھا جس کے لئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچالیا...؟

اور ”ذبیحہ“ عربی زبان میں اس جانور کو کہا جاتا ہے جو ذبح کیا جائے، مضمون نگار غور فرمائیں کہ ان کے ترجمے سے آیت کا مفہوم کیا بن جاتا ہے؟ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کئے جانے والے ایک بڑے جانور کے لئے بچالیا گیا۔ الغرض! مضمون نگار نے قرآن کریم کی آیت کا مفہوم اپنی غرض کے مطابق ڈھالنے کے لئے جو ترجمہ کیا ہے، یہ قرآن کریم کے مطلب کو بگاڑتا ہے، جس کو ”تحریف“ کہا جاتا ہے۔ آیت کا سیدھا سادا مطلب... جس کو تمام مفسرین نے اختیار کیا ہے... یہ ہے کہ ہم نے ایک بڑا ذبیحہ بدلے میں دے کر حضرت اسماعیل کو بچالیا۔

میں فاضل مضمون نگار کو خیر خواہانہ مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی اس تحریر سے توبہ کریں، کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جس شخص نے اپنی رائے سے قرآن کریم میں کوئی بات کہی، وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنائے (مشکوٰۃ ص: ۳۵)۔<sup>(۳)</sup>

(۱) ”وَلَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ“ (الصافات: ۱۰۷)۔

(۲) وقوله تعالى: ولدناہ بذبح عظیم، قال سفیان الثوری عن جابر الجعفی عن ابی الطفیل عن علی رضی اللہ عنہ ولدناہ بذبح عظیم، قال: بکبش ابيض أعین أقرن قد ربط بسمرة. قال ابو الطفیل: وجدوه مربوطاً بسمرة فی ثبیر، وقال الثوری أيضاً عن عبد اللہ بن عثمان بن خثیم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: کبش قدرعی فی الجنة أربعین خریفاً..... وعن الحسن البصری أنه قال: کان اسم کبش ابراهیم جریر۔ (تفسیر ابن کثیر ج: ۵ ص: ۳۵۴)۔

(۳) عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من قال فی القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار۔ (مشکوٰۃ، کتاب العلم، ص: ۳۵)۔

## قربانی کس پر واجب ہے؟

چاندی کے نصاب بھر مالک ہو جانے پر قربانی واجب ہے

سوال: ...قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ مطلع فرمائیں۔

جواب: ...قربانی ہر اس مسلمان عاقل، بالغ، مقیم پر واجب ہوتی ہے، جس کی ملک میں ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی

قیمت کا مال اس کی حاجاتِ اصلیہ سے زائد موجود ہو، یہ مال خواہ سونا چاندی یا اس کے زیورات ہوں، یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان یا مسکونہ مکان سے زائد کوئی مکان، پلاٹ وغیرہ۔<sup>(۱)</sup>

قربانی کے معاملے میں اس مال پر سال بھر گزرنا بھی شرط نہیں<sup>(۲)</sup>، بچہ اور مجنون کی ملک میں اگر اتنا مال ہو بھی تو اس پر یا اس کی

طرف سے اس کے ولی پر قربانی واجب نہیں<sup>(۳)</sup>۔ اسی طرح جو شخص شرعی قاعدے کے موافق مسافر ہو اس پر بھی قربانی لازم نہیں<sup>(۴)</sup>۔ جس شخص پر قربانی لازم نہ تھی اگر اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اس پر قربانی واجب ہوگئی۔<sup>(۵)</sup>

## قربانی صاحبِ نصاب پر ہر سال واجب ہے

سوال: ...قربانی جو کہ سب سے پہلے اپنے اوپر واجب ہے اور پھر دوسروں پر، کیا ایک دفعہ کرنے سے واجب پورا ہو جاتا

ہے یا ہر سال اپنے اوپر کرنی واجب ہوتی ہے؟

جواب: ...قربانی صاحبِ نصاب پر زکوٰۃ کی طرح ہر سال واجب ہوتی ہے، قربانی کے واجب ہونے کے لئے نصاب پر

(۱) وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار الخ. وفي الشامية: قوله واليسار بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه... الخ. (فتاوى شامی ج: ۶ ص: ۳۱۲، كتاب الأضحیة).

(۲) وأما وقت الوجوب فأيام النحر، فلا تجب قبل دخول الوقت..... وأيام النحر ثلاثة: يوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذى الحجة والحادي عشر والثاني عشر، وذلك بعد طلوع الفجر من اليوم الأول إلى غروب الشمس من الثاني عشر. (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۶۵، كتاب التضحية، فصل: وأما وقت الوجوب).

(۳) ومن المتأخرين من قال لا خلاف بينهم في الأضحیة انها لا تجب في مالهما (أى الصبی والمجنون)... الخ. (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۶۳، كتاب التضحية، فصل: وأما شرائط الوجوب).

(۴) وشرائطها..... الإقامة الخ (قوله الإقامة) فالمسافر لا تجب عليه... الخ. (فتاوى شامی ج: ۶ ص: ۳۱۲).

(۵) ص: ۱۶۵ کا حوالہ نمبر ۲ دیکھیں۔ وأما الذى يجب على الفقير دون الغنى فالمشترى للأضحیة إذا كان المشتري فقيراً بأن اشترى فقيراً شاة ينوي أن يضحي بها. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۱، كتاب الأضحیة، الباب الأول في تفسيرها).

سال گزرنا بھی ضروری نہیں۔<sup>(۱)</sup>

## وجوبِ قربانی کا نصاب

سوال: ...قربانی کے لئے کم از کم کتنا نصاب ضروری ہے، سونے کی شکل میں؟ نیز یہ سونے کا نصاب استعمال ہونے والے سونے کے علاوہ ہو گا یا اس کو ملا کر؟

جواب: ...سونا، چاندی اور دیگر گھریلو سامان خواہ استعمال ہونے والا ہو یا نہ ہو، ان سب کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔<sup>(۲)</sup>

## کیا گنجائش نہ ہونے والے گزشتہ سالوں کی قربانی گنجائش پر کرنی ہوگی؟

سوال: ...اگر کسی خاتون خانہ نے آمدنی میں گنجائش نہ ہونے کے سبب بیس تیس سالوں سے قربانی نہ کی ہو، مگر اب گنجائش (پلاٹ بیچ کر) نکل آئی ہو، تو کیا گزشتہ سالوں کی قربانی بکروں کی صورت میں ہی کرنا ہوگی یا رقم کا اندازہ لگا کر کسی نیک کام میں روپیہ لگایا جاسکتا ہے؟

جواب: ...گزشتہ سالوں کی قربانی... جبکہ گنجائش نہیں تھی... واجب نہیں، جب سے گنجائش ہوئی تب سے واجب ہے۔<sup>(۳)</sup>

## قربانی کے واجب ہونے کی چند اہم صورتیں

سوال: ...میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے، اگر بقر عید کے تین دنوں میں کسی دن بھی میرے پاس ۲۶۲۵ (دو ہزار چھ سو پچیس) روپے آجائیں تو کیا مجھ پر قربانی کرنا واجب ہوگی؟ (آج کل ساڑھے ۵۲ تولے چاندی کے دام بحساب پچاس روپے فی تولہ ۲۶۲۵ روپے بنتے ہیں)۔

جواب: ...جی ہاں! اس صورت میں قربانی واجب ہے۔<sup>(۴)</sup> اس مسئلے کو سمجھنے کے لئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ اور قربانی کے درمیان کیا فرق ہے؟ سو واضح رہے کہ زکوٰۃ بھی صاحبِ نصاب پر واجب ہوتی ہے، اور قربانی بھی صاحبِ نصاب ہی پر واجب

(۱) وسببها الوقت وهو أيام النحر الخ۔ (وفى الشامية) وقد تكرر وجوب الأضحية بتكرر الوقت۔ (فتاوى شامی ج: ۶ ص: ۳۱۲، کتاب الأضحية)۔ وفى الفقه الإسلامی وأدلته (ج: ۳ ص: ۵۹۵، الأضحية، طبع دار الفكر) فقال أبو حنيفة وأصحابه: انها واجبة مرة فى كل عام على المقيمين من أهل الأمصار۔

(۲) وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار الذى يتعلق به وجوب صدقة الفطر الخ۔ بأن ملك مائتى درهم أو عرضا يساويها غير سكنة و ثياب اللبس۔ (حاشية رد المحتار ج: ۶ ص: ۳۱۲، کتاب الأضحية)۔

(۳) ومن شرائطها الإسلام والإقامة واليسار الخ۔ بأن ملك مائتى درهم أو عرضا يساويها غير سكنة و ثياب اللبس۔ (حاشية رد المحتار ج: ۶ ص: ۳۱۲، کتاب الأضحية)۔

(۴) (قوله واليسار.....) بأن ملك مائتى درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه و ثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية ولو له عقار يستغله ففيل تلزم لو قيمته نصاباً۔ (رد المحتار ج: ۶ ص: ۳۱۲، کتاب الأضحية)۔

ہے، مگر دونوں کے درمیان دو وجہ سے فرق ہے۔ ایک یہ کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لئے شرط ہے کہ نصاب پر سال گزر گیا ہو، جب تک سال پورا نہیں ہوگا زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی<sup>(۱)</sup>۔ لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لئے سال کا گزرنا کوئی شرط نہیں بلکہ اگر کوئی شخص عین قربانی کے دن صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے<sup>(۲)</sup>، جبکہ زکوٰۃ سال کے بعد واجب ہوگی۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ نصاب ”نامی“ (بڑھنے والا) ہو، شریعت کی اصطلاح میں سونا، چاندی، نقد روپیہ، مال تجارت اور چرنے والے جانور ”مال نامی“ کہلاتے ہیں۔<sup>(۳)</sup> اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی چیز نصاب کے برابر ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، مگر قربانی کے لئے مال کا ”نامی“ ہونا بھی شرط نہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس اپنی زمین کا غلہ اس کی ضروریات سے زائد ہے اور زائد ضرورت کی قیمت ۲۶۲۵ روپے کے برابر ہے، چونکہ یہ غلہ مال نامی نہیں اس لئے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، چاہے سال بھر پڑا رہے، لیکن اس پر قربانی واجب ہے۔<sup>(۴)</sup>

سوال: ... میری دو بیٹیوں کے پاس پندرہ سولہ سال کی عمر سے دو تولے سونے کے زیور ہیں، وہ اس کی مالک ہیں، وہ ہماری زیر کفالت ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کی طرف سے قربانی کر سکیں، کیا ان بیٹیوں پر قربانی واجب ہے؟ اگر فرض ہے تو وہ قربانی کس طرح کریں جبکہ ان کے پاس نقد پیسے نہیں؟ واضح رہے کہ دو تولے زیور کے دام تقریباً سات ہزار روپے بنتے ہیں۔

جواب: ... اگر ان کے پاس کچھ روپیہ پیسہ بھی رہتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہیں، اور ان پر زکوٰۃ اور قربانی دونوں واجب ہیں، اور اگر روپیہ پیسہ نہیں رہتا تو وہ صاحب نصاب نہیں اور ان پر زکوٰۃ اور قربانی بھی واجب نہیں۔<sup>(۵)</sup>

سوال: ... ہماری شادی کو ۴۱ سال ہو گئے، لیکن میری بیوی نے صرف دو بار قربانی کی، کیونکہ میرے پاس اس کی طرف سے قربانی کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ لیکن اس کے پاس اس تمام مدت میں کم و بیش تین چار تولے سونے کے زیور رہے ہیں۔ کیا میری بیوی پر اس تمام مدت میں ہر سال قربانی فرض تھی؟ کیونکہ اس تمام مدت میں ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت بہر حال تین چار تولے سونے سے کم رہی۔ اگر فرض تھی تو کیا ۳۹ سال کی قربانی اس کے ذمے واجب الادا ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ اس سے کیسے عہدہ برآ ہو؟ واضح رہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اس خیال میں رہے کہ قربانی اس پر واجب ہے جس کے پاس کم از کم ساڑھے سات تولے سونا ہو۔ (نوٹ ابھی کچھ زمانہ پہلے تک خالص چاندی کا روپیہ ہوتا تھا جس کا وزن ٹھیک ایک تولہ ہوتا تھا، جس کے پاس ۵۲ روپے اور ایک اٹھنی ہوتی وہ

(۱) وسببه اى سبب افتراضها ملك نصاب حولى... الخ۔ (درمختار ج: ۲، ص: ۲۵۹، كتاب الزكاة)۔

(۲) وأما شرائط الوجوب منها اليسار وهو ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر دون ما يتعلق به وجوب الزكاة..... ولا يشترط أن يكون غنياً في جميع الوقت حتى لو كان فقيراً في أول الوقت ثم أيسر في آخره تجب عليه. (فتاوى عالمگیری ج: ۵، ص: ۲۹۲، كتاب الأضحية، الباب الأول)۔

(۳) وسببه ملك نصاب حولى..... نام ولو تقدیراً۔ (تنوير الألبصار ج: ۲، ص: ۲۵۹ تا ۲۶۳، كتاب الزكاة)۔

(۴) ایضاً حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ فرمائیں۔

(۵) نصاب الذهب عشرون مثقالاً الخ (قوله عشرون مثقالاً) فما دون ذلك لا زكاة فيه. (فتاوى شامی ج: ۲، ص: ۲۹۵)۔

بتوفیقِ الہی تین چار روپے کی بھیڑ بکری لاکر قربانی کر دیتا تھا، آج کل کے گرام اور ہوشربا نرخوں نے یہ مسائل عوام کے لئے مشکل بنا دیئے ہیں۔

جواب: ... یہاں بھی وہی اوپر والا مسئلہ ہے، اگر آپ کی اہلیہ کے پاس زیور کے علاوہ کچھ روپیہ پیسہ بھی بطور ملک رہتا تھا تو قربانی واجب تھی اور زکوٰۃ بھی<sup>(۱)</sup> جس کے ذمہ قربانی واجب ہو اور وہ نہ کرے تو اتنی رقم صدقہ کرنے کا حکم ہے۔<sup>(۲)</sup>

سوال: ... میری ایک شادی شدہ بیٹی جس کے پاس پندرہ سال کی عمر سے دو تین تو لے سونے کا زیور رہا ہے اور شادی کے بعد اور زیادہ ہی ہے۔ اس کی طرف سے نہ میں نے کبھی قربانی کی، نہ اس نے خود کی، اور نہ شوہر اس کی طرف سے کرتا ہے، ایسے میں کیا میری اس بیٹی پر پندرہ سال کی عمر سے قربانی فرض ہے اور وہ بھی تمام سالوں کی قربانیاں ادا کرے؟

جواب: ... اوپر کا مسئلہ من و عن یہاں بھی جاری ہے۔<sup>(۳)</sup>

سوال: ... چند ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہ ۲۶۲۵ روپے ہیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، لیکن ان کے پاس ٹی وی ہے، جس کے دام تقریباً دس ہزار روپے ہیں، ایسے لوگوں پر قربانی فرض ہے کہ نہیں؟

جواب: ... ٹی وی ضروریات میں داخل نہیں، بلکہ لغویات میں شامل ہے۔ جس کے پاس ٹی وی ہو اس پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہے، اور اس کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔<sup>(۴)</sup>

سوال: ... میں زیادہ تر مقروض رہا، اس لئے میں نے بہت کم قربانی کی ہے، جبکہ میرے اور اخراجات ایسے ہیں کہ میں ان میں تھوڑا بہت رد و بدل کر کے قربانی کر سکتا ہوں۔ قرض اپنی جگہ پر ہے جس کو رفتہ رفتہ ادا کرتا رہتا ہوں، تو کیا میرا ایسی حالت میں قربانی کرنا صحیح ہوگا؟

جواب: ... ان حالات میں یہ تو ظاہر ہے کہ قربانی آپ پر واجب نہیں، رہا یہ کہ قربانی کرنا صحیح بھی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ اس قرض کو بہ سہولت ادا کر سکتے ہیں تو قرض لے کر قربانی کرنا جائز بلکہ بہتر ہے، ورنہ نہیں کرنی چاہئے۔<sup>(۵)</sup>

سوال: ... سنا ہے کہ نابالغ بچوں پر قربانی فرض نہیں، میرا ایک نابالغ نواسہ میرے ساتھ رہتا ہے، کیا میں اس کی طرف سے

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۲ اور ۵ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) ولو لم یضح حتی مضت أيام النحر فقد فاتہ الذبح ..... تصدق بقيمة شاة. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۶، کتاب الأضحیة، الباب الرابع فیما يتعلق بالمکان والزمان۔)

(۳) أيضًا۔

(۴) وسببه ای سبب افتراضها ملک نصاب حولی تام فارغ عن دین له مطالب من جهة العباد وعن حاجته الأصلية... الخ۔ (تنویر الأبصار ج: ۲ ص: ۲۶۲، کتاب الزکاة۔)

(۵) (وأما التطوع فأضحیة المسافر والفقیر الذی لم یوجد منه النذر بالتضحیة ولأ الشراء للأضحیة لانعدام سبب الوجوب وشرطه۔ (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۶۳، کتاب التضحیة، طبع ایچ ایم سعید کراچی۔)

قربانی کر سکتا ہوں؟ قربانی صحیح ہوگی؟

جواب: ... اگر آپ کے ذمہ قربانی واجب ہے تو پہلے اپنی طرف سے کیجئے، اس کے بعد اگر گنجائش ہو تو نابالغ نواسے کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، مگر نابالغ کے بجائے اپنے مرحوم بزرگوں کی طرف سے کرنا بہتر ہوگا۔<sup>(۱)</sup>

سوال: ... میرا ایک شادی شدہ بیٹا عرب میں رہتا ہے، اس نے نہ ہم کو قربانی کرنے کے لئے لکھا اور نہ قربانی کے لئے پیسے بھیجے، لیکن ہم والدین نے اس کی محبت میں اس کی طرف سے بکرا قربان کر دیا، یہ قربانی صحیح ہوئی یا غلط؟  
جواب: ... نفلی قربانی ہوگئی، لیکن واجب قربانی اس کے ذمہ رہے گی۔<sup>(۲)</sup>

سوال: ... یا بجائے بکرے کے اس بیٹے کی طرف سے اس کی بے خبری میں گائے میں ایک حصہ لے لیا، کیا اس کی طرف سے اس طرح حصہ لینا صحیح ہوا؟ اگر غلط ہوا تو گائے کے باقی حصہ داروں کی قربانی صحیح ہوئی یا غلط؟  
جواب: ... چونکہ نفلی قربانی ہو جائے گی، اس لئے گائے میں حصہ لینا صحیح ہے۔<sup>(۳)</sup>

**عورت اگر صاحبِ نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے**

سوال: ... کیا عورت کو اپنی قربانی خود کرنی چاہئے یا شوہر کرے؟ اکثر شوہر حضرات بہت سخت ہوتے ہیں، اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں تنگ دست رکھتے ہیں، ایسی صورت میں شرعی مسئلہ بتائیے۔  
جواب: ... عورت اگر خود صاحبِ نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے،<sup>(۴)</sup> ورنہ مرد کے ذمہ بیوی کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں، گنجائش ہو تو کر دے۔

**میاں کے پاس ایک لاکھ روپے ہوں اور بیوی کے پاس دس تو لے سونا تو دونوں پر قربانی واجب ہے**

سوال: ... میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، مرد کے پاس تقریباً ایک لاکھ روپیہ ہے، اور اس کی بیوی کے پاس دس تو لے سونا، معلوم یہ کرنا ہے کہ قربانی میاں بیوی پر الگ الگ واجب ہوگی یا دونوں کے لئے ایک واجب ہے؟ واضح رہے کہ کماتا صرف مرد ہے اور عورت صرف گھریلو کام کاج کرتی ہے۔

(۱) ولو ضحی بیدنة عن نفسه وعرسه وأولاد ..... إن كان أولاده صغاراً جاز عنه وعنهم جميعاً... الخ. (فتاویٰ

عالمگیری ج: ۵ ص: ۳۰۲، کتاب الأضحیة، الباب السابع فی التضحية عن الغير).

(۲) ایضاً.

(۳) ایضاً.

(۴) وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر كما مر لا الذكورة فتجب على الأنثى. (الدر

المختار مع رد المختار ج: ۶ ص: ۳۱۲، کتاب الأضحیة).



جواب:۔۔۔ جو حالات آپ نے لکھے ہیں، اس کے مطابق میاں بیوی دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہے، واللہ اعلم! <sup>(۱)</sup>

میاں بیوی میں سے کس پر قربانی واجب ہے؟

سوال:۔۔۔ اگر عورت صاحب استطاعت تو ہو، مگر اتنی گنجائش نہ ہو کہ قربانی علیحدہ دے سکے، تو کیا اس صورت میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک ہی بکرے کی قربانی دے سکتی ہے؟

جواب:۔۔۔ اگر میاں بیوی دونوں صاحب نصاب ہوں تو دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ <sup>(۲)</sup>

برسر روزگار صاحب نصاب لڑکے، لڑکی سب پر قربانی واجب ہے چاہے ابھی ان کی شادی نہ ہوئی ہو

سوال:۔۔۔ والد محترم اچھے عہدے پر فائز ہیں، پہلی بیوی سے ماشاء اللہ سے پانچ بہن بھائی ہیں، جس میں تین لڑکیاں بھی ہیں، جبکہ دونوں جوان بھائی اور ایک بہن برسر ملازمت ہیں۔ سوتیلی ماں کی دو چھوٹی بچیاں ہیں جو اسی گھر میں الگ الگ کمرے میں رہتی ہیں۔ والد محترم نے دو بکروں کی قربانی کی اور دونوں بیٹے، ایک بیٹی نے گائے میں حصہ لیا جو کہ تینوں غیر شادی شدہ ہیں، اپنی کمائی سے انہوں نے گائے میں حصہ لیا تھا جبکہ دونوں نو جوان بھائی کما رہے ہیں اور والد بھی اچھی خاصی انکم لارہے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود غیر شادی شدہ لڑکی کا قربانی کرنا جائز ہے؟ باپ بیٹے اور بیٹی سب نے مل کر پانچ قربانیاں کی ہیں، کیا ایک گھر میں پانچ قربانی کرنا جائز ہے؟

جواب:۔۔۔ اگر باپ، بیٹے اور بیٹیاں سب برسر روزگار اور صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک کے ذمہ الگ الگ قربانی واجب ہے، اس لئے گھر میں اگر پانچ قربانیاں ہوئیں تو ٹھیک ہوا۔ کیونکہ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر مالک نصاب ہونے کی صورت میں قربانی واجب ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ <sup>(۳)</sup>

خانہ داری مشترک ہونے کی صورت میں بالغ اولاد کی طرف سے قربانی

سوال:۔۔۔ ہم پانچ بھائی ہیں، تمام شادی شدہ ہیں اور والدین کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں۔ تمام برادران جو کما رہے ہیں، والد صاحب کو دیتے ہیں، صرف جیب خرچہ اپنے پاس رکھتے ہیں، تو اس صورت میں ہم پر قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ اب تک والدین اپنی قربانی کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے، لیکن اس دفعہ ہم شش و پنج میں پڑ گئے، کیونکہ والد صاحب کے پاس تقریباً تیس ہزار روپے سرمایہ ہے، برائے کرم از روئے شرع ہمارے لئے کیا حکم ہے، والدین کا قربانی کرنا کافی ہے یا ہم بھی کریں گے؟

(۱) وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار الخ۔ بان ملك مانتى درهم أو عرضا يساويها۔ (حاشية رد المحتار ج: ۶ ص: ۳۱۲)۔

(۲) ایضاً حوالہ بالا۔

(۳) ایضاً۔

جواب: ... آپ کے والد صاحب کو چاہئے کہ آپ پانچوں بھائیوں کی طرف سے بھی قربانی کیا کریں، بلکہ پانچوں کی بیویوں کے پاس بھی زیورات اور نقدی وغیرہ اگر اتنی ہو کہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو ان کی طرف سے بھی قربانیاں ہونی چاہئیں۔ بہر حال گھر میں جتنے افراد صاحبِ نصاب ہوں گے ان پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر کمانے کے باوجود مالکِ نصاب نہیں تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔<sup>(۱)</sup>

## کیا مقروض پر قربانی واجب ہے؟

سوال: ... کیا مقروض پر قربانی واجب ہے؟ جبکہ مقروض خود کو پابند شریعت بھی کہتا ہو اور قرض کی رقم قربانی کے لئے خریدے جانے والے جانور سے بھی کم ہو؟

جواب: ... اگر قرض ادا کرنے کے بعد اس کی ملکیت میں ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت حاجاتِ اصلیہ سے زائد موجود ہو تو قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## قربانی کے بدلے میں صدقہ و خیرات کرنا

سوال: ... اگر باوجود استطاعت کے قربانی نہ کی تو کیا کفارہ دے؟

جواب: ... اگر قربانی کے دن گزر گئے، ناواقفیت یا غفلت یا کسی عذر سے قربانی نہ کر سکا تو قربانی کی قیمت فقراء و مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے۔<sup>(۳)</sup> لیکن قربانی کے تین دنوں میں جانور کی قیمت صدقہ کر دینے سے یہ واجب ادا نہ ہوگا، ہمیشہ گناہ گار رہے گا، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، جیسے نماز پڑھنے سے روزہ، اور روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، ایسے ہی صدقہ خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعامل اور پھر اجماع صحابہؓ پر شاہد ہیں۔<sup>(۴)</sup>

## صاحبِ نصاب پر گزشتہ سال کی قربانی ضروری ہے

سوال: ... کیا صاحبِ نصاب عورت پر پچھلے سالوں کی بقر عید کی قربانی دینی ضروری ہے جبکہ وہ ان سالوں میں صاحبِ نصاب تھی؟ اگر ضروری ہے تو ایک بکرے کی قیمت ۵۰۰ اگر اوسط قیمت طے کر لیں تو ہر سال کی اتنی ہی رقم کسی غریب کو یا کسی مدرسے یا مسجد کس کو دیں؟ بقر عید کی قربانی واجب ہے یا سنتِ مؤکدہ؟

(۱، ۲) وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر لا الذكور فتجب على الأنثى۔ (شامی ج: ۶ ص: ۳۱۲، کتاب الأضحية، طبع سعید کراچی)۔

(۳) وإن كان لم يوجب على نفسه ولا اشترى وهو موسر حتى مضت أيام النحر تصدق بقيمة شاة تجوز في الأضحية... إلخ۔ (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۶۸، کتاب التضحية، فصل: وأما كيفية الوجوب)۔

(۴) ومنها أن لا يقوم غيرها مقامها..... والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين أنه لا يقوم غيره مقامه كما في الصلاة والصوم وغيرهما... إلخ۔ (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۶۶، کتاب التضحية، فصل: وأما كيفية الوجوب)۔

جواب: ... اس کے ذمہ قربانی واجب ہے اور قربانی کرنا ہی ضروری ہے، اس کی رقم دینا جائز نہیں، لیکن اگر قربانی نہ کی ہو تو جتنے سالوں سے قربانی واجب تھی اور ادا نہیں کی تھی، ان سالوں کا حساب کر کے (ایک حصے کی قیمت جتنی بنتی ہے) وہ رقم ادا کرے، اور یہ رقم کسی فقیر پر صدقہ کرنا واجب ہے۔<sup>(۱)</sup>

## نابالغ بچے کی قربانی اس کے مال سے جائز نہیں

سوال: ... زید کا انتقال ہوا، اس کے تین بچے ہیں، عمر، بکر، فاطمہ اور وہ تینوں بالغ نہیں ہیں، اور ان کا رشتہ دار یعنی ان کے اوپر خرچہ کرنے والا ان کا چچا شعیب ہے، اب ان کا وارث تو وہی ہوا، اب شعیب کو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ ان کے مال سے زکوٰۃ یا قربانی وغیرہ دے؟

جواب: ... نابالغ بچے کے مال پر نہ زکوٰۃ فرض ہے،<sup>(۲)</sup> نہ قربانی واجب ہے، اس لئے ولی کو ان کے مال سے زکوٰۃ اور قربانی کی اجازت نہیں۔<sup>(۳)</sup> البتہ ان کے مال سے ان کی طرف سے صدقہ بغیر ادا کرے، اور ان کی دیگر ضروریات پر خرچ کرے۔<sup>(۴)</sup>

## گھر کا سربراہ جس کی طرف سے قربانی کرے گا ثواب اسی کو ملے گا

سوال: ... گھر کا سربراہ قربانی کرتا ہے، کیا جو لوگ گھر میں اس کی کفالت میں ہیں ان کو کوئی ثواب ملے گا؟ ایک سال گھر کے سربراہ نے اپنے نام سے قربانی کی تو دوسرے سال وہ اپنے لڑکے، لڑکی یا بیوی کے نام سے قربانی کرے تو ثواب ملے گا؟ اور صحیح ہے یا نہیں؟

جواب: ... گھر کا سربراہ اگر قربانی کرتا ہے تو قربانی کا ثواب صرف اسی کو ملے گا، دوسرے لوگوں کو نہیں، اگرچہ وہ اس کی کفالت میں ہی کیوں نہ ہوں۔

گھر کا سربراہ اگر اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے اپنے گھر والوں میں سے کسی کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو جس کی طرف سے قربانی کر رہا ہے اس کی طرف سے تو قربانی صحیح ہو جائے گی اور ثواب بھی اسی کو ملے گا، چاہے جس کی طرف سے قربانی کی

(۱) وإن لم یوجب ولم یشر وهو موسر وقد مضت أيامها تصدق بقیمة شاة تجزی للأضحیة. (حاشیة رد المحتار ج: ۶ ص: ۳۲۱، کتاب الأضحیة).

(۲) ولیس علی الصبی والمجنون زکاة خلافاً للشافعی ..... ولنا انها عبادة فلا تنادی إلا بالاختیار تحقیقاً لمعنی الإبتلاء ولا اختیار لهما لعدم العقل. (هدایة ج: ۱ ص: ۱۸۶ کتاب الزکاة).

(۳) ومن المتأخرین من قال لا خلاف بینهم فی الأضحیة انها لا تجب فی مالهما ..... إلا ان صدقة الفطر خصت عن النصوص فبقیت الأضحیة علی عمومها ولأن سبب الوجوب هناك رأس یمونه ویلی علیه وقد وجد فی الولد الصغیر ... الخ. (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۶۳، ۶۵، کتاب التضحیة، وأما شرائط الوجوب).

(۴) تجب علی کل حر مسلم ولو صغیراً مجنوناً. وفي الشرح: قوله: ولو صغیراً مجنوناً ..... وهذا لو كان لهما مال قال فی البدائع: وأما العقل والبلوغ فلیسا من شرائط الوجوب فی قول أبی حنیفة وأبی یوسف، حتی تجب علی الصبی والمجنون إذا كان لهما مال ویخرجها الولی من مالهما. (الدر المختار مع الرد المختار ج: ۲ ص: ۲۵۸-۲۶۰).

جاری ہے اس پر قربانی واجب ہو یا نہیں۔ لیکن گھر کے سربراہ کے سلسلے میں دو صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ اگر سربراہ پر بھی قربانی واجب ہے تو اب سربراہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے مستقل قربانی کرے، اور نہ کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوگا، کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرنے سے اپنا ذمہ ساقط نہیں ہوتا۔<sup>(۱)</sup>

دوسری صورت یہ ہے کہ سربراہ پر شرعی طور پر قربانی واجب تو نہیں ہے لیکن وہ کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اس صورت میں جس کی طرف سے قربانی کی ہے اس کی طرف سے قربانی صحیح ہوگی، اور گھر کے سربراہ پر چونکہ قربانی واجب نہیں تھی، اس لئے اس کو مستقل قربانی کی ضرورت نہیں،<sup>(۲)</sup> واللہ اعلم بالصواب!

### بیوہ عورت قربانی اپنی طرف سے کرے یا شوہر کی طرف سے؟

سوال: ... وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ شوہر کی جائیداد کی وارث ہو، وہ بقرعید پر قربانی اپنے نام سے کرے یا شوہر کے نام سے؟

جواب: ... اگر وہ نصاب کے بقدر مالیت کی مالک ہے تو اس کے ذمے قربانی واجب ہے، اپنی طرف سے تو ضرور کرے۔ پھر گنجائش ہو تو شوہر کی طرف سے بھی کرے۔<sup>(۳)</sup>

نوٹ: ... شوہر کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد کا شرعی وارثوں پر تقسیم کرنا ضروری ہے، صرف عورت کا پوری جائیداد پر قابض ہو جانا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کسی اور شخص کے قبضے میں مرحوم کی جائیداد ہو، تو اس پر فرض ہے کہ مرحوم کے شرعی وارثوں تک ان کے حصے پہنچائے، ورنہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔

### کیا مرحوم کی قربانی کے لئے اپنی قربانی ضروری ہے؟

سوال: ... میں نے سنا ہے کہ اگر اپنے کسی مرحوم عزیز کے نام سے قربانی کرنا چاہیں تو پہلے اپنے نام سے قربانی کریں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سال تو میں نے اپنے نام سے قربانی کر دی، دوسرے سال کسی عزیز کے نام سے قربانی کر سکتا ہوں؟ یا جب بھی اپنے مرحوم عزیز کے نام سے قربانی کرنا چاہوں تو ساتھ مجھے اپنے نام سے بھی قربانی کرنی پڑے گی؟ اگر اتنی گنجائش نہ ہو تو؟

جواب: ... اگر آپ کے ذمہ قربانی واجب ہے تو اپنی طرف سے کرنا تو ضروری ہے،<sup>(۴)</sup> بعد میں گنجائش ہو تو مرحوم کی طرف سے بھی کر دیں۔ اور اگر آپ کے ذمہ قربانی واجب نہیں تو مرحوم کی طرف سے کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے خواہ نہ کریں۔<sup>(۵)</sup>

(۱) ومنها أنه تجزئ فیہا النیابة فیجوز للإنسان أن یضحی بنفسه وبغیره ویأذنه لأنها قرابة تتعلق بالمال فتجزئ فیہا النیابة كأداء الزکوة وصدقة الفطر۔ (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۶۷، کتاب التضحیة، فصل: وأما کیفیة الرجوب)۔

(۲) قال الحنفیة والحنابلة: تذبح الأضحیة عن میت ویفعل بها لکن حی من التصدق والأکل۔ (الفقه الإسلامی ج: ۳ ص: ۶۳۵)۔

(۳) ومن شرائطها ..... اليسار الذی یتعلق به وجوب صدقة الفطر الخ۔ بأن ملک مانتی درهم أو عرض یساویها۔ (حاشیة رد المحتار ج: ۶ ص: ۳۱۲، کتاب الأضحیة، طبع سعید)۔

(۴) ایضاً حوالہ بالا۔

(۵) ایضاً حاشیہ نمبر ۲ دیکھیں۔

صاحبِ نصاب نے اگر مرحوم والد کی طرف سے قربانی کر دی اور اپنی نہ کی تو اس کے ذمے  
باقی ہے

سوال: ... میں صاحبِ نصاب ہوں، اس سال عید قربان کے موقع پر میں نے اپنے نام کے بجائے اپنے والد کے نام پر  
کر دی ہے، جن کے انتقال کو زمانہ گزر چکا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے، اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری تھا۔  
میری رہنمائی فرمائیں کہ مرحوم والد کے نام کی قربانی ہوئی یا نہیں؟ اور میرے نام کی قربانی رہ گئی؟ میری نیت قربانی کی تھی اس لئے  
میں نے کر دی۔

جواب: ... صاحبِ نصاب کو اپنی طرف سے قربانی کرنی چاہئے، والد مرحوم کی طرف سے تو قربانی ہو گئی، مگر آپ کے ذمے  
رہ گئی، اب اتنی رقم صدقہ کر دیجئے۔<sup>(۱)</sup>

مرحوم والدین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دینا

سوال: ... جس صاحبِ حیثیت شخص پر قربانی فرض ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی کے ساتھ اپنی بیوی، مرحوم والدین، نبی  
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اُم المؤمنینؓ، اپنے مرحوم دادا، دادی کی طرف سے بھی قربانی کرے تو کیا جائز ہے؟ اور کیا ثواب ان کو پہنچ  
جائے گا؟

جواب: ... گنجائش ہو تو اپنے مرحوم بزرگوں کی طرف سے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور قربانی کی جائے،  
بہت ہی مبارک عمل ہے، ان سب کو اس کا ثواب ان شاء اللہ پہنچے گا۔<sup>(۲)</sup>

مہنگائی کی وجہ سے قربانی نہ کرنے والا کیا کرے؟

سوال: ... اس سال کیونکہ جانور بہت مہنگا تھا، جس کی وجہ سے کافی لوگوں نے قربانی نہیں کی، اس لئے آپ سے یہ مسئلہ  
معلوم کرنا تھا کہ وہ رقم جو لوگوں نے قربانی کے لئے مختص کی ہوئی تھی، اس کا مصرف کیا ہوگا؟ آیا وہ اس کو صدقہ کریں یا آئندہ سال قربانی  
کے لئے رکھیں؟

جواب: ... جس شخص پر قربانی واجب ہو، اور وہ قربانی نہ کر سکے، یا اس نے قصد انہ کی ہو تو ترک واجب کی وجہ سے گناہگار

(۱) فتجب التضحية على حرّ مسلم مقيم موسر عن نفسه ..... ولو ترك التضحية ومضت أيامها تصدق بها. (حاشية  
رد المحتار ج: ۶ ص: ۳۱۵-۳۲۰، كتاب الأضحية، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(۲) قال في البدائع: لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه وقد صح أن رسول الله  
صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عن من لم يذبح من أمته، وإن كان منهم من قد مات قبل أن  
يذبح. (فتاوى شامى ج: ۶ ص: ۳۲۶، كتاب الأضحية، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور قربانی کی رقم کا صدقہ کر دینا اس کے ذمے واجب ہے، آئندہ سال اس کے بدلے قربانی کرنے سے واجب ادا نہیں ہوگا۔<sup>(۱)</sup>

## اگر کفایت کر کے جانور خرید سکتے ہیں تو قربانی ضرور کریں

سوال: ... ہمارے والد صاحب ملازم ہیں اور تنخواہ ملتی ہے، وہ مہینے کے مہینے کھاپی لیتے ہیں، لیکن تنخواہ اتنی ہے کہ اگر کفایت سے خرچ کی جائے تو قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں، بتائیے والد صاحب پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟

جواب: ... اس صورت میں قربانی واجب نہیں، البتہ اگر گھر میں اتنی نقدی ہو جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، یا کفایت شعاری کر کے اتنی رقم جمع کر لیں جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے، اور اگر کفایت شعاری کر کے قربانی کی رقم بچائی جاسکتی ہے تو قربانی کرنا بہتر ہے، واجب نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## فوت شدہ آدمی کی طرف سے کس طرح قربانی دیں؟

سوال: ... کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، فوتگی کے بعد اس کے ورثاء اس کے لئے قربانی دینا چاہتے ہیں، قربانی دینے کا کیا طریقہ ہوگا؟ گوشت کی تقسیم کا طریقہ اور قربانی کی حد کیا ہے؟

جواب: ... وفات یافتہ حضرات کی طرف سے جتنی قربانیاں جی چاہے کر سکتے ہیں، گوشت کی تقسیم کا کوئی الگ طریقہ نہیں، بس فوت شدہ آدمی کی طرف سے قربانی کی نیت کر لینا کافی ہے۔<sup>(۳)</sup>

## اپنی قربانی کرنے کے بجائے اپنے والد کی طرف سے قربانی کرنا

سوال: ... رواج یہ ہے کہ زید ایک سال اپنے نام پر قربانی کرتا ہے، اگلے سال والد کے نام پر، اگلے سال والدہ کے نام پر، پھر پیر و مرشد وغیرہ کے نام پر۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ یا کہ زید کو صرف اپنے نام پر قربانی کرنا چاہئے جبکہ صاحب نصاب صرف زید ہی ہے؟

(۱) فإن كان قد أوجب التضحية على نفسه بشاة بعينها فلم يضحها حتى مضت أيام النحر فيتصدق بعينها سواء كان موسراً أو معسراً. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۳، کتاب الأضحیة، الباب الأول فی تفسیرها).

(۲) والموسر فی ظاهر الروایة من له مائتا درهم أو عشرون ديناراً أو شیء یبلغ ذاک سوی مسکنه و متاع مسکنه و مرکوبه و خادمه فی حاجته التي لا یستغنی عنها. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۲، کتاب الأضحیة، الباب الأول فی تفسیرها).

(۳) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ فرمائیں۔

(۴) من ضحی عن المیت یصنع کما یصنع فی اضحیة نفسه من التصدق والاکل والاجر للمیت ... الخ. (فتاویٰ شامی ج: ۶ ص: ۳۲۶، کتاب الأضحیة).

جواب: ... زید صاحب نصاب ہے تو اس کی قربانی اس پر بہر حال واجب ہوگی، اس کے علاوہ وہ ان بزرگوں کی طرف سے نقلی قربانی کر سکتا ہے۔<sup>(۲)</sup>

## مرحوم والدین کی طرف سے قربانی دینا

سوال: ... کیا قربانی فوت شدہ والدین کی طرف سے دی جاسکتی ہے جبکہ خود اپنی ذاتی نہ دے سکے؟

جواب: ... جس شخص پر قربانی واجب ہو، اس کا اپنی طرف سے قربانی کرنا لازم ہے۔<sup>(۳)</sup> اگر گنجائش ہو تو مرحوم والدین وغیرہ کی طرف سے الگ قربانی دے، اور اگر خود صاحب نصاب نہیں اور قربانی اس پر واجب نہیں تو اختیار ہے کہ خواہ اپنی طرف سے کرے یا والدین کی طرف سے۔ اگر میاں بیوی دونوں صاحب حیثیت ہوں تو دونوں کے ذمہ الگ الگ قربانی واجب ہے۔ اسی طرح اگر باپ بھی صاحب نصاب ہو اور اس کے بیٹے بھی برسر روزگار اور صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک کے ذمہ الگ الگ قربانی واجب ہے۔<sup>(۴)</sup> بہت سے گھروں میں یہ دستور ہے کہ قربانی کے موقع پر گھرانے کے بہت سے افراد کے صاحب نصاب ہونے کے باوجود ایک قربانی کر لیتے ہیں، کبھی شوہر کی نیت سے، کبھی بیوی کی طرف سے اور کبھی مرحومین کی طرف سے، یہ دستور غلط ہے، بلکہ جتنے افراد مالک نصاب ہوں ان سب پر قربانی واجب ہوگی۔

## زکوٰۃ نہ دینے والے کا قربانی کرنا

سوال: ... اگر کوئی شخص زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتا، لیکن قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟

جواب: ... اگر خلوص سے قربانی کرے تو قربانی کا ثواب ملے گا، اور زکوٰۃ نہ دینے کا وبال الگ ہوگا، اور اگر محض گوشت کھانے یا لوگوں کے طعنے سے بچنے کے لئے قربانی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ثواب بھی نہیں ہوگا، بلکہ مخلوق یاد کھلاوے کے لئے عمل کرنے کی وجہ سے مزید عذاب ہوگا۔<sup>(۵)</sup>

## جس پر قربانی واجب نہ ہو، وہ کرے تو اسے بھی ثواب ہوگا

سوال: ... ہمارا خاندان پانچ افراد پر مشتمل ہے، محدود آمدنی ہے، بڑے بھائی کا اپنا چھوٹا موٹا کاروبار ہے، اور میری ۱۰۰۰

(۱) ومن شرائطها الإسلام والإقامة واليسار الخ بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها. (حاشية رد المحتار ج: ۶ ص: ۳۱۲، كتاب الأضحية، طبع سعيد كراچی).

(۲) وإن كان أحد الشركاء ممن يضحى عن ميت جاز. (بدائع ج: ۵ ص: ۷۲، كتاب التضحية).

(۳) وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يضح فلا يقربن مصلانا، وهذا خرج مخرج الوعيد على ترك الأضحية ولا وعيد إلا بترك الواجب، وقال عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فليعد أضحيته ..... وكل ذلك دليل الوجوب ولأن اراقه الدم قربة والوجوب هو القربة في القربات. (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۶۲، كتاب التضحية).

(۴) وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر. (رد المحتار ج: ۶ ص: ۳۱۲).

(۵) هي ذبح حيوان مخصوص بنية القربة ..... قال في البدائع: فلا تجزئ التضحية بدونها لأن الذبح قد يكون للحم الخ. (الفتاوى الشامية ج: ۶ ص: ۳۱۲، كتاب الأضحية، طبع ايج ايم سعيد).

تنخواہ ہے، جس میں ۸۰۰ ملتی ہے۔ ۱۹۷۴ء میں تباہ حال ہو کر مشرقی پاکستان سے آئے ہیں، کرائے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، صرف ضرورت کی اشیاء موجود ہیں، جو کچھ کماتے ہیں وہ تمام خرچ ہو جاتا ہے، اس سے بچت مشکل ہے، نہ ہی سونا چاندی ہے۔ کیا میرے تمام حالات کے تحت مجھ پر قربانی فرض ہے؟ اور کیا اس طرح ۱۰ روپے روزانہ جمع کر کے اس سے جانور لانا اور اس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ قربانی کن حالات میں جائز ہے؟

جواب: ... قربانی اس شخص کے ذمہ واجب ہے جس کے پاس ضروری استعمال کی اشیاء اور ضروری اخراجات سے زائد نصاب کی مالیت ہو، یعنی ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت کے برابر۔ آپ نے جو حالات تحریر فرمائے ہیں ان کے مطابق آپ کے ذمہ قربانی واجب نہیں<sup>(۱)</sup>، لیکن اگر آپ کچھ رقم پس انداز کر کے قربانی کر دیا کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ راقم الحروف کو رقم پس انداز کرنے کی عادت تو کبھی نہ پڑی، البتہ اس خیال سے قربانی ہمیشہ کی کہ جب ہم اپنے اخراجات میں کمی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کے معاملے میں ناداری کا بہانہ کیوں کیا جائے؟ الغرض اگر آپ قربانی کریں گے تو آپ کو پورا ثواب ملے گا۔

## قربانی کے بجائے پیسے خیرات کرنا

سوال: ... اگر کوئی شخص قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور وہ قربانی کے پیسوں سے قربانی دینے کے بجائے کسی مستحق شخص کی خدمت کرے، جس کو واقعتاً ضرورت ہو تو کیا قربانی کا ثواب مل جائے گا یا قربانی کا ثواب صرف قربانی ہی سے ملتا ہے؟ یاد رہے کہ قربانی دینے والا ویسے اس غریب شخص کی خدمت نہیں کر سکتا۔

جواب: ... جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہو، اس کے ذمہ قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ غریبوں کو پیسے دینے سے قربانی کا ثواب نہیں ہوگا، بلکہ یہ شخص گناہ گار ہوگا<sup>(۲)</sup> اور جس کے ذمہ قربانی واجب نہیں اس کو اختیار ہے، خواہ قربانی کرے یا غریبوں کو پیسے دیدے، لیکن دوسری صورت میں قربانی کا ثواب نہیں ہوگا، صدقے کا ثواب ہوگا۔

## کیا قربانی کا گوشت خراب کرنے کے بجائے اتنی رقم صدقہ کر دیں؟

سوال: ... اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ عید قربان کے موقع پر مسلمان قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں اور یوں اکثر لوگ گوشت زیادہ یا خراب ہونے کی وجہ سے نالیوں میں ضائع کر دیتے ہیں، مختصر یہ کہ یوں پھینک دیتے ہیں، کیا اگر کوئی انسان چاہے تو قربانی کے جانور جتنی رقم کسی شخص کو بطور امداد دے سکتا ہے؟ کیا یہ اسلامی نقطہ نظر سے درست ہے؟

جواب: ... قربانی اہل استطاعت پر واجب ہے، قربانی کے بجائے اتنی رقم صدقہ کر دینے سے یہ واجب ادا نہیں ہوتا، بلکہ

(۱) فلا بد من اعتبار الغنی وهو أن يكون ملكه ما نفا درهم أو عشرون ديناراً أو شيء يبلغ قيمته ذاك سوى ما ينفذ به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغنى عنه. (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۶۴، كتاب التضحية).

(۲) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۵ ملاحظہ فرمائیں۔



قربانی کرنا ہی ضروری ہے<sup>(۱)</sup>۔ گوشت کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق ہے، خود نہ کھا سکے تو دوسروں کو دیدے۔

## قربانی کا جانور اگر فروخت کر دیا تو رقم کو کیا کرے؟

سوال: ... اگر کسی آدمی نے قربانی کا بکر لیا ہو اور اس کو قربانی سے پہلے کسی وجہ سے فروخت کر دے، اب وہ رقم کسی اور جگہ خرچ کر سکتا ہے؟

جواب: ... وہ رقم صدقہ کر دے اور استغفار کرے، اور اگر اس پر قربانی واجب تھی تو پھر دوسرا جانور خرید کر قربانی کے دنوں میں قربانی کرے۔<sup>(۲)</sup>

## سات سال مسلسل قربانی واجب ہونے کی بات غلط ہے

سوال: ... قربانی کے مسائل کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں کہ انسان پر کتنی قربانیاں واجب ہیں؟ کیونکہ میں نے یہ سنا ہے بلکہ عمل کرتے دیکھا ہے کہ جب کوئی آدمی قربانی دیتا ہے تو پھر اس پر لگاتار سات سال تک قربانیاں واجب ہو جاتی ہیں اور وہ سات قربانیوں کے بعد بڑی الذمہ ہے، کیا یہ درست ہے؟

جواب: ... جو شخص صاحب نصاب ہو اس پر قربانی واجب ہے، اور جو صاحب نصاب نہ ہو اس پر واجب نہیں۔<sup>(۳)</sup> سات سال تک قربانی واجب ہونے کی بات بالکل غلط ہے، اگر اس سال صاحب نصاب ہو تو قربانی واجب ہے، اور اگلے سال صاحب نصاب نہ رہے تو قربانی بھی واجب نہ ہوگی۔<sup>(۴)</sup>

## بقر عید پر جانور مہنگے ہونے کی وجہ سے قربانی کیسے کریں؟

سوال: ... دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسلام ہر مسئلے کا حل تلاش کر سکتا ہے، اور اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ جناب عالی! اب کچھ دنوں کی بات ہے، بقر عید ہونے والی ہے، اور اس موقع پر قربانی کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور اس کام کے لئے تمام ذرائع ابلاغ استعمال ہوتے ہیں اور پھر لوگ قربانی بھی کرتے ہیں، اپنی، اپنے والدین کے نام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور اپنے پیر کے نام پر وغیرہ وغیرہ۔

رمضان میں ایک عزیز کے بچے کا عقیدہ تھا، ان کے ساتھ بکرے خریدنے گیا تو ایک ایک بکر ۱۴۰۰ روپے کا ملا، پھر ابھی

(۱) أيضًا. (قوله أى إراقة الدم) قال فى الجوهرة: والدليل على أنها إراقة لو تصدق بين الحيوان لم يجز والتصدق بلحمها بعد الذبح مستحب. (رد المحتار ج: ۶ ص: ۳۱۳، كتاب الأضحية).

(۲) قال فى العناية: وهى واجبة بالقدرة الممكنة، بدليل أن الموسر إذا اشترى شاة الأضحية فى أول يوم النحر ولم يضح حتى مضت أيام النحر ثم افتقر كان عليه أن يتصدق بعينها ولا تسقط عنه الأضحية. (رد المحتار ج: ۶ ص: ۳۱۳).

(۳) قوله واليسار بأن ملك مائتى درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه... الخ. (شامى ج: ۶ ص: ۳۱۲، كتاب الأضحية).

(۴) أيضًا. وشرانطها الإسلام والإقامة واليسار... الخ. (شامى ج: ۶ ص: ۳۱۲، كتاب الأضحية). نیز حوالہ بالا دیکھیں۔

پچھلے ہفتے تقریباً بکرے ۱۵۰۰ اور ۱۶۰۰ روپے کے خرید کئے گئے، وجہ گرانی قیمت بقرعید کی آمد، بقول فروخت کرنے والے کے بقرعید آرہی ہے، دام بڑھ گئے۔

کہا جاتا ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھانا، دام بڑھا دینا اور اس خیال سے مال روک لینا کہ کل قیمت بڑھ جائے گی، ان سب کو اسلام جائز قرار نہیں دیتا، اور ایسے تاجروں پر اللہ کی لعنت، اور پھر یہ کہ ظالم سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ظلم سے ہاتھ روک لے، وغیرہ وغیرہ۔

اب سوال یہ ہے کہ ظلم سے کیونکر بچا جائے؟ ہم میں سے کون کس کے خلاف جنگ کرے اور کیونکر؟ کیا ہم جانور کی قربانی نہ کریں اور اگر نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ میں ذاتی طور پر گمان کرتا ہوں کہ اگر تمام علماء مل کر یہ اعلان کریں کہ چونکہ بقرعید پر تاجر دام بڑھا دیتا ہے اس لئے اب اس سال جانور کی قربانی نہ ہو، بلکہ کچھ اور۔ اگر ایسا ہو گیا تو آج اگر نہیں تو کل قیمت کم ضرور ہوگی، ورنہ ہم اور آپ سب قربانی کی فرضیت کے نام پر ظالم کو اور طاقت ور کریں گے، یہ مسئلہ متوسط شہری آبادی کے لاکھوں افراد کا ہے۔

مولانا صاحب! اس کا جواب مکمل بذریعہ اخبار بہتر ہوگا، کیونکہ اگر فرض، کراہیت سے ادا ہو تو پھر بات بنتی نہیں، بلکہ بگڑتی ہے۔

جواب:.. قربانی صاحب استطاعت لوگوں پر واجب ہے<sup>(۱)</sup> اور واجبات شرعیہ کو اٹھا دینے یا موقوف و منسوخ کر دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، علمائے کرام کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ اس لئے آپ علماء سے جو اعلان کروانا چاہتے ہیں یہ دین میں ترمیم و تحریف کا مشورہ ہے، دین میں ترمیم و تحریف حرام اور گناہ عظیم ہے اور اس کا مشورہ دینا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔<sup>(۲)</sup>

جہاں تک قیمتوں کے اعتدال پر رکھنے کا سوال ہے، اس کے لئے دوسری تدابیر اختیار کی جاسکتی ہیں اور ضرور کرنی چاہئیں۔ اور جن لوگوں کے پاس مہنگے جانور خریدنے کی گنجائش نہیں ان پر قربانی واجب نہیں، وہ نہ کریں، مگر اس کا یہ علاج نہیں کہ اس سال قربانی ہی کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا جائے۔

(۱) و شرائطها الإسلام والإقامة واليسار... الخ. (شامی ج: ۶ ص: ۳۱۲، کتاب الأضحیة).

(۲) قال تعالى: "وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" (البقرة: ۷۵).

## ایام قربانی

### قربانی کتنے دن کر سکتے ہیں؟

سوال: ...قربانی کے بارے میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قربانی سات دن تک جائز ہے، حالانکہ ہم لوگ صرف تین دن قربانی کرتے ہیں۔ وضاحت فرمائیں کہ تین دن کر سکتے ہیں یا سات دن بھی کر سکتے ہیں؟

جواب: ...جمہور ائمہ کے نزدیک قربانی کے تین دن ہیں، امام شافعی چوتھے دن بھی جائز کہتے ہیں، حنفیہ کو تین دن ہی قربانی کرنی چاہئے۔<sup>(۱)</sup>

### قربانی دسویں، گیارہویں اور بارہویں ذی الحجہ کو کرنی چاہئے

سوال: ...قربانی کس دن کرنی چاہئے؟

جواب: ...قربانی کی عبادت صرف تین دن کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے دنوں میں قربانی کی کوئی عبادت نہیں۔ قربانی کے دن ذی الحجہ کی دسویں، گیارہویں اور بارہویں تاریخیں ہیں، ان میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے، البتہ پہلے دن کرنا افضل ہے۔<sup>(۲)</sup>

### شہر میں نمازِ عید سے قبل قربانی کرنا صحیح نہیں

سوال: ...شہر میں زید نے نمازِ عید سے پہلے صبح ہی قربانی کی، یہ قربانی ہوئی یا نہیں؟

(۱) وأيام النحر ثلاثة: يوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذى الحجة، والحادى عشر والثانى عشر وذلك بعد طلوع الفجر من اليوم الأول..... وقال الشافعى رحمه الله تعالى: أيام النحر أربعة أيام، العاشر من ذى الحجة والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، والصحيح قولنا... إلخ. (البدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل وأما وقت الوجوب ج: ۵ ص: ۶۵). أيضاً: وهى ثلاثة أيام أفضلها أولها..... وآخرة قبيل غروب يوم الثالث وجوزه الشافعى فى الرابع. (الدر المختار ج: ۶ ص: ۳۱۶، كتاب الأضحى، طبع ايج ايم سعيد، وأيضاً فى البحر ج: ۸ ص: ۱۷۶، كتاب الأضحى).

(۲) ووقتها ثلاثة أيام أولها أفضلها لأنها تفوت بفوات أيامها. (البحر الرائق ج: ۸ ص: ۱۷۶). أيضاً: وأيام النحر ثلاثة، يوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذى الحجة، والحادى عشر والثانى عشر، وذلك بعد طلوع الفجر من اليوم الأول إلى غروب الشمس من الثانى عشر... إلخ. (البدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل وأما وقت الوجوب ج: ۵ ص: ۶۵، طبع سعيد).

جواب:.... یہ قربانی نہیں ہوئی، لہذا اگر اس پر قربانی واجب تھی تو قربانی کے دنوں میں دوسری قربانی کرنا اس پر واجب ہوگا۔<sup>(۱)</sup>

## قربانی کرنے کا صحیح وقت

سوال:.... براہ کرم قربانی کرنے کا صحیح وقت، نماز سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ اس پر روشنی ڈالئے۔

جواب:.... جن بستیوں یا شہروں میں نماز جمعہ و عیدین جائز ہے، وہاں نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں، اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی تو اس پر دوبارہ قربانی لازم ہے۔ البتہ چھوٹے گاؤں جہاں جمعہ و عیدین کی نمازیں نہیں ہوتیں، یہ لوگ دسویں تاریخ کی صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔<sup>(۲)</sup> ایسے ہی کسی عذر کی وجہ سے نماز عید پہلے دن نہ ہو سکے تو نماز عید کا وقت گزر جانے کے بعد قربانی درست ہے (درمختار)۔<sup>(۳)</sup> قربانی رات کو بھی جائز ہے مگر بہتر نہیں (شامی)۔<sup>(۴)</sup>

(۱) وأما الذي يرجع إلى وقت التضحية فهو انها لا تجوز قبل دخول الوقت ..... فلا يجوز لأحد أن يضحي قبل طلوع الفجر الثاني من اليوم الأول من أيام النحر ويجوز بعد طلوعه سواء كان من أهل المصر أو من أهل القرى غير أن للجواز في حق أهل المصر شرطاً زائداً وهو أن يكون بعد صلاة العيد لا يجوز تقديمها عليه عندنا. (البدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل واما شرائط جواز إقامة الواجب ج: ۵ ص: ۷۳، طبع ايج ايم سعيد، أيضاً: من ذبح قبل صلاة الإمام فليعد ذبيحته. (البحر الرائق، كتاب الأضحية ج: ۸ ص: ۷۵، طبع دار المعرفة، بيروت).

(۲) لا يجوز لأهل الأمصار المطالبين بصلاة العيد الذبح في اليوم الأول إلا بعد أداء صلاة العيد ..... وأما أهل القرى الذين ليس عليهم صلاة، فيذبحون بعد فجر اليوم الأول. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۶۰۶). من ذبح قبل صلاة الإمام فليعد ذبيحته. (البحر الرائق، كتاب التضحية ج: ۸ ص: ۷۵، أيضاً ورد المختار، كتاب الأضحية ج: ۶ ص: ۳۱۸).

(۳) وأول وقتها بعد الصلاة إن ذبح في مصر ..... وبعد مضي وقتها لو لم يصلوا لعذر، درمختار، وفي الشامية (قوله لعذر) ..... فإن اشتغل الإمام فلم يصل أو ترك عمداً حتى زالت فقد حل الذبح بغير صلاة في الأيام كلها. (رد المختار مع الدر المختار ج: ۶ ص: ۳۱۸، كتاب الأضحية).

(۴) وكره تنزيهاً الذبح ليلاً لاحتمال الغلط (قوله تنزيهاً) ..... قلت الظاهر ان هذه الكراهة التنزيهية ومرجعها إلى خلاف الأولى، إذ احتمال الغلط لا يصلح دليلاً على كراهة التحريم. (رد المختار مع الدر المختار، كتاب الأضحية ج: ۶ ص: ۳۲۰، كتاب الأضحية).

## کن جانوروں کی قربانی جائز ہے یا ناجائز؟

### کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟

سوال: بکرا، بکری، بھیڑ، دُنْبہ، کن کن جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں؟

جواب: ... بھیڑ، بکرا، دُنْبہ، ایک ہی شخص کی طرف سے قربان کیا جاسکتا ہے۔ گائے، بیل، بھینس، اُونٹ سات آدمیوں کی طرف سے ایک کافی ہے،<sup>(۱)</sup> بشرطیکہ سب کی نیت ثواب کی ہو، کسی کی نیت محض گوشت کھانے کی نہ ہو۔ بکرا، بکری ایک سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دُنْبہ اگر اتنا فرہ اور تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ گائے، بیل، بھینس دو سال کی۔ اُونٹ پانچ سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان عمروں سے کم کے جانور قربانی کے لئے کافی نہیں<sup>(۲)</sup>۔ اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا پوری عمر بتاتا ہے اور ظاہری حالات سے اس کے بیان کی تکذیب نہیں ہوتی تو اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ جس جانور کے سینگ

(۱) وأما قدره: فلا تجوز الشاة والمعز إلا عن واحد وإن كانت عظيمة ..... ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة ويجوز ذلك عن سبعة وأقل من ذلك وهو قول عامة العلماء. (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الأضحیة، الباب الخامس ج: ۵ ص: ۲۹۷، طبع رشیدیہ کوئٹہ)۔ أيضًا: يجب أن يعلم أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد وإن كانت عظيمة، والبقر والبعير يجزئ عن سبعة إذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى، والتقدير بالسبع يمنع الزيادة ولا يمنع النقصان. (فتاویٰ عالمگیری، الباب الثامن ج: ۵ ص: ۳۰۴)۔ والجذور والبقر عن سبعة، ولو نوى أحدهم اللحم بطل الكل... الخ. (خلاصة الفتاوى، کتاب الأضحیة ج: ۳ ص: ۳۱۵ طبع رشیدیہ)۔

(۲) أسنان الأضاحي: الأضاحي اثنان: الجذع من الضأن إذا كان ضخماً عظيماً وهو الذي أتى الستة أشهر والثني من المعز والإبل والبقر فالثني من الإبل الذي طعن في الثالثة ومن المعز الذي طعن في السنة الثانية ومن البقر الذي طعن في الثانية والبختي من الإبل بمنزلة العراب. (خزانة الفقه ص: ۲۶۵ طبع المكتبة الغفورية)۔ وأيضاً: (وأما سنه) فلا يجوز شيء مما ذكرنا من الإبل والبقر والغنم عن الأضحیة إلا الثني من كل جنس وإلا الجذع من الضأن خاصة إذا كان عظيماً، وأما معاني هذه الأسماء فقد ذكر القدوري أن الفقهاء قالوا: الجذع من الغنم ابن ستة أشهر والثني ابن سنة، والجذع من البقر ابن سنة والثني منه ابن سنتين، والجذع من الإبل ابن أربع سنين والثني ابن خمسة، وتقدير هذه الأسنان بما قلنا يمنع النقصان ولا يمنع الزيادة حتى لو ضحى بأقل من ذلك شيئاً لا يجوز ولو ضحى بأكثر من ذلك شيئاً يجوز ويكون أفضل. (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الأضحیة، الباب الخامس في بيان محل إقامة الواجب ج: ۵ ص: ۲۹۷، طبع رشیدیہ کوئٹہ)۔

پیدائشی طور پر نہ ہوں یا بیچ میں سے ٹوٹ گئے ہوں اس کی قربانی درست ہے۔ ہاں! سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو جس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں (شامی)۔<sup>(۱)</sup> خصی (بدھیا) بکرے کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔<sup>(۲)</sup> اندھے، کانے اور لنگڑے جانور کی قربانی درست نہیں، اسی طرح ایسا مریض اور لاغر جانور جو قربانی کی جگہ تک اپنے پیروں پر نہ جاسکے اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ جس جانور کا تہائی سے زیادہ کان یا دم کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں (شامی)۔<sup>(۳)</sup> جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر نہ ہوں اس کی قربانی جائز نہیں (شامی، درمختار)۔<sup>(۴)</sup> اسی طرح جس جانور کے کان پیدائشی طور پر بالکل نہ ہوں، اس کی قربانی درست نہیں۔<sup>(۵)</sup> اگر جانور صحیح سالم خریدتا تھا پھر اس میں کوئی عیب مانع قربانی پیدا ہو گیا تو اگر خریدنے والا غنی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے لئے اسی عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے، اور اگر یہ شخص غنی صاحب نصاب ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس جانور کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کرے<sup>(۶)</sup> (درمختار وغیرہ)۔

## قربانی کا بکر ایک سال کا ہونا ضروری ہے، دو دانت ہونا علامت ہے

سوال: ... بکرے کے دو دانت ہونا ضروری ہے، یا تندرست و توانا بکر دو دانت ہوئے بغیر بھی ذبح کیا جاسکتا ہے؟ یا یہ حکم صرف دُبنے کے لئے ہے؟

جواب: ... بکر اپورے ایک سال کا ہونا ضروری ہے، اگر ایک دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ دو دانت ہونا اس کی

(۱) ویضحیٰ بالجماء ہی اللتی لا قرن لها حلقة، وكذا العظماء التي ذهب بعض قرنها بالكسر أو غيره فإن بلغ الكسر إلى المخ، لم يجز. وفي البدائع: إن بلغ الكسر إلى المشاش لا يجزئ. (فتاویٰ شامی، کتاب الأضحیة ج: ۶ ص: ۳۲۳، طبع ایچ ایم سعید کراچی، أيضًا فتاویٰ عالمگیری، کتاب الأضحیة، الباب الخامس ج: ۵ ص: ۲۹۷، طبع رشیدیہ کوئٹہ)۔

(۲) ویضحیٰ بالجماء والخصی والثولاء۔ (درمختار، کتاب الأضحیة ج: ۶ ص: ۳۲۳)۔ والخصی أفضل من الفحل لأنه أطيب لحمًا۔ (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الأضحیة، الباب الخامس ج: ۵ ص: ۲۹۹، أيضًا فتاویٰ بزازیة علی هامش الہندیة، کتاب الأضحیة ج: ۶ ص: ۲۸۹، طبع رشیدیہ کوئٹہ)۔

(۳) لا بالعمیاء والعوراء والعجفاء المهزولة التي لا مخ فی عظامها، والعرجاء التي لا تمشی إلى المنسک أي المذبح، والمريضة الین مرضها، ومقطوع أكثر الأذن أو الذنب أو العين أي التي ذهب أكثر نورها... الخ۔ (درمختار مع رد المختار، کتاب الأضحیة ج: ۶ ص: ۳۲۳، طبع سعید کراچی، أيضًا فتاویٰ ہندیة، کتاب الأضحیة ج: ۵ ص: ۲۹۷)۔

(۴) (ولا بالهائماء) التي لا أسنان لها ويكفي بقاء الأكثر۔ (درمختار، کتاب الأضحیة ج: ۶ ص: ۳۲۳، طبع ایچ ایم سعید، أيضًا فتاویٰ ہندیة، کتاب الأضحیة، الباب الخامس ج: ۵ ص: ۲۹۸، طبع رشیدیہ کوئٹہ)۔

(۵) ولا بالهائماء..... (والسكاء) التي لا أذن لها حلقة فلو لها أذن صغيرة حلقة أجزت زيلعي۔ (درمختار علی هامش الطحطاوی، کتاب الأضحیة ج: ۳ ص: ۱۶۵، طبع رشیدیہ کوئٹہ)۔

(۶) ولو اشتراها سليمة ثم تعيب بعيب مانع كما مر فعليه إقامة غيرها مقماها إن كان غنيًا وإن كان فقيرًا أجزأه ذلك۔ (الدر المختار علی هامش الطحطاوی، کتاب الأضحیة ج: ۳ ص: ۱۶۵، طبع رشیدیہ کوئٹہ)۔

علامت ہے۔ بھیڑ اور ذنب اگر عمر میں سال سے کم ہے لیکن اتنا موٹا تازہ ہے کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔<sup>(۱)</sup>

## قربانی کے جانور کی عمر کا حساب کیسے ہوگا؟

سوال: ...فقہ حنفی میں بکر اور ذنب ایک سال کا قربانی کے لئے شرط ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس وقت تک شمار کی جائے گی؟ آیا یہ عمر ۹ رذوالحجہ کی مغرب تک شمار کی جائے گی؟ یا ۱۰ رذوالحجہ کے آفتاب سے پہلے تک؟ یا پھر جانور کے قربانی کئے جانے تک؟ مثلاً ایک بکرے کی پیدائش سابقہ ذوالحجہ کی ۱۰ تاریخ کی ہے، آیا اسے آئندہ ذوالحجہ کی ۱۰ تاریخ کو بعد از دوپہر قربان کیا جاسکتا ہے؟

جواب: ... جو بکر اگزشتہ سال پیدا ہوا، اگر وہ قربانی کے دن پیدا ہوا تھا تو اس کی پیدائش سے ایک سال بعد اس کی قربانی صحیح ہے، مثلاً گزشتہ سال دس ذوالحجہ کو دوپہر کے وقت جو بکر پیدا ہوا، دوپہر کے بعد اس کی قربانی صحیح ہے۔<sup>(۲)</sup>

## کیا پیدائشی عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے؟

سوال: ... چند جانور فروش یہ کہہ کر جانور فروخت کرتے ہیں کہ اس کی ٹانگ وغیرہ کا جو عیب ہے، یہ اس کا پیدائشی ہے، یعنی قدرتی ہے، جبکہ عیب دار جانور عقیدہ و قربانی میں شامل کرنے کو روکا جاتا ہے۔

جواب: ... عیب خواہ پیدائشی ہو، اگر ایسا عیب ہے جو قربانی سے مانع ہے، اس جانور کی قربانی اور عقیدہ صحیح نہیں ہے۔<sup>(۳)</sup>

## گا بھن جانور کی قربانی کرنا

سوال: ... اگر گائے کی قربانی کی اور وہ گائے گا بھن تھی لیکن ظاہر نہیں ہوتی تھی، یعنی یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ گا بھن ہے یا نہیں؟ لیکن جب قربانی کی تو پیٹ سے بچہ نکلا تو بتائیں کہ وہ قربانی ہوگئی ہے یا دوبارہ کریں؟

جواب: ... گا بھن گائے وغیرہ کی قربانی جائز ہے، دوبارہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، بچہ اگر زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح

(۱) (وصح الجذع ذو ستة أشهر من الضأن إن كان بحيث لو خلط بالثنايا لا يمكن التميز بعد، وصح الثني فصاعداً من الثلاثة والثني هو ..... وحول من الشاة والمعز، قوله: ذو ستة أشهر وذكر الزعفراني انه ابن سبعة أشهر زيلعي وهذا مذهب الفقهاء أما عند أهل اللغة الجذع من الضأن ما تمت له سنة نهاية ..... (قوله والثني هو ابن خمس الخ تقدير هذه الأسنان بما ذكر يمنع النقصان ولا يمنع الزيادة حتى لو ضحى بسن أقل من ذلك لا يجوز. (حاشية الطحطاوي على الدر ج: ۴ ص: ۱۶۲). وتقدير هذه الأسنان بما قلنا يمنع النقصان ولا يمنع الزيادة حتى لو ضحى بأقل من ذلك شيئاً لا يجوز، ولو ضحى بأكثر من ذلك شيئاً يجوز ويكون أفضل. (فتاوى عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۷، كتاب الأضحية، طبع رشيدية كوثه).  
(۲) وصح الثني هو ابن خمس من الإبل وحول من البقر والجاموس وحول من الشاة. (حاشية رد المحتار ج: ۶ ص: ۳۲۲).  
(۳) وأما صفتها فهو أن يكون سليماً من العيوب الفاحشة. (فتاوى عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۷). وفي الشامية: ولا تجوز مقطوعة إحدى الأذنين بكمالها والتي لها أذن واحدة حلقة. (ج: ۹ ص: ۵۳۷ طبع رشيدية).

کر لیا جائے، اور اگر مردہ نکلے تو اس کا کھانا درست نہیں، اس کو پھینک دیا جائے۔ بہر حال حاملہ جانور کی قربانی میں کوئی کراہت نہیں<sup>(۱)</sup>۔

اگر قربانی کے جانور کا سینگ ٹوٹ جائے؟

سوال: ... کسی شخص نے قربانی کی بکری خریدی، اس میں یہ عیب ہے کہ اس کا دایاں سینگ آدھا ٹوٹا ہوا ہے، کیا اس کی قربانی درست ہے؟

جواب: ... سینگ اگر جڑ سے اکھڑ جائے تو قربانی درست نہیں<sup>(۲)</sup>، اور اگر اوپر کا خول اتر جائے یا ٹوٹ جائے مگر اندر سے گودا سالم ہو تو قربانی درست ہے۔<sup>(۳)</sup>

جانور کو خصی کرنا

سوال: ... قربانی کے لئے جو بکر پالتے ہیں اس کو خصی کر دیتے ہیں صرف اس نیت سے کہ اس کی نشوونما اچھی ہو اور گوشت بھی زیادہ نکلے اور خصوصاً فروخت کرنے والے زیادہ تر خصی کر دیتے ہیں تاکہ دام اچھے لگیں۔ جب خصی کرتے ہیں تو بکر امدی طرح سے چیخ و پکار کرتا ہے، تو کیا جانور پر یہ ظلم ہے یا نہیں؟

جواب: ... جانور کا خصی کرنا جائز ہے<sup>(۴)</sup>، اور اس کی قربانی بھی جائز ہے۔<sup>(۵)</sup> جہاں تک ممکن ہو کوشش کی جائے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم پہنچے۔

کیا خصی جانور عیب دار ہوتا ہے؟

سوال: ... پیش امام صاحب کا کہنا ہے کہ کسی جانور کو خصی کرنا گناہ ہے، چونکہ یہ نسل کشی میں شامل ہے، یہ جانور اپنے مقصد حیات میں ناکارہ کرادیا گیا، یہ ایک طرح کا عیب ہو گیا، انسان نے صرف اپنے مزے کے لئے گوشت بہتر ہونے کا یہ طریقہ اختیار کیا۔ کیا یہ صحیح ہے؟

جواب: ... آپ کے امام صاحب کی بات غلط ہے، خصی جانور کی قربانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جس سے

(۱) ولدت الأضحية ولذا قبل الذبح يذبح الولد معها... الخ. (در مختار ج: ۶ ص: ۳۲۲، کتاب الأضحية).

(۲) وإن بلغ الكسر المشاش لا يعجزه، والمشاش رؤس العظام مثل الركبتين والمرفقتين كذا في البدائع. (فتاوى عالمگیری، کتاب الأضحية، الباب الخامس ج: ۵ ص: ۲۹۷). أيضاً: فإن بلغ الكسر المشاش لا تعجزه، والمشاش رؤس العظام مثل الركبتين والمرفقين. (بدائع الصنائع، کتاب التضحية، ج: ۵ ص: ۷۶).

(۳) ويضحى بالجماء هي التي لا قرن لها خلقة، وكذا العظماء التي ذهب بعض قرنها بالكسر أو غيره، فإن بلغ الكسر إلى المخ لم يعجز. (رد المحتار، کتاب الأضحية ج: ۶ ص: ۳۲۳).

(۴) وجاز خصاء البهائم. (الدر المختار ج: ۶ ص: ۳۸۸، کتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

(۵) ويضحى بالجماء والخصى... الخ. (الدر المختار ج: ۶ ص: ۳۲۳، کتاب الأضحية).



جانور خصی کرانے کا جواز اور اس قسم کے جانور کی قربانی کرنے کا جواز دونوں معلوم ہو جاتے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

## خصی بکرے کی قربانی دینا جائز ہے

سوال: ... یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہئے، لیکن ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ خصی بکرے کی قربانی دی جاتی ہے، اب کیا اس بکرے کا خصی ہونا عیب نہیں؟

جواب: ... بکرے کا خصی ہونا عیب نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کی قیمت دوسرے بکرے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اس لئے خصی بکرے کی قربانی بلاشبہ جائز ہے۔<sup>(۲)</sup>

## خصی جانور کی قربانی کی علمی بحث

سوال: ... کیا فرماتے ہیں مفتیانِ عظام اس مسئلے میں کہ مندرجہ ذیل عبارت میں حدیث کی دلیل سے بہائم کو خصی کرنا سختی سے ممنوع قرار دیا ہے، جبکہ آپ نے شامی کے حوالے سے قربانی کے لئے خصی جانور نہ صرف جائز بلکہ افضل قرار دیا ہے۔

### ”جانور کو خصی بنانا منع ہے“

”عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر ذى الروح وعن

اخصاء البهائم نهياً شديداً.“

ترجمہ: ... ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ذی روح کو باندھ کر تیر اندازی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو خصی بنانے سے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔“

اس حدیث کو بزاز نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ”صحیح بخاری“ یا ”صحیح مسلم“ کے راوی ہیں۔

(مجمع الزوائد ج: ۵ ص: ۲۶۵، اس حدیث کی سند صحیح ہے، نیل الاوطار ج: ۸ ص: ۷۳)

برائے مہربانی مسئلہ صورت حال کی وضاحت سند صحیح ستہ سے فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔

جواب: ... متعدد احادیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی مینڈھوں کی قربانی کی، ان احادیث کا حوالہ

(۱) ويضحى بالجماء والخصى وعن ابي حنيفة هو أولى، لأن لحمه أطيب وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين موجهين. (بحر ج: ۸ ص: ۲۰۰، كتاب الأضحية، طبع دار المعرفة، بيروت).

(۲) ويصح بالجماء والخصى والتولاء... إلخ. (قوله والخصى) وعن الإمام أنه أولى لأن لحمه أطيب وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين موجهين ..... والموجه المخصى. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار، كتاب الأضحية ج: ۴ ص: ۱۶۴ طبع رشيدية).

مندرجہ ذیل ہے: (۱)

(۱) ابو داؤد ج: ۲ ص: ۳۰، مجمع الزوائد ج: ۴ ص: ۲۲)

۱: ... حدیث جابر رضی اللہ عنہ۔

(۲) ابن ماجہ ص: ۲۲۵)

۲: ... حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا۔

(۳) ابن ماجہ)

۳: ... حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔

(۴) مسند احمد ج: ۶ ص: ۸، مجمع الزوائد ج: ۴ ص: ۲۱)

۴: ... حدیث ابی رافع رضی اللہ عنہ۔

(۵) مسند احمد ج: ۶ ص: ۱۹۶)

۵: ... حدیث ابی الدرداء رضی اللہ عنہ۔

ان احادیث کی بنا پر تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ خصی جانور کی قربانی درست ہے، حافظ موفق الدین ابن قدامہ المقدسی الحنفی

(متوفی ۶۳۰ھ) ”المغنی“ میں لکھتے ہیں:

”ویجزی الخصى لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحی بکبشین موجونین .... ولأن

الخصاء ذهاب عضو غیر مستطاب یطیب اللحم بذہابه ویکثر ویسمن، قال الشعبي: ما زاد فی

لحمه وشحمه أكثر مما ذہب منه، وبهذا قال الحسن وعطاء والشعبي والنخعی ومالك

والشافعی وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فیہ مخالفاً.“ (المغنی مع الشرح الکبیر ج: ۱۱ ص: ۱۰۲)

ترجمہ: ”... اور خصی جانور کی قربانی جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی مینڈھوں کی

قربانی کی تھی، اور جانور کے خصی ہونے سے ناپسندیدہ عضو جاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے گوشت عمدہ ہو جاتا ہے

اور جانور موٹا اور فریبہ ہو جاتا ہے۔ امام شععی فرماتے: خصی جانور کا جو عضو جاتا رہا اس سے زیادہ اس کے گوشت

اور چربی میں اضافہ ہو گیا۔ امام حسن بصری، عطاء، شععی، مالک، شافعی، ابو ثور اور اصحاب الرائے بھی اسی کے

قائل ہیں، اور اس مسئلے پر ہمیں کسی مخالف کا علم نہیں۔“

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی جانور کی قربانی ثابت ہے اور تمام ائمہ یون اس پر متفق ہیں، کسی کا اس میں اختلاف

نہیں، تو معلوم ہوا کہ حلال جانور کا خصی کرنا بھی جائز ہے۔ سوال میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے وہ ان جانوروں کے بارے میں ہوگی جن

کا گوشت نہیں کھایا جاتا اور جن کی قربانی نہیں کی جاتی، ان کے خصی کرنے میں کوئی منفعت نہیں۔

(۱) حدیث جابر کے الفاظ یہ ہیں: عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال: ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین أقرنین

أملحین موجوین فلما وجہما قال: إنی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والأرض علی ملة إبراہیم حنیفاً وما أنا من

المشرکین، إن صلاتی ونسکی ومعیای ومماتى لله رب العالمین لا شریک له وبذلك أمرت وأنا من المسلمین، اللهم

منک ولك عن محمد وأمتہ، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح۔ (ابو داؤد، باب ما یستحب من الضحایا ج: ۲ ص: ۳۰ طبع ایچ

ایم سعید۔ وکذا فی مجمع الزوائد، باب أضحیة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ج: ۴ ص: ۱۱، طبع دار الکتب العلمیة،

بیروت، وکذا فی ابن ماجہ عن ابی ہریرة وعن عائشة ص: ۲۲۵ طبع میر محمد کتب خانہ، وکذا فی مسند أحمد عن ابی

رافع ج: ۸ ص: ۶ طبع بیروت۔)

## قربانی کے جانور کے بچے ہونے پر کیا کرے؟

سوال: ...قربانی کے جانور کے ذبح کرتے وقت اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکل آئے تو اس کا کیا کرنا چاہئے؟

جواب: ...قربانی کے جانور کے اگر ذبح کرنے سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا یا ذبح کرتے وقت اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکل آیا

تو اس کو بھی ذبح کر دینا چاہئے۔<sup>(۱)</sup>

## قربانی کا جانور گم ہو جائے تو کیا کرے؟

سوال: ...ایک شخص نے قربانی کرنے کے لئے بکر خریدی، لیکن وہ گم ہو گیا، بقر عید کے چوتھے یا پانچویں دن وہ مل گیا تو اب

اس کا کیا کرے؟

جواب: ...جس شخص پر قربانی واجب تھی اگر اس نے قربانی کا جانور خرید لیا پھر وہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا یا مر گیا تو واجب ہے

کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے۔ اگر دوسری قربانی کرنے کے بعد پہلا جانور مل جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس کی بھی قربانی کر دے،

لیکن اس کی قربانی اس پر واجب نہیں۔ اگر یہ غریب ہے جس پر پہلے سے قربانی واجب نہ تھی، نفلی طور پر اس نے قربانی کے لئے جانور

خرید لیا، پھر وہ مر گیا یا گم ہو گیا تو اس کے ذمہ دوسری قربانی واجب نہیں۔ ہاں! اگر گمشدہ جانور قربانی کے دنوں میں مل جائے تو اس کی

قربانی کرنا واجب ہے، اور آیام قربانی کے بعد ملے تو اس جانور کا یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے (بدائع ج: ۵ ص: ۶۶)۔<sup>(۲)</sup>

(۱) وان ولدت الأضحیة ولدًا ذبح ولدها مع الأم، وان باعه تصدق بثمنه لأن الأم تعینت للأضحیة، فیتبعها الولد۔ (الفقه الإسلامی وأدلته، کتاب الأضحیة، المبحث الخامس ج: ۳ ص: ۶۲۵ طبع دار الفکر)۔ أيضًا: ولدت الأضحیة ولدًا قبل الذبح یدبح الولد معها... إلخ۔ (درمختار ج: ۶ ص: ۳۲۲، کتاب الأضحیة)۔

(۲) ولو اشترى الموسر شاة للأضحیة فضلت فاشترى أخرى لیضحی بها ثم وجد الأولى فی الوقت فالأفضل أن یضحی بهما فإن ضحی بالأولی أجزاءه ولا تلزم التضحية بالأخرى ولا شیء علیه غیر ذلك۔ (بدائع الصنائع، کتاب التضحية ج: ۵ ص: ۶۶، فصل وأما كيفية الوجوب)۔

## قربانی کے حصے دار

### پوری گائے دو حصے دار بھی کر سکتے ہیں

سوال: ... گائے دو حصے دار بھی کر سکتے ہیں یا سات حصے دار ہونا ضروری ہے؟

جواب: ... جی ہاں! دو تین حصے دار بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کا حصہ ایک سے کم نہ ہو، یعنی حصے پورے

ہونے چاہئیں، مثلاً: ایک کے تین، دوسرے کے چار، یا ایک کا ایک، دوسرے کے چھ۔<sup>(۱)</sup>

### مشترک خریدا ہوا بکرا قربانی کرنا

سوال: ... بالفرض چند آدمیوں مثلاً: ۶-۸ نے مل کر ایک بکرا خریدا، جس میں سب برابر کے شریک ہیں، آیا نماز میں سب

نے بالاتفاق اس بکرے کو منجانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان کیا، تو یہ قربانی صحیح اور درست ہوئی یا نہیں؟

جواب: ... یہ درست نہیں ہوئی، البتہ اگر کوئی ایک شخص پورا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرے تو صحیح

ہوگا، کیونکہ یہ نقلی قربانی برائے ایصالِ ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اصل قربانی تو قربانی کرنے والے کی طرف سے ہے اور ظاہر

ہے کہ قربانی کا ایک حصہ ایک ہی آدمی کی جانب سے ہو سکتا ہے، جبکہ مذکورہ صورت ایک حصہ کئی آدمیوں کی جانب سے ہے۔<sup>(۲)</sup>

### جانور ذبح ہو جانے کے بعد قربانی کے حصے تبدیل کرنا جائز نہیں

سوال: ... پچھلے دنوں عید الاضحیٰ پر چند افراد نے مل کر یعنی حصے رکھ کر ایک گائے کی قربانی کرنا چاہی، اس طرح حصے رکھ کر

(۱) وَلَا يَجُوزُ بِعَيْرٍ وَاحِدٍ وَلَا بِقَرَّةٍ وَاحِدَةٍ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ سَبْعَةٍ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ عَنْ سَبْعَةٍ أَوْ أَقَلِّ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ

الْعُلَمَاءِ..... وَلَا شَكَّ فِي جَوَازِ بَدْنَةِ أَوْ بَقَرَةٍ عَنْ أَقَلِّ مِنْ سَبْعَةٍ بَأَنَّ اشْتِرَاكَ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ فِي

بَدْنَةِ أَوْ بَقَرَةٍ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ السَّبْعَ فَالزِّيَادَةُ أَوْلَى، وَسَوَاءٌ اتَّفَقَتِ الْأَنْصِبَاءُ فِي الْقَدْرِ أَوْ اخْتَلَفَتْ بَأَنَّ يَكُونُ لِأَحَدِهِمُ النِّصْفَ

وَلِلْآخَرِ الثَّلَاثَ وَالْآخِرَ السِّدْسَ بَعْدَ أَنْ لَا يَنْقُصُ عَنِ السَّبْعِ. (البدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل وأما محل إقامة الواجب

ج: ۵ ص: ۷۰، ۷۱، طبع ایچ ایم سعید، أيضًا فتاوى عالمگیری ج: ۵ ص: ۳۰۴، كتاب الأضحية، الباب الثامن).

(۲) يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الشَّاةَ لَا تَجْزِي إِلَّا عَنِ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَتْ عَظِيمَةً وَالْبَقْرَ وَالْبَعِيرَ يَجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ إِذَا كَانُوا يَرِيدُونَ بِهِ وَجْهَ

اللَّهِ تَعَالَى... الخ. (فتاوى عالمگیری ج: ۵ ص: ۳۰۴). وَأَمَّا قَدْرُهُ فَلَا يَجُوزُ الشَّاةُ وَالْمَعْزُ إِلَّا عَنِ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَتْ عَظِيمَةً

سَمِينَةً تَسَاوَى شَاتَيْنِ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَضْحَى بِهِمَا..... وَإِنَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَجْلِ الثَّوَابِ وَهُوَ أَنَّهُ جَعَلَ

ثَوَابَ تَضْحِيَّتِهِ بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ لِأُمَّتِهِ لِأَجْزَاءِ وَسَقَطَ التَّعْبُدُ عَنْهُمْ. (البدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۷۰).

گائے کو ذبح کر دیا گیا، گائے کے ذبح کر دینے کے بعد مذکورہ افراد میں سے ایک آدمی نے (جس کے اس گائے میں چند حصے تھے) دوسرے افراد سے (جنہوں نے پہلے کوئی حصہ نہ رکھا تھا) کہا کہ میں حصہ نہیں رکھنا چاہتا، لہذا میری جگہ آپ اپنے حصے رکھ لیں۔ کیا مذکورہ شخص جبکہ قربانی کی نیت کر چکا ہے، اور سب نے مل کر گائے ذبح بھی کر دی، بعد میں اپنا حصہ تبدیل کر سکتا ہے؟ اور بعد میں حصہ رکھنے والوں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جبکہ ہمارے گاؤں کے امام صاحب نے فرمایا ہے کہ اس طرح قربانی نہیں ہوتی۔

جواب: ... قربانی ذبح ہو جانے کے بعد حصہ تبدیل نہیں ہو سکتا، قربانی صحیح ہو گئی، جس کے چند حصے تھے اس کی طرف سے اتنے حصوں کی قربانی ہو گئی۔<sup>(۱)</sup>

ایک گائے میں چند زندہ اور مرحوم لوگوں کے حصے ہوں تو قربانی کا کیا طریقہ ہے؟

سوال: ... اگر ایک گائے میں چار زندہ اور تین مرحوم کی طرف سے قربانی ہو تو کیا جائز ہے؟ اور طریقہ کیا ہے؟

جواب: ... کر سکتے ہیں، اور طریقہ وہی ہے جو سات زندہ آدمیوں کے شریک ہونے کا ہے۔<sup>(۲)</sup>

(۱) وجہ الاستحسان أنها تعينت للذبح لتعينها للأضحية حتى وجب عليه أن يضحي بها بعينها في أيام النحر ويكره أن يبدل بها غيرها. (البحر الرائق ج: ۸ ص: ۲۰۴، قبيل كتاب الكراهية، طبع دار الفكر).

(۲) يجب أن يعلم أن الشاة لا تجزى إلا عن واحد ..... والبقر والبعير يجزى عن سبعة إذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى. (فتاوى عالمگیری ج: ۵ ص: ۳۰۴، كتاب الأضحية، الباب الثامن، كذا في البدائع ج: ۵ ص: ۷۰).

## قربانی کے لئے دُعا

### جانور ذبح کرتے وقت کی دُعا

”بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ، إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.“<sup>(۱)</sup>

ترجمہ:...” میں نے متوجہ کیا اپنے منہ کو اسی کی طرف جس نے بنائے آسمان اور زمین سب سے یکسو ہو کر، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لئے ہے، جو پالنے والا سارے جہان کا ہے۔“

### جانور ذبح کرنے کے بعد کی دُعا

”اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ وَخَلِيلِكَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ“<sup>(۲)</sup>

ترجمہ:...” اے اللہ! اس قربانی کو مجھ سے قبول فرما، جیسے کہ آپ نے قبول کیا اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ وعلیٰ نبینا الصلوٰۃ والسلام سے۔“

### قربانی کے بعد کی دُعا کا ثبوت

سوال: ... جمعہ کی اشاعت میں اقرأ کے صفحے پر آپ نے قربانی کرتے وقت کی دُعا اور قربانی کے بعد کی دُعا تحریر فرمائی ہے۔ لیکن آپ نے اس پر کسی کا حوالہ درج نہیں کیا۔ آیا یہ کس حدیث سے اخذ کی گئی ہے؟ یہ اعتراض مجھے اس وقت ہوا جب ہمارے محلے کی ”دلی مسجد“ المعروف بڑی مسجد دہلی کالونی کراچی کے خطیب نے بھری مسجد میں یہ بات کہی کہ میں نے اب تک یہ دُعا کسی حدیث میں نہیں پڑھی۔ اور اس کی تصدیق انہوں نے ایک مولانا صاحب سے کی جو کہ اس وقت وہاں موجود تھے، اور اسی مسجد میں امامت کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں اور درس قرآن و حدیث دیتے ہیں۔ یہ خطیب صاحب ہر جمعہ آپ کا اقرأ صفحہ پڑھ کر آتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے میں نے لگایا ہے کہ وہ عموماً آپ کے صفحے کا حوالہ دیتے رہتے ہیں کہ: ”آج جنگ میں آیا“، انہوں نے اس مسئلے

(۱) مشکوٰۃ، باب فی الأضحیۃ، الفصل الثانی ص: ۱۲۸۔

(۲) مشکوٰۃ ص: ۱۲۷، طبع قدیمی کتب خانہ۔

پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کر دیا جائے تو میں رُجوع کروں گا۔ اس لئے آپ نے جو بعد از قربانی کی دُعا درج کی ہے وہ کس حدیث سے مأخوذ ہے؟ اور اس کا اتباع کس نے کیا؟

جواب: ... مشکوٰۃ شریف ”باب فی الأضحیة“ میں صحیح مسلم کی روایت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ذکر کی ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاہ رنگ کا سینگوں والا مینڈھا ذبح فرمایا، پھر یہ دُعا فرمائی: ”بِسْمِ اللّٰهِ تَقْبَلُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ“ (ص: ۱۲۷)۔<sup>(۱)</sup>

اور اسی کتاب میں ہی بروایت احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی اور دارمی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے ہوئے یہ دو آیتیں پڑھیں:

”إِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ“  
اور ”قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ“  
اور پھر یہ دُعا پڑھی:

”اللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّةٍ“

اور پھر ”بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيرِ“ کہہ کر ذبح فرمایا۔<sup>(۲)</sup> اور مجمع الزوائد (ج: ۳ ص: ۲۱) میں اس مضمون کی اور بھی متعدد احادیث ذکر کی ہیں۔ اس سے قطع نظر آیت کریمہ: ”رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“ سے واضح ہوتا ہے کہ قبولیت عبادت کی دُعا خود بھی مطلوب ہے۔

## قربانی کے ثواب میں دُوسرے مسلمانوں کی شرکت

سوال: ... جنگ میں ”قربانی کے بعد کی دُعا کا ثبوت“ کے عنوان کے تحت جواب میں آپ نے مشکوٰۃ شریف ”باب فی

(۱) مسلم کی روایت یہ ہے: عن عروة بن الزبير عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يظأ في سواد، ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتى به ليضحى به قال لعائشة ..... وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. (مسلم، كتاب الأضاحي ج: ۲ ص: ۱۵۷، طبع قديمي كتب خانہ). وأما قوله في الحديث الآخر يظأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فمعناه ان قوائمه وبطنه وما حول عينه أسود والله أعلم. (شرح نووي على مسلم ج: ۲ ص: ۱۵۷).

(۲) عن جابر رضي الله عنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين، ملحيتين، موجوءين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمة، بسم الله والله أكبر. ثم ذبح. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي، وفي رواية لأحمد وأبي داود والترمذي: ذبح بيده وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عنى وعن لم يضح من أمتي. (مشکوٰۃ المصابيح، باب فی الأضحیة، الفصل الثانی ص: ۱۲۸، طبع قديمي).

الأضحیة“ میں صحیح مسلم کی روایت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ذکر کی ہے کہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاہ سینگوں والا مینڈھا ذبح فرمایا، پھر یہ دُعا فرمائی: بِسْمِ اللّٰهِ تَقْبَلُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ“ (ص: ۱۲۷)۔

اس حدیث سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مینڈھے، بکرے وغیرہ جیسے جانور کی قربانی ایک شخص سے زیادہ افراد کی طرف سے دی جاسکتی ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دُعا میں اپنی طرف سے، اپنی آل کی طرف سے اور پوری اُمت محمدیہ کی طرف سے قربانی کی قبولیت چاہی ہے۔ کیا اسی سنت نبوی پر عمل کر کے ہر مسلمان اپنی قربانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام شامل کر سکتا ہے جبکہ انہوں نے اُمت مسلمہ کو اپنی طرف سے دی ہوئی قربانی میں شامل کیا؟

جواب: ... ایک بکری یا مینڈھے کی قربانی ایک ہی شخص کی طرف سے ہو سکتی ہے۔<sup>(۱)</sup> آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مینڈھا ذبح فرمایا تھا، اس کے ثواب میں پوری اُمت کو شریک فرمایا تھا۔ ایک مینڈھے کی قربانی اپنی طرف سے کر کے اس کا ثواب کئی آدمیوں کو بخشا جاسکتا ہے۔<sup>(۲)</sup>

(۱) فلا تجوز الشاة والمعز إلا عن واحد۔ (فتاویٰ عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۷، کتاب الأضحیة، طبع رشیدیہ کوئٹہ)۔  
وأيضاً: وأما قدره فلا يجوز الشاة والمعز إلا عن واحد وإن كانت عظيمة سميئة تساوي شاتين مما يجوز أن يضحي بهما۔  
(بدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل وأما محل إقامة الواجب ج: ۵ ص: ۷۰، طبع ایچ ایم سعید)۔

(۲) وأما قدره فلا يجوز الشاة والمعز إلا عن واحد وإن كانت عظيمة سميئة، تساوي شاتين مما يجوز أن يضحي بهما لأن القياس في الإبل والبقر أن لا يجوز فيهما الاشتراك لأن القربة في هذا الباب إراقة الدم وانها لا تحتمل التجزأة لأنها ذبح واحد وإنما عرفنا جواز ذلك بالخبر فبقي الأمر في الغنم على أصل القياس، فإن قيل: أليس انه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن من لا يذبح من أمتة فكيف ضحى بشاة واحدة عن أمتة عليه السلام؟ (فالجواب) أنه عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لأجل الثواب وهو أنه جعل ثواب تضحيته بشاة واحدة لأمتة لا للأجزاء وسقوط التعبد عنهم۔ (البدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل وأما محل إقامة الواجب ج: ۵ ص: ۷۰)۔



## ذبح کرنے اور گوشت سے متعلق مسائل

### بسم اللہ کے بغیر ذبح شدہ جانور کا شرعی حکم

سوال: ... شہر میں جو جانور مذبح خانے سے ذبح ہو کر آتے ہیں ان میں سے شرعی ذبح شاذ و نادر ہی کوئی ہوتا ہے، ورنہ اکثر بغیر کلمہ پڑھے یا تکبیر کہہ کے زمین پر لٹاتے ہی چھری پھیر دی جاتی ہے۔ یہ احقر کا چشم دید مشاہدہ ہے، اور اس بارے میں قصاب حضرات بھی تقریباً معذور ہیں، اس لئے کہ اکثر ان میں سے نماز روزہ سے ناواقف اور احکام شریعت سے غافل ہیں اور شرعی ذبیحہ کی پابندی کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔

جواب: ... اگر کوئی مسلمان ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جائے وہ ذبیحہ تو حلال ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا ذبیحہ حلال نہیں، اور جس شخص کو معلوم ہوا کہ یہ ذبیحہ حلال نہیں اس کے لئے اس کا کھانا اور پینا بھی حلال نہیں۔ بہر حال متعلقہ ادارے کا فرض ہے کہ وہ شرعی طریقے پر ذبح کرائے اور اس کی نگرانی بھی کرے کہ شرعی طریقے پر ذبح کیا جاتا ہے یا نہیں...؟<sup>(۱)</sup>

### مسلمان قصابی ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھتے ہوں یا نہیں؟ یہ شک غلط ہے

سوال: ... دیکھنے میں آیا ہے کہ قصابی نماز جمعہ تک ادا نہیں کرتے اور گوشت میں مصروف نظر آتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ جس چیز (جانور) پر اللہ کا نام ذبح کرتے وقت نہ لیا جائے وہ حرام ہے۔ لہذا ہمیں شک ہے، یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ وہ جانور ذبح کرتے وقت تکبیر نہیں کہتے ہوں گے۔ قصابیوں سے منہ لگتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ یہ انتہائی بداخلاق ہوتے ہیں، آخر گوشت سے کب تک اجتناب کیا جاسکتا ہے؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اور ہمیں یہ بھی علم نہیں کہ آیا قصابی غیر مسلم نہ ہو؟ یا اگر ہم کسی پڑوس یا رشتہ دار کے ہاں گوشت کھاتے ہیں تو ہمیں علم نہیں کہ یہ کہاں سے ذبح شدہ ہے؟ اگر قصابی غیر مسلم ہو یا مسلمان بھی ہو تو بھی تکبیر پڑھتا ہے یا نہیں؟ اور رشتہ داروں سے پوچھنا جھگڑے کا سبب بن سکتا ہے، اول انہیں خود بھی علم نہیں ہوگا، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟

جواب: ... ذبح کرنے والے عموماً مسلمان ہونے کی بنا پر ان کے بارے میں یہی گمان رکھنا چاہئے کہ وہ ذبح کے وقت تکبیر پڑھتے ہوں گے۔ ایسے احتمالات جو آپ نے لکھے ہیں قابل اعتبار نہیں۔ البتہ اگر یقینی طور پر کسی قصابی کا جان بوجھ کر قصداً بسم اللہ نہ

(۱) ولنا ما روى عن راشد بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ذبيحة المسلم حلال سمي أو لم يسم ما لم يتعمد. (بدائع الصنائع، كتاب الصيد والذبائح ج: ۵ ص: ۴۷، فصل وأما بيان شرط حل الأكل... الخ).

پڑھنا معلوم ہو جائے تو پھر اس کا ذبیحہ نہیں کھانا چاہئے۔<sup>(۱)</sup>

## قصاب سے قربانی کا جانور ذبح کروانا

سوال: ... بیشتر لوگ قربانی کے جانور قصاب سے ذبح کراتے ہیں، انہیں بہ مشکل پوری تکبیر آتی ہوگی، نہ ہی ان کے کپڑے پاک صاف ہوتے ہیں، وہ قربانی کی دعا مشکل ہی سے کسی جانور پر پڑھتے ہوں گے، اس صورت میں قربانی ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟  
جواب: ... ذبح کرنے والا مسلمان ہو، اور جان بوجھ کر تکبیر کہنا نہ چھوڑے، تو ذبیحہ حلال ہے، اور قربانی بھی درست ہے۔<sup>(۲)</sup>

## آدابِ قربانی

سوال: ... قربانی کرنے کے کیا آداب ہیں؟

جواب: ... قربانی کے جانور کو چند روز پہلے سے پالنا افضل ہے۔<sup>(۳)</sup> قربانی کے جانور کا دودھ نکالنا یا اس کے بال کاٹنا جائز نہیں، اگر کسی نے ایسا کر لیا تو دودھ اور بال یا ان کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔<sup>(۴)</sup> (بدائع) قربانی سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے،<sup>(۵)</sup> اور ذبح کے بعد کھال اتارنے اور گوشت کے ٹکڑے کرنے میں جلدی نہ

(۱) وحل ذبیحہ مسلم و کتابی لقولہ تعالیٰ ..... لا مجوسی ووثنی ومرتد و محرم و تارک التسمیة عمدًا یعنی لا یحل ذبیحہ ہؤلاء ..... واما تارک التسمیة عمدًا فللقولہ تعالیٰ: ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، ولقولہ صلی اللہ علیہ وسلم: إذا ارسلت کلبک المعلم و ذکر ت اسم اللہ فکل، الحدیث ..... قیدنا بقولنا "عمدًا" لأنه لو ترک التسمیة ناسیًا یحل أکلها... الخ۔ (البحر الرائق، کتاب الذبائح ج: ۸ ص: ۱۹۱ طبع دار المعرفۃ بیروت)۔ وأیضًا: وفي شرح المجلة: یقین لا یزول بالشک لأن ما ثبت بیقین لا یزول إلا بیقین۔ (شرح المجلة ص: ۲۰ المادة: ۴، طبع مکتبہ حبیبیہ کوئٹہ)۔

(۲) عن راشد بن سعد رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال: ذبیح المسلم حلال سمی أو لم یسم ما لم یتعمد۔ وهذا نص فی الباب۔ (البدائع، کتاب الذبائح والصيد ج: ۵ ص: ۴۷ طبع ایچ ایم سعید)۔

(۳) فیستحب ان یربط الأضحیة قبل أيام النحر بأیام لما فیها من الاستعداد للقربة و اظهارًا لرغبة فیها فیکون فیہ أجر وثواب۔ (البدائع الصنائع، کتاب التضحیة، فصل وأما بیان ما یستحب قبل التضحیة ج: ۵ ص: ۷۸)۔

(۴) ولو اشترى شاة للأضحیة فیکره أن یحلبها أو یجز صوفها فینتفع به لأنه عینها للقربة فلا تحل له إلا انتفاع بجزء من أجزائها قبل إقامة القربة فیها ..... ولأن الحلب والجز یوجب نقصانًا فیها وهو ممنوع عن إدخال النقص فی الأضحیة ..... فإن حلب تصدق باللبن لأنه جزء من شاة متعینة للقربة ما أقيمت فیها القربة فكان الواجب هو التصدق به ..... وكذلك الجواب فی الصوف والشعر والوبر... الخ۔ (البدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، فصل وأما بیان ما یستحب وما یکره ج: ۵ ص: ۷۸)۔

(۵) عن شداد بن أوس قال: سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ کتب الإحسان علی کل شیء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ولیحد أحدکم شفرته ولیرح ذبیحته۔ وفي الحاشیة: قوله ولیحد أحدکم آه ..... ویستحب أن لا یحد السکین بحضرة الذبیحة وأن لا یذبح واحد بحضرة أخرى ولا یجرها إلى مذبحها۔ (سنن أبی داؤد ج: ۲ ص: ۳۳ باب فی الرفق بالذبیحة)۔

کرے جب تک پوری طرح جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے (بدائع)۔<sup>(۱)</sup>

## قربانی کا مسنون طریقہ

سوال: ... قربانی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

جواب: ... اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا افضل ہے، اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو دوسرے سے بھی ذبح کرا سکتا ہے، مگر ذبح کے وقت وہاں خود بھی حاضر رہنا افضل ہے۔<sup>(۲)</sup> قربانی کی نیت صرف دل سے کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، البتہ ذبح کرنے کے وقت ”بسم اللہ اکبر“ کہنا ضروری ہے۔<sup>(۳)</sup>

## قربانی کا جانور کس طرح لٹانا چاہئے؟

سوال: ... قربانی کا جانور ذبح کے وقت کس طرح لٹانا چاہئے؟ جانور کا سر قطب کی جانب ہو اور گلا کعبہ کی جانب؟ یا جانور کا سر کعبہ کی جانب ہو اور گلا قطب کی جانب؟ یعنی ذبح کرنے والے کا منہ کس جانب ہو؟

جواب: ... جانور کا قبلہ رخ ہونا مستحب ہے، ویسے جس طرح بھی ذبح کرنے میں سہولت ہو، کوئی حرج نہیں۔<sup>(۴)</sup>

## جانور ذبح کرتے وقت ”اللہ اکبر“ کہنا

سوال: ... جانور ذبح کرتے وقت تکبیر کس طرح کہی جائے؟ کیا یہ تکبیر صحیح ہے: ”بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر“ یا صرف ”بسم اللہ“ ہی کہا جائے؟ ”بسم اللہ“ ایک دفعہ پڑھی جائے یا ہر مرتبہ ”اللہ اکبر“ کے ساتھ ”بسم اللہ“ پڑھی جائے؟ کیا جانور کا منہ قبلہ رخ کرنا ضروری ہے؟

جواب: ... صرف ایک مرتبہ ”بسم اللہ، اللہ اکبر“ کہا جائے۔ اگر صرف ”بسم اللہ“ شریف پڑھ لی تب بھی ذبیحہ حلال ہے،

(۱) وأما الذي يرجع إلى آلة التضحية ..... وهو أن تكون آلة الذبح حادة من الحديد ..... فالمستحب أن يترص بعد الذبح من جميع أعضائه وتزول الحياة عن جسده ويكره أن ينزع ويسلخ قبل أن يبرد... الخ. (بدائع الصنائع، كتاب التضحية، فصل وأما بيان ما يستحب قبل التضحية .... وما يكره ج: ۵ ص: ۸۰).

(۲) فالأفضل أن يذبح بنفسه إن قدر عليه ..... هذا إن كان الرجل يحسن الذبح ويقدر عليه، فأما إذا لم يحسن فتوليته غيره فيه أولى ..... ويستحب أن يحضر. (بدائع الصنائع، كتاب التضحية ج: ۵ ص: ۷۹).

(۳) ويكفيه أن ينوي بقلبه ولا يشترط أن يقول بلسانه ما نوى بقلبه كما في الصلاة لأن النية عمل القلب والذكر باللسان دليل عليها... الخ. (بدائع الصنائع، كتاب الأضحية، فصل وأما شرائط إقامة الواجب ج: ۵ ص: ۷۱).

(۴) ومنها أن يكون الذابح مستقبل القبلة والذبيحة موجهة إلى القبلة. (بدائع ج: ۵ ص: ۶۰).

لیکن ”بسم اللہ، اللہ اکبر“ کہنا مستحب ہے۔<sup>(۱)</sup> جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور بلا عذر اس کا ترک کرنا مکروہ ہے۔<sup>(۲)</sup>

بائیں ہاتھ سے جانور ذبح کرنا خلاف سنت ہے

سوال: کیا بائیں ہاتھ سے جانور ذبح کرنا جائز ہے؟

جواب: ...جائز ہے، مگر خلاف سنت ہے۔ البتہ اگر کوئی عذر ہو تو پھر خلاف سنت بھی نہ ہوگا۔<sup>(۳)</sup>

کیا چھری کے ساتھ دستہ اور چھری میں تین سوراخ ہونا ضروری ہے؟

سوال: ...بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت چھری کے ساتھ لازمی لکڑی ہونی چاہئے، یعنی دستہ لکڑی کا ہو، خالص

لوہے کی چھری سے ذبح حرام ہوگا۔ ایسی چھری کے ساتھ لازمی لکڑی کا تنکا ہونا چاہئے تب ذبح جائز ہوگا، اور چھری کے ساتھ تین سوراخ بھی لازمی ہے۔

جواب: ...چھری کے ساتھ لکڑی کا دستہ ہونا اور چھری کے دستے میں تین سوراخ ہونا، کوئی شرط نہیں، ذبیحہ ان دونوں شرطوں

کے بغیر بھی حلال ہے۔

بغیر دستے کی چھری سے ذبح کرنا

سوال: کیا بغیر دستے کی چھری کا ذبیحہ جائز ہے؟

جواب: ...خالص لوہے کی یا کسی بھی دھات کی بنی ہوئی چھری کا ذبیحہ جائز ہے، اور یہ خیال بالکل غلط ہے کہ چھری میں اگر

لکڑی نہ لگی ہو تو ذبح مردار ہو جاتا ہے۔<sup>(۴)</sup>

مغرب کے بعد جانور ذبح کرنا

سوال: ...مغرب کے بعد جانور کو ذبح کرنے کے لئے کیا احکام ہیں؟

(۱) قال البقالی: المستحب أن يقول بسم الله، الله أكبر یعنی بدون الواو... الخ۔ (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الذبائح ج: ۵ ص: ۲۸۸، الباب الأول)۔

(۲) وإذا ذبحها بغير توجه القبلة حلت ولكن يكره۔ (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الذبائح ج: ۵ ص: ۲۸۸)۔

(۳) الضرورات تبيح المحظورات، أي ان الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة... الخ۔ (شرح المجلة ج: ۱ ص: ۲۹ المادة: ۲۱ طبع مکتبہ حبیبیہ کوئٹہ)۔

(۴) ومنها أنه يستحب في الذبح حالة الإختیار أن يكون ذلك بآلة حادة من الحديد كالسكين والسيف ونحو ذلك... الخ۔ (بدائع، کتاب الذبائح والصيد ج: ۵ ص: ۶۰، طبع ایچ ایم سعید)۔

جواب: ... اگر صحیح ذبح ہو سکتا ہے، یعنی روشنی آتی ہے کہ جانور کی رگیں نظر آتی ہیں، تو رات کو ذبح کرنا صحیح ہے۔<sup>(۱)</sup>

## عورت کا ذبیحہ حلال ہے

سوال: ... ہماری امی، نانی اور گھر کی دوسری خواتین بذات خود مرغی وغیرہ ذبح کر لیا کرتی ہیں، میں نے کالج میں اپنی سہیلیوں سے ذکر کیا تو چند نے کہا کہ عورتوں کے ہاتھ کا ذبیحہ مکروہ ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ حرام ہوتا ہے۔ برائے کرم بتائیں کہ عورت کا طعام کی نیت سے جانور اور پرندوں (حلال) کو ذبح کرنا جائز ہے یا ناجائز؟

جواب: ... جائز ہے، آپ کی سہیلیوں کا مسئلہ غلط ہے۔<sup>(۲)</sup>

## مشین کے ذریعہ ذبح کیا ہوا گوشت صحیح نہیں

سوال: ... کیا مشین کے ذریعہ سے ذبح کیا ہوا گوشت حلال ہے؟

جواب: ... مشینی ذبیحہ کو اہل علم نے صحیح قرار نہیں دیا، اس لئے اس سے احتراز کرنا چاہئے۔<sup>(۳)</sup>

## سر پر چوٹ مار کر مشین سے مرغی ذبح کرنا غلط ہے

سوال: ... آج کل ملک میں ”آٹومیک پلانٹ“ پر مرغیوں کو جو ذبح کیا جاتا ہے اور پھر ڈبوں میں پیک کر کے سپلائی کیا جاتا ہے، تو عرض یہ ہے کہ ذبح کا یہ طریقہ میرے خیال میں غیر اسلامی ہے، کیونکہ پہلے تو اس کے سر پر چوٹ لگا کر بے ہوش کیا جاتا ہے، پھر ذبح کیا جاتا ہے۔ آیا یہ طریقہ صحیح ہے اور یہ گوشت حلال ہوتا ہے یا حرام؟ اس لئے کہ میں نے لندن کی شائع کردہ ایک کتاب میں اس کے متعلق پڑھا تھا، پہلے لندن میں بھی یہی نظام رائج تھا لیکن مسلمانوں اور یہودیوں کے کہنے پر یہ نظام بند کر دیا گیا اور اب مرغیوں کو زندہ ذبح کیا جاتا ہے۔

(۱) ان المستحب أن يكون الذبح بالنهار ويكره بالليل والأصل فيه ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الأضحية ليلاً وعن الحصاد ليلاً وهو كراهة تنزيه ومعنى الكراهة يحتمل أن يكون لوجوه أحدها ان الليل وقت أمن وسكون وراحة فإيصال الألم في وقت الراحة يكون أشد، والثاني انه لا يأمن من أن يخطيء فيقطع يده ولهذا كره الحصاد بالليل، والثالث ان العروق المشروطة في الذبح لا تتبين في الليل فربما لا يستوفى قطعها۔ (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۶۰)۔

(۲) وحل ذبيحة مسلم وكتابتى وصبى وامرأة۔ (البحر الرائق، كتاب الذبائح ج: ۸ ص: ۱۶۸)۔ أيضاً: فتحل ذبيحتهما (أى الكتابى والذمى والحربى) ولو الذابح مجنوناً أو امرأة أو صبياً يعقل التسمية والذبح ويقدر۔ (درمختار، كتاب الذبائح ج: ۶ ص: ۲۹۷)۔ عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها۔ (صحيح البخارى، كتاب الذبائح، باب ذبيحة الأمة والمرأة ج: ۲ ص: ۸۲۷)۔

(۳) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: فتاویٰ بینات، کتاب الذبائح والأضحية ج: ۴ ص: ۵۳۵ تا ۲۹۱ طبع مکتبہ بینات، فتاویٰ محمودیہ، باب الذبائح ج: ۱۷ ص: ۲۳۲۔

جواب: ... ذبح کا یہ طریقہ غلط ہے، اگر سر پر چوٹ مار کر ذبح کرنے میں جانور کو راحت ہوتی اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خود تعلیم فرماتے۔ جن لوگوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے وہ گویا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین اور عقلمند ثابت کرنے جا رہے ہیں، اگر پاکستان میں یا کسی اور مسلمان ملک میں یہ طریقہ رائج ہے تو فوراً بند کرنا چاہئے۔

### قادیانیوں کا ذبیحہ اور دوسری چیزیں کھانا

سوال: ... قادیانی لوگ قربانی کرتے ہیں تو ان کی قربانی کا گوشت کسی مسلمان کے گھر پر آئے تو لے کر پھینک دیں یا واپس کر دیں؟ ایک مسلمان کے گھر کے پڑوسی جو کہ قادیانی ہیں، ان کے گھر سے کبھی کبھار کچھ کھانے پینے کی چیز آتی ہے تو ان چیزوں کا کیا کریں؟ واپس کر دیں یا لے کر پھینک دیں؟

جواب: ... قادیانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہئے، اور چیزوں کا لین دین بھی ایک نوع کا تعلق ہے۔<sup>(۲)</sup>

قادیانی کا ذبیحہ مردار ہے، اس کا کھانا حلال نہیں، اس لئے کہ یہ مرتد اور زندقہ ہیں۔<sup>(۳)</sup>

### غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ گوشت حلال نہیں ہے

سوال: ... یہاں پر گوشت یا مرغی کے گوشت کے پیکٹ ملتے ہیں جو کہ یورپ یا دیگر غیر مسلم ممالک (جو کہ مسلم ممالک نہیں ہیں) سے آتے ہیں، معلوم نہیں انہوں نے کس طرح ذبح کیا ہوگا؟ ذبح پر تکبیر پڑھنا تو درکنار، کیا ایسا گوشت وغیرہ ہم مسلمان استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب: ... جس گوشت کے بارے میں اطمینان نہ ہو کہ وہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا اس سے پرہیز کرنا چاہئے، یورپ اور غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ گوشت حلال نہیں ہے۔<sup>(۴)</sup>

### اگر مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق گوشت مہیا نہ ہو تو کھانا جائز نہیں

سوال: ... جہاز پر گائے کا گوشت اور بکری کا گوشت غیر مسلموں کے ہاتھ سے کٹا ہوا ہوتا ہے، کیا اس کا کھانا جائز ہے؟

(۱) قال الله تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ ..... وَالْمُنْحِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ" ... الآية (المائدة: ۳)۔

(۲) "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ" ... الآية (الممتحنة: ۱)۔

(۳) فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك والجوسى والوثنى وذبيحة المرتد. (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۴۵، فصل وأما بيان شرط حل الأكل فى الحيوان، طبع سعيد)۔

(۴) ومن شرائط الذكاة أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك والجوسى والوثنى وذبيحة المرتد. (بدائع الصنائع، كتاب الذبائح ج: ۵ ص: ۴۵)۔ أيضاً وفى البحر: من اشترى لحماً، فعلم أنه مجوسى وأراد الرد، فقال: ذبحه مسلم يكره أكله. (رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة ج: ۶ ص: ۳۴۴)۔

مسلمان کے علاوہ کسی اور شخص کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے؟ اس کی شرائط کیا ہیں؟

جواب: ... کسی مسلمان یا صحیح اور واقعی اہل کتاب کے ہاتھ کا ذبح کیا ہو گوشت کھانا جائز ہے، بشرطیکہ وہ صحیح طریقے سے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا گیا ہو، دیگر غیر مسلموں کے ہاتھ کا کٹنا ہو گوشت حلال نہیں۔<sup>(۱)</sup> غیر مسلم کمپنیوں کے جہازوں میں اگر مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق گوشت فراہم نہیں کیا جاتا تو اس کا کھانا جائز نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## سعودی عرب میں فروخت ہونے والے گوشت کا استعمال

سوال: ... سعودی عرب میں جو گوشت بکتا ہے خاص طور پر ایام حج میں وہ چند قسم کا ہوتا ہے۔ ۱:- بیرونی ممالک سے آنے والا گوشت جو ہوتا ہے اس پر ایک توثیق ریکارڈر کے ذریعہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح ہوتا ہے۔ ۲:- چھری پر بسم اللہ لکھی ہوتی ہے اور ذبح ہوتا ہے۔ ۳:- وہاں کے اہل کتاب ذبح کرتے ہیں، اگرچہ اہل کتاب کا ذبح شدہ جائز ہے لیکن آج کے مسلمان برائے نام کے ہیں، اللہ ماشاء اللہ تو اہل کتاب تو بدرجہ اولیٰ برائے نام ہوں گے۔ اب تو سو میں ایک بمشکل ملے گا جو صحیح اہل کتاب ہو، بہر حال یہ مسلمہ بات ہے کہ یہ لوگ (اہل کتاب) اپنے دین پر نہیں، تو کیا اس حالت میں بھی ان کا ذبح شدہ اور ان کی عورتوں سے نکاح مسلمان کے لئے جائز ہوگا؟ یہ تو باہر سے آنے والے گوشت کی تفصیل ہے۔ سعودی عرب کے ملک میں یعنی مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ میں ایک مرغی کو کاٹ کر بغیر ٹھنڈا کئے گرم پانی یا مشین میں ڈال لیتے ہیں تاکہ اس کے پروغیرہ اتر جائیں، کھال وہ لوگ نہیں اتارتے۔ دوسری صورت منیٰ میں مذبح خانے میں دیکھی گئی کہ جانور کے ذبح ہوتے ہی ابھی تو ٹھنڈا بھی نہیں ہوا، بعض مرتبہ تو رگیں بھی صحیح نہیں کٹتیں اور دوسرا جانور اس پر گرا کر کاٹ لیتے ہیں۔ آیا اس طرح کا کاٹنا کیا ہماری شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں، ساتھ یہ بھی بتلا دیں کہ آیا بیان کردہ وہ تمام صورت حال عربوں کے ہاں جائز ہے؟

جواب: ... اگر گوشت کے بارے میں پورا اطمینان نہ ہو کہ یہ صحیح شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہے تو احتیاطاً اس کا کھانا درست نہیں۔<sup>(۳)</sup>

سوال: ... اب کس طرح معلوم ہوگا کہ اس ہوٹل میں غیر شرعی گوشت فروخت ہو رہا ہے؟ آج مجھے سعودی عرب میں

(۱) وأما شرائط ركن الذكاة فأنواع ..... ومنها أن يكون مسلمًا أو كتابيًا فلا تؤكل ذبيح أهل الشرك والمجوسى والوثنى ..... وتؤكل ذبيحة أهل الكتاب لقوله تعالى: "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم" والمراد منه ذبائحهم ..... ومنها التسمية حالة الذكر عندنا ..... ولنا قوله عز وجل: "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق" ... الخ. (البدائع الصنائع، كتاب الذبائح والصيد ج: ۵ ص: ۴۵، ۴۶، طبع سعيد).

(۲) دیکھئے: فتاویٰ بینات ج: ۳ ص: ۵۳۵ تا ۲۹۱۔

(۳) أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس، فلا تحل حتى يعلم أنها مذكاة مسلم، لأنها أصلها حرام، وشكنا في الذكاة المبيحة، فلو كان الغالب فيها المسلمون جاز الأكل عملاً بالغالب المفيد للطهورية. (شرح الحموى على الأشباه والنظائر، القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك ج: ۱ ص: ۱۸۳ طبع إدارة القرآن والعلوم الإسلامية).

چالیس سال ہو گئے، مجھے پکا علم ہے کہ ۹۰ فیصد ہوٹلوں میں یہی گوشت فروخت ہوتا ہے، کیونکہ کثرتِ هجوم کی وجہ سے ان لوگوں کے لئے مشکل ہوتا ہے کہ بکرے وغیرہ ذبح کر لیں، اسی بنا پر یہ لوگ باہر کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو بتا دیتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ آیا اس تمام صورتِ حال کے ہوتے ہوئے بھی کسی مسلمان کی گواہی معتبر ہوگی یا نہیں جبکہ حقیقت تجربے کے ذریعہ معلوم ہو چکی ہے؟

جواب:۔۔۔ اگر کوئی دین دار مسلمان کہہ دے کہ یہ حلال گوشت ہے، تو اس کا قول معتبر ہوگا۔<sup>(۱)</sup>

کیا مسلمان، غیر مسلم مملکت میں حرام گوشت استعمال کر سکتے ہیں؟

سوال:۔۔۔ میں امریکہ میں زیرِ تعلیم ہوں، یہاں پر اکثر مسلم ممالک کے طلباء ہیں جب انہیں کوشش کے بعد حلال گوشت میسر نہیں ہوتا تو اسٹور سے ایسا گوشت خریدتے ہیں جو اسلامی طریقہ پر ذبح شدہ نہیں ہوتا، بتائیے ہم کیا کریں؟

جواب:۔۔۔ صورتِ مسئلہ میں سب سے پہلے چند اصول سمجھ لیں، اس کے بعد ان شاء اللہ مذکورہ بالا مسئلے کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔

۱:۔۔۔ اکل حلال ضروری اور فرض ہے، حلال کو ترک کرنا اور حرام کو اختیار کرنا بغیر ضرورتِ شرعی ناجائز و حرام ہے۔<sup>(۲)</sup>

۲:۔۔۔ حلال چیزیں جب تک مل جائیں، حرام کا استعمال جائز نہیں۔

۳:۔۔۔ گوشت پسندیدہ اور مرغوب چیز ہے، اگر حلال مل جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر حلال نہ مل سکے تو حرام کا استعمال درست نہیں۔

۴:۔۔۔ کسی کے نزدیک پسندیدہ ہونے کی وجہ سے حرام کا استعمال حلال نہیں ہوتا۔<sup>(۳)</sup>

۵:۔۔۔ حرام اشیاء کا استعمال اس وقت جائز ہے جبکہ حلال بالکل نہ ملے، جان بچانے کے لئے کوئی حلال چیز موجود نہ ہو، اسی کو

”اضطرار شرعی“ کہا جاتا ہے۔<sup>(۴)</sup>

(۱) ان خبر الواحدیوں کا عمل۔ (البحر الرائق، باب شروط الصلاة ج: ۱ ص: ۳۰۵)۔ ایضاً: ثم اعلم أن الشك علی ثلاثة أضرب ..... فالأول: مثل أن يجد شاة مذبوحة فی بلد ..... فلو كان الغالب فیها المسلمون جاز الأكل عملاً بالغالب المفيدة للطهوية۔ (شرح الحموی علی الأشباه، القاعدة الثالثة ج: ۱ ص: ۱۸۳ طبع إدارة القرآن)۔

(۲) ”يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ“ الآية۔ ”إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ“ (البقرة: ۱۷۳)۔

(۳) عن سلمان ..... قال عليه السلام: الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو عنه۔ (مشکوٰۃ، کتاب الأطعمة، ص: ۳۶۷)۔

(۴) ”فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ“ (البقرة: ۱۷۳)۔ الضرورات تبيح المحظورات، ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة وإساعة اللقمة بالخمير ..... ما أبيع للضرورة يتقدر بقدرها ..... ومن فروعه المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق۔ (الأشباه والنظائر، القاعدة الخامسة ج: ۱ ص: ۱۱۸، ۱۱۹، طبع إدارة القرآن)۔



۶: ... اضطراب شرعی کے موقع پر صرف جان بچانے کی حد تک حرام چیز کا استعمال درست ہے، لذت حاصل کرنے کے لئے یا پیٹ بھر کر کھانا درست نہیں۔<sup>(۱)</sup>

۷: ... غیر مسلم میں سے یہود اور نصاریٰ جو اپنی اپنی کتاب کو مانتے ہیں اور اللہ کے نام سے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کا ذبح کیا ہوا مسلمانوں کے لئے حلال اور جائز ہے، البتہ مجوس اور دہریہ اور جو یہود و نصاریٰ اپنی اپنی کتابوں کو نہیں مانتے اور اللہ کے نام سے ذبح نہیں کرتے ان کا ذبح کیا ہوا مسلمانوں کے لئے حلال نہیں۔<sup>(۲)</sup> مذکورہ بالا قواعد سے معلوم ہو گیا کہ جب تک حلال غذا میسر ہو اس وقت تک حرام غذا کا استعمال جائز نہیں ہے، صرف پسندیدہ اور مقوی ہونے کی وجہ سے حرام گوشت حلال نہیں ہو جاتا۔  
حرام گوشت کے بجائے آپ مچھلی، انڈا، دودھ، دہی کا زیادہ استعمال کریں، جب کہیں سے حلال گوشت میسر ہو جائے اس کو وافر مقدار میں اسٹور کر لیں، یا چند مسلمان مل کر کے شہر کے مذبح خانے میں جانور مرغی وغیرہ ذبح کر لیں۔

## ہوٹلوں میں مرغی کا گوشت

سوال: ... عمرہ یا حج کے لئے سعودی عرب جانا ہوتا ہے تو وہاں قیام کے عرصے میں گوشت خصوصاً مرغی کے گوشت کا استعمال کیسا ہے؟ وہاں جو مرغی آتی ہے وہ دوسرے ممالک سے آتی ہے، عام پبلک تو خیال نہیں کرتی اور وہ استعمال کرتی ہے، جبکہ دین دار طبقہ خصوصاً تبلیغی حضرات بالکل اس گوشت سے اجتناب کرتے ہیں۔ ہوٹلوں میں سالن اور روسٹ مرغی وہ استعمال ہوتی ہے جو باہر سے آئی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ سستی بھی ہوتی ہے اور بظاہر اچھی بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس روسٹ مرغی یا سالن والی مرغی کو استعمال کریں یا نہیں؟ سعودی حکومت یہ کہتی ہے یا جو مرغی منگواتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ذبیحہ حلال ہے، دوسری طرف دین دار طبقہ خصوصاً تبلیغی حضرات کو اس پر بالکل اعتبار نہیں، اب آپ سے اس بارے میں دریافت کرنا ہے کہ آپ کا کیا فتویٰ ہے؟

جواب: ... باہر ملکوں سے جو مرغی آتی ہے اول تو اس کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ وہ صحیح طور پر ذبح بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ اس کے علاوہ مرغی کاٹنے والوں کا اصول یہ ہے کہ جو مرغی کو ذبح کرتے ہیں وہ اس کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے پد وغیرہ صاف ہو سکیں اور تمام آلائش اس کے اندر ہوتی ہے، اس لئے وہ مرغی ناپاک ہو جاتی ہے اور اس کا کھانا حلال نہیں۔<sup>(۳)</sup> جہاں تک مجھے معلوم ہے سعودی عرب میں خصوصاً حج وغیرہ کے موقعوں پر ہوٹلوں میں جو مرغیاں روسٹ کی جاتی ہیں وہ اسی قسم کی ناپاک مرغیاں ہوتی ہیں اس لئے ان کا کھانا حلال نہیں۔

(۱) "فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ (المائدة: ۳)۔"

(۲) منها (أى ومن شرائط الذكاة) أن يكون مسلماً أو كتابياً فلا تؤكل ذبيحة مجوسى وأهل الشرك والوثنى وذبيحة المرتد..... وتؤكل ذبيحة أهل الكتاب لقوله تعالى: "وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم" والمراد منه ذبائحهم۔ (بدائع الصنائع، كتاب الذبائح والصيد ج: ۵ ص: ۳۵ طبع ایچ ایم سعید)۔

(۳) ولو القيت دجاجة حالة الغليان فى الماء قبل أن يشق بطنها لتنتف أو كرش قبل الغسل لا يطهر أبداً..... وهو معلل بتشربها النجاسة المتخللة فى اللحم بواسطة الغليان۔ (فتح القدير ج: ۱ ص: ۱۴۶، باب الأنجاس، طبع دار صادر بيروت)۔

## فرانس سے درآمد شدہ مرغی کا گوشت کھانا

سوال: ... ہم لوگ یہاں ابوظہبی کی ایئر فورس میں سروس کر رہے ہیں، ہمارے کھانے کا انتظام ابوظہبی نیشنل ہوٹل میں ہے، کھانے میں زیادہ تر مرغی ملتی ہے، ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ مرغی فرانس سے ذبح ہو کر آتی ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ مرغی مسلمان کے ہاتھوں ذبح ہوتی ہے یا غیر مسلم کے۔ آپ سے پوچھنا ہے کیا یہ مرغی ہمارے لئے کھانا صحیح ہے کہ نہیں؟

جواب: ... فرانس کی مرغی اگر وہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں کی جاتی تو اس کا کھانا حلال نہیں، اور پکانا بھی حلال نہیں، اگر ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا کتابی ہو تو حلال ہے۔<sup>(۱)</sup> اور اس میں ایک قباحت یہ ہے کہ ذبح کرنے کے فوراً بعد اس کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں، جس سے وہ ساری مرغی ناپاک ہو جاتی ہے، اس لئے ایسے ہوٹل سے کھانا جائز نہیں۔ آپ اپنے محکمے سے مطالبہ کریں کہ آپ کو حلال کھانا دیا جائے۔

## آسٹریلیا سے درآمد کردہ بھیڑوں کا گوشت استعمال کرنا

سوال: ... ایک اخباری اطلاع کے مطابق پاکستان میں تیس ہزار بھیڑوں کی ایک کھیپ درآمد کر کے اسلامیان پاکستان کو ذبح کر کے کھلا دی گئی۔ یہ بھیڑیں آسٹریلیا سے درآمد کی گئی تھیں۔ جن کی دوسری کھیپ عنقریب کراچی پہنچ رہی ہے، ان کی خریداری پر ۱۵ ملین ڈالر خرچ آیا۔ چونکہ یہ وہ بھیڑیں ہیں جو قابل استعمال نہیں رہیں، اس لئے طبی ماہرین کے مطابق ایسی بھیڑوں کا گوشت صحت کے لئے مضر ہوتا ہے۔ یہ بھیڑیں ۱۸ ماہ سے ۲ برس تک کی ہیں، اور آسٹریلیا کی اونی صنعت کے زیر استعمال رہی ہیں۔ آسٹریلیا میں قانون کے مطابق مقررہ وقت کے بعد ایسی بھیڑوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ نقصان سے بچنے کے لئے ملی بھگت کے تحت دونوں اطراف کے تاجروں نے ان مذکورہ جانوروں کو اسلامی ممالک میں پہنچانے کا بندوبست کیا۔ چنانچہ یہ ناقابل استعمال بھیڑیں پاکستان میں درآمد کی گئیں جو محض مالی فائدے کے پیش نظر ہے۔ واضح رہے کہ پاگل گائے (برطانیہ) کے گوشت کی طرح ان بیمار بھیڑوں کا گوشت کھانے سے بھی انسان ذہنی امراض اور پاگل پن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ درآمد شدہ بھیڑوں کا سارا عمل محض مسلمانوں کی غفلت، کوتاہ نظری اور یہود و نصاریٰ اور ان کے آلہ کاروں کی وجہ سے ہوا۔ اس تمام تمہید کا خاص قابل توجہ امر یہ ہے کہ متذکرہ درآمد شدہ بھیڑوں کو سور Pig-Swine خنزیر کے تخم سے گابھن Cross Breeding کیا جاتا ہے۔ تاکہ فریگی کے مخصوص جنین کے ملاپ سے زیادہ سے زیادہ چربی والی فرہ نسل حاصل کی جاسکے۔ ذہن نشین رہے کہ اہل مغرب سور کے تخم ریزی سے گائے، بکری اور اونٹنی کو بھی ”ٹیسٹ ٹیوب“ کے پروسیس کے ذریعے لیبارٹری میں جدید سائنسی طریقے کے تحت بار آورگی کا عمل قرار پا جانے پر فرہ نسل کے متذکرہ جانور حاصل کرتے ہیں۔ اس ضمن میں جواب عنایت فرمائیں کہ درآمد شدہ بھیڑوں اور دیگر متذکرہ جانوروں کو مسلمان کھا سکتے ہیں؟ کیا یہ مسلمانوں کو حرام کھلائے جانے کا باعث نہیں؟ اور کیا پاگل بھیڑوں کو کھانا جائز ہے؟ واضح رہے پاگل گائے یا پاگل بھیڑ سائنسی اصطلاح ہے، ظاہر ہے جانور صحت مند ہی نظر آتے ہیں۔

(۱) ومنها أن يكون مسلماً أو كتابياً فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك والمرتد... الخ. (فتاویٰ عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۸۵).

جواب: ... یہاں دو مسئلے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر حلال جانور بیمار ہو اور اس کا گوشت مضر صحت ہو، تو اس کا کھانا اگرچہ حلال ہے، مگر طبی نقطہ نظر سے ممنوع ہے۔<sup>(۱)</sup> دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو جانور حلال اور حرام جانور کے ملاپ سے پیدا ہوا، وہ اپنی ماں کے تابع ہے۔ اگر اس کی ماں حلال ہے تو یہ بھی حلال ہے، اور اگر ماں حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے۔<sup>(۲)</sup> تاہم ایسے جانور کا کھانا کراہت سے خالی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان مشکوک بھیڑوں کی درآمد ممنوع ہے، حکومت کا فرض ہے کہ ان کی درآمد پر پابندی عائد کرے۔

### آسٹریلیا سے درآمد شدہ گوشت استعمال کرنا

سوال: ... آپ کی توجہ اخبار ”جنگ“ مؤرخہ ۴ جولائی ۱۹۹۵ء صفحہ ۱۰: کالم ۱، پر شائع شدہ خبر بعنوان ”آسٹریلیا سے درآمد شدہ گوشت یوٹیلیٹی اسٹور کے ذریعے فراہم کیا جائے گا۔“ آسٹریلیا سے درآمد کئے جانے والے گوشت کو کولڈ اسٹوریج کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے عام لوگوں تک پہنچانے میں دشواری کا سامنا ہے، اس سلسلے میں آسٹریلیا کے ٹریڈ کمشنر نے صورت حال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں جب اکثر قصاب کے پاس ریفریجیشن کی سہولت ہوگی تو پھر یہ گوشت عوام تک بھی آسانی سے میسر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا سے حاصل کیا جانے والا یہ گوشت انتہائی معیاری اور موزوں قیمت پر میسر ہوگا۔ اسلام آباد کے عوامی مرکز میں آسٹریلیا سے گوشت کی سہولت حاصل ہوگی، اور جلد ہی ملک میں قائم یوٹیلیٹی اسٹوروں سے بھی یہ گوشت حاصل کیا جاسکے گا۔

درج بالا خبر کے حوالے سے معلوم کرنا ہے کہ کیا مسلمان اپنے کھانے پینے کی اشیاء کے معیار کے تعین کو کسی غیر مسلم کے حوالے کر سکتا ہے؟ غیر مسلم قادیانی بالخصوص اور دیگر غیر مسلم اقوام بھی جب مسلمان کو ذہنی طور پر اپنی طرف آمادہ کرنے پر نا کام ہو جاتی ہیں تو ان کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہوا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح مسلمان کا قلب آہستہ آہستہ سیاہ ہونے لگتا ہے، اور اس کا دل و دماغ، حرام و حلال کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، اور پھر کفر کی جانب مائل ہو جاتا ہے۔

جواب: ... خط تو آپ کا شائع کر دیا، اور اس پر آپ کا بلیغ تبصرہ بھی۔ ہمارے یہاں کی مذہبی تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کو، حکومت کے اس اقدام کے خلاف بھرپور احتجاج کرنا چاہئے کہ حکومت غیر مسلم ملک سے سڑا ہوا مردار گوشت مسلمانوں کو کھلانے سے باز رہے۔ اور میں مسلمانوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس سڑے ہوئے گوشت کے استعمال سے اجتناب کریں اور اس کا مکمل بائیکاٹ کریں۔

### بحری جہاز پر عیسائی کے ہاتھ کا ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانا

سوال: ... مسئلہ یہ ہے کہ میرے خالو بیرون ملک ایک بحری جہاز میں ملازم ہیں۔ جو اکثر یورپی ممالک میں سفر کرتے ہیں، الحمد للہ صوم و صلوة کے پابند ہیں اور دوران سفر بھی پابندی کرتے ہیں۔ لہذا مسئلہ یہ ہے کہ اکثر اوقات یورپی ممالک کا سفر کرتے ہیں اور

(۱) الضرر يدفع بقدر الإمكان۔ (شرح المجلة المادة: ۳۱ ص: ۳۲، طبع حبیہ کونٹہ)۔

(۲) التابع تابع ..... التابع لا يفرد بالحكم۔ (شرح المجلة المادة: ۴۷/۴۸ ص: ۳۹، طبع حبیہ کونٹہ)۔

کبھی دو مہینے، کبھی ڈھائی مہینے سفر کرتے ہیں۔ سفر زیادہ تر جنوبی امریکا، روس، آسٹریلیا، جاپان کا ہوتا ہے۔ خالو کہتے ہیں کہ دوران سفر ہمیں جو کھانا ملتا ہے وہ اکثر گوشت ہوتا ہے، جو کھانا پکاتے ہیں وہ باورچی عیسائی ہیں، اور جانور بھی وہی لوگ ذبح کرتے ہیں، لہذا ہمیں بھی کھانا پڑتا ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم یہ کھانا نہیں کھاتے۔ تو وہ کہتے ہیں: نہ کھاؤ۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ سبزیاں پکاؤ۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ سفر زیادہ عرصہ ہوتا ہے لہذا سبزیاں خراب ہو جاتی ہیں، جبکہ گوشت کو فریج میں محفوظ کیا جاسکتا ہے، لہذا ہم یہ کھانا، کھانے پر مجبور ہیں، جبکہ اس کے متبادل ہمارے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں۔ بعض پاکستانی دوست کہتے ہیں کہ نوکری چھوڑ دو، نوکری چھوڑ کر میں کیا کروں؟ جبکہ یہاں ہمارے ملک میں نوکریاں اتنی آسانی سے نہیں ملتیں، اور کسی اچھی نوکری کے لئے درخواست دیں تو بغیر رشوت نوکری نہیں ملتی، لہذا آپ میری مجبوری کو پیش نظر رکھ کر قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے جواب سے مطمئن فرمائیں۔

جواب: ... اگر عیسائی ”بسم اللہ، اللہ اکبر“ کہہ کر جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو اس جانور کا کھانا حلال ہے۔<sup>(۱)</sup>

### بازار کے گوشت کے کباب استعمال کرنا

سوال: ... بازار میں سیخ کباب جو کبابی فروخت کرتے ہیں، تو یہ لوگ بھی گوشت کو نہیں دھوتے، اور قیمہ باریک ہونے کی وجہ سے دھلنا بھی دشوار ہوتا ہے، یعنی کباب کے ساتھ ہمارے پیٹ میں خون بھی جاتا ہے۔  
جواب: ... یہ بھی حلال ہے۔<sup>(۲)</sup>

(۱) ومنها أن يكون مسلمًا أو كتابيًا ..... ثم انما تؤكل ذبيحة الكتابي إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شيء أو شهد وسمع منه تسمية الله تعالى وحده۔ (فتاویٰ عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۸۵، کتاب الذبائح، طبع رشیدیہ کوئٹہ)۔

(۲) ”قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا“ الآية (الأنعام: ۱۴۵)۔

## قربانی کا گوشت

### قربانی کے گوشت کی تقسیم

سوال: ...قربانی کے گوشت کی تقسیم کس طرح کرنی چاہئے؟

جواب: ...جس جانور میں کئی حصہ دار ہوں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ کریں۔<sup>(۱)</sup> افضل ہے کہ قربانی کا گوشت تین حصے کر کے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لئے رکھا جائے، ایک حصہ احباب و اعزہ میں تقسیم کرے، ایک حصہ فقراء و مساکین میں تقسیم کرے۔ اور جس شخص کے عیال زیادہ ہوں وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے۔<sup>(۲)</sup> قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے،<sup>(۳)</sup> ذبح کرنے والے کی اجرت میں گوشت یا کھال دینا جائز نہیں، اجرت علیحدہ سے دینی چاہئے۔<sup>(۴)</sup>

### قربانی کے بکرے کی رانیں گھر میں رکھنا

سوال: ...قربانی کے لئے حکم ہے کہ جانور صحت مند خوبصورت ہو اور ذبح کرنے کے بعد اس کو برابر تین حصوں میں تقسیم کیا جائے، جبکہ اس وقت یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ قربانی کے بعد بکرے کی ران وغیرہ مکمل اپنے لئے رکھ لیتے ہیں اور بعد میں ہونٹوں میں روست کرا کر لے جاتے ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بکرے کی دونوں ران مع کمر کے رکھ دی جاتی ہیں۔ اس مسئلے پر حدیث اور شریعت کی رو سے روشنی ڈالیں تاکہ قربانی کرنے والوں کو صحیح علم ہو جائے۔

(۱) ويقسم اللحم بالوزن لأنه موزون وإذا قسموا جزأاً لا يجوز. (البحر الرائق ج: ۸ ص: ۱۹۸، کتاب الأضحیة، طبع دار المعرفة، فتاوی شامی ج: ۶ ص: ۳۱۷، کتاب الأضحیة، طبع سعید).

(۲) ويستحب أن يأكل من أضحيتہ ويطعم منها غیره، والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضیافة لأقاربه، وأصدقائه، ویدخر الثلث، ويطعم الغنی والفقیر جميعاً کذا فی البدائع..... ولو حبس الكل لنفسه جاز، وله أن یدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أيام، إلا أن إطعامها والتصدق بها أفضل، إلا أن يكون الرجل ذا عیال غیر موسع الحال فإن الأفضل له حينئذ أن یدعه لعیاله ویوسع علیهم به کذا فی البدائع. (الفتاوی العالمگیریة، کتاب الأضحیة ج: ۵ ص: ۳۰۰ طبع رشیدیہ کوئٹہ، وأيضاً الشامیة ج: ۶ ص: ۳۲۷، کتاب الأضحیة، والبحر ج: ۸ ص: ۲۰۳، طبع دار المعرفة).

(۳) ولا یحل بیع شحمها وأطرافها ورأسها وصوفها وبرها وشعرها ولبنها... الخ. (عالمگیریة ج: ۵ ص: ۳۰۱ طبع بلوچستان بک ڈپو). وقوله علیه السلام: من باع أضحیة، فلا أضحیة له، یفید کراهة البیع. (البحر الرائق، کتاب الأضحیة ج: ۸ ص: ۳۲۷).

(۴) ولا یعطى أجره الجزار منها شیئاً والنهی عنه نهی عن البیع لأنه فی معنى البیع... الخ. (البحر الرائق ج: ۸ ص: ۲۰۳، کتاب الأضحیة، طبع دار المعرفة، الفتاوی الشامیة ج: ۶ ص: ۳۲۸، کتاب الأضحیة).

جواب:.... افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کئے جائیں، ایک فقراء کے لئے، ایک دوست احباب کے لئے، اور ایک گھر کے لئے۔ لیکن اگر سارا تقسیم کر دیا جائے یا گھر میں رکھ لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں<sup>(۱)</sup> بشرطیکہ قربانی صحیح نیت کے ساتھ کی تھی، صرف گوشت کھانے یا لوگوں میں سرخ زوئی کے لئے قربانی نہیں کی تھی۔<sup>(۲)</sup>

## قربانی کا گوشت شادی میں کھلانا

سوال:.... ہمارے محلے میں ایک صاحب نے گائے کی قربانی تیسرے دن کی اور چوتھے دن انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی کی اور قربانی کا آدھے سے زیادہ گوشت دعوت شادی میں لوگوں کو کھلادیا، کیا ان کی قربانی ہوگئی؟

جواب:.... اگر قربانی صحیح نیت سے کی تھی تو ان شاء اللہ ضرور قبول ہوگی، اور قربانی کا گوشت گھر کی ضرورت میں استعمال کرنا جائز ہے، اگرچہ افضل یہ ہے کہ ایک تہائی صدقہ کر دے، ایک تہائی دوست احباب کو دے، ایک تہائی خود کھائے۔<sup>(۳)</sup>

## کیا سارا گوشت خود کھانے والوں کی قربانی ہو جاتی ہے؟

سوال:.... بقر عید پر ہمارے گھر قربانی ہوتی ہے تو میرے بھائی اس کے تین حصے کرتے ہیں، ایک گھر میں رکھ لیتے ہیں، دو حصے محلے اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے محلے میں اکثر لوگ سارا گوشت گھر ہی میں کھا لیتے ہیں، محلے اور رشتہ داروں میں ذرا سا تقسیم کر دیتے ہیں اور کئی دن تک کھاتے ہیں۔ ضرور بتائیے گا کہ کیا ایسے لوگوں کی قربانی ہو جاتی ہے؟

جواب:.... آپ کے بھائی جس طرح کرتے ہیں وہ بہتر ہے، باقی سارا گوشت اگر گھر پر کھا لیا قربانی جب بھی صحیح ہے<sup>(۴)</sup> بشرطیکہ نیت قربانی کی ہو، صرف گوشت کھانے کی نہ ہو۔<sup>(۵)</sup>

## قربانی کے گوشت کا اسٹاک جائز ہے

سوال:.... شرعی احکام کے مطابق قربانی کے گوشت کی تقسیم غرباء، مسکین، عزیز واقارب، اڑوس پڑوس اور جو مستحق ہوں ان میں کی جائے، لیکن عام طور پر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اکثر گھروں میں بقر عید کی قربانی کے گوشت کا کچھ حصہ تو تقسیم کر دیا جاتا ہے اور

(۱) الأفضل أن يتصدق منها الثلث، ويدخر الثلث ضيافة للأقارب والثلث لنفسه، فإن لم يتصدق بشيء منها جاز۔ (الجوهرة النيرة ج: ۲ ص: ۲۸۵، كتاب الأضحية)۔ أيضاً: والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه ويدخر الثلث..... ولو تصدق بالكل جاز، ولو حبس الكل لنفسه جاز... الخ۔ (فتاوى عالمگیری، كتاب الأضحية، الباب الخامس ج: ۵ ص: ۳۰۰، طبع رشیدیہ کوئٹہ)۔

(۲) وفي الدر المختار: وإن كان شريك الستة نصرانياً أو مرید اللحم لم يجز عن واحد۔ (الدر المختار على رد المحتار ج: ۶ ص: ۳۲۶، كتاب الأضحية، طبع ايج ايم سعید)۔

(۳) ایضاً حاشیہ نمبر ۱ دیکھیں۔

(۴) ایضاً۔

(۵) ایضاً حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ فرمائیں۔

زیادہ بچا ہوا گوشت فرج، ڈیپ فریزر میں بھر کر رکھ دیا جاتا ہے اور اپنے استعمال کے ساتھ ساتھ نیاز نذر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ گوشت آئندہ بقر عید تک استعمال میں آتا رہتا ہے جبکہ زیادہ عرصہ فرج اور فریزر میں رہنے سے اس کی ماہیت اور ذائقہ بھی بے حد خراب ہو جاتا ہے، اور اسے دیکھنے اور کھانے میں کراہیت آتی ہے، لہذا اس سلسلے میں شرعی طور پر مطلع فرمادیتے ہیں کہ کیا بقر عید کا گوشت آئندہ بقر عید (ایک سال) تک اشاک کیا جاسکتا ہے؟

جواب: ... افضل تو یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کئے جائیں، ایک حصہ گھر کے لئے، ایک دوست احباب کے لئے، اور ایک فقراء و مساکین کے لئے، لیکن اگر کوئی شخص سارا گھر میں رکھ لیتا ہے یا ذخیرہ کر لیتا ہے تب بھی جائز ہے، اور جب گوشت کا رکھنا جائز ہو تو اس کا استعمال کسی بھی جائز مقصد کے لئے صحیح ہے۔<sup>(۱)</sup>

### قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا

سوال: ... کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جاسکتا ہے؟

جواب: ... دیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ نذر کی قربانی نہ ہو۔<sup>(۲)</sup>

### منت کی قربانی کا گوشت صرف غریب لوگ کھا سکتے ہیں

سوال: ... میری والدہ صاحبہ نے میری نوکری کے سلسلے میں منت مانی تھی کہ اگر میرے بیٹے کو مطلوبہ جگہ نوکری مل گئی تو میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گی، بھم اللہ نوکری مل گئی، خدا کا شکر ہے، لیکن کافی عرصہ گزر گیا ابھی تک منت پوری نہیں کی، اس میں سستی اور دیر ضرور ہوئی ہے لیکن اس میں ہماری نیت میں کوئی فتور نہیں، صرف یہ مطلوب ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہو جو صحیح اور عین اسلامی ہو؟ اس میں اختلاف رائے یہ ہے کہ جس جانور کی قربانی کی جائے اس کا گوشت رشتہ داروں، گھر کے افراد کے لئے جائز ہے یا یہ پورا کا پورا غریب و مسکین یا کسی دارالعلوم مدرسہ کو دے دینا چاہئے؟

جواب: ... آپ کی والدہ کے ذمہ قربانی کے دنوں میں قربانی واجب ہے، اور اس گوشت کا فقراء پر تقسیم کرنا لازم ہے۔ منت کی چیز غنی اور مال دار لوگ نہیں کھا سکتے جس طرح کہ زکوٰۃ اور صدقہ غنم مال داروں کے لئے حلال نہیں۔<sup>(۳)</sup>

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) ویہب منها ماشاء للغنی والفقیر والمسلم والذمی۔ (فتاویٰ عالمگیری ج: ۵ ص: ۳۰۰، کتاب الأضحیۃ)۔

(۳) فأما الصدقة الواجبة منها كالأضحیة المنذورة مثلاً فلا یجزئ دفعها إلى كافر... الخ۔ (اعلاء السنن ج: ۱ ص: ۲۸۸، طبع إدارة القرآن کراچی)۔

(۴) إن وجبت بالنذر فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئاً ولا أن يطعم غيره من الأغنياء سواء كان النادر غنياً أو فقيراً، ليس للمتصدق أن يأكل صدقته ولا أن يطعم الأغنياء۔ (عالمگیری ج: ۵ ص: ۳۰۰، کتاب الأضحیۃ)۔ أيضاً: وأما في الأضحیة المنذورة سواء كانت من الغنى أو الفقير فليس لصاحبها أن يأكل ولا أن يؤكل الغنى هكذا في النهاية۔ (عالمگیری ج: ۵ ص: ۳۰۰، کتاب الأضحیۃ، طبع رشیدیہ کونٹہ)۔

## قربانی کی کھالوں کے مصارف

### چرمہائے قربانی، مدارس عربیہ کو دینا

سوال: ... ہمارے شہر کے کسی خطیب صاحب نے کسی جمعہ میں اس مسئلے پر وضاحت فرمائی کہ مالِ زکوٰۃ و چرمہائے قربانی، تعمیرِ مدارس و تنخواہِ مدرّسین میں صرف کرنا جائز نہیں۔ اس سے کافی عرصہ پہلے لوگوں میں یہ دستور تھا کہ زکوٰۃ یا قربانی کے چمڑے وغیرہ خاص طور پر دینی خدمت کی وجہ سے مدارس عربیہ میں پہنچا دیتے تھے۔ اس سال قربانی کے موقع پر جب مولانا صاحب کی تقریر سنی تو انہوں نے بجائے مدارس کے، گھومنے پھرنے والے فقیروں میں یہ رقم صرف کر دی، جس کی وجہ سے ظاہری طور پر مدرسوں کو نقصان ہوا، اور عوام کو بھی یہ شبہ دل میں جم چکا ہے کہ جب گناہ ہے تو ہم کیوں صرف کریں؟ اس لئے خدمتِ اقدس میں گزارش ہے کہ اس مسئلے کو باقاعدہ وضاحت سے تحریر فرمادیں تاکہ شکوک رفع ہو جائیں۔

جواب: ... خطیب صاحب نے جو مسئلہ بیان فرمایا وہ اس پہلو سے درست ہے کہ چرمہائے قربانی مدارس یا مساجد کی تعمیر میں اور مدارس کے مدرّسین کی تنخواہ میں صرف کرنا جائز نہیں ہے۔<sup>(۱)</sup> لیکن مدارس میں جو چرمہائے قربانی دی جاتی ہیں وہ مدارس کی تعمیر یا مدرّسین کی تنخواہوں میں صرف نہیں کی جاتیں بلکہ علمِ دین حاصل کرنے والے غریب و نادار طلباء پر صرف کی جاتی ہیں۔ لہذا مدارس میں چرمہائے قربانی کی رقم دینا بالکل جائز ہے، بلکہ موجودہ زمانے میں مدارس میں چرمہائے قربانی دینا زیادہ بہتر ہے، اس لئے کہ اس میں غریب طلباء کی امداد بھی ہے اور علمِ دین کی خدمت بھی۔

### کھال کیسے ادارے کو دے سکتے ہیں؟

سوال: ... کھالوں کا سب سے بہترین مصرف ہر وہ ادارہ ہے جو کہ دین کی خدمت کر رہا ہو، جیسے کہ آج کل دینی مدارس وغیرہ، لیکن پوچھنا یہ ہے کہ آج ہر قوم والے خدمتِ خلق کے جذبہ سے جمع کرتے ہیں، تو کیا ہر آدمی اپنی برادری والوں کو دے سکتا ہے؟ اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو جو کہ دعویدار ہیں خدمتِ خلق کے، حالانکہ حقیقت میں ایک بھی اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک

(۱) ویتصدق بجلدها أو يعمل منه ..... لا بمستهلك كخيل ولحم ونحوه كدراهم فإن بيع اللحم أو الجلد به أي بمستهلك أو بدراهم تصدق بثمنه... الخ. (درمختار مع رد المختار ج: ۶ ص: ۳۲۸، کتاب الأضحیة). ولا یصرف إلى بناء نحو مسجد (وفی الشامیة) قوله نحو مسجد: كبناء القناطر والسقایات واصلاح الطرقات وكرى الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تملك فيه. (رد المختار مع الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۲۳، کتاب الزكوة). (ویتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال أو جراب) لأنه جزء منها وكان له التصدق والإنتفاع به. (بحر الرائق ج: ۸ ص: ۱۷۸، کتاب الأضحیة).



اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اس کی رقم خرچ کرتا ہے، بتلائیے کہ کیا کریں؟ یہ بھی بتلائیں کہ کھال دیتے وقت کیا نیت کرنی چاہئے؟ اور اس کو دینے کے لئے کیا شرائط ہیں؟ اور صحیح مصرف بتلائیں؟

جواب: ... قربانی کی کھال فروخت کر دی جائے تو اس رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے، لہذا قربانی کی کھال ایسے ادارے یا جماعت کو دی جائے جس کے بارے میں پورا اطمینان ہو کہ وہ صحیح مصرف پر خرچ کرے گی۔<sup>(۱)</sup>

### قصائی کا قربانی کی کھال کو اپنے پاس رکھ لینا

سوال: ... بقر عید کی قربانی پر یہاں مذبح والے جانور ذبح کر کے کھال اُتار کر گوشت دے دیتے ہیں، جبکہ کھال انہیں کے پاس رہ جاتی ہے، اور یہ معلوم بھی نہیں کہ کھال وہ کیا کرتے ہیں، ایسے میں قربانی کرنے والے کی قربانی درست ہوئی یا نہیں؟

جواب: ... ان کو ذبح کرنے کی اجرت دے دی جائے۔ کھال، ذبح کرنے کی اجرت میں نہ دی جائے۔<sup>(۲)</sup>

### قربانی کی کھال گوشت کی طرح ہر کسی کو دے سکتے ہیں

سوال: ... قربانی کا گوشت کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن کھال کے لئے قید کیوں ہے؟ وہ بھی گوشت کی طرح دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے لئے مستحق شخص کی پابندی کس وجہ سے ہے؟

جواب: ... قربانی کی کھال جب تک فروخت نہیں کی گئی، اس کا حکم گوشت کا ہے، اور کسی کو بھی دے دینا جائز ہے،<sup>(۳)</sup> فروخت کے بعد اس کا صدقہ واجب ہے، وہ غریب ہی کو دے سکتے ہیں۔<sup>(۴)</sup>

### امام مسجد کو چرم قربانی دینا کیسا ہے؟

سوال: ... چرم قربانی امام مسجد کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ براہ کرم اس مسئلے کو ذرا تفصیل سے بیان فرما کر مشکور فرمائیں۔

جواب: ... اگر امام مسجد کی امامت کی تنخواہ یا وظیفہ علیحدہ مقرر ہو اور تقرر کے وقت اس کے ساتھ صریحاً یا اشارتاً یہ بات طے نہ ہوئی ہو کہ امام کی حیثیت سے ہم آپ کو قربانی کی کھالیں بھی دیا کریں گے، اور وہ امام بھی کھالوں کو مقتدیوں پر اپنا حق نہ سمجھے، تو اس صورت میں اگر مقتدی واقعتاً گوشت کے ہدیہ کی طرح کھال کا بھی ہدیہ دے دیں تو جائز ہے۔<sup>(۵)</sup> لیکن اگر دونوں طرف سے نیت یہی ہو

(۱) فإن باع الجلد أو اللحم بالفلوس ..... تصدق بثلثه. (الجوهرۃ النيرة ج: ۲ ص: ۲۸۶، کتاب الأضحیة، البحر الرائق ج: ۸ ص: ۲۰۳، کتاب الأضحیة، طبع دار المعرفة، شامی ج: ۶ ص: ۳۲۸، کتاب الأضحیة، طبع سعید).

(۲) ولا يعطى أجره الجزار منها لأنه كبيع. (حاشیة رد المحتار ج: ۶ ص: ۳۲۸، کتاب الأضحیة).

(۳) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱ دیکھیں۔

(۴) ایضاً حاشیہ نمبر ۱ دیکھیں۔

(۵) ويتصدق بجلدها أو يعمل منه ..... لا بمستهلك كخيل ولحم ونحوه كدراهم فإن بيع اللحم أو الجلد به أى بمستهلك أو بدراهم تصدق بثلثه. (شامی ج: ۶ ص: ۳۲۸، کتاب الأضحیة، طبع سعید).

کہ یہ امامت کے عوض کے طور پر دی جا رہی ہیں تو ظاہری تاویل کر کے ہدیہ نام رکھنے سے ان کو دینا جائز نہیں ہوگا۔<sup>(۱)</sup> امام مسجد اگر غریب ہو اور اس کی تنخواہ اور اجرت کی نیت کے بغیر صرف غریب یا عالم اور حافظ سمجھ کر اس کو کھالیں دی جائیں تو میری رائے میں نہ صرف یہ جائز بلکہ بہتر ہے، ایسے علماء و حفاظ اگر محتاج ہوں تو ان کی امداد کرنا سب سے بڑھ کر اولیٰ ہے۔

### صاحب حیثیت امام کو قربانی کی کھالیں اور صدقہ فطر دینا

سوال: ... اگر ایک امام جو صاحب حیثیت ہو اور تنخواہ دار بھی ہو، اور پھر عید الفطر کا فطرانہ اور عید الاضحیٰ کی قربانیوں کے چمڑے کے پیسے خود مانگے اور کہے کہ اس بات کا میں خود ذمہ دار ہوں کہ مجھ پر ان چیزوں کے پیسے لگتے ہیں۔ آپ اسلام کی شرعی حیثیت سے اس مسئلے کا مفصل جواب دیں، نیز یہ بھی بتائیں کہ اس امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو کس طرح؟ اور اگر نہ ہوگی تو کس طرح؟ وضاحت کے ساتھ جواب دیں۔

جواب: ... امام کو بحق اجرت تو صدقہ فطر اور قربانی کی کھالیں دینا جائز نہیں،<sup>(۲)</sup> البتہ اگر وہ نادار اور عیال دار ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اپنی ناداری کی وجہ سے وہ دوسروں سے زیادہ مستحق ہے۔ رہا یہ کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں؟ اس بارے میں اگر اس کی بات پر اعتماد نہ ہو تو اپنی صوابدید پر عمل کیا جائے۔ اگر وہ امام نیک اور متدین ہے تو نماز اس کے پیچھے درست ہے۔

### چرم قربانی یا صدقہ فطر اگر غریب آدمی لے کر بخوشی مسجد و مدرسہ کو دے تو جائز ہے

سوال: ... کسی غریب آدمی کو قربانی کی کھال اور صدقہ فطر ملا، اب اگر وہ آدمی چاہے کہ کھال اور صدقہ مسجد یا مدرسہ کو دیدے تو یہ جائز ہوگا یا ناجائز؟ کیا مسجد و مدرسہ میں اس کو تعمیر پر خرچ کیا جاسکتا ہے؟

جواب: ... قربانی کی کھالوں یا صدقہ فطر کی رقم کا فقیر یا مسکین کو مالک بنانا ضروری ہے، اس لئے مسجد اور مدرسہ کی تعمیر پر اس رقم کو صرف نہیں کیا جاسکتا۔<sup>(۳)</sup> اگر کسی مسکین یا غریب شخص کو ان اشیاء کا مالک بنایا اور وہ برضا و رغبت مسجد یا مدرسہ میں چندہ دیدے تو اب اس رقم کی صورت تبدیل ہوگئی اور وہ قربانی کی کھالوں کی قیمت یا صدقہ فطر نہیں رہی، اس لئے اب وہ مسجد یا مدرسہ کی تعمیر میں دیگر چندوں کی طرح صرف کی جاسکتی ہے۔<sup>(۴)</sup>

### فلاحی کاموں کے لئے قربانی کی کھالیں جمع کرنا

سوال: ... اگر کوئی جماعت فلاحی کاموں کے نام سے قربانی کی کھالیں اور چندہ وصول کرے تو ان کو قربانی کی کھالیں اور

(۱) عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطى في جزاتها شيئاً. (بخاری ج: ۱ ص: ۲۳۲)۔ ويشترط أن الصرف تملكها لا إباحة كما مر. (درمختار ج: ۲ ص: ۲۳۳)۔

(۲) أيضاً حوالہ بالا۔

(۳) ولا يصرف إلى بناء نحو مسجد وفي الشامية (قوله نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات واصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تملك فيه. (شامی ج: ۲ ص: ۳۳۳، كتاب الزكاة)۔

(۴) قلنا ان الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء. (درمختار ج: ۲ ص: ۳۳۵)۔

چندہ دینا چاہئے یا نہیں؟

جواب: ... قربانی کی کھالیں فروخت کرنے کے بعد ان کا حکم زکوٰۃ کی رقم کا ہے، جس کی تملیک ضروری ہے، اور بغیر تملیک کے رفاہی کاموں میں اس کا خرچ درست نہیں<sup>(۱)</sup>، قربانی کی کھالیں ایسے ادارے اور جماعت کو دی جائیں جو شرعی اصولوں کے مطابق ان کو صحیح جگہ خرچ کر سکے۔

## قربانی کی کھالوں کی رقم سے مسجد کی تعمیر صحیح نہیں

سوال: ... صدقہ فطر اور قربانی کی کھالوں کی رقم مسجد یا مدرسہ کی تعمیر پر خرچ ہو سکتی ہے یا نہیں؟

جواب: ... زکوٰۃ، صدقہ فطر اور چرم قربانی کی قیمت کا کسی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، مسجد یا مدرسہ کی تعمیر میں خرچ کرنا صحیح نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## اشاعت کتب میں چرم قربانی کی رقم لگانا

سوال: ... ہم چند ساتھیوں نے مل کر ایک ادارہ بنام ”ادارہ دعوت و اصلاح“ قائم کیا ہے، جس کے قیام کا مقصد علمائے کرام کی تصنیفات و تالیفات کو عام فہم انداز میں عوام تک پہنچانا ہے، نیز بدعات و رسوماتِ مروّجہ کی روک تھام کے لئے حضرت تھانویؒ اور مختلف علمائے عظام کی تحریرات کو منظر عام پر لانا ہے، فی الحال اشاعتوں پر اخراجات کی تمام تر ذمہ داری کارکنانِ ادارہ پر ہے۔ چند ماہ قبل بعض ساتھیوں نے یہ رائے ظاہر کی کہ کیوں نہ ہم قربانی کی کھالوں سے حاصل شدہ رقم کو ادارے کے فنڈ میں جمع کر دیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ادارہ کا مقصد محض اشاعت کتب ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں کی تعلیم و تربیت کے لئے رسائل کی خریداری، لائبریری کا قیام، نیز دوسری دینی تنظیموں کے ساتھ معاونت بھی ہے، تو کیا ہم عزیزوں کے ہاں سے حاصل شدہ چرم قربانی کی رقم کو ان مدوں میں لگا سکتے ہیں؟

جواب: ... چرم قربانی سے حاصل شدہ رقم کا حکم زکوٰۃ کی رقم جیسا ہے، لہذا مستحقین میں اس کی تملیک کرنا ضروری ہے، خواہ وہ نقد کی صورت میں ہو یا کتابوں وغیرہ کی صورت میں ہو۔ بہر حال ایسی مدوں میں لگانا جائز نہیں ہے جن میں تملیک کی صورت نہ پائی جائے۔<sup>(۳)</sup>

## مسجد سے متصل دکانوں میں چرم قربانی کی رقم خرچ کرنا

سوال: ... مسجد کی کمیٹی کے صدر نے لوگوں سے قربانی کی کھالیں وصول کیں اور ان کھالوں کو فروخت کر دیا، بقول اس کمیٹی

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) ایضاً، نیز ص: ۴۶۳ کا حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ ہو۔

(۳) ایضاً۔

کے صدر کے، کھالوں کی رقم مسجد کی متصل دکانوں کی تعمیر میں صرف کی گئی ہے۔ کیا یہ رقم جو کہ قربانی کی کھالوں کی تھی، مسجد کی دکانوں میں لگائی جاسکتی ہے یا نہیں؟

جواب: ... صورتِ مسئلہ میں چرمِ قربانی کی رقم کا مسجد سے متصل دکانوں پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ قربانی کی کھالوں کو صرف انہی مصارف میں خرچ کیا جاسکتا ہے کہ جن مصارف میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جاسکتی ہے، اور زکوٰۃ کے مصارف سورہ توبہ کی آیت میں بیان کر دیئے گئے ہیں<sup>(۱)</sup>۔ مسجد سے متصل دکان تو دُور کی بات ہے، مسجد کی تعمیر پر بھی زکوٰۃ اور قربانی کی کھالوں کی رقم خرچ نہیں کی جاسکتی، اس لئے کہ یہ صدقاتِ واجبہ ہیں، اور صدقاتِ واجبہ میں تملیکِ ضروری ہے، جبکہ صورتِ مسئلہ میں تملیکِ مفقود ہے۔<sup>(۲)</sup> مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں:

”فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ جب تک کھال فروخت نہ ہو ہر شخص کو اس کا دینا اور خود بھی اس سے مستفیع ہونا جائز ہے، (البتہ قصائی وغیرہ کو یا کسی اور کو اجرت میں دینا جائز نہیں)، اور جب فروخت کر دی تو اس کی قیمت کا تصدق کرنا واجب ہے، اور تصدق کی ماہیت میں تملیکِ مأخوذ ہے، اور چونکہ یہ صدقہ واجبہ ہے اس لئے اس کے مصارف مثل مصارفِ زکوٰۃ کے ہیں۔“

(امداد الفتاویٰ ج: ۲ ص: ۵۳۶)

جن حضرات نے مذکورہ مسجد کی کمیٹی کے صدر کو تعمیر مسجد یا تعمیر دکان کی غرض سے قربانی کی کھالیں دی ہیں اور صدر نے انہیں فروخت کر کے رقم حاصل کی، ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کھال کی بمقدار رقم صدقہ کریں یا مسجد کمیٹی کے صدر کھالیں دینے والوں کی اجازت سے مستحقین میں ہی رقم صرف کر دیں۔<sup>(۳)</sup>

### طالب علم کو دنیاوی اعلیٰ تعلیم کے لئے چرمِ قربانی کی خطیر رقم دینا

سوال: ... ایک طالب علم جنھوں نے انجینئرنگ میں بی ای کی ڈگری حاصل کی ہے، وہ اسی شعبے میں مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے کینیڈا (شمالی امریکہ) کی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، جس کے لئے وہ یونیورسٹی سے منظوری حاصل کر چکے ہیں اور داخلے کے تمام ضروری کاغذات تیار ہیں، اور اب یونیورسٹی میں تعلیم کی فیس اور کینیڈا کے سفر کے لئے ان کو ڈیڑھ لاکھ روپے کی شدید ضرورت ہے، لیکن ان کو یہ دُشواری درپیش ہے کہ ان کے پاس ذاتی طور پر اس کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کی کوشش ہے کہ وہ پچھتر ہزار

(۱) ”إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ“ (التوبة: ۶۰)۔

(۲) ص: ۴۶۳ کا حاشیہ نمبر ۱، و ص: ۴۶۵ کا حاشیہ نمبر ۳ ملاحظہ کیجئے۔

(۳) فإن بيع اللحم والجلد به أى بمستهلك أو بدرهم تصدق بثمانه... إلخ۔ (در المختار، كتاب الأضحية ج: ۵ ص: ۲۸۷)۔

روپے اپنے حلقہ متعارف سے اس مقصد کے لئے جمع کر لیں تو بقیہ نصف رقم پچھتر ہزار روپے جمعیت ”چرمہائے قربانی فنڈ“ سے ان کی اعانت کر دے، تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے بیرون ملک جاسکیں اور اس اعلیٰ تعلیم کو ملک و قوم کی خدمت کا ذریعہ بنا سکیں۔ دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک فرد واحد کی یہ اعانت چرمہائے قربانی کی حاصل ہونے والی رقم کی مدد سے کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ جبکہ درخواست دہندہ خود کو اس کا مستحق بتاتا ہے۔

جواب: ... مجھے تو یہ قطعاً ناجائز معلوم ہوتا ہے، دوسرے اہل علم سے دریافت کر لیا جائے۔ اگر ان صاحب کو یہ رقم دینی ہو تو اس کی تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو اتنی رقم بطور قرض کے دے دی جائے اور جب وہ خرچ کر لیں تو اس رقم سے ان کا قرض ادا کر دیا جائے۔

## غیر مسلم کے ذبیحے کا حکم

مسلمان اور کتابی کا ذبیحہ جائز ہے، مرتد و دہریے اور جھٹکے کا ذبیحہ جائز نہیں

سوال: ... گزارش خدمت یہ ہے کہ میری بڑی بہن امریکہ میں مقیم ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو گوشت ملتا ہے وہ جھٹکے کا ہوتا ہے، اس لئے اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ ویسے انہوں نے اس گوشت کو ابھی تک نہیں کھایا، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ ناجائز طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے؟ مگر وہاں پر جو دوسرے پاکستانی ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کراچی میں کون ہر جانور پر اللہ اکبر پڑھتا ہے؟ وہاں پر بھی گوشت ایسے ہی ذبح کیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں ذرا وضاحت سے تحریر کریں تاکہ وہ اس کا جواب دوسروں کو دے سکیں، آیا وہ گوشت جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ گوشت کو اگر ویسے نہیں کھایا جائے تو کسی نہ کسی چیز میں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ شامل ہوتا ہے، برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں۔

جواب: ... جو حلال جانور کسی مسلمان یا کتابی نے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا ہو اس کا کھانا حلال ہے، اور کسی مرتد، دہریے کا ذبیحہ حلال نہیں<sup>(۱)</sup>۔ اسی طرح جھٹکے کا گوشت بھی حلال نہیں<sup>(۲)</sup>، ہماری معلومات کے مطابق کراچی میں جھٹکے کا گوشت نہیں ہوتا۔

نوٹ: ... ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اگر کسی مسلمان نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی تو ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، البتہ اگر ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور بھولے سے بسم اللہ نہیں پڑھ سکا تو ذبیحہ جائز ہے۔<sup>(۳)</sup>

## کن اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے؟

سوال: ... ہم دو دوست امریکہ میں رہتے ہیں، ہم کو یہاں رہتے ہوئے تقریباً بیس سال ہو گئے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میرے دوست کا کہنا ہے کہ اہل کتاب چاہے کیسا بھی ہو اس کا ذبح کیا ہو جانور جائز ہے، اور وہ دلیل قرآن کی آیت سے پیش کرتا ہے۔ اور میرا

(۱) وحل ذبیحۃ مسلم و کتابی لقولہ تعالیٰ: و طعام الذین اوتوا الکتب حل لکم۔ والمراد بہ ذبائحہم ..... لا مجوسی و وثنی و مرتد و محرم و تارک التسمیۃ عمدًا یعنی لا یحل ذبیحۃ هؤلاء... الخ۔ (البحر الرائق ج: ۸ ص: ۱۹۱)۔

(۲) تفصیل کے لئے دیکھئے: فتاویٰ بینات، جلد چہارم ص: ۵۳۵ تا ۵۹۱۔

(۳) ومنها (أی من شرائط الذکاة) التسمیۃ حالۃ الذکر عندنا ..... ولنا قولہ تعالیٰ: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكَرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ..... ولنا ما روى عن راشد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذبيحة المسلم حلال سمي أو لم سم ما لم يتعمد، وهذا نص في الباب۔ (بدائع، كتاب الذبائح ج: ۵ ص: ۴۶، ۴۶)۔ أيضًا: وحل لو ناسيًا یعنی حل المذکی لو ترک التسمیۃ ناسيًا۔ (البحر الرائق ج: ۸ ص: ۱۹۲، كتاب الذبائح، طبع دار المعرفة بیروت)۔

کہنا یہ ہے کہ ہر اہل کتاب کا جانور ذبح کیا ہوا جائز نہیں بلکہ ہر وہ اہل کتاب جو اپنی شریعت سابقہ پر مع اعتقاد عمل کرتا ہو اور اس کے ذبح کا طریقہ بھی وہی ہو جو ان کی کتاب میں ہے، کیونکہ ان کا اور مسلمانوں کا طریقہ ایک ہے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر جانور ذبح کرنا، اگر اس کے خلاف ہو تو حرام ہے۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آیا ہم دونوں میں سے کون درست عمل پر ہے؟ اور اگر دونوں غلط عمل پر ہیں تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ براہ مہربانی اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے لکھیں اور اس کے ساتھ ذبح کرنے والے کے لئے کوئی شرائط ہوں جن کی وجہ سے وہ حلال ہوتا ہے وہ بھی واضح فرمائیں۔

جواب: ... اس گفتگو میں آپ کی بات صحیح ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، مگر اس میں چند امور کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔  
 اول: ... ذبح کرنے والا واقعتاً صحیح اہل کتاب بھی ہو، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قومی حیثیت سے یہودی یا عیسائی کہلاتے ہیں، مگر عقیدہ دہریئے ہیں اور وہ کسی دین و مذہب کے قائل نہیں، اسے لوگ شرعاً اہل کتاب نہیں، اور ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں۔<sup>(۱)</sup>  
 دوم: ... بعض لوگ پہلے مسلمان کہلاتے تھے، پھر یہودی یا عیسائی بن گئے، یہ لوگ بھی اہل کتاب نہیں بلکہ شرعاً مرتد ہیں، اور مرتد کا ذبیحہ مردار ہے۔<sup>(۲)</sup>

سوم: ... یہ بھی ضروری ہے کہ ذبح کرنے والے نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر (بسم اللہ کے ساتھ) ذبح کیا ہو، اس کے بغیر بھی حلال نہیں، چہ جائیکہ کسی کتابی کا۔<sup>(۳)</sup>

چہارم: ... ذبح کرنے والے نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہو،<sup>(۴)</sup> آج کل مغربی ممالک میں مشین سے جانور کاٹے جاتے ہیں اور ساتھ میں ”بسم اللہ اکبر“ کی ٹیپ لگا دی جاتی ہے، گویا ”بسم اللہ“ کہنے کا کام آدمی کے بجائے ٹیپ کرتی ہے، اور ذبح کا کام آدمی کے بجائے مشین کرتی ہے، ایسے جانور حلال نہیں بلکہ مردار کے حکم میں ہیں۔<sup>(۵)</sup>

(۱) و طعام الذین أوتوا الكتب حل لكم و طعامكم حل لهم، قال الزهري: لا بأس بذبحة نصارى العرب، وإن سمعته سمى لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلى كفرهم ..... وقال ابن عباس: طعامهم ذبانحهم. أيضاً و شرط ان لا يذكر فيه غير الله تعالى حتى لو ذكر الكتابي المسيح أو عزيزاً لا يحل. (صحيح البخاري، باب ذبانح أهل الكتاب ج: ۲ ص: ۸۴۸، البحر الرائق، كتاب الذبانح ج: ۸ ص: ۱۶۸، أيضاً معارف القرآن ج: ۳ ص: ۴۸ سورة المائدة).

(۲) لا مجوسى ووثنى ومرتد ..... ولا فرق فى المرتد بين أن يرتد إلى دين اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك... الخ. (البحر الرائق ج: ۸ ص: ۱۹۱، كتاب الذبانح، طبع دار المعرفة، بيروت).

(۳) و شرط كون الذابح مسلماً ..... أو كتابياً ذمياً أو حربياً إلا إذا سمع منه عند الذبح ذكر المسيح. (رد المختار، كتاب الذبانح ج: ۶ ص: ۲۹۷). أيضاً: و تشترط التسمية من الذابح حال الذبح أو الرمي لصيد أو الإرسال... الخ. قوله حال الذبح قال فى الهداية: ثم التسمية فى ذكاة الإختيار تشترط عند الذبح وهى على المذبوح. (رد المختار على الدر المختار، كتاب الذبانح ج: ۶ ص: ۳۰۲ طبع سعيد). وأما شرائط الركن، فمنها: أن تكون التسمية من الذابح. (بدائع الصنائع، كتاب الذبانح، فصل فى شرط حل الأهل ج: ۵ ص: ۴۵).

(۴) لأن التسمية فى الذكاة الإختيارية مشروعة على الذبح لا على آلة وذبحة لم تتغير. (البحر الرائق ج: ۸ ص: ۱۹۱).

(۵) أيضاً حوالہ نمبر ۳ دیکھیں۔

## یہودی کا ذبیحہ جائز ہونے کی شرائط

سوال: ... اسلامی طریقے پر ذبیحہ گوشت اگر دستیاب نہ ہو سکے تو یہودیوں کا ذبح کیا ہوا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟  
 جواب: ... یہودی اگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو اور اپنی کتاب کو ماننا ہو تو وہ اہل کتاب ہے، اس کا ذبیحہ جائز ہے،<sup>(۱)</sup>  
 بشرطیکہ اللہ کے نام سے ذبح کرے۔<sup>(۲)</sup>

## یہودی کا ذبیحہ استعمال کریں یا عیسائی کا؟

سوال: ... بیرون ملک ذبیحہ مسلمانوں کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہے، اکثر جو ذبیحہ دستیاب ہوتا ہے وہ یا تو یہودیوں کا ہوتا ہے یا پھر عیسائیوں کا ذبیحہ۔ اہل کتاب کے نقطہ نظر سے زیادہ تر یہودیوں کا ذبیحہ صحیح سمجھا جاتا ہے، جبکہ عیسائیوں کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب کے مطابق بھی ذبح نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ذہنوں میں بڑی الجھن پائی جاتی ہے۔ آزرہ کرم قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل بیان فرمائیے۔

جواب: ... اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ اگر یہ اطمینان ہو کہ یہودی صحیح طریقے سے ذبح کرتے ہیں اور عیسائی صحیح طریقے سے ذبح نہیں کرتے تو یہودی کے ذبیحے کو ترجیح دی جائے، نصرانی کے ذبیحے سے پرہیز کیا جائے۔<sup>(۳)</sup>

## روافض کے ذبیحے کا کیا حکم ہے؟

سوال: ... ۱: شیعہ مسلمان ہیں یا کافر؟

سوال: ... ۲: شیعہ کی نماز جنازہ پڑھنے اور پڑھانے والے کے بارے میں علمائے کرام کیا فرماتے ہیں؟

سوال: ... ۳: کیا شیعہ کے گھر کی پکی ہوئی چیزیں کھانا جائز ہے؟

سوال: ... ۴: کیا شیعہ کا ذبیحہ جائز ہے؟

جواب: ... ۱: اثنا عشری شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں،<sup>(۴)</sup> تین چار کے سوا باقی تمام صحابہ کرام کو کافر و مرتد سمجھتے ہیں،<sup>(۵)</sup> اور

(۱) وانما أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل انهم آمنوا بالتوراة والإنجيل۔ (الفقه الإسلامی وأدلته ج: ۳ ص: ۲۵۰)۔  
 (۲) ويشترط أن لا يذكر فيه غير الله تعالى حتى لو ذكر الكتابي المسيح أو عزيزاً لا يحل۔ (بحر الرائق ج: ۸ ص: ۱۶۸)۔  
 أيضاً: وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم وطعامكم حل لهم، قال الزهري: لا بأس بذبائح نصارى العرب، وإن سمعته سمى لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحل الله وعلم كفرهم ..... وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم۔ (صحيح البخارى، باب ذبائح أهل الكتاب ج: ۲ ص: ۸۲۸ طبع قديمى)۔

(۳) ايضاً حوالہ نمبر ۱، ۲ دیکھیں۔

(۴) ان القرآن قد طرح منه آى كثيرة۔ (مقدمة تفسير البرهان ص: ۳۷)۔

(۵) عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان الناس أهل ردة بعد النبى صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة... الخ۔ (روضه كافي ج: ۸ ص: ۲۴۵)۔



حضرت علیؑ اور ان کے بعد گیارہ بزرگوں کو معصوم مفترض الطاعتہ<sup>(۱)</sup> اور انبیائے کرام علیہم السلام سے افضل سمجھتے ہیں۔<sup>(۲)</sup> اور یہ تمام عقائد ان کے مذہب کی معتبر اور مستند کتابوں میں موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسے عقائد رکھتے ہوں وہ مسلمان نہیں۔<sup>(۳)</sup> نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے،<sup>(۴)</sup> نہ ان کا جنازہ جائز ہے،<sup>(۵)</sup> اور نہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے۔<sup>(۶)</sup>

اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان عقائد کا قائل نہیں، تو اس مذہب سے براءت کا اظہار کرنا لازم ہے جس کے یہ عقائد ہیں، اور ان لوگوں کی تکفیر ضروری ہے جو ایسے عقائد رکھتے ہوں، جب تک وہ ایسا نہیں کرتا اس کو بھی ان عقائد کا قائل سمجھا جائے گا، اور اس کے انکار کو ”تقیہ“ پر محمول کیا جائے گا۔

(۱) اعلم ان الإمامیة رضی اللہ عنہم إتفقوا علی عصمة الأئمة علیہم السلام من الذنوب صغیرها وکبیرها۔ (بحار الأنوار ج: ۲۵ ص: ۲۰۹، طبع ایران)۔

(۲) اکثر علماء شیعی را اعتقاد آنت کہ حضرت امیر علیہ السلام و سایر ائمة افضل اند از پیغمبران سوا پیغمبر آخر زمان... الخ۔ (حق الیقین ص: ۷۰)۔ تفصیل کے لئے ”شیعہ کی اختلاف اور صراط مستقیم“ ملاحظہ فرمائیں۔

(۳) ویجب إکفار الروافض فی قولہم: یرجع الأموات إلی الدنیا..... وبقولہم: إن جبریل غلط فی الوحی إلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دون علی رضی اللہ عنہ، وهو لآء القوم خارجون عن الإسلام، وأحكامهم أحكام المرتدین۔ (الفتاوی التاتارخانیة، کتاب أحكام المرتدین، فیمن یجب إکفاره من أهل البدع ج: ۵ ص: ۵۳۸ طبع إدارة القرآن کراچی)۔

الرافضی إذا کان یسب الشیخین ویلعنہما... والعیاذ باللہ... فهو کافر..... ولو قذف عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا بالزنا، کفر اللہ..... من أنکر إمامة أبی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فهو کافر..... ویجب إکفار الروافض فی قولہم برجعة الأموات إلی الدنیا وبتناسخ الأرواح، و بانتقال روح الإله إلی الأئمة، وبقولہم فی خروج إمام باطن، وبتعطیلہم الأمر والنهی إلی أن ینخرج الإمام الباطن، وبقولہم: إن جبریل علیہ السلام غلط فی الوحی إلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دون علی ابن أبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وهو لآء القوم خارجون عن ملة الإسلام وأحكامهم أحكام المرتدین کذا فی الظہیریة۔ (الفتاوی العالمگیریة، کتاب السیر، الباب التاسع فی أحكام المرتدین، مطلب موجبات الکفر أنواع منها ما یتعلق بالإیمان والإسلام ج: ۲ ص: ۲۱۳ طبع رشیدیہ)۔

(۴) لا تؤکل ذبیحة الروافض والقدریة کما لا تؤکل ذبیحة المرتد۔ (الصارم المسلول ص: ۵۷۵)۔

(۵) قال محمد بن یوسف الفریابی وسئل عن شتم أبابکر قال: کافر، قیل: ایصلی علیہ؟ قال: لا۔ (أیضاً)۔

(۶) وإذا مات أو قتل علی ردتہ لم یدفن فی مقابر المسلمین ولا أهل ملة وانما یلقى فی حفرة کالکلب۔ (الأشباه والنظائر ج: ۱ ص: ۲۹۱، کتاب السیر، باب الردة، طبع إدارة القرآن)۔

## قربانی کے متفرق مسائل

### جانور اُدھار لے کر قربانی کرنا

سوال: ... جس طرح دُنیا کے کاروبار میں ہم ایک دُوسرے سے اُدھار لیتے ہیں، اور بعد میں وہ اُدھار ادا کر دیتے ہیں، کیا اسی طرح اُدھار پر جانور لے کر قربانی کرنا جائز ہے؟  
جواب: ... جائز ہے۔

### سودی قرضے سے قربانی کرنا

سوال: ... میرا ایک بڑا سالہ ہے، جو کہ گھر کا واحد کفیل بھی ہے، وہ سود پر قرضہ لے کر مکان اور دکان بنوا رہا ہے، میں ہر سال اس کے ساتھ (بقر عید) قربانی میں حصہ لیتا ہوں، کیا اس حالت میں میرے سالے پر قربانی جائز ہے، جبکہ اس نے سود پر قرضہ لے رکھا ہو؟ اس کا ایک اسنو کر کلب بھی ہے جو کہ روزگار کا یہی ذریعہ بھی ہے، اور اس کی آمدنی بقول میرے سالے کے کہ زیادہ آمدنی نہیں ہوتی۔ بڑی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے، کیا میرے سالے پر قربانی جائز ہے؟ سود پر قرضے والا واقعہ صرف مجھے معلوم ہے، کیونکہ اس نے مجھے خود ہی بتایا تھا، اس طرح دُوسرے حصہ دار جو کہ قربانی میں حصہ لیتے ہیں، جن کو میرے سالے کی سود پر قرضے والی بات نہیں معلوم، کیا ان حضرات کی (بقر عید) قربانی بھی جائز ہوگی؟ میرے سالے کا کہنا ہے کہ میں قربانی ضرور کروں گا، اللہ تعالیٰ قبول کرے یا نہ کرے، کم از کم میرے چھوٹے بھائیوں کا شوق پورا ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح گھر کا خرچہ چل رہا ہے، اسی طرح سے میں قربانی بھی کروں گا۔ کیا اس کی قربانی یا دُوسرے حصہ داروں کی قربانی جائز ہوگی؟ اگر نہیں تو اس کا عذاب کس کے سر ہوگا؟ کیا یہ دُنیا کو دکھانا نہیں ہوگا؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں جلد سے جلد دیں تاکہ میرا سالہ اس حرکت سے باز آجائے۔

جواب: ... قربانی اس شخص پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہو۔<sup>(۱)</sup> اس لئے آپ کے سالے کے ذمے قربانی لازم ہے۔ قربانی رضائے الہی کی نیت سے کی جاتی ہے، محض چھوٹوں کا شوق پورا کرنے کے لئے نہیں کی جاتی۔ جو شخص قربانی سے عبادت کی نیت نہ رکھتا ہو، اس کے ساتھ قربانی کا حصہ نہ رکھا جائے، ورنہ حصہ داروں میں سے کسی کی قربانی بھی دُست نہ ہوگی۔<sup>(۲)</sup> سودی قرضہ لینا حرام

(۱) فتجب التضحية على حر مسلم مقیم موسر۔ (الدر المختار ج: ۶ ص: ۳۱۵، ۳۱۶، کتاب الأضحیة)۔

(۲) أن لا يشارك المضحى فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأساً فإن شارك لم يجز عن الأضحیة. (بدائع ج: ۵ ص: ۷۱، کتاب التضحية، فصل وأما شرائط جواز إقامة الواجب)۔

ہے، ویسے ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہئے، اگر وہ اس سے توبہ نہ کرے تو دوسروں کو اس کے ساتھ حصہ نہیں رکھنا چاہئے۔

## قسطوں پر قربانی کے بکرے

سوال: ... چند روز سے اخبارات اور ٹی وی پر قربانی کے بکرے اور گائیں بک کرانے کا اشتہار آرہا ہے، یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قسطوں پر بکرایا گائے لے کر قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ برائے مہربانی اس مسئلے پر روشنی ڈالیں تاکہ میرا یہ مسئلہ حل ہو سکے اور دوسروں کو بھی شرعی حل معلوم ہو سکے۔

جواب: ... جس جانور کے آپ مالک ہیں اس کی قربانی جائز ہے، خواہ آپ نے نقد قیمت پر خریدا ہو، خواہ ادھار پر، خواہ قسطوں پر۔ مگر یہ بات یاد رہے کہ صرف جانور کو بک کر لینے سے آپ اس کے مالک نہیں ہو جاتے، اور نہ بک کرانے سے بیع ہوتی ہے، بلکہ جس دن آپ کو اپنی جمع کردہ رقم کے بدلے جانور دیا جائے گا تب آپ اس کے مالک ہوں گے۔

## غریب کا قربانی کا جانور اچانک بیمار ہو جائے تو کیا کرے؟

سوال: ... زید نے اپنی قربانی کا جانور لیا ہوا تھا جو عید الاضحیٰ سے ایک دو دن پہلے بیماری کی وجہ سے علیل ہو جاتا ہے، پھر اس کو ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیا اس کی قربانی ہوگئی یا نہیں؟ اور زید بالکل غریب آدمی ہے، ملازم پیشہ ہے، جس نے اپنی تین چار ماہ کی تنخواہ میں سے رقم جمع کر کے یہ قربانی خریدی تھی، اب اس قربانی کے ہلاک ہونے کے بعد اس کے پاس دوسری قربانی خریدنے کی گنجائش نہیں ہے، اب یہ کیا کرے؟

جواب: ... اس کے ذمہ قربانی کا دوسرا جانور خریدنا لازم نہیں، البتہ قربانی نہیں ہوتی، لیکن ممکن ہے اللہ تعالیٰ نیت کی وجہ سے قربانی کا ثواب عطا فرمادے۔<sup>(۱)</sup>

## قربانی کا بکرہ خریدنے کے بعد مر جائے تو کیا کرے؟

سوال: ... ایک شخص صاحب نصاب نہیں ہے، وہ بقر عید کے لئے قربانی کی نیت سے بکرہ خریدتا ہے، لیکن قبل از قربانی بکرہ مر جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اس شخص پر دوبارہ بکرہ خرید کر قربانی کرنا واجب ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ صاحب نصاب ہے اور بکرہ مر جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ بکرہ خرید کر قربانی دینا چاہئے یا نہیں؟

(۱) الفقیر إذا اشترى شاة للأضحیة فسرقته فاشترى مكانها ثم وجد الأولى فعليه أن يضحي بهما ولو ضلت فليس عليه أن يشترى أخرى مكانها وإن كان غنياً فعليه أن يشترى أخرى مكانها وفي الواقعات له مائتا درهم فاشترى بعشرين درهماً أضحیة يوم الثلاث وهلكت يوم الأربعاء وجاء يوم الخميس الأضحی لیس عليه أن يضحي لفقره يوم الأضحی۔ (بحر الرائق ج: ۸ ص: ۱۷۵)۔ وأيضاً: إذا انتقص نصابه يوم الأضحی سقط عنه الذكاة۔ (بحر الرائق ج: ۸ ص: ۱۷۵)۔ ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع فعليه إقامة غيرها مقامها إن كان غنياً، وإن كان فقيراً أجزأه ذلك۔ (قوله إن كان فقيراً أجزأه) لأنها انما تعيبت بالشراء في حقه... إلخ۔ (رد المحتار على الدر المختار ج: ۶ ص: ۳۲۵)۔

جواب: ... اگر اس پر قربانی واجب نہیں تو اس کے ذمہ دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں<sup>(۱)</sup>، اور اگر صاحب نصاب ہے تو دوسرا جانور خریدنا لازم ہے۔<sup>(۲)</sup>

جس شخص کا عقیقہ نہ ہوا ہو، کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟

سوال: ... ہمارے محلے میں ایک مولانا رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ قربانی وہ انسان کر سکتا ہے جس کے گھر میں ہرنچے اور بڑے کا عقیقہ ہو چکا ہو، مگر ہمارے گھر میں کسی کا بھی عقیقہ نہیں ہوا کیونکہ ہماری والدہ کہتی ہیں کہ وہ ہم سب کا عقیقہ اس کی شادی پر کر دیں گی۔

جواب: ... مولانا صاحب کا یہ مسئلہ صحیح نہیں، عقیقہ خواہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، قربانی ہو جاتی ہے، نیز مسنون عقیقہ ساتویں دن ہوتا ہے، شادی پر عقیقہ کرنے کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں۔<sup>(۳)</sup>

لا علمی میں دُنبہ کے بجائے بھیڑ کی قربانی

سوال: ... ہم نے گزشتہ عید کو قربانی کی، ہماری یہ پہلی قربانی تھی، اس لئے ہم دھوکا کھا گئے اور بجائے دُنبہ کے بھیڑ لے آئے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ دُنبہ نہیں بھیڑ ہے، اب آپ بتائیں کہ ہماری یہ پہلی قربانی بارگاہِ الہی میں قبول ہونی چاہئے؟

جواب: ... اگر اس کی عمر ایک سال کی تھی تو قربانی ہوگئی، کیونکہ دُنبہ اور بھیڑ دونوں کی قربانی جائز ہے۔<sup>(۴)</sup>

حلال خون اور حلال مردار کی تشریح

سوال: ... ایک حدیث کی رو سے دو قسم کے مردار اور دو قسم کا خون حلال ہیں، برائے مہربانی وہ دو قسم کے مردار جانور اور دو قسم کے خون کون سے ہیں؟ اور وہ حدیث بھی تحریر فرمائیں۔ بقول الف کے دو قسم کا مردار: ۱- مچھلی، ۲- ٹڈی۔ دو قسم کا خون: ۱- قاتل کا خون، ۲- مرد کا خون حلال ہے۔ کیا یہ قول درست ہے؟

جواب: ... الف نے جو کہا کہ مردار جانور سے مراد، ۱- ٹڈی، ۲- مچھلی ہے، تو یہ بات اس کی ٹھیک ہے۔ لیکن مردار سے حرام مراد نہیں بلکہ اس سے مراد ہے کہ ٹڈی اور مچھلی کو اگر زندہ پکڑا جائے تو یہ دونوں بغیر ذبح کے حلال ہیں، کیونکہ اگر پکڑنے سے پہلے

(۱) اشتری شاة لیضحی بہا فمات فی آیام الأضحیة قبل أن یضحی بہا فله أن یبیعها ومن کان غائبًا عن مالہ فی آیام الأضحیة فهو فقیر۔ (بحر الرائق ج: ۸ ص: ۱۹۹، کتاب الأضحیة، طبع دار المعرفة، بیروت)۔

(۲) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ ہو۔

(۳) یتحب لمن وُلد له ولدًا أن یسمیہ یوم اسبوعہ، ویحلق رأسہ..... ثم یعق عند الحلق عقیقۃ إباحة۔ (رد المحتار ج: ۶ ص: ۳۳۶، قبیل کتاب الحظر والإباحة)۔

(۴) وجاز الثنی من الكل والجذع من الضأن..... والثنی من الضأن والمعز ابن سنة والبقر ابن سنتین۔ (البحر الرائق ج: ۸ ص: ۲۰۱)۔ أيضًا: الأضحی اثنان: الجذع من الضأن إذا کان ضخمًا عظیمًا هو الذی أتى الستة أشهر والثنی من المعز الخ۔ (خزانة الفقه، کتاب الأضحی، أسنان الأضحی ص: ۲۶۵ طبع مکتبہ غفوریه)۔

مرگئے تو ان کا کھانا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اور اس حدیث میں جو خون کا ذکر ہے اس سے مراد، ۱:- جگر، ۲:- تلی ہے۔<sup>(۱)</sup> زید نے جو خون کے متعلق کہا کہ دونوں خون سے مراد خونِ قاتل اور خونِ مرتد ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ مذکورہ حدیث میں دونوں خونوں کو تصریحاً ذکر کیا گیا ہے۔ باقی قاتل اور مرتد کا ذکر دوسری حدیث میں ہے، ان دونوں کو مباح الدم قرار دیا گیا ہے، یعنی قاتل کو مقتول کے بدلے اور مرتد کو تبدیل دین کی وجہ سے قتل کیا جائے۔<sup>(۲)</sup> باقی اس سے مراد یہ نہیں کہ ان دونوں کا خون حلال ہے۔

## ذبح شدہ جانور کے خون کے چھینٹوں کا شرعی حکم

سوال: ...گائے اور بکرے کا خون ناپاک ہوتا ہے یا پاک؟ دراصل میں گوشت لینے جاتا ہوں تو قصائی کی دکان پر خون کے چھوٹے چھوٹے دھبے لگ جاتے ہیں تو یہ کپڑے پاک ہیں یا نہیں؟

جواب: ...گوشت میں جو خون لگا رہتا ہے وہ پاک ہے، اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، البتہ بوقت ذبح جو خون جانور کی رگوں سے نکلتا ہے وہ ناپاک ہے۔<sup>(۳)</sup>

## قربانی کے خون میں پاؤں ڈبونا

سوال: ...ہمارے ایک رشتہ دار جب قربانی کرتے ہیں یا صدقہ کا بکرا کاٹتے ہیں، چھری پھیرنے کے بعد جب خون نکلنا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے دونوں پیر خون میں ڈبو لیتے ہیں، یہ ان کا کوئی اعتقاد ہے۔ یہ جائز ہے یا ناجائز؟

جواب: ...یہ خون نجس ہوتا ہے، اور نجاست سے بدن کو آلودہ کرنا دین و مذہب کی رُو سے عبادت نہیں ہو سکتا، اس لئے یہ اعتقاد گناہ اور یہ فعل ناجائز ہے۔<sup>(۴)</sup>

## قربانی کرنے سے خون آلودہ کپڑوں میں نماز جائز نہیں

سوال: ...قربانی کے جانور کا خون اگر کپڑے پر لگ جائے تو نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟

جواب: ...قربانی کے جانور کا بہتا ہوا خون بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح کسی اور جانور کا۔<sup>(۵)</sup> خون کے اگر معمولی چھینٹے

(۱) عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: أحلت لنا میتتان ودمان، المیتتان: الحوت والجراد، والدمان: الکبد والطحال۔ (مشکوٰۃ ص: ۳۶۱)۔ ایضاً: وفي الأصل: السمک الذی مات فی الماء بغير آفة وهو الطافی لا یؤکل، ویؤکل إن مات بآفة وهي ان ینحسر عنه الماء أو طفی علی وجه الأرض..... أو ربطه أحد فی الماء... فمات یؤکل۔ (خلاصة الفتاوی، کتاب الصيد ج: ۴ ص: ۳۰۳ طبع رشیدیہ)۔

(۲) عن أبی أمامة..... لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث..... أو کفر بعد اسلام أو قتل نفس بغير حق فقتل۔ (مشکوٰۃ ص: ۳۰۱، کتاب القصاص، الفصل الثانی)۔

(۳) ما لرق من الدم السائل باللحم فهو نجس، وما بقی فی اللحم والعروق من الدم الغیر السائل فلیس بنجس، والأصل ان النجس من الدم ما کان مسفوحاً۔ (حلبی کبیر، کتاب الطہارة ص: ۱۹۵ طبع سہیل اکیڈمی)۔

(۴) ایضاً۔

پڑ جائیں جو مجموعی طور پر انگریزی روپیہ کی چوڑائی سے کم ہوں تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں<sup>(۱)</sup>۔ البتہ جو خون گردن کے علاوہ گوشت پر لگا ہوا ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں<sup>(۲)</sup>۔

## قربانی کے جانور کی چربی سے صابن بنانا جائز ہے

سوال: ...قربانی کے بکرے کی چربی سے اگر کوئی گھر میں صابن بنائے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر گناہ ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟

اگر معلوم نہ ہو کہ یہ گناہ ہے۔

جواب: ...قربانی کے جانور کی چربی سے صابن بنالینا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔<sup>(۳)</sup>

(۱) قدر الدرہم وما دونہ من النجس المغلظ كالدم والبول ..... جازت الصلاة معه وان زاد لم تجز... الخ۔ (الهدایة

مع فتح القدیر ج: ۱ ص: ۱۴۰، باب الأنجاس وتطہیرھا، طبع دار صادر، بیروت)۔

(۲) ایضاً حوالہ نمبر ۱۔

(۳) ويتصدق بجلدها لأنه جزء منها أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت كالنطع والجراب والغربال ونحوها ..... واللحم

بمنزلة الجلد في الصحيح۔ (هدایة، کتاب الأضحیة ج: ۴ ص: ۴۳۸، طبع شرکت علمیہ ملتان)۔

## عقیقہ

## عقیقے کی اہمیت

سوال: ... اسلام میں عقیقے کی کیا اہمیت ہے؟ اور اگر کوئی شخص بغیر عقیقہ کئے مر گیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب: ... عقیقہ سنت ہے، اگر گنجائش ہو تو ضرور کر دینا چاہئے، نہ کرے تو گناہ نہیں، صرف عقیقے کے ثواب سے محرومی ہے۔<sup>(۱)</sup>

## عقیقے کا عمل سنت ہے یا واجب

سوال: ... بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عقیقہ کیا جاتا ہے اور بکر صدقہ کیا جاتا ہے، یہ عمل سنت ہے یا واجب؟

جواب: ... عقیقہ سنت ہے،<sup>(۲)</sup> لیکن اس کی میعاد ہے ساتویں دن یا چودھویں دن یا اکیسویں دن، اس کے بعد اس کی حیثیت

نفل کی ہوگی۔<sup>(۳)</sup>

## بالغ لڑکی لڑکے کا عقیقہ ضروری نہیں اور نہ بال منڈانا ضروری ہے

سوال: ... عقیقہ کس عمر تک ہو سکتا ہے؟ بالغ مرد و عورت خود اپنا عقیقہ اپنی رقم سے کر سکتے ہیں یا والدین ہی کر سکتے ہیں؟ بڑی

لڑکیوں یا بالغ عورت کا عقیقے میں سر منڈانا چاہئے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کتنے بال کاٹے جائیں اور کس طریقے پر؟

جواب: ... عقیقہ سنت ہے، اس سے بچے کی الابلاد دور ہوتی ہے۔ سنت یہ ہے کہ ساتویں دن بچے کے سر کے بال اتارے

جائیں، ان کے ہم وزن چاندی صدقہ کر دی جائے اور لڑکے کے لئے دو بکرے اور لڑکی کے لئے ایک بکرہ کیا جائے۔ اسی دن بچے کا

نام بھی رکھا جائے۔ اگر گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ساتویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو بعد میں کر دے، مگر ساتویں دن کے بعد بعض فقہاء کے

(۱) يستحب لمن وُلِدَ له ولَدٌ أن يسميه يوم أسبوعه، ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة..... ثم يعق عند الحلق عقیقہ إباحة علی ما فی الجامع المحبوبي، أو تطوعًا..... وسنها الشافعی وأحمد سنة مؤكدة... إلخ. (رد المختار، کتاب الأضحیة ج: ۶ ص: ۳۳۶، قبیل کتاب الحظر والإباحة).

(۲) قال محمد العقیقہ سنة، فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۳۶۳).

(۳) عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقیقہ تذبح لسبع أو أربع عشرة، أو إحدى وعشرين. رواه الطبرانی فی الصغير والأوسط. (مجمع الزوائد ج: ۴ ص: ۶۵ طبع دار الكتب العلمية).

قول کے مطابق اس کی وہ حیثیت نہیں رہ جاتی۔ بڑی عمر کے لڑکوں لڑکیوں کا عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ عقیقہ کے لئے ان کے بال اتارنے چاہئیں۔<sup>(۱)</sup>

## عقیقہ کے جانور کی رقم صدقہ کرنے سے عقیقہ کی سنت ادا نہیں ہوگی

سوال: کیا بچی کے عقیقہ کے لئے خریدی جانے والی بکری کی رقم اگر کسی ضرورت مند اور غریب رشتہ دار کو دے دی جائے تو عقیقہ کی سنت پوری ہو جائے گی؟

جواب: اس سے سنت ادا نہیں ہوگی، البتہ صدقہ اور صلہ رحمی کرنے کا ثواب مل جائے گا۔<sup>(۲)</sup>

## بچوں کا عقیقہ ماں اپنی تنخواہ سے کر سکتی ہے

سوال: ماں اور باپ دونوں کماتے ہیں، باپ کی تنخواہ گھر کی ضروریات کے لئے کافی ہوتی ہے اور ماں کی تنخواہ پوری بچتی ہے، جو کہ سال بھر جمع ہوتی ہے، تو کیا ماں اپنے بچوں کا عقیقہ اپنی تنخواہ میں سے کر سکتی ہے؟ دوسرے الفاظ میں یہ کہ کیا بچوں کا عقیقہ ماں کی کمائی میں سے ہو سکتا ہے؟ جبکہ والد زندہ ہیں اور کماتے ہیں اور گھر کا خرچہ بھی چلاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ دونوں سوالوں کے جواب کتب و سنت کی روشنی میں دے کر ممنون فرمائیں گے۔

جواب: بچوں کا عقیقہ اور دوسرے اخراجات باپ کے ذمہ ہیں، اگر ماں ادا کر دے تو اس کی خوشی ہے، اور شرعاً عقیقہ بھی صحیح ہوگا۔<sup>(۳)</sup>

## اپنے عقیقہ سے پہلے بچی کا عقیقہ کرنا

سوال: میرا خود کا عقیقہ نہیں ہوا، تو کیا پہلے مجھے اپنا عقیقہ کرنے کے بعد بچی کا کرنا چاہئے؟

(۱) عن یوسف بن ماہل انہم دخلوا علی حفصۃ بنت عبدالرحمن فسألوها عن العقیقۃ فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریۃ شاة۔ (سنن ترمذی، أبواب الأضاحی، باب ما جاء فی العقیقۃ ج: ۱ ص: ۱۸۳)۔ ایضاً: وعن سمرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الغلام مرتین بعقیقته تذبح عنه یوم السابع ویحلق رأسه ویسمی۔ وفی روایۃ أم کرز أنها سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن العقیقۃ فقال: عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شاة واحدة..... والاختیار أن تؤخر عن البلوغ فإن أخرت عن البلوغ سقطت عن یرید أن یعق عنه۔ (فتح الباری ج: ۹ ص: ۵۹۳ تا ۵۹۵)۔

(۲) لو تصدق بعین الشاة أو قیمتها لا یجزیه لأن الوجوب تعلق بالإراقة... الخ۔ (بدائع ج: ۵ ص: ۶۶)۔

(۳) نفقة أولاد الصغار علی الأب لا یشارکہ فیہا أحد، کذا فی الجوہرۃ۔ (فتاوی عالمگیری ج: ۱ ص: ۵۶۰)۔ وتسن للأب من ماله العقیقۃ عن المولود، ولا تجب، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث ابن عباس عقیق عن الحسن والحسین علیہما السلام کبشا کبشا، وقال: مع الغلام عقیقۃ فاهریقوا عنه دمًا وأمیطوا عنه الأذى... الخ۔ (الفقه الإسلامی وأدلته، العقیقۃ وأحكام المولود ج: ۳ ص: ۶۳۷)۔



جواب: ... آپ اپنی بچی کا عقیقہ کر سکتے ہیں،<sup>(۱)</sup> آپ کا عقیقہ اگر نہیں ہوا تو کوئی مضائقہ نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## قرض لے کر عقیقہ اور قربانی کرنا

سوال: ... میری مالی حالت اتنی نہیں ہے کہ میں اپنی تنخواہ میں سے اپنے بچوں کا عقیقہ یا قربانی کر سکوں، جبکہ دونوں فرض ہیں۔ کیا میں بینک سے قرض لے کر ان دونوں فرضوں کو پورا کر سکتا ہوں؟ یہ قرض میری تنخواہ سے برابر کتنا رہے گا جب تک کہ قرضہ پورا نہ اتر جائے۔

جواب: ... صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے،<sup>(۳)</sup> اور عقیقہ سنت ہے۔ جس کے پاس گنجائش نہ ہو اس پر نہ قربانی واجب ہے، نہ عقیقہ۔<sup>(۴)</sup> آپ سودی قرض لے کر قربانی یا عقیقہ کریں گے تو سخت گناہ گار ہوں گے۔<sup>(۵)</sup>

## عقیقہ امیر کے ذمہ ہے یا غریب کے بھی؟

سوال: ... عقیقہ سنت ہے یا فرض؟ اور ہر غریب پر ہے یا امیروں پر ہی ہے؟ اور اگر غریب پر ضروری ہے تو پھر غریب طاقت نہیں رکھتا تو غریب کے لئے کیا حکم ہے؟

جواب: ... عقیقہ سنت ہے، اگر ہمت ہو تو کر دے، ورنہ کوئی گناہ نہیں۔<sup>(۶)</sup>

## غریب کے بچے بغیر عقیقہ کے مر گئے تو کیا کرے؟

سوال: ... اگر غریب کے بچے دو دو چار چار سال کے ہو کر فوت ہو گئے ہوں تو ان کا عقیقہ بھی ضروری ہے؟

جواب: ... نہیں۔<sup>(۷)</sup>

(۱) قال محمد: العقیقة سنة، فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل۔ (فتاویٰ عالمگیری ج: ۵ ص: ۳۶۲، طبع رشیدیہ)۔

(۲) فإن آخرت عن البلوغ سقطت عن من كان يريد أن يعق عنه لكن إن أراد أن يعق عن نفسه فعل ونقل في البويطي أنه لا يعق عن كبير... الخ۔ (فتح الباری ج: ۹ ص: ۵۹۵، طبع نشر الكتب الإسلامية)۔

(۳) إتفق الفقهاء على أن المطالب بالأضحية وهو المسلم الحر البالغ العاقل المقيم المستطيع۔ (الفقه الإسلامي وأدلته، الباب الثامن، الأضحية والعقیقة ج: ۳ ص: ۶۰۳)۔ أيضاً: وشرائطها الإسلام والإقامة واليسار۔ (الدر المختار ج: ۶ ص: ۳۱۲، كتاب الأضحية)۔

(۴) وتسن للأب من ماله العقیقة عن المولود ولا تجب۔ (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۶۳۷، طبع دار الفكر)۔

(۵) عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء۔ رواه مسلم۔ (مشکوٰۃ ص: ۲۳۳، باب الربا، الفصل الأول)۔

(۶) أيضاً حاشیہ نمبر ۱، ۴ دیکھیں۔

(۷) ایضاً۔

## دس کلو قیمہ منگوا کر دعوتِ عقیقہ کرنا

سوال: ... کیا دس کلو قیمہ منگوا کر رشتہ داروں کی دعوتِ عقیقہ یا صدقے (کیونکہ ساتویں دن کے بعد ہے) کی نیت سے کر دی جائے تو اس طرح عقیقہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟  
جواب: ... نہیں۔<sup>(۱)</sup>

## رشتہ دار کی خبر گیری پر خرچ کو عقیقے پر ترجیح دی جائے

سوال: ... میرے آٹھ بچے ہیں، جن میں سے تین بچوں کا عقیقہ کر چکا ہوں، بقیہ پانچ بچے (۳ لڑکے، ۲ لڑکیاں) ہیں، مالی مجبوری کی وجہ سے ان کا عقیقہ نہیں کر سکا۔ ارادہ تھا کہ کسی سے کچھ رقم مل جائے تو اس کا عقیقہ کر دوں۔ اسی فکر میں تھا کہ میرے ایک قریبی عزیز تپ دق کے عارضے میں مبتلا ہو گئے، وہ بھی غریب تو پہلے ہی تھے، مگر بیماری کی وجہ سے آمدنی بالکل بند ہو گئی، اب ان کے تین بچے اور ایک بیوی اور ان کی بیماری کے جملہ مصارف میں برداشت کر رہا ہوں۔ اس صورتِ حال کے پیش نظر درج ذیل امور کی وضاحت چاہتا ہوں۔ ۱: ... عقیقے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ۲: ... کیا عقیقے پر خرچ ہونے والی رقم کسی قریبی رشتہ دار پر خرچ کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ ان دونوں ذمہ داریوں میں اولیت کس کو دی جائے، رشتہ دار کی خبر گیری اور اس پر خرچہ وغیرہ کی ذمہ داری کو یا عقیقے سے عہدہ برآ ہونے کی ذمہ داری کو؟ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ قربانی کا ذبیحہ لازم ہے، اس کی رقم کسی کو نہیں دی جاسکتی ہے، کیا عقیقے کا بھی یہی حکم ہے؟ ۳: ... کیا میرے لئے لازم ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح پانچ بچوں کے عقیقے سے فارغ ہو جاؤں؟  
جواب: ۱: ... عقیقہ شرعاً مستحب ہے، ضروری یا واجب نہیں۔<sup>(۲)</sup>

۲: ... اس لئے عقیقے میں خرچ ہونے والی رقم اپنے رشتہ دار محتاج کو دے دیں، کیونکہ ایسی حالت میں اس کی اعانت کرنا ضروری ہے، لہذا اس کو اولیت دی جائے گی۔

۳: ... عقیقہ کرنا واجب یا لازم نہیں، البتہ استطاعت ہونے پر عقیقہ کر دینا مستحب ہے، کارِ ثواب ہے، نہ کرنا گناہ نہیں ہے۔<sup>(۳)</sup>

(۱) عن سلمان ابن عامر الضبی قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقیقة فاهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى. رواه البخاری. وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتين بعقيقته تذبح عنه يوم السابع وسمي ويحلق رأسه. رواه أحمد والترمذی وأبو داود والنسائی. (مشکوٰۃ ص: ۳۶۲، باب العقیقة).

(۲) يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم اسبوعه، ويحلق رأسه ..... ثم يعق عند الحلق عقیقة إباحة على ما في الجامع المحبوسی، أو تطوعاً على ما في شرح الطحاوی... الخ. (رد المحتار، كتاب الأضحیة ج: ۶ ص: ۳۳۶). أيضاً: العقیقة عن الغلام وعن الجارية، وهو ذبح شاة في سابع الولادة، وضيافة الناس وحلق شعره مباح، لا سنة ولا واجبة، كذا في الوجیز للکردی، وذكر محمد رحمه الله تعالى في العقیقة: من شاء فعل ومن شاء لم يفعل، هذا يشير إلى الإباحة فيمنع كونها سنة... الخ. (الفتاوی الهندیة، كتاب الكراهیة، الباب الثاني ج: ۵ ص: ۳۶۲).

(۳) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ کیجئے۔

## کن جانوروں سے عقیقہ جائز ہے؟

سوال: ... جن جانوروں میں سات حصے قربانی ہو سکتی ہے ان میں سات عقیقے بھی ہو سکتے ہیں، کیا لڑکے کے عقیقے میں گائے ہو سکتی ہے؟ اور کن جانوروں سے عقیقہ ہو سکتا ہے؟ کیا بھینس بھی ان میں شامل ہے؟

جواب: ... جن جانوروں کی قربانی جائز ہے ان سے عقیقہ بھی جائز ہے۔<sup>(۱)</sup> بھینس بھی ان جانوروں میں شامل ہے۔ اسی طرح جن جانوروں میں سات حصے قربانی کے ہو سکتے ہیں ان میں سات حصے عقیقے کے بھی ہو سکتے ہیں۔<sup>(۲)</sup> اور ایک لڑکے کے عقیقے میں پوری گائے بھی ذبح کی جاسکتی ہے۔<sup>(۳)</sup>

## لڑکے کے عقیقے میں دو بکروں کی جگہ ایک بکرادینا

سوال: ... کوئی شخص اگر لڑکے کے لئے دو بکروں کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو کیا وہ لڑکے کے عقیقے میں ایک بکر اکر سکتا ہے؟

جواب: ... لڑکے کے عقیقے میں دو بکرے یا دو حصے دینا مستحب ہے،<sup>(۴)</sup> لیکن اگر دو کی وسعت نہ ہو تو ایک بھی کافی ہے۔<sup>(۵)</sup>

## لڑکے اور لڑکی کے لئے کتنے بکرے عقیقے میں دیں؟

سوال: ... لڑکے اور لڑکی کے لئے کتنے بکرے ہونے چاہئیں؟

جواب: ... لڑکے کے لئے دو، لڑکی کے لئے ایک۔<sup>(۶)</sup>

## تحفے کے جانور سے عقیقہ جائز ہے

سوال: ... کیا تحفے میں ملی ہوئی بکری کا عقیقہ میں استعمال کرنا جائز ہے؟

جواب: ... تحفے میں ملی ہوئی بکری کا عقیقہ جائز ہے۔

(۱) جنسها و سنہا و صفتها (أى وهى فى الجنس والسن والسلامة من العيوب) مثل الأضحية من الأنعام من الإبل والبقر والغنم۔ (الفقه الإسلامى وأدلته، الأضحية والعقيقة ج: ۳ ص: ۶۳۷، طبع دار الفكر، بيروت)۔

(۲) ولو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أولاد، أو اشترك فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة أو أراد بعضهم العقيقة، وبعضهم اللحم كما فى الأضحية۔ (إعلاء السنن، كتاب الذبائح ج: ۱ ص: ۱۱۹ طبع إدارة القرآن)۔

(۳) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له غلام، فليعق عنه من الإبل أو البقر أو الغنم۔ دليل على جواز العقيقة ببقرة كاملة، أو بدنة كذلك۔ (فتح البارى، كتاب العقيقة، باب إمطة الأذى عن الصبي فى العقيقة ج: ۹ ص: ۵۹۳، وكذا فى إعلاء السنن، كتاب الذبائح ج: ۱ ص: ۱۱۷، طبع إدارة القرآن كراچى)۔

(۴) وفى رواية أم كرز سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: عن الغلام شاتان۔ (فتح البارى ج: ۹ ص: ۵۹۲)۔

(۵) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة۔ (مشكوة ص: ۳۶۲)۔

(۶) وفى رواية أم كرز سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن العقيقة: فقال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة واحدة۔ (فتح البارى ج: ۹ ص: ۵۹۲، طبع دار نشر الكتب الإسلامية لاهور)۔

## قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھنا

سوال: کیا عیدِ قربان پر قربانی کے ساتھ عقیقہ بچوں کا بھی کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ مثلاً ایک گائے لے کر ایک حصہ قربانی اور چھ حصے چار بچوں (دو لڑکے، دو لڑکیاں) کا عقیقہ ہو سکتا ہے؟

جواب: قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے رکھے جاسکتے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

## عقیقے کے متعلق ائمہ اربعہ کا مسلک

سوال: عقیقے کے سلسلے میں آپ کے جواب کا یہ جملہ ”جن جانوروں میں سات حصے قربانی کے ہو سکتے ہیں، ان میں سات حصے عقیقے کے بھی ہو سکتے ہیں“ اختلافی مسئلہ چھیڑتا ہے۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ اس کی تائید میں قرآن کریم اور احادیثِ نبوی کی روشنی میں شرعی دلائل پیش فرما کر مشکور ہونے کا موقع دیں۔ بعض علماء کے نزدیک سات بچوں کے عقیقے پر ایک گائے یا بھینس ذبح کرنا درست نہیں ہے، ذیل میں کچھ اقتباسات پیش کرتا ہوں۔

”گائے، بھینس کی قربانی (ذبیحہ) درست نہیں ہے، تا وقتیکہ وہ دو سال کی عمر مکمل کر کے تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، اسی طرح اونٹ ذبح کرنا بھی درست نہیں ہے تا وقتیکہ وہ پانچ سال کی عمر مکمل کر کے چھٹے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ عقیقے میں اشتراک صحیح نہیں ہے، جیسا کہ سات لوگ اونٹ میں شراکت کرتے ہیں، کیونکہ اگر اس میں اشتراک صحیح ہو تو مولود پر ”اراقۃ الدم“ کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ جبکہ یہ ذبیحہ مولود کی طرف سے فدیہ ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بھیڑ یا بکری کے بدلے اونٹ یا گائے کو ذبح کیا جائے بشرطیکہ یہ ذبیحہ یعنی ایک جانور ایک مولود کے لئے ہو۔ امام ابن قیم نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ: ”انہوں نے اپنے بچے کا ذبیحہ (عقیقہ) ایک جانور سے کیا۔“ اور ابی بکرہ سے مروی ہے کہ: ”انہوں نے اپنے بچے عبدالرحمن کے عقیقے پر ایک جانور ذبح کیا اور اہل بصرہ کی دعوت کی۔“ اور جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ: ”فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لئے ایک ایک بھیڑ ذبح کی۔“ امام مالک کا قول ہے کہ: ”عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے دونوں لڑکے اور لڑکیوں کے لئے عقیقہ کیا، ہر بچے کے لئے ایک ایک بکری۔“ امام ابوداؤد نے اپنی سنن میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ ایک ایک بھیڑ سے کیا۔“ امام احمد اور امام ترمذی نے ام کرز کعبیہ سے روایت کی ہے کہ: انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ”لڑکے پر دو بکریاں اور لڑکی پر ایک بکری۔“ ابن ابی شیبہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث روایت کی ہے کہ: ”ہم کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ ہم لڑکے پر دو بکریوں سے عقیقہ کریں اور لڑکی پر ایک بکری سے۔“ ان سب احادیث کی روشنی میں جمہور علمائے سلف و خلف کا عمل اور فتویٰ یہی ہے کہ بھیڑ یا بکری کے علاوہ کسی دوسرے جانور سے عقیقہ کرنا سنتِ مطہرہ سے ثابت و صحیح نہیں ہے۔ لیکن جن بعض علمائے خلف نے اونٹ یا گائے یا بھینس سے عقیقہ کرنے کی اجازت دی ہے، ان کی دلیل ابن منذر کی وہ روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

(۱) ..... و كذلك إن أراد بعضهم العقیقة عن ولدٍ وولد له من قبل۔ (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۷۲، طبع سعید)۔

مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہر بچے پر عقیقہ ہے، چنانچہ اس پر سے خون بہاؤ (مع الغلام عقیقہ فاهریقوا عنہ دماً)۔“ چونکہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ”دَم“ نہیں ”دَمًا“ فرمایا ہے، پس اس حدیث سے ظاہر ہے کہ مولود پر بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے ذبح کرنے کی اجازت و رخصت ہے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کی اتباع میں صرف بھیڑ یا بکری سے ہی عقیقہ کیا جائے، واللہ اعلم بالصواب۔“

یہ تمام تفصیل کتاب ”تحفة المودود فی أحكام المولود“ لابن القیم الجوزیہ اور ”تربیة الأولاد فی الإسلام“ الجزء الاول، مصنفہ الاستاذ الشیخ عبداللہناصح علوان طبع ۱۹۸۱ء ص: ۹۸، مطبع دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، حلب و بیروت وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

جواب: ... آپ کے طویل گرامی نامے کے ضمن میں چند گزارشات ہیں:

اول: ... آپ نے لکھا ہے کہ:

”عقیقہ کے سلسلے میں یہ جملہ..... اختلافی مسئلہ چھیڑتا ہے.....“

یہ تو ظاہر ہے کہ فروعی مسائل میں ائمہ فقہاء کے اختلافات ہیں، اور کوئی فروعی مسئلہ مشکل ہی سے ایسا ہوگا جس کی تفصیلات میں کچھ نہ کچھ اختلاف نہ ہو۔ اس لئے جو مسئلہ بھی لکھا جائے اس کے بارے میں یہی اشکال ہوگا کہ یہ تو اختلافی مسئلہ ہے۔ آنجناب کو معلوم ہوگا کہ یہ ناکارہ فقہ حنفی کے مطابق مسائل لکھتا ہے، البتہ اگر مسائل کی طرف سے یہ اشارہ ہو کہ وہ کسی دوسرے فقہی مسلک سے وابستہ ہے تو اس کے فقہی مذہب کے مطابق جواب دیتا ہوں۔

دوم: ... آنجناب نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں آئندہ شمارے میں اس کی تائید میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل پیش کروں۔ میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے دلائل سے بحث قصداً نہیں کرتا، کیونکہ عوام کی ضرورت یہ ہے کہ انہیں منہج مسئلہ بتا دیا جائے، دلائل کی بحث اہل علم کے دائرے کی چیز ہے۔

سوم: ... آنجناب نے حافظ ابن قیم کی کتاب سے جو اقتباسات نقل کئے ہیں ان میں مسئلے زیر بحث آئے، ایک یہ کہ کیا بھیڑ یا بکری کے علاوہ کسی دوسرے جانور کا عقیقہ درست ہے یا نہیں؟ آپ نے لکھا ہے کہ:

”ان سب احادیث کی روشنی میں جمہور علمائے سلف و خلف کا معمول اور فتویٰ یہی ہے کہ بھیڑ یا بکری کے علاوہ کسی دوسرے جانور سے عقیقہ کرنا سنتِ مطہرہ سے ثابت و صحیح نہیں۔“

جہاں تک اس ناکارہ کی معلومات کا تعلق ہے، مذاہب اربعہ اس پر متفق ہیں کہ اونٹ اور گائے سے عقیقہ درست ہے، حنفیہ کا فتویٰ تو میں پہلے لکھ چکا ہوں، دیگر مذاہب کی تصریحات حسب ذیل ہیں۔

فقہ شافعی:

امام نووی ”شرح مہذب“ میں لکھتے ہیں:

”الجزئى فى العقیقة هو الجزئى فى الأضحیة، فلا تجزئى دون الجذعة من الضأن، أو الشیة من المعز والإبل والبقر، هذا هو الصحیح المشهور، وبه قطع الجمهور، وفیه وجه حکاه الماوردی وغیره أنه یجزئى دون جزعة الضأن، وثنیة المعز، والمذهب الأول۔“

(شرح مہذب ج: ۸ ص: ۴۲۹)

ترجمہ:.... ”عقیدے میں بھی وہی جانور کفایت کرے گا جو قربانی میں کفایت کرتا ہے، اس لئے جذعہ سے کم عمر کا دُنْبہ، اور شئی (دودانت) سے کم عمر کی بکری، اُونٹ اور گائے جائز نہیں، یہی صحیح اور مشہور روایت ہے اور جمهور نے اس کو قطعیت کے ساتھ لیا ہے۔ اس میں ایک دوسری روایت، جسے ماوردی وغیرہ نے نقل کیا ہے یہ ہے کہ اس میں جذعہ سے کم عمر کی بھیڑ اور دُنْبہ اور شئی سے کم عمر کی بکری بھی جائز ہے، لیکن مذہب پہلے روایت ہے۔“

فقہ مالکی:

”شرح مختصر الخلیل“ میں ہے:

”ابن رشد: ظاهر سماع أشهب أن البقر تجزئى أيضًا فى ذلك، وهو الأظهر قیاسًا

(مواہب الخلیل ج: ۳ ص: ۲۵۵)

على الضحایا۔“

ترجمہ:.... ”ابن رشد کہتے ہیں کہ: اشہب کا ظاہر سماع یہ ہے کہ عقیدے میں گائے بھی کفایت کرتی ہے اور یہی ظاہر تر ہے، قربانیوں پر قیاس کرتے ہوئے۔“

فقہ حنبلی:

”لروض المربع“ میں ہے:

”و حکمها فیها یجزئى ویستحب ویکره کالأضحیة الا أنه لا یجزئى فیها شرک فى

دم، فلا تجزئى بدنة ولا بقرة الا كاملة۔“ (بحوالہ اوجز المسائل ج: ۹ ص: ۲۱۸، شائع کردہ مکتبہ امدادیہ مکہ مکرمہ)

ترجمہ:.... ”عقیدے میں کون کون سے جانور جائز ہیں؟ اور کیا کیا امور مستحب ہیں؟ اور کیا کیا مکروہ ہیں ان تمام امور میں عقیدے کا حکم مثل قربانی کے ہے، الا یہ کہ اس میں جانور میں شرکت جائز نہیں، اس لئے اگر عقیدے میں بڑا جانور ذبح کیا جائے تو پورا ایک ہی کی طرف سے ذبح کرنا ہوگا۔“

ان فقہی حوالوں سے معلوم ہوا کہ مذاہب اربعہ اس پر متفق ہیں کہ بھیڑ بکری کی طرح اُونٹ اور گائے کا عقیدہ بھی جائز ہے اور

یہ بھی معلوم ہوا کہ اکثر احکام میں اس کا حکم قربانی کا ہے، اور جمهور علماء کا یہی قول ہے، چنانچہ ابن رشد ”بداية المجتهد“ میں لکھتے ہیں:

”جمهور العلماء على أنه لا يجوز فى العقیقة الا ما يجوز فى الضحایا من الأزواج

الشمانية۔“ (بدایة المجتهد ج: ۱ ص: ۳۳۹، مکتبہ علمیہ لاہور)

ترجمہ:.... ”جمہور علماء اس پر متفق ہیں کہ عقیقے میں صرف وہی آٹھ نر و مادہ جائز ہیں جو قربانیوں میں

جائز ہیں۔“

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

”والجمہور علی أجزاء الإبل والبقر أيضاً، وفيه حديث عند الطبرانی وأبي الشيخ عن أنس رفعه ”يعق عنه من الإبل والبقر والغنم“ ونص أحمد علی اشتراط كاملة، وذكر الرافعی بحثاً أنها تتأدی بالسبع كما فی الأضحیة والله أعلم۔“

(فتح الباری ج: ۹ ص: ۵۹۳، دار نشر الکتب الاسلامیہ لاہور)

ترجمہ:.... ”جمہور اس کے قائل ہیں کہ عقیقے میں اونٹ اور گائے بھی جائز ہے، اور اس میں طبرانی اور

ابو الشیخ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی تخریج کی ہے کہ: ”بچے کی طرف سے اونٹ، گائے

اور بکری کا عقیقہ کیا جائے گا“ اور امام احمد نے تصریح کی ہے کہ پورا جانور ہونا شرط ہے، اور رافعی نے بطور بحث

ذکر کیا ہے کہ عقیقہ بڑے جانور کے ساتویں حصے سے بھی ہو جائے گا، جیسا کہ قربانی، واللہ اعلم۔“

دوسرا مسئلہ یہ کہ آیا بڑے جانور میں عقیقے کے سات حصے ہو سکتے ہیں؟ اس میں امام احمد کا اختلاف ہے، جیسا کہ اوپر کے

حوالوں سے معلوم ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اونٹ یا گائے کا عقیقہ کرنا ہو تو پورا جانور کرنا چاہئے، اس میں اشتراک صحیح نہیں، شافعیہ کے نزدیک اشتراک صحیح ہے۔

چنانچہ ”شرح مہذب“ میں ہے:

”ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترک فیها جماعة جائز۔“

(ج: ۸ ص: ۴۲۹)

ترجمہ:.... ”اور اگر ذبح کی گائے یا اونٹ سات بچوں کی جانب سے، یا شریک ہوئی اس میں ایک

جماعت تو جائز ہے۔“

حنفیہ کے نزدیک بھی اشتراک جائز ہے، چنانچہ مفتی کفایت اللہ صاحب لکھتے ہیں:

”ایک گائے میں عقیقے کے سات حصے ہو سکتے ہیں، جس طرح قربانی کے سات حصے ہو سکتے ہیں۔“

(کفایة المفتی ج: ۸ ص: ۲۶۳)

اور آپ کا یہ ارشاد کہ:

”عقیقے میں اشتراک صحیح نہیں ہے، جیسا کہ سات لوگ اونٹ میں شرکت کرتے ہیں، کیونکہ اگر اس میں اشتراک صحیح ہو تو

مولود پر ”اراقۃ الدم“ کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔“

یہ استدلال محل نظر ہے، اس لئے کہ قربانی میں بھی ”اراقۃ الدم“ ہی مقصود ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث نبوی میں اس کی تصریح ہے:

”عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب الی اللہ من اھراق الدم۔“ الحدیث۔

(رواہ الترمذی وابن ماجہ، مشکوٰۃ ص: ۱۲۸)

ترجمہ:...” حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قربانی کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔“

”وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی يوم الأضحی: ما عمل آدمی فی هذا اليوم أفضل من دم یھراق إلا أن یکون رحمًا توصل۔“ (رواہ الطبرانی فی الکبیر، وفیہ یحییٰ بن الحسن الخشنی وهو ضعیف، وقد وثقه جماعة، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۱۸)

ترجمہ:...” حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن کے بارے میں فرمایا کہ: اس دن میں آدمی کا کوئی عمل خون بہانے (یعنی قربانی کرنے) سے افضل نہیں إلا یہ کہ کوئی صلہ رحمی کی جائے۔“

چونکہ قربانی سے اصل مقصود ”اراقۃ الدم“ ہے، اس لئے قربانی کے گوشت کا صدقہ کرنا کسی کے نزدیک بھی ضروری نہیں، اگر خود کھائے یا دوست احباب کو کھلا دے تب بھی قربانی صحیح ہے۔

پس جبکہ قربانی سے مقصود بھی ”اراقۃ الدم“ اور اس میں شرکت کو جائز رکھا گیا ہے تو عقیدے میں شرکت سے بھی اراقۃ دم کا مضمون فوت نہیں ہوتا، اور جب قربانی میں شرکت جائز ہے، تو عقیدے میں بدرجہ اولیٰ جائز ہونی چاہئے، کیونکہ عقیدے کی حیثیت قربانی سے فروتر ہے، پس اعلیٰ چیز میں شریعت نے شرکت کو جائز رکھا ہے تو اس سے ادنیٰ میں بدرجہ اولیٰ شرکت جائز ہوگی، یہی وجہ ہے کہ تمام ائمہ فقہاء عقیدے میں قربانی ہی کے احکام جاری کرتے ہیں۔

چنانچہ شیخ الموفق ابن قدامہ حنبلی ”المغنی“ میں لکھتے ہیں:

”والأشبه قیاسها علی الأضحیة، لأنها نسیكة مشروعة غیر واجبة فأشبهت

الأضحیة، ولأنها أشبهت فی صفاتها وسنها وقدرها وشروطها فأشبهتها فی مصرفها۔“

(المغنی مع الشرح الکبیر ج: ۱۱ ص: ۱۲۴)

ترجمہ:...” اور اشبہ یہ ہے کہ اس کو قربانی پر قیاس کیا جائے، اس لئے کہ یہ ایک قربانی ہے جو مشروع ہے، مگر واجب نہیں، پس قربانی کے مشابہ ہوئی، اور اس لئے بھی کہ یہ قربانی کے مشابہ ہے اس کی صفات میں، اس کی عمر میں، اس کی مقدار میں، اس کی شروط میں، پس مشابہ ہوئی اس کے مصرف میں بھی۔“



بڑی عمر میں اپنا عقیقہ خود کر سکتے ہیں، عقیقہ نہ کیا ہو تو بھی قربانی جائز ہے

سوال: ... کیا کوئی بڑی عمر میں اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہے؟ اگر عورت اپنا عقیقہ کرے تو کتنے بال کٹوائے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس کا عقیقہ نہیں ہو اس کی قربانی جائز نہیں، پہلے اپنا عقیقہ کرے، اس کے بعد قربانی کرے۔ کیا یہ از روئے شرع درست ہے؟

جواب: ... عقیقہ ساتویں دن سنت ہے، بعد میں اگر کرنا ہو تو ساتویں دن کی رعایت مناسب ہے، یعنی پیدائش والے دن سے پہلے دن عقیقہ کیا جائے، مثلاً: پیدائش کا دن جمعہ تھا تو عقیقہ جمعرات کو ہوگا۔ بڑی عمر میں عقیقہ کیا جائے تو بال کاٹنے کی ضرورت نہیں۔<sup>(۲)</sup> جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو وہ قربانی کر سکتا ہے، اور اگر اس کے ذمہ قربانی واجب ہو تو قربانی کرنا ضروری ہے، عقیقہ خواہ ہوا ہو کہ نہ ہوا ہو۔

### شوہر کا بیوی کی طرف سے عقیقہ کرنا

سوال: ... یہ بتائیں کہ شوہر اپنی بیوی کا عقیقہ کر سکتا ہے یا یہ بھی شادی کے بعد والدین پر فرض ہے کہ بیٹی کا عقیقہ خود کریں جبکہ وہ دس بچوں کی ماں بھی ہے؟

جواب: ... عقیقہ فرض ہی نہیں، بلکہ بچے کی پیدائش کے ساتویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے،<sup>(۳)</sup> بشرطیکہ والدین کے پاس گنجائش ہو۔ اگر والدین نے عقیقہ نہیں کیا تو بعد میں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور شوہر کا بیوی کی طرف سے عقیقہ کرنا جبکہ وہ دس بچوں کی ماں بھی ہو، لغو حرکت ہے۔

### ساتویں دن عقیقہ دوسری جگہ بھی کرنا جائز ہے

سوال: ... عقیقہ کرنا کیا سات دن کے اندر ضروری ہے؟ اور کیونکہ یہاں قطر میں رشتہ دار وغیرہ نہیں ہیں، تو کیا ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے والدین کو پاکستان میں لکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں عقیقہ کر دیں؟

جواب: ... عقیقہ ساتویں دن سنت ہے، اگر ساتویں دن نہ کیا جائے تو ایک قول کے مطابق بعد میں سنت کا درجہ باقی نہیں رہتا۔ اگر بعد میں کرنا ہو تو ساتویں دن کی رعایت رکھنی چاہئے، یعنی بچے کی پیدائش کے دن سے پہلے دن عقیقہ کیا جائے، مثلاً: بچے کی پیدائش جمعہ کی ہو تو عقیقہ جمعرات کو ہوگا، پاکستان میں بھی عقیقہ کیا جاسکتا ہے۔<sup>(۴)</sup>

(۱) وقتها: تذبح يوم سابع ولادته وبحسب يوم الولادة من السبعة فان ولدت ليلاً حسب اليوم الذي يليه... الخ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۶۳۸). عن الحسن بن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتين بقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق.

(۲) عن الحسن البصرى، إذا لم يعق عنك، فعق عن نفسك وإن كنت رجلاً. (اعلاء السنن، كتاب الذبائح ج: ۱ ص: ۱۲۱، أيضاً الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۶۳۸).

(۳) أيضاً حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ ہو۔

(۴) أيضاً حاشیہ نمبر ۱، ۲ دیکھیں۔

## کئی بچوں کا ایک ساتھ عقیقہ کرنا

سوال: ... اکثر لوگ کئی بچوں کا عقیقہ ایک ساتھ کرتے ہیں، جبکہ بچوں کے پیدائش کے دن مختلف ہوتے ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ فرمائیں کیا عقیقہ ہو جاتا ہے؟

جواب: ... عقیقہ بچے کی پیدائش کے ساتویں دن سنت ہے،<sup>(۱)</sup> اگر گنجائش نہ ہو تو نہ کرے، کوئی گناہ نہیں، دن کی رعایت کے بغیر سب بچوں کا اکٹھا عقیقہ جائز ہے، مگر سنت کے خلاف ہے۔<sup>(۲)</sup>

## مختلف دنوں میں پیدائش شدہ بچوں کا ایک ہی دن عقیقہ جائز ہے

سوال: ... اگر گائے کا عقیقہ کریں تو اس میں سات حصے ہونے چاہئیں؟ اور بچوں کی پیدائش مختلف ایام میں ہو تو ایک دن میں گائے کرنا چاہئے یا نہیں؟

جواب: ... ایک دن تمام بچوں کا عقیقہ کرنا چاہئے تو مختلف تاریخوں میں پیدا ہونے والوں کا ایک دن عقیقہ کیا جاسکتا ہے، اور تمام جانور یا گائے ایک ساتھ ذبح کر سکتا ہے، یعنی جائز ہے،<sup>(۳)</sup> البتہ مسنون عقیقہ ساتویں دن کا ہے۔<sup>(۴)</sup>

## اگر کسی کو پیدائش کا دن معلوم نہ ہو تو وہ عقیقہ کیسے کرے؟

سوال: ... کہتے ہیں کہ عقیقہ پیدائش کے ساتویں دن ہونا چاہئے، اگر کوئی اپنا عقیقہ کرنا چاہے اور اس کو اپنی پیدائش کا دن معلوم نہ ہو تو وہ کیا کرے؟

جواب: ... ساتویں دن عقیقہ کرنا بالاتفاق مستحب ہے، اسی طرح دارقطنی کی ایک روایت کے مطابق چودھویں دن بھی مستحب ہے۔ جبکہ امام ترمذی کے نقل کردہ ایک قول کے مطابق اگر کسی نے ان دو دنوں میں عقیقہ نہیں کیا تو اکیسویں دن بھی کر لینا مستحب ہے۔ بہر حال اگر کوئی شخص ساتویں دن، چودھویں دن اور اکیسویں دن کے علاوہ کسی اور دن عقیقہ کرے تو نفس عقیقہ ہو جائے گا البتہ اس کا وہ استحباب اور ثواب جو کہ ساتویں دن، چودھویں دن اور اکیسویں دن کرنے میں تھا وہ حاصل نہ ہوگا، اگر بعد میں کرے تو ساتویں دن کی رعایت رکھنا بہتر ہے، یاد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔<sup>(۵)</sup>

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ ہو، نیز ص: ۴۸۱ کا حاشیہ نمبر ۲ دیکھیں۔

(۲) ایضاً۔

(۳ و ۴) ایضاً۔

(۵) عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الغلام مرتھن بعقیقته یذبح عنہ یوم السابع، ویسمی ویحلق رأسه، قال الإمام الترمذی: والعمل علی هذا عند أهل العلم، یتحبون أن یذبح عن الغلام العقیقة یوم السابع، فإن لم یتھیا یوم السابع فیوم الرابع عشر، فإن لم یتھیا عنق عنہ یوم إحدى وعشرين۔ (جامع الترمذی، ابواب الأضاحی، باب ما جاء فی العقیقة ج: ۱ ص: ۲۷۸، أيضاً فتح الباری ج: ۹ ص: ۵۹۴)۔

## عقیقے کے وقت بچے کے سر کے بال اتارنا

سوال: ... کیا عقیقے کے وقت بچے کے سر کے بال اتارنا ضروری ہے جبکہ دو چار ماہ بعد عقیقہ کیا جا رہا ہو؟  
جواب: ... ساتویں دن بال اتارنا اور عقیقہ کرنا سنت ہے، اگر نہ کیا تو بال اتار دیں، بعد میں جانور ذبح کرتے وقت پھر بال اتارنے کی ضرورت نہیں۔<sup>(۱)</sup>

## عقیقے کا گوشت والدین کو استعمال کرنا جائز ہے

سوال: ... اپنی اولاد کے عقیقے کا گوشت والدین کو کھانا چاہئے یا نہیں؟ اور اگر اس گوشت میں ملا کر کھایا جائے یا اگر بالکل ہی عقیقے کا گوشت استعمال نہ کیا جائے تو والدین کے لئے کیوں منع ہے؟ کیا والدین اپنی اولاد کے عقیقے میں ذبح ہونے والے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟

جواب: ... عقیقے کا گوشت جیسے دوسروں کے لئے جائز ہے، اسی طرح بغیر کسی فرق کے والدین کے لئے بھی جائز ہے۔<sup>(۲)</sup>

## عقیقے کے گوشت میں ماں، باپ، دادا، دادی کا حصہ

سوال: ... عقیقے کے گوشت میں ماں، باپ، دادا، دادی کا حصہ ہے؟  
جواب: ... عقیقے کے گوشت کا ایک تہائی حصہ مساکین کو تقسیم کر دینا افضل ہے،<sup>(۳)</sup> اور باقی دو تہائی حصے سے ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، بھائی، بہن اور سب رشتہ دار کھا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص تمام گوشت رشتہ داروں کو تقسیم کر دے یا اس کو پکا کر ان کی ضیافت کر دے تو یہ بھی جائز ہے، بہر حال عقیقے کا گوشت سب رشتہ دار کھا سکتے ہیں۔<sup>(۴)</sup>

## سات دن کے بعد عقیقہ کیا تو اس کے گوشت کا حکم

سوال: ... پچھلے دنوں آپ نے عقیقے کے متعلق لکھا تھا کہ اگر سات یوم کے اندر عقیقہ کیا جائے تو عقیقہ ہوگا ورنہ صدقہ تصور ہوگا (جبکہ عقیقے کا مقصد پورا ہو جائے گا)۔ اس ضمن میں تھوڑی سی وضاحت آپ سے چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر سات یوم کے بعد عقیقے کے طور پر بکرا ذبح کرتے ہیں جبکہ یہ صدقہ ہے تو اس پر صرف غریبوں کا حق ہوگا، آیا پورا گوشت غریبوں کے لئے ہوگا یا کچھ حصہ استعمال کیا جاسکتا ہے، جس طرح عقیقے میں ہوتا ہے؟

(۱) ويستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع من ولادته وأن يسمي بعد ذبح العقيقة. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۶۳۱، المبحث الثاني، أحكام المولود).

(۲) وهي كالضحايا يؤكل من لحمها ويتصدق منها ولا يباع شيء منها ويُسنُّ طبخها ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في بيوتهم... الخ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۶۳۹، المبحث الأول، العقيقة).

(۳) ايضاً.

(۴) ايضاً حوالہ نمبر ۲۔

جواب: ...سات دن کے بعد جو عقیقہ کیا جائے اس کے گوشت کی حیثیت عقیقے کے گوشت ہی کی ہوگی، میرے ذکر کردہ مسئلے کا مقصد یہ ہے کہ سات دن کے بعد جو عقیقہ کیا جائے، بعض فقہاء کے قول کے مطابق اس کی فضیلت عقیقے کی نہیں رہتی، بلکہ عام صدقہ خیرات کی سی ہو جاتی ہے، یہ مطلب نہیں کہ اس کا گوشت پورے کا پورا صدقہ کرنا ضروری ہے۔

**عقیقے کے سلسلے میں بعض ہندوانہ رسوم کفر و شرک تک پہنچا سکتی ہیں**

سوال: ...ہمارے علاقے میں عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو وہ اس کے سر کے بال مخصوص جگہ پر اُتروائیں گی، اور بکرے کی قربانی بھی وہاں جا کر دیں گے، اور لڑکا پیدا ہونے کے بعد کئی ماہ تک اس کے بال اُتروانے سے پہلے اپنے اوپر گوشت کھانا حرام سمجھتی ہیں، اور پھر کسی دن مرد اور عورتیں ڈھول کے ساتھ اس جگہ پر جا کر لڑکے کے سر کے بال اُترواتے ہیں اور بکرے کا ذبیحہ کر کے وہاں ہی گوشت پکا کر کھاتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔

جواب: ...یہ ایک ہندوانہ رسم ہے، جو مسلمانوں میں درآئی ہے، اور چونکہ اس میں فسادِ عقیدہ شامل ہے اس لئے اعتقادی بدعت ہے۔ جو بعض صورتوں میں کفر و شرک تک پہنچا سکتی ہے۔ چنانچہ بعض لوگ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ فلاں بزرگ نے دیا ہے، اس لئے وہ اس بزرگ کے مزار پر نیاز چڑھانے کی منت مانتے ہیں اور منت پوری کرنے کے لئے اس مزار پر جا کر بچے کے بال اُتارتے ہیں، وہاں قربانی کرتے ہیں اور دوسری بہت سی خرافات کرتے ہیں، مسلمانوں کو ایسی خرافات سے پرہیز کرنا چاہئے۔

## حلال اور حرام جانوروں کے مسائل

### شکار

#### حلال و حرام جانوروں کو شکار کرنا

سوال: ... اسلام میں شکار کی اجازت ہے، یعنی جانوروں کو ہلاک کرنا خواہ وہ حلال ہوں یا حرام، اگر حلال جانور شکار کیا جائے تو اسے کھانا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: ... شکار کی اجازت ہے، بشرطیکہ دوسرے فرائض سے غافل نہ کر دے۔<sup>(۱)</sup> حرام جانور اگر موذی ہوں تو ان کو مارنا جائز ہے۔<sup>(۲)</sup> اگر حلال جانور بندوق سے شکار کیا گیا اور مر گیا تو حلال نہیں،<sup>(۳)</sup> لیکن اگر زخمی حالت میں ذبح کر لیا گیا تو حلال ہے۔<sup>(۴)</sup>

#### نشانہ بازی کے لئے جانوروں کا شکار کرنا

سوال: ... جو لوگ اپنے شوق اور نشانہ بازی کی خاطر معصوم جانوروں کا شکار کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟

جواب: ... حلال جانوروں کا شکار جائز ہے، مگر مقصود گوشت ہونا چاہئے، محض کھیل یا حیوانات کی ایذا رسانی ہی مقصود ہو تو جائز نہیں۔<sup>(۵)</sup>

(۱) حکم الصيد: الإصطیاد مباح لقاصده إجماعاً... إلخ. (الفقه الإسلامی وأدلته ج: ۳ ص: ۶۹۱).

(۲) خمس فواسق يقتلن فی الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. (نیل الأوطار ج: ۵ ص: ۲۶ بحوالہ الفقه الإسلامی وأدلته ج: ۳ ص: ۷۱۴، المبحث الثالث، ما یباح اصطیاده من الحيوان).

(۳) لا یحل صید البندقية والعصا... إلخ. (ردالمحتار ج: ۶ ص: ۳۷۱، کتاب الصيد).

(۴) لو انتزع الذنب رأس الشاة وبقیت حیة تحل بالذبح بین اللبة واللحیین. (الفتاویٰ البنزازیة علی هامش الہندیة ج: ۶ ص: ۳۰۸، قبیل کتاب السیر).

(۵) وأجمع العلماء علی إباحة الإصطیاد والأكل من الصيد، ويكره الصيد لهواً لأنه عبث... إلخ. (الفقه الإسلامی وأدلته ج: ۳ ص: ۶۹۲، الصيد، المبحث الأول، تعريف الصيد... إلخ).

## کتے کا شکار کیا حکم رکھتا ہے؟

سوال: ... میں جمعہ ایڈیشن میں آپ کا کالم ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ بڑے غور و فکر سے پڑھتا ہوں اور اس کے پڑھنے سے میری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح کا ایک مسئلہ درپیش ہے، اس کا حل تجویز فرمائیے۔ میرا ایک دوست ہے وہ شکار کا بہت ہی شوقین ہے اور وہ شکار شکاری کتوں کے ذریعے کرتا ہے، جبکہ میں اس کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں کہ یہ حرام ہے۔ وہ جنگل میں خرگوش کے پیچھے شکاری کتے لگا دیتے ہیں اور کتے اسے منہ میں دبوچ کر لے آتے ہیں، اور پھر وہ تکبیر پڑھ کر اسے ذبح کرنے کے بعد پکا کر کھا لیتے ہیں، حالانکہ اسلام کی رو سے کتا ایک پلید اور حرام جانور ہے۔ لہذا اس کا کوئی مفید حل لکھئے اور یہ اخبار میں شائع کریں، شاید ایسا کرنے سے بہت سے انسان شکار سے باز آجائیں۔

جواب: ... شکاری کتا اگر سدھایا ہو اور وہ شکار کو کھائے نہیں بلکہ پکڑ کر مالک کے پاس لے آئے اور اس کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا گیا ہو، تو اس کا شکار حلال ہے، جہاں اس کا منہ لگا ہو اس کو دھو کر پاک کر لیا جائے، اور اگر زندہ پکڑ کر لائے تو اس کو تکبیر پڑھ کر ذبح کر لیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

## شارٹ گن سے کیا ہوا شکار

سوال: ... ہمارے علاقے میں لوگ شکار کے بہت شوقین ہیں، شکاریوں نے مقامی علماء سے سن رکھا ہے کہ اگر کوئی شکاری کارتوس پر ”بسم اللہ، اللہ اکبر“ پڑھ کر شارٹ گن سے شکار پر فائر کرے، اور پھر اسی وقت شکار کی طرف لپک کر جائے اور ذبح کر ڈالے تو اگر پرندے میں اس وقت جان نہ بھی ہو تو وہ حلال ہے۔ اس بارے میں شریعت اسلامی کی رو سے فرمائیں کہ شارٹ گن سے کیا ہوا شکار کن حالات میں حلال ہے؟

جواب: ... بندوق وغیرہ سے جو جانور مر جائے وہ حرام ہے، اگر کسی جانور پر فائر کیا اور شکاری نے اس کو زندہ پالیا تو اس کو ذبح کر سکتا ہے، ورنہ بندوق اور گن پر تکبیر پڑھنے سے جانور حلال نہیں ہوتا، ایسا جانور حرام ہے۔<sup>(۲)</sup>

## بندوق سے شکار

سوال: ... اگر شکاری شکار کرنے کے لئے جاتا ہے اور اس کے پاس چاقویا چھری نہیں ہے، وہ تکبیر پڑھ کر فائر کر دیتا ہے اگر پرندہ مر جائے تو حلال ہوگا یا کہ حرام؟

(۱) لقولہ تعالیٰ: ”وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ“ الآية (المائدة: ۴)۔ وأيضاً لحديث عدی ابن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك الحديث. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۶۹۵، الصيد، المبحث الأول، المطلب الأول، شروط).

(۲) قال قاضي خان: لا يحل صيد البندقية والحجر والعصا وما أشبه ذلك... إلخ. (رد المحتار، كتاب الصيد ج: ۶ ص: ۴۷۱، طبع سعيد كراچی).

جواب: ... بندوق کے فائر سے جو جانور مر جائے وہ حلال نہیں، خواہ تکبیر پڑھ کر گولی چلائی گئی ہو۔<sup>(۱)</sup> اگر زندہ مل جائے اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح کر لیا جائے تو حلال ہے۔<sup>(۲)</sup>

## بندوق، غلیل، شکاری کتے کے شکار کا شرعی حکم

سوال: ... حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں سورۃ البقرہ رکوع پانچ میں آیت ”انما حرم علیکم السمیتة“ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”مردار وہ ہے جو خود بخود مر جائے اور ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے، یا خلاف شرع طریقے سے اس کو ذبح یا شکار کیا جائے، مثلاً گلا گھونٹا جائے یا زندہ جانور کو پتھر، لکڑی، غلیل، بندوق سے مارا جائے یا کسی عضو کو کاٹ لیا جائے، یہ سب کا سب مردار اور حرام ہے۔“ اس کے برعکس بعض مفسرین یہ تشریح بھی کرتے ہیں کہ جس جانور کے ذبح کرنے پر قادر نہ ہو مثلاً وحشی، جنگلی جانور یا طیور وغیرہ تو ان مذکورہ بالا کو بندوق، غلیل یا شکاری کتے سے شکار کرتے وقت اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی جائے تو یہ سب حلال ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ غلیل، بندوق یا شکاری کتے کے ذریعے جو شکار کیا جائے اور شرعی طریقے سے ذبح کرنے سے پہلے مر جائے تو کیا یہ سب مردار اور حرام ہیں؟

جواب: ... جس جانور کے ذبح کرنے پر قادر ہو، اس کو تو شرعی طریقے سے ذبح کرنا ضروری ہے، اگر ذبح کرنے سے پہلے مر گیا تو وہ مردار ہے۔<sup>(۳)</sup>

شکار پر اگر بسم اللہ پڑھ کر کتا چھوڑ دیا جائے (بشرطیکہ وہ کتا سدھایا ہوا ہو) اور شکاری کتا اس شکار کو زخمی کر دے اور وہ زخم سے مر جائے تو یہ ذبح کرنے کے قائم مقام ہوگا اور شکار کا کھانا حلال ہے، لیکن اگر کتا اس کا گلا گھونٹ کر مار دے، اسے زخمی نہ کرے تو حلال نہیں۔

اسی طرح اگر تیز دھار کا کوئی آلہ شکار کی طرف بسم اللہ کہہ کر پھینکا جائے اور شکار اس کے زخم سے مر جائے تو یہ بھی ذبح کے قائم مقام ہے۔ لیکن اگر لاشی بسم اللہ کہہ کر پھینک دی اور شکار اس کی چوٹ سے مر گیا تو وہ حلال نہیں،<sup>(۴)</sup> اسی طرح غلیل یا بندوق سے جو شکار کیا جائے اگر وہ زندہ مل جائے تو اس کو ذبح کر لیا جائے، اور اگر وہ غلیل یا بندوق کی گولی کی چوٹ سے مر جائے تو حلال نہیں۔ خلاصہ

(۱) قال ابن عابدین رحمہ اللہ: قال قاضیخان: لا یحل صید البندق والحجر والحصا والمعراض وما أشبه ذلك. (رد المحتار ج: ۶ ص: ۴۷۱، کتاب الصيد).

(۲) وان أدركه حیاً ذكاه. (البحر الرائق ج: ۸ ص: ۲۵۸، کتاب الصيد).

(۳) ذبح شاة مریضة فتحرکت أو خرج الدم حلت وآلا، إن لم تدر حیاته عند الذبح وإن علم حیاته حلت مطلقاً وإن لم تتحرک ولم یخرج الدم. (الدر المختار ج: ۶ ص: ۳۰۸).

(۴) قال ابن نجیم رحمہ اللہ: (وإن أدركه حیاً ذكاه) لقوله علیه السلام لعدي بن حاتم رضی اللہ عنہ: إذا أرسلت کلبک فاذا ذکر اسم اللہ تعالیٰ علیہ فإن أمسک علیک وأدرکته حیاً فاذبحه. رواه البخاری. وفي آخره عن أبي حنیفة وأبی یوسف إذا لم یقدر علی التمكن كما ذکرنا یحل وهو اختیار بعض المشائخ لأنه إذا لم یتمکن لم یقدر علی الأصل وإن لم یذکح حتی مات أو خنقه الكلب ولم یجرحه حرم. (بحر الرائق ج: ۸ ص: ۲۵۸، کتاب الصيد).

یہ کہ غلیل اور بندوق کا حکم لاشی کا سا ہے، تیز دھاوا لے آ لے کا نہیں، اس سے شکار کیا ہوا جانور اگر مر جائے تو حلال نہیں۔<sup>(۱)</sup>

### گورنمنٹ کی پابندی لگائے ہوئے جانوروں کا شکار

سوال: ... جنگلی جانوروں کے شکار پر حکومت نے پابندی لگائی ہے، اگر کوئی شکار کر لے تو اسے حکومت کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حدیث شریف میں تو حلال جانوروں کے شکار پر پابندی نہیں ہے۔ اس طرح محکمہ جنگلات کی طرف سے پابندی حدیث شریف کی نظر میں اس کا کیا حکم ہے؟ جواب سے نوازیں۔

جواب: ... جو چیز کہ شرعاً حلال ہے، وہ تو حلال ہی رہے گی۔ اگر کوئی شخص ایسا شکار کرتا ہے، جو گورنمنٹ کے قانون کی رو سے ممنوع ہے، تو یہ شکار شرعاً حلال ہوگا۔ البتہ حکومت کی ممانعت اگر مفاد عامہ کے لئے ہے تو قانون کی پاسداری ضروری ہے، اور اگر یہ پابندی صرف عام لوگوں کے لئے ہے، امیروں، وزیروں کے لئے نہیں، تو یہ قانون غلط اور ظالمانہ ہے۔<sup>(۲)</sup>

### رات کو پرندوں کا شکار کرنا

سوال: ... رات کو ہر ایک چیز یعنی ذی روح آرام کرتے ہیں، بعض لوگ رات کو پرندوں کا شکار کرتے ہیں، کیونکہ رات کو پکڑنا آسان ہوتا ہے، لہذا پوچھنا یہ ہے کہ رات کو جبکہ پرندے درختوں میں بیٹھ کر سو جاتے ہیں، ان کا پکڑنا، یا مارنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: ... رات کے وقت پرندوں کا شکار کرنا، ان کو بلاوجہ ستانا ہے، جو بے رحمی ہے، اس لئے مکروہ ہے، واللہ اعلم!

(۱) وفي الشامية: لا يحل صيد البندقية والعصا وما أشبه ذلك. (ج: ۵ ص: ۳۳۵).

(۲) حكم الصيد: الإصطياد مباح لقاصده إجماعاً... إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ۳ ص: ۶۹۱).



## خشکی کے جانوروں اور متعلقات کا شرعی حکم

### گھوڑا، خچر اور کبوتر کا شرعی حکم

سوال: ...مندرجہ ذیل جانوروں کا گوشت حلال ہے یا حرام؟ شرعی نقطہ نگاہ سے پوری وضاحت فرمائیں۔ گدھا، خچر، گھوڑا، کبوتر جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ جنگلی کبوتر حلال ہے اور گھریلو کبوتر سید ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔

جواب: ...گدھا اور خچر حرام ہیں<sup>(۱)</sup>، کبوتر حلال ہے خواہ جنگلی ہو یا گھریلو<sup>(۲)</sup> اور گھوڑے کے بارے میں فقہائے اُمت کا اختلاف ہے، امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک حلال نہیں، جمہور ائمہؒ کے نزدیک حلال ہے۔<sup>(۳)</sup>

### گھوڑے کا گوشت

سوال: ...صحیح بخاری شریف جلد نمبر ۳ صفحہ نمبر ۲۵۵ سے ۲۵۶ تک مختلف احادیث میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا گوشت کھانا جائز قرار دیا ہے۔ ہمیں بتائیں کہ ان احادیث کا کیا مطلب ہے اور پھر اگر جائز ہے تو آج تک علمائے کرام نے کیوں نہیں بتایا؟

جواب: ...سنن ابی داؤد ص: ۱۷۵، ج: ۲ مطبوعہ کراچی میں حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے گوشت سے منع فرمایا تھا، چونکہ ایک حدیث سے جواز معلوم ہوتا ہے، اور دوسری سے ممانعت معلوم ہوتی ہے، اس لئے امام ابوحنیفہؒ اور

(۱) وأما السُّنَّةُ فما روى عن خالد بن وليد رضى الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يكره لحم الخيل وبه أخذ الشافعي رحمه الله. (بدائع ج: ۵ ص: ۳۸)۔

(۲) فالمستأنس منه كالدجاج والبط والمتوحش كالحمام والفاختة والعصافير والقبيج والكركي والغراب الذي يأكل الحب والزرع والعقوق ونحوها حلال بالإجماع. (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۳۹ طبع ایچ ایم سعید)۔

(۳) وأما لحم الخيل فقد قال أبو حنيفة رضى الله عنه: يكره، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكره، وبه أخذ الشافعي رحمه الله... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۳۸)۔

امام مالکؒ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت مکروہ ہے۔<sup>(۱)</sup> آپ نے یہ مسئلہ پہلے کسی عالم سے پوچھا نہیں ہوگا اگر پوچھتے تو بتایا جاتا۔

کیا جانوروں کے منہ کا جھاگ ناپاک ہے؟

سوال: ... جانوروں کے منہ سے جو جھاگ نکلتے ہیں، وہ جھاگ اگر انسان کے کپڑوں یا جسم پر لگ جائیں تو کیا صرف کپڑے وغیرہ سوکھ جانے سے یا صرف جھاڑنے سے پاک ہو جائیں گے؟ یا غسل کرنا اور کپڑے وغیرہ دھونا ضروری ہے؟

جواب: ... حلال جانوروں کے منہ کا جھاگ ناپاک ہے، اور حرام جانوروں کا جھاگ نجس ہے، وہ سوکھنے کے بعد بھی پاک نہیں ہوگا۔<sup>(۲)</sup>

خرگوش حلال ہے

سوال: ... خرگوش حرام ہے یا حلال؟ جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خرگوش بالکل چوہے کی شکل کا ہے اور اس کی عادتیں بھی چوہے سے ملتی ہیں، یعنی ہاتھوں سے چیزیں پکڑ کر کھاتا ہے، پاؤں کی مشابہت بھی حرام جانوروں سے ملتی جلتی ہے اور بل بنا کر رہتا ہے، اس لئے حرام ہے۔ تو اس کے متعلق وضاحت فرمائیں۔

جواب: ... خرگوش حلال ہے، حرام جانوروں سے اس کی مشابہت نہیں ہے، اس مسئلے پر ائمہ اربعہ کا کوئی اختلاف نہیں۔<sup>(۳)</sup>

گدھی کا دودھ حرام ہے

سوال: ... آج کل ہمارے یہاں جس کسی کو کالی کھانسی ہو جاتی ہے تو اسے گدھی کا دودھ پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسا کر گزرتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں گدھی کا دودھ پینا تو حرام ہے، پھر کیا بطور دوائی اس کا استعمال حلال ہو جاتا ہے؟

(۱) عن خالد بن ولید أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير زاد حيوة وكل ذى ناب من السباع. وعن جابر بن عبد الله قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل. وفي الحاشية: قوله وأذن لنا في لحوم الخيل... الخ. قال النووي: اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل فمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف انه مباح لا كراهة فيه وبه قال أحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وداؤد وجماهير المحدثين، وكرهها طائفة منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة وقال يائس باكله ولا يسمي حراماً، قال شيخ الإسلام العيني: احتج بهذا الحديث عطاء وابن سيرين والحسن والأسد بن يزيد وسعيد بن جبیر والليث وابن المبارك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وأبو ثور على جواز أكل لحم الخيل وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو عبيدة يكره. (سنن أبي داؤد ج: ۲ ص: ۱۷۵، باب في أكل لحوم الخيل).

(۲) إن كان سؤره طاهر فالماء طاهر وإن كان نجساً فنجس. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۹، كتاب الطهارة، الباب الثالث).

(۳) ولا بأس بأكل الأرنب لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهدى له أعرابي أرنبة مشوية فقال لأصحابه كلوا... الخ. (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۳۹، كتاب الذبائح والصيد، طبع ايج ايم سعيد).

جواب: ... گدھی کا دودھ حرام ہے، اور دوائی کے طور پر بھی اس کا استعمال درست نہیں جبکہ حلال دوائی سے علاج ہو سکتا ہو۔<sup>(۱)</sup>

### کم عمر جانور ذبح کرنا جائز ہے

سوال: ... اگر گھر میں بکرے اور بکریاں پلٹی ہوئی ہیں جن کی عمر چار ماہ اور چھ ماہ تک ہو، یعنی وہ اتنے بڑے نہ ہوں جن کو کاٹ کر کھایا جاتا ہو، اگر بیمار ہو جاتے ہیں یا غلطی سے کوئی ایسی چیز کھا جاتے ہیں کہ اب ان کا بچ جاننا مشکل ہو تو کیا ایسی صورت میں ان کو کاٹ کر کھانا جائز ہوگا یا ناجائز؟ ضرور لکھئے۔

جواب: ... ان کو شرعی طریقے سے ذبح کر کے کھانا بلاشبہ جائز ہے۔<sup>(۲)</sup>

### بھینس کا نوز اسیدہ بچہ ذبح کر کے کھانا

سوال: ... آج کل بھینس جو بچے دیتی ہے، ان میں سے مادہ بچے کی پرورش کی جاتی ہے، اور نرنچے کو اسی وقت ذبح کر دیا جاتا ہے، کیونکہ مادہ بچہ آگے چل کر دودھ دیتا ہے، اور نرنچے کا گوشت شہر کے ہوٹلوں میں پکایا جاتا ہے، جسے مسلم اور غیر مسلم تمام لوگ کھاتے ہیں، وضاحت فرمائیں کہ اس کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: ... اس گوشت کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔<sup>(۳)</sup>

### دو تین ماہ کا بکری، بھینس کا بچہ ذبح کرنا

سوال: ... حلال جانور مثلاً بکرے، بھینس، دُبنے کے بچے کو جو اندازاً دو تین ماہ کا ہو خدا کے نام پر ذبح کرنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: ... گوشت کھانے کے قابل ہو تو ذبح کرنے کی کوئی ممانعت نہیں۔

### ذبح شدہ جانور کے پیٹ سے بچہ نکلے تو کیا کرے؟

سوال: ... بقر عید پر قربانی کی گائے یا بکری کے پیٹ سے بچہ زندہ یا مردہ نکلے تو اس کو کیا کرنا چاہئے؟ کیونکہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اگر زندہ نکلے تو ذبح کر کے استعمال میں لانا چاہئے اور مردہ ویسے ہی حلال ہے، کیونکہ جو حلال جانور ذبح کر دیا گیا، اس کے پیٹ سے علاوہ نجاست کے جو کچھ نکلے وہ سب حلال ہے۔ احکام خداوندی کی رو سے آپ اس مسئلے کو حل فرمائیں۔

(۱) وأما الحمار الأهلئ فله حرام وكذا لبنه وشحمه. (فتاوی عالمگیری، كتاب الذبائح، الباب الثانی ج: ۵ ص: ۲۹۰ طبع بلوچستان بک ڈپو)۔

(۲) "يسأها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد" (المائدة: ۱)، ولقوله تعالى: "الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون" وإسم الأنعام يقع على هذه الحيوانات بلا خلاف بين أهل اللغة. (بدائع ج: ۵ ص: ۳۷، كتاب الذبائح والصيد)۔

(۳) إن تم خلق الجنين أكل والآ فلا لقوله عليه السلام: ذكاة الجنين ذكاة أمه. (الفقه الحنفی وأدلته ج: ۳ ص: ۲۰۷)۔

جواب:.... بچہ اگر زندہ نکلے تو اس کو ذبح کر کے کھانا درست ہے، اور اگر مردہ نکلے تو اس میں اختلاف ہے، حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک حلال نہیں، اور امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے نزدیک حلال ہے، احتیاطاً نہ کھانے میں ہے۔<sup>(۱)</sup>

## حشرات الارض کا کھانا

سوال:.... وہ کیڑے مکوڑے جن کو مارنا باعثِ ثواب ہے اور انہیں مارنے کا حکم بھی ہے، مثلاً: بچھو، دیمک، جوں، مکڑی، چھپکلی، مکھی وغیرہ۔ آج کل سائنس ان کیڑے مکوڑوں کو غذائیت سے بھرپور قرار دیتی ہے، ان مغربی سائنس دانوں کے بقول ”مستقبل کا وہ دن دور نہیں جب دودھ والے کی جگہ مکھی والا ریڑھی اور سائیکل پر کھیاں بیچتا پھرے، اور مرغی کی جگہ دکانوں پر تھال میں بھری ہوئی دیمک بکنا شروع ہو جائے، ہوٹل میں بھنی دیمک یا دیمک مصالحہ، مکڑی کا سوپ ملنا شروع ہو جائے۔“ کیا ہمارے نبی سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مندرجہ بالا کیڑوں مکوڑوں کو بطور غذا استعمال کرنے کی اجازت دی ہے؟ براہ مہربانی تفصیل سے اس اہم مسئلے پر روشنی ڈالیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔

جواب:.... حشرات الارض کا کھانا جائز نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## ”خارپشت“ نامی جانور کو کھانا جائز نہیں

سوال:.... صوبہ سرحد میں ایک جانور سرید (خارپشت) پایا جاتا ہے، مقامی لوگ اس کا شکار کرتے ہیں اور ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں اور بعض حلال۔ آپ سے درخواست ہے کہ شرعی طور پر یہ جانور حلال ہے یا حرام؟

جواب:.... یہ حشرات الارض میں داخل ہے، اس کا کھانا حلال نہیں۔<sup>(۳)</sup>

## حشرات الارض کو مارنا

سوال:.... جناب والا! جب کبھی حشرات الارض پر نظر پڑتی ہے ایک دل چاہتا ہے اسے مار دوں، پھر یہ سوچ کر کہ وہ بھی جاندار ہیں چھوڑ دیتی ہوں۔ آپ اسلام کی رو سے مطلع فرمائیں کہ ہم حشرات الارض کو (بشمول سانپ، بچھو وغیرہ) ان کو بنی نوع انسان کا دشمن گردانتے ہوئے مار دیا کریں یا جانور سمجھ کر چھوڑ دیا کریں؟

جواب:.... موذی چیزوں کا مار دینا ضروری ہے، مثلاً: سانپ، بچھو، بھڑ وغیرہ، اور اس کے علاوہ دوسرے حشرات الارض کو

(۱) الجنین إذا خرج حیاً ولم یکن من الوقت مقدار ما یقدر علی ذبحہ فمات یؤکل وهذا لتفریع علی قول ابی یوسف ومحمد رحمہما اللہ لا علی قول ابی حنیفہ، کذا فی النہایۃ۔ (عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۸۷، کتاب الذبائح، الباب الثانی)۔

(۲) وجميع الحشرات، وهوام الأرض من الفأر والقنفاذ واليربوع والزنبور والذباب والعنكبوت والعقرب ونحوها لا خلاف فی حرمة هذه الأشياء۔ (فتاویٰ عالمگیری، کتاب الذبائح، الباب الثانی فی بیان ما یؤکل من الحيوان وما لا یؤکل ج: ۵ ص: ۲۸۹ طبع رشیدیہ)۔

(۳) ایضاً حوالہ بالا۔

بلا ضرورت مارنا جائز نہیں۔<sup>(۱)</sup>

## موذی جانوروں اور حشرات کو مارنا

سوال: ... گھروں میں جو جانور جیسے مکڑی، لال بیگ، کھٹل، مچھر، چھپکلی اور دیگ وغیرہ کو مار سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ گھروں کو خراب کرتے ہیں۔

جواب: ... موزی جانوروں اور حشرات کا مارنا جائز ہے۔<sup>(۲)</sup>

## مکھیوں اور مچھروں کو برقی رو سے مارنا جائز ہے

سوال: ... مچھروں اور مکھیوں کو مارنے کے لئے ایک برقی آلہ یہاں استعمال ہوتا ہے جس کے اندر ایک ٹیوب لائٹ سے روشنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک جالی میں انتہائی طاقت ور برقی رو دوڑ جاتی ہے، جو نہی مچھر یا مکھی اس روشنی کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اس برقی رو والی جالی سے گزرنا پڑتا ہے، اس میں چونکہ انتہائی طاقت ور برقی رو ہوتی ہے، جس کی بنا پر وہ جل جاتے ہیں، اس کا استعمال شرعاً کیسا ہے؟

جواب: ... جائز ہے۔<sup>(۳)</sup>

## جانور کی کھال کی ٹوپی کا شرعی حکم

سوال: ... حرام جانوروں کی کھالوں کی ٹوپیاں، شیر، چیتا، ریچھ، لومڑی، گیدڑ وغیرہ کی آج کل بازاروں میں فروخت ہو رہی ہیں، ان کا اوڑھنا یا اسے پہن کر نماز ادا کرنا درست ہے یا نہیں؟

جواب: ... حدیث میں ہے کہ ہر جانور کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے،<sup>(۴)</sup> اس لئے دباغت کے بعد ان جانوروں کی کھالوں کی ٹوپیاں پہننا، ان میں نماز پڑھنا اور ان کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے، البتہ خنزیر چونکہ نجس العین ہے، اس لئے اس کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی۔<sup>(۵)</sup>

(۱ و ۲) والحشرات هل يباح في الشرع ابتداء من غير إيذاء وهل يثاب على قتلهم؟ قال: لا يثاب على ذلك وإن لم يوجد منه الإيذاء فأولى أن لا يتعرض بقتل شيء منه. كذا في جواهر الفتاوى. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۳۶۱، کتاب الذبائح، طبع بلوچستان بک ڈپو، مسجد روڈ، کوئٹہ).

(۳) حرقهم ..... لكن جواز التحريق والتغريق مقيد. كما في شرح السير بما إذا لم يتمكنوا من الظفر بهم بدون ذلك بلا مشقة عظيمة، فإن تمكنوا بدونها فلا يجوز. (رد المختار، كتاب الجهاد ج: ۳ ص: ۱۲۹، طبع سعيد. أيضاً إمداد الفتاوى، كتاب الحظر ج: ۳ ص: ۲۶۳ طبع مكتبة دارالعلوم كراچی).

(۴) عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. (الصحيح لمسلم ج: ۱ ص: ۱۵۹، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ).

(۵) وكل إهاب دبغ وبشمس وهو يحتملها أي الدباغة طهر فيصلى به إلى قوله (خلا جلد الخنزير) فلا يطهر لأنه نجس العين بمعنى أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حياً وميتاً... إلخ. (رد المختار على الدر المختار ج: ۱ ص: ۲۰۳، ۲۰۴).

## کتے کے دانتوں کا ہار پہننا

سوال: ... مسئلہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق کتے کے دانتوں کا ہار بنا کر پہننا اور ہار پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟  
جواب: ... سوائے خنزیر کے، دانت ہر جانور کے پاک ہیں، اور ان کا استعمال جائز ہے۔<sup>(۱)</sup>

## سور کی ہڈی استعمال کرنا

سوال: ... کیا ہم سور کی ہڈی استعمال کر سکتے ہیں؟  
جواب: ... سور کی ہڈی استعمال کرنا جائز نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## حرام جانوروں کی رنگی ہوئی کھال کی مصنوعات پاک ہیں سوائے خنزیر کے

سوال: ... حرام جانوروں کی کھال کی مصنوعات مثلاً: جوتے، ہینڈ بیگ یا لباس وغیرہ استعمال کرنا جائز ہیں؟ اگر ہیں تو کیوں؟  
جواب: ... جانوروں کی کھال رنگنے سے پاک ہو جاتی ہے، اس لئے چرمی مصنوعات کا استعمال صحیح ہے، البتہ خنزیر کی کھال پاک نہیں ہوتی۔<sup>(۳)</sup>

## جانور سخت بیمار ہو جائے یا حادثے سے قریب المرگ ہو جائے تو اسے ذبح کر کے کھانا

سوال: ... اگر کوئی جانور بیمار ہو جائے اور یہ امید ہو کہ اب نہیں بچے گا، یا اچانک کوئی حادثہ ہو جائے، جانور مرنے لگے تو اس کو ذبح کر کے کھانا کیسا ہے؟

جواب: ... ذبح کر لینا جائز ہے، کیونکہ اگر گوشت کھانے کے لائق نہ ہو، تو چمڑا تو پاک ہو جائے گا۔<sup>(۴)</sup>

## بکری وغیرہ مر جائے تو اس کی کھال اتارنا کیسا ہے؟

سوال: ... اگر جانور پالے ہوئے ہوں، جیسے بھینس، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ، اگر کوئی جانور مر جائے تو اس کا چمڑا اتار کر

بیچنا، رقم اپنے استعمال میں لینا جائز ہے یا ناجائز؟

جواب: ... مردار کا چمڑا بھی مردار ہے، اس لئے اس کا بیچنا جائز نہیں، ہاں چمڑا اتار کر اس کو خشک کر لیا جائے، یا رنگ لیا

جائے تو پاک ہو جائے گا،<sup>(۵)</sup> اس وقت بیچنا جائز ہے۔<sup>(۶)</sup> اجرت دے کر اتر والینا جائز ہے، مگر جب تک رنگ نہ لیا جائے، تب تک بیچنا جائز نہیں۔

(۱ و ۲ و ۳) وفي العيون لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتات إلا عظم الآدمي والخنزير. (الفتاوى الهندية ج: ۳ ص: ۱۱۵، كتاب البيوع، الباب التاسع، الفصل الخامس، طبع مكتبة رشيدية).

(۴) وكل جلد يطهر بالدباغ فإنه يطهر بالذكاة وما لا فلا. (الجوهرية النيرة ص: ۱۵، كتاب الطهارة، طبع مجتباتي ديوبند).

(۵) قوله كل إهاب دبغ فقد طهر ..... وكل جلد يطهر بالدباغ فإنه يطهر بالذكاة وما لا فلا... الخ. (الجوهرية النيرة، كتاب الطهارة ص: ۱۵ طبع مجتباتي ديوبند).

(۶) أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاً، فإن بيعه يجوز... الخ. (الفقه الإسلامي وأدلته، بيع النجس والمنتجس ج: ۳ ص: ۴۴۶).

## دریائی جانوروں کا شرعی حکم

### دریائی جانوروں کا حکم

سوال: ... میرے کچھ دوست عرب ہیں، ایک روز دوران گفتگو انہوں نے بتایا کہ: ”وہ لوگ سمندر سے شکار کئے ہوئے تمام جانوروں کو کھانے کے لئے حلال سمجھتے ہیں اور بلا کراہیت کھاتے ہیں۔“ جبکہ ہم پاکستانی، مچھلی اور جھینگوں کو عموماً حلال سمجھتے ہیں اور کیکڑوں، لابسٹرو وغیرہ کو بعض لوگ مکروہ سمجھتے ہوئے کھاتے ہیں، براہ مہربانی آپ صحیح صورت حال سے ہمیں آگاہ کیجئے۔ مزید یہ کہ کیا مچھلیوں کی ایسی قسمیں ہیں جو کھانے کے لئے جائز نہیں ہیں؟

جواب: ... امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک دریائی جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک دیگر جانور بھی حلال ہیں، جن میں خاصی تفصیل ہے۔ اس لئے آپ کے عرب دوست اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتے ہوں گے۔ مچھلیوں کی ساری قسمیں حلال ہیں، مگر بعض چیزیں مچھلی سمجھی جاتی ہیں حالانکہ وہ مچھلی نہیں، مثلاً: جھینگے۔<sup>(۱)</sup>

### کیا سب دریائی جانور حلال ہیں؟

سوال: ... جس طرح قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ دریاؤں کے جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے مگر ہم صرف مچھلی حلال سمجھتے ہیں جبکہ سمندروں میں اور بھی جاندار ہوتے ہیں۔

جواب: ... قرآن کریم کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں دریائی جانوروں کے شکار کو حلال فرمایا گیا ہے،<sup>(۲)</sup> خود ان جانوروں کو حلال نہیں فرمایا گیا۔ اور شکار احرام جانور کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے: شیر اور چیتے کا شکار کیا

(۱) وأما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله إلا ما طفا منه وهذا قول أصحابنا رضي الله تعالى عنهم. وقال بعض الفقهاء وابن أبي ليلى رحمهم الله: أنه يحل أكل ما سوى السمك من الضفدع والسرطان وحية الماء وكلبه وخنزيره ونحو ذلك لكن بالذكاة وهو قول الليث بن سعد رحمه الله إلا في إنسان الماء وخنزيره أنه لا يحل، وقال الشافعي رحمه الله يحل جميع ذلك من غير ذكاة وأخذه ذكاته ويحل أكل السمك الطافي... إلخ. (بدائع، كتاب الذبائح والصيد ج: ۵ ص: ۳۵ طبع ایچ ایم سعید).

(۲) أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما ذمتم حُرماً. (المائدة: ۹۶). أيضاً: اعلم ان صيد البر محرم على المحرم وصيد البحر حلال لقوله تعالى... إلخ. (هداية ج: ۱ ص: ۲۷۷، كتاب الحج، الجنایات).

جاتا ہے۔ حدیث شریف میں صرف مچھلی کو حلال فرمایا ہے، اس لئے ہم صرف مچھلی کو حلال سمجھتے ہیں۔<sup>(۱)</sup>

## پانی اور خشکی کے کون سے جانور حلال ہیں؟

سوال:.... یہ کہاں تک صحیح ہے کہ پانی کے تمام جانور حلال ہیں؟ اگر نہیں تو پھر کون سے حلال اور کون سے حرام ہیں؟ اسی طرح سے خشکی کے کون سے جانور اور پرندے حلال اور حرام ہیں؟ اس کا کوئی خاص اصول ہے؟

جواب:.... پانی کے جانوروں میں امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے، اس کے علاوہ کوئی دریائی جانور حلال نہیں۔<sup>(۲)</sup>

جنگلی جانوروں میں دانتوں سے چیرنے پھاڑنے والے، اور پرندوں میں سے پنچوں کے ساتھ شکار کرنے والے حرام ہیں، باقی حلال۔<sup>(۳)</sup>

## جھینگا کھانا اور اس کا کاروبار کرنا

سوال:.... جھینگا کھانا یا اس کا کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ اسے کھانے اور کاروبار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔

جواب:.... جھینگا مچھلی ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ اختلافی رہا ہے، جن حضرات نے مچھلی کی ایک قسم سمجھا انہوں نے کھانے کی اجازت تو دی البتہ احتیاط اسی میں بتلائی کہ نہ کھایا جائے، اب جدید تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دریائی جانوروں میں سے صرف مچھلی اپنی تمام قسموں کے ساتھ حلال ہے، اور چونکہ جھینگا مچھلی نہیں، اس لئے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کھانا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ بطورِ ردِ کھانے میں یا اس کی تجارت میں گنجائش ہوگی کیونکہ مسئلہ اجتہادی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کھانا حلال ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جھینگا کھایا تو نہ جائے البتہ اس کی تجارت میں گنجائش ہے۔<sup>(۴)</sup>

## جھینگا حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے

سوال:.... ”جنگ“ میں ”آپ کے مسائل“ کے عنوان کے تحت ایک مسئلہ دریافت کیا گیا اور اس کا جواب بھی ”جنگ“ میں

(۱) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان: الحوت والجراد، والذمان: الكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنى. (مشکوٰۃ ص: ۳۶۱، باب ما يحل أكله وما يحرم).

(۲) گزشتہ صفحے کا حوالہ نمبر ادیکھیں۔

(۳) وأما المستأنس من السباع ..... فلا يحل وكذلك المتوحش منها المسمى بسباع الوحش والطيور وهو كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير... الخ. (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۳۹، كتاب الذبائح والصيد).

(۴) ولا يحل حيوان مائى إلا السمك غير الطافى. (الدرالمختار ج: ۶ ص: ۳۰۶، طبع ايج ايم سعيد).



شائع ہوا، وہ مسئلہ نیچے لکھا جاتا ہے، سوال اور جواب دونوں حاضر خدمت ہیں، آپ مسئلے کی صحیح نوعیت سے راقم الحروف کو مطلع فرمائیں تاکہ تشویش ختم ہو، یہاں جو لوگ الجھن میں ہیں ان کی تشفی کی جاسکے۔

”سوال: کیا جھینگا کھانا جائز ہے؟“

جواب: ... مچھلی کے علاوہ کسی اور دریائی یا سمندری جانور کا کھانا جائز نہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ

جھینگا مچھلی کی قسم نہیں ہے، اگر یہ صحیح ہے تو کھانا جائز نہیں۔“

عوام الناس ”اگر“ اور ”مگر“ میں نہیں جاتے، کیا ابھی تک علماء کو تحقیق نہیں ہوئی کہ جھینگے کی نوعیت کیا ہے؟ یا تو صاف کہہ دیا جائے کہ یہ مچھلی کی قسم نہیں ہے، اس لئے کھانا جائز نہیں، یا اس کے برعکس۔ عوام الناس، علماء کے اس قسم کے بیان سے اسلام اور مسئلے مسائل سے متنفر ہونے لگتے ہیں اور علماء کا یہ رویہ مسئلے مسائل کے سلسلے میں گول مول بہتر نہیں ہے۔ میں نے لغت میں دیکھا تو جھینگے کی تعریف مچھلی کی ایک قسم ہی لکھی گئی ہے۔ آخر علماء کیا آج تک یہ نہیں طے کر پائے کہ یہ مچھلی کی قسم ہے کہ نہیں؟ مفتی محمد شفیع صاحب، مولانا یوسف بنوری، مولانا شبیر احمد عثمانی اور دوسرے علمائے حق کا کیا رویہ رہا؟ کیا انہوں نے جھینگا کھایا یا نہیں؟ اور اس کے متعلق کیا فرمایا؟ امید ہے آپ ذرا تفصیل سے کام لیتے ہوئے اس سئلے پر روشنی ڈالیں گے۔

جواب: ... صورتِ مسئلہ میں مچھلی کے سوا دریا کا اور کوئی جانور حنفیہ کے نزدیک حلال نہیں۔<sup>(۱)</sup> الجھینگے کی حلت و حرمت

اس پر موقوف ہے کہ یہ مچھلی کی جنس میں سے ہے یا نہیں؟ ماہرین حیوانات نے مچھلی کی تعریف میں چار چیزیں ذکر کی ہیں۔ ۱: ... ریڑھ کی ہڈی، ۲: ... سانس لینے کے گھمڑے، ۳: ... تیرنے کے پنکھ، ۴: ... ٹھنڈا خون۔ چوتھی علامت عام فہم نہیں ہے، مگر پہلی تین علامات کا جھینگے میں نہ ہونا ہر شخص جانتا ہے۔ اس لئے ماہرین حیوانات سب اس امر پر متفق ہیں کہ جھینگے کا مچھلی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ مچھلی سے بالکل الگ جنس ہے۔ جبکہ جوہر اخلاطی میں تصریح ہے کہ ایسی چھوٹی مچھلیاں سب مکروہ تحریمی ہیں، یہی صحیح تر ہے۔

”حيث قال السمك الصغار كلها مكروهة التحريم هو الأصح ... الخ.“ (جوہر اخلاطی)

اس لئے جھینگا حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔

## سطحِ آب پر آنے والی مردہ مچھلیوں کا حکم

سوال: ... کیا وہ مچھلیاں حلال ہیں جو مر کر سطحِ آب پر آجائیں یا ساحل پر پائی جائیں مردہ حالت میں؟ نیز بڑی مچھلیاں جو کہ

مر کر ساحل پر پہنچ جاتی ہیں، لوگ ان کا گوشت، تیل اور ہڈیاں استعمال میں لاتے ہیں، تو یہ جائز ہے؟

(۱) ولا يحل أكل ما في الماء إلا السمك ... الخ. (خلاصة الفتاوى، كتاب الصيد ج: ۴ ص: ۳۰۳ طبع رشیدیہ). ایضاً:

ولا يحل حيوان مائي إلا السمك. (درمختار ج: ۶ ص: ۳۰۶، كتاب الذبائح، طبع سعید کراچی).

جواب:.... جو مچھلی مر کر پانی کی سطح پر اُلٹی تیرنے لگے وہ حلال نہیں،<sup>(۱)</sup> اور جو ساحل پر پڑی ہو، اگر وہ متعفن نہ ہو گئی ہو تو

حلال ہے۔<sup>(۲)</sup>

## کیکڑا حلال نہیں

سوال:.... کیکڑا کھانا حرام ہے یا حلال؟

جواب:.... کیکڑا حلال نہیں۔<sup>(۳)</sup>

## کچھوے کے انڈے حرام ہیں

سوال:.... سنا ہے کہ کراچی میں کچھوے کے انڈے بھی مرغی کے انڈوں میں ملا کر بکتے ہیں، یہ فرمائیں کہ کیا کچھوے کے

انڈے کھانا حلال ہے یا مکروہ یا حرام؟

جواب:.... یہ اصول یاد رہنا چاہئے کہ کسی چیز کے انڈے کا وہی حکم ہے جو اس چیز کا ہے، کچھوا چونکہ خود حرام ہے، اس لئے

اس کے انڈے بھی حرام ہیں اور ان کو فروخت کرنا بھی حرام ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں پر تعزیر جاری کرے جو بکری کی جگہ کتے کا گوشت، اور مرغی کے انڈوں کی جگہ کچھوے کے انڈے کھلاتے ہیں۔<sup>(۴)</sup>

(۱) وَلَا يَحِلُّ حَيوان مائى إِلَّا السمك (غير الطافى) على وجه الماء الذى مات حتف أنفه وهو ما بطنه من فوق.

(الدرالمختار، كتاب الذبائح ج: ۶ ص: ۳۰۶ طبع ایچ ایم سعید).

(۲) ولو متولدًا فى ماء نجس..... بأن تحمل السمكة على ما إذا لم تنتن. (أيضًا).

(۳) وقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث..... والضفدع والسرطان والحية من الخبائث. (بدائع الصنائع ج: ۵

ص: ۱۳۵، أيضًا: خلاصة الفتاوى، كتاب الصيد، الفصل الخامس فيما يؤكل وما لا يؤكل ج: ۴ ص: ۳۰۴).

(۴) القاعدة الرابعة التابع تابع: تدخل فيها قواعد الأولى انه لا يفرد بالحكم ومن فروعها الحمل يدخل فى بيع الدم تبعًا ولا

يفرد بالبيع والهبة كالبيع وقال الحموى التابع تابع أى غير منفك عن متبوعه. (شرح الحموى على الأشباه والنظائر، القاعدة

الرابعة ج: ۱ ص: ۳۲۲، طبع إدارة القرآن كراچی).

## پرندوں اور ان کے انڈوں کا شرعی حکم

### بگلا اور غیر شکاری پرندے بھی حلال ہیں

سوال: ... کیا بگلا حلال ہے؟ برائے مہربانی ان حرام جانوروں کی نشاندہی فرمائیں جو ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی مختلف قسم کی چڑیوں کا شکار کر کے کھا لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟

جواب: ... بگلا حلال ہے، اسی طرح یہ تمام غیر شکاری پرندے بھی حلال ہیں، چھوٹی چڑیا حلال ہے۔<sup>(۱)</sup>

### کبوتر کھانا حلال ہے

سوال: ... ہمارے یہاں کے کچھ لوگ کبوتر بالکل نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے کاٹنے سے گناہ ہے اور کھانے سے، حالانکہ کبوتر حلال ہے۔

جواب: ... حلال جانور کو ذبح کرنے میں گناہ کیوں ہونے لگا...؟<sup>(۲)</sup>

### بطخ حلال ہے

سوال: ... مولانا صاحب! مسئلہ یہ ہے کہ میرے ایک قدیم اور عزیز دوست فرماتے ہیں کہ بطخ یا ”راج ہنس“ جسے بڑی بطخ یا ”قاز“ بھی کہتے ہیں، کا گوشت حلال نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ برائے مہربانی یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ شریعت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔

جواب: ... بطخ بذات خود تو حلال ہے،<sup>(۳)</sup> نجاست کھانے کی وجہ سے مکروہ ہو سکتی ہے، سو ایسی مرغی یا بطخ جس کی بیشتر خوراک نجاست ہو اس کو تین دن بند رکھ کر پاک غذا دی جائے تو کراہت جاتی رہے گی۔<sup>(۴)</sup>

(۱ و ۲) وما لا مخلب له من الطير والمستأنس منه كالدجاج والبط والمتوحش كالحمام والفاختة والعصافير والقبيج والكركي والغراب الذي يأكل الحب والزرع ونحوها حلال بالإجماع، كذا في البدائع. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۸۹)۔

(۳) وما لا مخلب له من الطير والمستأنس منه كالدجاج والبط والمتوحش كالحمام والفاختة والعصافير والقبيج والكركي والغراب الذي يأكل الحب والزرع ونحوها حلال بالإجماع، كذا في البدائع. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۸۹)۔

(۴) ولا يكره أكل الدجاج المخلبي وإن كان يتناول النجاسة لأنه لا يغلب عليه أكل النجاسة بل يخلطها بغيرها وهو الحب والأفضل أن يحبس الدجاج حتى يذهب ما في بطنها من النجاسة كذا في البدائع. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۰، كتاب الذبائح، الباب الثاني، البدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۴۰، كتاب الذبائح والصيد)۔

## مور کا گوشت حلال ہے

سوال: ... ایک دوست کہیں باہر سے مور کا گوشت کھا کر آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مور کا گوشت حلال ہوتا ہے، مگر ہمارے کئی دوست کہتے ہیں کہ مور کا گوشت حرام ہوتا ہے۔

جواب: ... مور حلال جانور ہے، اس کا گوشت حلال ہے۔<sup>(۱)</sup>

## کیا انڈا حرام ہے؟

سوال: ... کچھ عرصہ پیشتر ماہنامہ ”زیب النساء“ میں حکیم سید ظفر عسکری نے کسی خاتون کے جواب میں تحریر کیا تھا کہ انڈے کا ذکر صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں کہیں نہیں ملتا، بلکہ اسے انگریزوں نے متعارف کرایا ہے، اس وجہ سے انڈا کھانا حرام ہے۔ براہ کرم اس مسئلے کا تفصیلی حل اسلامی صفحے میں شائع کریں۔

جواب: ... یقین نہیں آتا کہ حکیم صاحب نے ایسا لکھا ہو، اگر انہوں نے واقعی لکھا ہے تو یہ ان کا فتویٰ نہایت ”غیر حکیمانہ“ ہے۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث تو پڑھی یا سنی ہوگی جو حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جمعہ کی نماز کے لئے سب سے پہلے آئے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، دوسرے نمبر پر آنے والے کو گائے کی قربانی کا، پھر بکرے کی قربانی کا، پھر مرغی صدقہ کرنے اور سب سے آخر میں انڈا صدقہ کرنے کا، اور جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو ثواب لکھنے والے فرشتے اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں (مشکوٰۃ شریف)۔<sup>(۲)</sup>

سوچنا چاہئے کہ اگر ہماری شریعت میں انڈا کھانا حرام ہے تو کیا... نعوذ باللہ... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرام چیز کے صدقے کی فضیلت بیان فرمادی...؟ آج تک کسی فقیہ اور محدث نے انڈے کو حرام نہیں بتایا، اس لئے حکیم صاحب کا یہ فتویٰ بالکل لغو ہے۔

## انڈا حلال ہے

سوال: ... مرغی کا انڈا کھانا حلال ہے یا مکروہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ انڈا مرغی کا اور دیگر حلال جانوروں کا بھی نہیں کھانا چاہئے، کیونکہ کسی شرعی کتاب میں انڈا کھانے کے لئے نہیں لکھا ہے۔

(۱) لا بأس بأكل الطاؤس وعن الشعبي يكره أشد كراهة وبالاول يفتى كذا في الفتاوى الحمادية. (عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۰، كتاب الذبائح، الباب الثاني).

(۲) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. (ترمذی ج: ۱ ص: ۶۶، أيضًا مشکوٰۃ ص: ۱۲۲).

جواب: ... کسی حیوان کے انڈے کا وہی حکم ہے جو اس جاندار کا ہے، حلال جاندار کا انڈا حلال ہے، اور حرام کا حرام۔<sup>(۱)</sup>

## پولٹری فارم کی مرغی اور انڈا حلال ہے؟

سوال: ... پولٹری فارم کا انڈا اور مرغی حلال ہے یا اس کا کھانا ممنوع، مکروہ ہے؟

جواب: ... مرغی اور مرغی کا انڈا تو حلال ہیں، لیکن جس مرغی کی غالب خوراک ناپاک اور نجس چیز ہو، اس کا کھانا مکروہ ہے۔<sup>(۲)</sup> اور جو حکم مرغی کا ہے، وہی اس کے انڈے کا ہے۔<sup>(۳)</sup>

## فارمی مرغی کے کھانے کا حکم

سوال: ... آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل تقریباً ہر ملک میں مشینی سفید مرغی کا کاروبار عام ہے اور مرغیوں کی پرورش کے لئے ایسی خوراک دی جاتی ہے جس میں خون کی آمیزش کی جاتی ہے، جس سے مرغی جلد جوان ہوتی ہے اور اس غذا کی وجہ سے مرغی کے اندر خود بخود انڈے دینے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی مرغی اور اس کے انڈے کھانے جائز ہیں؟

جواب: ... مرغی کی غذا کا غالب حصہ اگر حرام ہو تو اس کا کھانا مکروہ ہے، اس کو تین دن بند رکھا جائے اور حلال غذا دی جائے اس کے بعد کھایا جائے، اور ان کی خوراک میں حلال غالب ہو تو کھانا جائز ہے۔<sup>(۴)</sup>

## پرندے پالنا اور ان کی جنس تبدیل کرنا

سوال: ... ہمارے ایک دوست جو کہ خوبصورت پرندے پالتے ہیں، ہم نے ان کو منع کیا کہ اس طرح سے آپ پرندوں کو پنجرے میں قید کر کے رکھتے ہیں، اور ان کی وہ آزادی جو قدرت نے انہیں عطا کی ہے، ختم کرتے ہیں، یہ پرندوں پر ظلم ہے۔ ہمارے محترم دوست فرمانے لگے کہ: ہم پرندوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو وقت سے دانہ پانی دیتے ہیں، جو پرندے کھلے اڑتے پھرتے ہیں، ان سے اچھا ان پالتو پرندوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، اور اس طرح دوسرے خطرناک جانوروں اور پرندوں سے ان کی حفاظت بھی رہتی ہے۔ محترم مفتی صاحب! کیا ہمارے دوست کا جواب اسلامی تعلیمات کی رو سے صحیح ہے؟ نیز پرندوں میں جدت اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے شوقین لوگ ان کے جوڑے جنس سے ہٹ کر لگاتے ہیں، کیا یہ فعل شرعی اعتبار سے جائز ہے؟

(۱) ص: ۵۰۵ کا حاشیہ نمبر ۴ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) ولا یکرہ اکل الدجاج المخلی وان کان یتناول النجاسة لأنه لا یغلب علیہ اکل النجاسة بل یخلطها ..... والأفضل أن یحبس الدجاج حتی یذهب ما فی بطنها من النجاسة۔ (فتاویٰ عالمگیری ج: ۵ ص: ۲۹۰، کتاب الذبائح، الباب الثانی)۔

(۳) التابع تابع ..... التابع لا یفرد بالحکم۔ (شرح المجلة المادة: ۴۷/۴۸ ص: ۳۹)۔

(۴) وتحبس الجلالة حتی یذهب نتن لحمها وقدر بثلاثة أيام لدجاجة... الخ۔ (الدر المختار مع الرد ج: ۶ ص: ۳۴۰)۔

جواب: ... پرندے پالنا جائز ہے،<sup>(۱)</sup> اور ایک جنس سے دوسری جنس تبدیل کرنا بھی درست ہے۔

### پرندے پالنا جائز ہے

سوال: ... آج کل آسٹریلیا میں طوطوں کا پنجروں میں پالنا ایک عام سی بات ہوتی جا رہی ہے، آپ کے مسائل اور اس کا حل روزنامہ جنگ اقرأ اسلامی صفحے کی وساطت سے معاملے کی شرعی حیثیت واضح فرما کر مشکور فرمائیں، واضح رہے کہ یہ پرندے صرف خوبصورتی کی خاطر پالے جاتے ہیں۔ اسی طرح چڑیا گھروں میں جانور پنجروں میں صرف انسانی تفریح کی خاطر رکھے جاتے ہیں۔ روشنی ڈالنے، امام بخاری کی کتاب ادب المفرد میں ایک روایت ملتی ہے کہ صحابہؓ پرندے پالتے تھے، نیز اس کتاب کا کیا مقام ہے اور اس روایت کا کیا اعتبار ہے؟

جواب: ... یہ روایت تو میں نے دیکھی نہیں، پرندوں کا پالنا جائز ہے، البتہ ان کو لڑانا جائز نہیں۔<sup>(۲)</sup>

### حلال پرندے کو شوقیہ پالنا جائز ہے

سوال: ... کسی حلال پرندے کو شوقیہ طور پر پنجرے میں بند کر کے پالنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: ... جائز ہے، بشرطیکہ بند رکھنے کے علاوہ اس کو کوئی اور ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے، اور اس کی خوارک کا خیال رکھے۔<sup>(۳)</sup>

(۱) عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا ..... يا أبا عمير ما فعل النغير... الخ. وفي

الحديث إباحة لعب الصبي بالطيور إذا لم يعذبه. (مشكوة مع حاشية ج: ۲ ص: ۴۱۶).

(۲ و ۳) عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغيراً يا أبا عمير! ما فعل

النغير؟ كان له نغير يلعب به، فمات. متفق عليه. قال المحدثي في الحديث إباحة لعب الصبي بالطيور إذا لم يعذبه. (مشكوة

ج: ۲ ص: ۴۱۶). وفي المرقاة: وفي شرح السنة: فيه فوائد منها: أن صيد المدينة مباح ..... وأنه لا بأس أن يعطى الصبي

الطير ليلعب به من غير أن يعذبه... الخ. (مرقاة المصابيح، باب المزاح ج: ۴ ص: ۶۴۹، طبع أصح المطابع بمبئی).

## تلی، اوجھڑی، کپورے وغیرہ کا شرعی حکم

### حلال جانور کی سات مکروہ چیزیں

سوال: ...گزارش ہے کہ کپورے حرام ہیں، اس کی کیا وجوہ ہیں؟

جواب: ...حلال جانور کی سات چیزیں مکروہ تحریمی ہیں:

۱: ... بہتا ہوا خون۔ ۲: ... غدود۔ ۳: ... مثانہ۔ ۴: ... پتہ۔

۵: ... نر کی پیشاب گاہ۔ ۶: ... مادہ کی پیشاب گاہ۔ ۷: ... کپورے۔<sup>(۱)</sup>

اول الذکر کا حرام ہونا تو قرآن کریم سے ثابت ہے،<sup>(۲)</sup> بقیہ اشیاء طبعاً خبیث ہیں، اس لئے ”وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثُ“ کے عموم میں یہ بھی داخل ہیں۔ نیز ایک حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سات چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے (مصنف عبدالرزاق ج: ۳ ص: ۵۳۵، مراسل ابی داؤد ص: ۱۹، سنن کبریٰ بیہقی ج: ۱۰ ص: ۷)۔<sup>(۳)</sup>

### کلیجی حلال ہے

سوال: ... میں بی اے فرسٹ ایئر کی طالبہ ہوں اور ہمارے پروفیسر صاحب ہمیں اسلامک آئیڈیالوجی پڑھاتے ہیں۔ اسلامی آئیڈیالوجی والے پروفیسر بتا رہے تھے کہ قرآن شریف میں کلیجی کھانا حرام ہے، کلیجی چونکہ خون ہے اس لئے کلیجی حرام ہے، اور حدیث میں کلیجی کو حلال کہا ہے، تو کیا واقعی کلیجی حرام ہے؟

(۱) فالذی یحرم أكله منه سبعة: الدم المسفوح، والذکر، والأنثیان، والقبل، والغدة، والمثانة، والمرارة لقوله عز شأنه:

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبث... الخ۔ (البدائع الصنائع، ما يستحب في الذكاة ج: ۵ ص: ۶۱۱)۔

(۲) ”قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ“ الآية (الأنعام: ۱۳۵)۔

(۳) عن مجاهد رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعة: الدم والمرارة والذکر والأنثيين

والحيا والغدة والمثانة قال وكان أعجب إليه صلى الله عليه وسلم مقدمها۔ (السنن الكبرى للبيهقي ج: ۱۰ ص: ۷، مصنف

عبدالرزاق ج: ۳ ص: ۵۳۵)۔ أيضا: روى عن مجاهد رضى الله عنه أنه قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة:

الذکر والأنثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم، فالمراد منه كراهة التحريم بدليل أنه جمع بين الأشياء الستة وبين

الدم في الكراهة، والدم المسفوح محرم، والمروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: الدم حرام وأكره الستة، أطلق اسم

الحرام على الدم المسفوح وسمى ما سواه مكروها۔ (البدائع الصنائع، ما يستحب في الذكاة ج: ۵ ص: ۶۱۱، طبع سعيد)۔

جواب: ...قرآن حکیم میں بہتے ہوئے خون کو حرام کہا گیا ہے جو جانور کے ذبح کرنے سے بہتا ہے، کلبچی حلال ہے، قرآن کریم میں اس کو حرام نہیں فرمایا گیا ہے۔ آپ کے پروفیسر صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے۔<sup>(۱)</sup>

## تلی کھانا جائز ہے

سوال: ...اکثر شادی بیاہ وغیرہ میں جیسے ہی کوئی جانور ذبح کیا ادھر اس کی تلی اور کلبچی وغیرہ پکا کر کھا لیتے ہیں، یا اکیلی تلی کو آگ پر سینک کر یا علیحدہ کھانے کے متعلق شریعت کیا حکم دیتی ہے؟  
جواب: ...جائز ہے۔<sup>(۲)</sup>

## حلال جانور کی اوجھڑی حلال ہے

سوال: ...گائے یا بکرے کی بٹ (اوجھڑی) کھانا جائز ہے؟ اور اگر کھانا جائز ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ اس کے کھانے سے چالیس دن تک دُعائیں قبول نہیں ہوتیں، کیا یہ صحیح ہے؟  
جواب: ...حلال جانور کی اوجھڑی حلال ہے،<sup>(۳)</sup> چالیس دن دُعائیں قبول نہ ہونے کی بات غلط ہے۔

## گردے، کپورے اور ٹڈی حلال ہے یا حرام؟

سوال: ...جبکہ ہمارے معاشرے میں لوگ بکرے کا گوشت عام کھاتے ہیں، اور لوگ بکرے کے گردے بھی کھاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ گردے انسان کے لئے حرام ہیں یا حلال؟ میرے دوست کہتے ہیں کہ بکرہ حلال ہے، کپورے حلال نہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ مکڑی بھی حلال ہے؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔  
جواب: ...گردے حلال ہیں، کپورے حلال نہیں۔<sup>(۴)</sup> ٹڈی دل جو فصلوں کو تباہ کر دیا کرتا ہے وہ حلال ہے۔ مکڑی حلال نہیں ہے۔<sup>(۵)</sup>

## بکرے کے کپورے کھانا اور خرید و فروخت کرنا

سوال: ...کیا کپورے کھانا جائز ہے؟ آج کل بازاروں اور ہوٹلوں میں کئی لوگ کھاتے ہیں، ان کا اور بیچنے والوں کا عمل کیسا ہے؟

(۱ و ۲) عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: أحلت لنا میتتان ودمان، فأما المیتتان: فالجراد والحیتان، وأما الدمان: فالطحال والكبد. كذلك رواه عبدالرحمن. (السنن الکبریٰ للبیہقی ج: ۱۰ ص: ۷۰).

(۳) ص: ۵۰۸ کا حاشیہ نمبر ۳ دیکھیں۔

(۴) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱، ۳ ملاحظہ ہو۔

(۵) ومثل الجراد والزبور والذباب والعنكبوت ..... ونحوها لا يحل أكله إلا الجراد خاصة لأنها من الخبائث لاستبعاد الطباع السليمة إياها. (بدائع الصنائع ج: ۵ ص: ۳۶، کتاب الذبائح والصيد).



جواب: ... بکرے کے خصیے کھانا مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی حرام کے قریب قریب ہوتا ہے۔ اور جو حکم کھانے کا ہے وہی کھلانے اور بیچنے کا بھی ہے، اس لئے بازار اور ہوٹل میں اس کی خرید و فروخت افسوسناک غلطی ہے۔<sup>(۱)</sup>

کپورے دوا کے طور پر کھانا

سوال: ... کیا کپورے دوا کے طور پر کھا سکتے ہیں؟

جواب: ... نہیں!

کپوروں والے توے پر کلیجی، بھیجا بھنا ہو کھانا

سوال: ... بازار میں جس توے پر کپورے بھونے جاتے ہیں، اسی توے پر بھیجا، کلیجی اور گردے وغیرہ بھی بھونے جاتے

ہیں، کیا وہ کھا سکتے ہیں؟

جواب: ... کھا سکتے ہیں۔<sup>(۲)</sup>

(۱) وروی عن مجاہد رضی اللہ عنہ أنه قال: کرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الشاة: الذکر، والأنثیین، والقبل، والغدة، والمرارة، والمثانة، والدم، فالما منه کراهة التحريم... الخ. (بدائع ج: ۵ ص: ۶۱، کتاب الذبائح والصيد).

(۲) لا عبدة للتوہم. (شرح المجلة ال: ۵۴ ص: ۵۰، طبع حبیبہ کوئٹہ).

## کتابالنا

## کتابالنا شرعاً کیسا ہے؟

سوال: ... سوال حذف کر دیا گیا۔

جواب: ... جاہلیت میں کتے سے نفرت نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ عرب کے لوگ اپنے مخصوص تمدن کی بنا پر کتے سے بہت مانوس تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دل میں اس کی نفرت پیدا کرنے کے لئے حکم فرما دیا کہ جہاں کتاب نظر آئے اسے مار دیا جائے، لیکن یہ حکم وقتی تھا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی بنا پر صرف تین مقاصد کے لئے کتاب رکھنے کی اجازت دی۔ یا تو شکار کے لئے، یا غلہ اور کھیتی کے پہرے کے لئے یا ریوڑ کے پہرے کے لئے، (اگر مکان غیر محفوظ ہو تو اس کی حفاظت کے لئے رکھنا بھی اسی حکم میں ہوگا) ان تین مقاصد کے علاوہ کتابالنا صحیح نہیں۔ انگریزی معاشرت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اب بھی کتے سے نفرت نہیں، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کے فرشتوں کی ناپسندیدگی کے علاوہ بھی شوق سے کتابالنا کوئی اچھی چیز نہیں، خدا نخواستہ کسی کو کاٹ لے یا باؤلا ہو جائے اور آدمی کو پتہ نہ ہو تو ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ پھر اس کا لعاب اپنے اندر ایک خاص زہر رکھتا ہے، اس لئے اس کے جھوٹے برتن کو سات دفعہ دھونے اور ایک دفعہ مانجھنے کا حکم دیا گیا ہے،<sup>(۱)</sup> حالانکہ نجس برتن تو تین دفعہ دھونے سے شرعاً پاک ہو جاتا ہے۔<sup>(۲)</sup> باقی کتاب نجس العین نہیں، اگر اس کا جسم خشک ہو اور کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔

## کتابالنا اور کتے والے گھر میں فرشتوں کا نہ آنا

سوال: ... میں آپ سے کتابالنے کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ کتاب رکھنا جائز نہیں ہے، اس سے فرشتے گھر پر نہیں آتے۔ میں لوگوں کے اس نظریہ سے کچھ مطمئن نہیں ہوں، آپ مجھے صحیح جواب دیں۔

(۱) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من اتخذ کلباً إلا کلب ماشیۃ أو صید أو زرع انتقص من أجرہ کل یوم قیراط۔ متفق علیہ۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم أمر بقتل الکلاب إلا کلب صید أو کلب غنم أو ماشیۃ۔ متفق علیہ۔ (مشکوٰۃ المصابیح، باب ذکر الکلب ص: ۳۵۹)۔ عن عبد اللہ بن المغفل رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم أمر بقتل الکلاب ثم قال: ما لی وللکلاب! ثم قال: إذا ولغ الکلب فی إناء أحدکم فلیغسلہ سبع مرات وعقروہ الثامنۃ بالتراب۔ (شرح معانی الآثار، باب سؤر الکلب ج: ۱ ص: ۲۱ طبع حقانیہ)۔

(۲) (سؤر الکلب نجس) ویغسل الإناء من ولوغہ ثلاثاً لقولہ علیہ السلام: یغسل الإناء من ولوغ الکلب ثلاثاً وقال (وعرق کل شیء معتبر بسورہ) لأنہما یتولدان من لحمہ فأخذ أحدهما حکم صاحبه۔ (فتح القدیر ج: ۱ ص: ۱۱۲)۔

جواب: ... کتاب پالنا ”شوق“ کی چیز تو ہے نہیں، البتہ ضرورت کی چیز ہو سکتی ہے، چنانچہ شوق سے کتاب پالنے کی تو ممانعت ہے، البتہ اگر کوئی شخص مکان کی حفاظت کے لئے یا کھیت کی یا مویشی کی حفاظت کے لئے یا شکار کی ضرورت کے لئے کتاب پالے تو اس کی اجازت ہے۔<sup>(۱)</sup> اور یہ صحیح ہے کہ جس گھر میں کتاب یا تصویر ہو اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص وقت پر آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ مقررہ وقت پر نہیں آئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی کہ جبرائیل امین تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی چار پائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ بیٹھا تھا، اس کو اٹھوایا گیا، اس جگہ کو صاف کر کے وہاں چھڑکاؤ کیا گیا، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ وقت پر نہ آنے کی شکایت کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کی چار پائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتاب یا تصویر ہو (مشکوٰۃ باب التصاویر ص: ۳۸۵)۔<sup>(۲)</sup>

## کیا کتا انسانی مٹی سے بنایا گیا ہے؟ اور اس کا پالنا کیوں منع ہے؟

سوال: ... میں نے آپ کے اس صفحے میں پڑھا تھا کہ چاہے کتنا ہی اہم معاملہ ہو اگر گھر میں کتا ہوگا تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ بتائیں کہ کیا کتے کی موجودگی میں گھر میں نماز ہو جائے گی اور قرآن کریم کی تلاوت جائز ہوگی؟ ہمارے گھر میں قریب سب ہی لوگ نمازی ہیں اور صبح قرآن کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، یہ چھوٹا سا کتا جو بے حد پیارا ہے اور نجاست نہیں کھاتا، ہم مجبور ہو کر لاتے ہیں۔

براہ مہربانی یہ بھی بتائیں کہ آخر ہمارے دین میں کتے جیسے وفادار جانور کو ”گھر سے کیوں نکالا گیا ہے؟“ میں نے سنا ہے کہ کتا دراصل انسانی مٹی سے بنا ہے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی دھنی پر شیطان نے تھوکا تھا تو وہاں سے تمام مٹی نکال کر پھینک دی گئی، اور پھر اسی سے بعد میں کتا بنایا گیا۔ شاید اسی وجہ سے یہ بیچارہ انسان کی طرف دوڑتا ہے، پاؤں میں لوٹتا ہے، اور انسان بھی اس سے محبت کئے بغیر نہیں رہ سکتا!

جواب: ... جہاں کتا ہو، وہاں نماز اور تلاوت جائز ہے۔ یہ غلط ہے کہ کتا انسانی مٹی سے بنایا گیا۔ کتا وفادار تو ہے مگر اس میں بعض ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو اس کی وفاداری پر پانی پھیر دیتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ غیر کتا تو وفادار ہے لیکن اپنی قوم کا وفادار نہیں۔

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن میمونۃ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أصبح یوماً واجماً وقال: ان جبریل کان وعدنی ان یلقانی اللیلۃ فلم یلقنی، اما واللہ ما اخلفنی۔ ثم وقع فی نفسه جرو کلب تحت فسطاط لنا فامر به فاخرج ثم اخذ بیده ماء فنضح مکانہ، فلما أمسى لقیہ جبریل، فقال: لقد کنت وعدتني ان تلقانی البارحة! قال: أجل، ولكننا لا ندخل بیتاً فیہ کلب ولا صورة۔ فأصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذٍ فامر بقتل الکلاب حتی انه یامر بقتل کلب الحانط الصغیر ویترک کلب الحانط الکبیر۔ رواہ مسلم۔ (مشکوٰۃ، باب التصاویر ص: ۳۸۵، طبع قدیمی)۔

دوسرے اس کے منہ کا لعاب ناپاک اور گندہ ہے، اور وہ آدمی کے بدن یا کپڑے سے مس ہو جائے تو نماز غارت ہو جاتی ہے۔<sup>(۱)</sup> اور کتے کی عادت ہے کہ وہ آدمی کو منہ ضرور لگاتا ہے۔ اس لئے جس نے کتاپال رکھا ہو اس کے بدن اور کپڑوں کا پاک رہنا از بس مشکل ہے۔ تیسرے کتے کے لعاب میں ایک خاص قسم کا زہر ہے جس سے بچنا ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو جس میں کتامنہ ڈال دے سات مرتبہ دھونے اور ایک مرتبہ مٹی سے مانجھنے کا حکم فرمایا ہے۔<sup>(۲)</sup> اور یہی وہ زہر ہے جو کتے کے کاٹنے سے آدمی کے بدن میں سرایت کر جاتا ہے۔ چوتھے کتے کے مزاج میں گندگی ہے، جس کی علامت مردار خوری ہے، اس لئے ایک مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ بغیر ضرورت کے کتاپالے۔ ہاں! ضرورت اور مجبوری ہو تو اجازت ہے۔

### کتا کیوں نجس ہے؟ جبکہ وہ وفادار بھی ہے

سوال: ... کتے کو کیوں نجس قرار دیا گیا ہے؟ حالانکہ وہ ایک فرمانبردار جانور ہے، سور کے نجس ہونے کی تو ”اخبار جہاں“ میں سیر حاصل بحث پڑھ چکی ہوں، لیکن کتے کے بارے میں لاعلم ہوں۔ خدا کے حکم کی قطعیت لازم ہے، لیکن پھر بھی ذہن میں کچھ سوال آتے ہیں جن کے جواب کے لئے کسی عالم کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔

جواب: ... ایک مسلمان کی حیثیت سے تو ہمارے لئے یہی جواب کافی ہے کہ کتے کو اللہ تعالیٰ نے نجس پیدا کیا ہے، اس کے بعد یہ سوال کرنا کہ: ”کتا نجس کیوں ہے؟“ بالکل ایسا ہی سوال ہے کہ کہا جائے کہ: ”مرد، مرد کیوں ہے؟ عورت، عورت کیوں ہے؟ انسان، انسان کیوں ہے؟ اور کتا، کتا کیوں ہے؟“ جس طرح انسان کا انسان اور کتے کا کتا ہونا کسی دلیل کا محتاج نہیں، نہ اس میں ”کیوں“ کی گنجائش ہے، اسی طرح خالقِ فطرت کے اس بیان کے بعد کہ کتا نجس ہے، اس کا نجس ہونا بھی کسی دلیل و وضاحت کا محتاج نہیں۔ دُنیا کا کون عاقل ہوگا جسے پیشاب پاخانہ کی نجاست دلیل سے سمجھانے کی ضرورت ہو؟ لیکن دورِ جدید کے بعض وہ دانشور جن کو یہ سمجھانا بھی آج مشکل ہے کہ انسان، انسان ہے، بندر کی اولاد نہیں۔ عورت، عورت ہے، مرد نہیں۔ وہ اگر پیشاب کو بھی ”آبِ حیات“ اور ”داروئے شفا“ بتائیں، اور گندگی میں بھی ”وٹامن بی اور سی“ کا سراغ نکال لائیں، ان کو سمجھانا واقعی مشکل ہے۔ رہا یہ کہ: ”کتا تو وفادار جانور ہے، اس کو کیوں نجس قرار دیا گیا؟“ اس سوال کو اٹھانے سے پہلے اس بات پر غور کر لینا چاہئے کہ کیا کسی چیز کا پاک یا ناپاک ہونا فرمانبرداری اور بے وفائی پر منحصر ہے؟ یعنی یہ اصول کس فلسفے کی رو سے صحیح ہے کہ جو چیز وفادار ہو وہ پاک ہوتی ہے، اور جو بے وفا ہو وہ ناپاک کہلاتی ہے...؟

اس کے علاوہ اس بات پر غور کرنا ضروری تھا کہ دُنیا کی وہ کون سی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی اور کوئی نہ کوئی فائدہ نہیں رکھا؟ کسی چیز کی صرف ایک آدھ خوبی کو دیکھ کر اس کے بارے میں آخری فیصلہ تو نہیں کیا جاسکتا۔ بلاشبہ وفاداری ایک خوبی

(۱) إذا شرب الكلب ..... الحق النبي صلى الله عليه وسلم سوز الكلب بالنجاسات وجعله من أشدها... الخ۔ (حجة الله البالغة ج: ۱ ص: ۱۸۵، طبع منيرية مصر)۔

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه۔ (مشکوٰۃ ص: ۵۲، باب تطهير النجاسات، طبع قديمی کتب خانہ)۔

ہے، جو کتے میں پائی جاتی ہے... اور جس سے سب سے پہلے خود انسان کو عبرت پکڑنی چاہئے تھی... لیکن اس کی اس ایک خوبی کے مقابلے میں اس کے اندر کتنے ہی اوصاف ایسے ہیں جو اس کی نجاستِ فطرت کو نمایاں کرتے ہیں، اس کا انسان کو کاٹ کھانا، اس کا اپنی برادری سے برسرِ پیکار رہنا، اس کا مردار خوری کی طرف رغبت رکھنا، گندگی کو بڑے شوق سے کھا جانا وغیرہ، ان تمام اوصاف کو ایک طرف رکھ کر اس کی وفاداری سے وزن کیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ کس کا پلہ بھاری ہے؟ اور یہ کہ کیا واقعتاً اس کی فطرت میں نجاست ہے یا نہیں...؟

یہاں یہ واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ جن چیزوں کو آدمی خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے، ان کے اثرات اس کے بدن میں منتقل ہوتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ شانہ نے پاک چیزوں کو انسان کے لئے حلال کیا ہے، اور ناپاک چیزوں کو اس کے لئے حرام کر دیا ہے، تاکہ ان کے نجس اثرات اس کی ذات اور شخصیت میں منتقل نہ ہوں، اور اس کے اخلاق و کردار کو متاثر نہ کریں۔ خنزیر کی بے حیائی اور کتے کی نجاست خوری ایک ضربِ المثل چیز ہے۔ جو قوم ان گندی چیزوں کو خوراک کے طور پر استعمال کرے گی اس میں نجاست اور بے حیائی کے اثرات سرایت کریں گے، جن کا مشاہدہ آج مغرب کی سوسائٹی میں کھلی آنکھوں کیا جاسکتا ہے۔

اسلام نے بلا ضرورت کتا پالنے کی بھی ممانعت کی ہے، اس لئے کہ صحبت و رفاقت بھی اخلاق کے منتقل ہونے کا ایک مؤثر اور قوی ذریعہ ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ نیک کی صحبت و رفاقت آدمی کو نیک بناتی ہے اور بد کی رفاقت سے بدی آتی ہے۔ یہ اصول صرف انسانوں کی صحبت و رفاقت تک محدود نہیں بلکہ جن جانوروں کے پاس آدمی رہتا ہے ان کے اخلاق بھی اس میں غیر محسوس طور پر منتقل ہوتے ہیں۔ اسلام نہیں چاہتا کہ کتے کے اوصاف و اخلاق انسان میں منتقل ہوں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے کتا رکھنے کی ممانعت فرمادی ہے، کیونکہ کتے کی مصاحبت و رفاقت سے آدمی میں ظاہری اور نمائشی وفاداری اور باطنی نجاست و گندگی کا وصف منتقل ہوگا۔

اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ سائنسی تحقیقات کے مطابق کتے کے جراثیم بے حد مہلک ہوتے ہیں، اور اس کا زہر اگر آدمی کے بدن میں سرایت کر جائے تو اس سے جاں بر ہونا از بس مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلام نے نہ صرف کتے کو حرام کر دیا تاکہ اس کے جراثیم انسان کے بدن میں منتقل نہ ہوں بلکہ اس کی مصاحبت و رفاقت پر بھی پابندی عائد کر دی، جس طرح کہ ڈاکٹر کسی مجذوم اور طاعونی مریض کے ساتھ رفاقت کی ممانعت کر دیتے ہیں۔ پس یہ اسلام کا انسانیت پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے کتے کی پرورش پر پابندی لگا کر انسانیت کو اس کے مہلک اثرات سے محفوظ کر دیا۔

## مسلمان ملکوں میں کتوں کی نمائش

سوال: ... گزشتہ دنوں اخبار ”جنگ“ اور ”نوائے وقت“ میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ پاکستان میں کتوں کی نمائش ہوئی اور بڑے پیمانے پر لوگوں نے حصہ لیا، اور ایک کتے نے اپنی مالکن کے ساتھ وہ حرکت کی جس سے سب شرمائے، کیا کتوں کو پالنا اور ان کے مقابلہ حسن کا انعقاد کرانا جائز ہے؟ مفصل جواب تحریر کریں۔

جواب: ... استفتاء میں اخبارات کے حوالے سے جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، وہ واقعی ایک غیور مسلمان کے لئے ناقابل

برداشت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کو کتوں سے بہت محبت ہوا کرتی تھی، یہی وجہ ہے کہ ابتداءً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا،<sup>(۱)</sup> اور فرمایا تھا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈالے اسے سات دفعہ دھویا جائے۔<sup>(۲)</sup> کتا ذلیل ترین اور حریص ترین حیوانات میں سے ہے جو کہ اپنے اوصاف مذمومہ کی وجہ سے اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ مخالطت رکھی جائے، چہ جائے کہ ان کی پرورش کی جائے اور ان کی نمائش کے لئے باقاعدہ محفل منعقد کی جائے۔ اسلام نے بلا ضرورت کتاپالنے کو ممنوع قرار دیا ہے، اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس کے لئے سخت وعید آئی ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ:

”جس گھر میں کتے اور جانداروں کی تصاویر ہوتی ہیں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔“<sup>(۳)</sup>

بہر حال یہ جانور بڑا ذلیل، حریص ہوتا ہے، پس جب کتے کے ایسے اوصاف ہیں تو جو شخص اسے پالتا ہے اور اس کے ساتھ محبت و مخالطت رکھتا ہے وہ بھی ان اوصاف سے متصف ہوتا ہے، جیسا کہ مشاہدہ ہے۔ کتے کی سب سے بُری صفت یہ ہے کہ وہ اپنی برادری یعنی کتوں سے نفرت کرتا ہے، اسی وجہ سے جب ایک کتا دوسرے کتے کے سامنے سے گزرتا ہے وہ ایک دوسرے پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جو کہ کتاپالتا ہے، یعنی اس کو بھی اپنے بھائی بندوں، انسانوں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو اقوام دنیا میں سب سے زیادہ کتوں سے محبت کرنے والے یہودی اور عیسائی ہیں۔ بہر حال اہل یورپ کی کتوں سے محبت کا اندازہ اس واقعے سے خوب لگایا جاسکتا ہے کہ جب انگلستان کی مشہور خاتون ”مسز ایم سی وہیل“ بیمار ہوئی تو اس نے وصیت کی کہ اس کی تمام املاک اور جائیداد کتوں کو دے دی جائے۔ خاتون کے مرنے کے بعد اس کی وصیت کے مطابق اب اس کی تمام جائیداد کے وارث کتے ہیں، اس جائیداد سے کتوں کی پرورش، افزائش نسل ایک ٹرسٹ کے تحت جاری ہے۔

مسلمانوں کو چاہئے کہ خدا اور رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اغیار کی تقلید نہ کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں جو کہ عین فطرت کے مطابق ہیں۔

## کتا رکھنے کے لئے اصحابِ کہف کے کتے کا حوالہ غلط ہے

سوال: ... اسلام میں کتے کو گھر میں رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟

دوسرے یہ کہ ایک گھر جو کہ خاصا اسلامی (بظاہر) ہے، گھر کے تمام افراد نماز پڑھتے ہیں اور بعض افراد توجیح بھی کر آئے ہیں، اس کے باوجود گھر میں ایک کتا ہے جو کہ گھر میں بہت آزادانہ طور پر رہتا ہے، تمام گھر والے اسے گود میں لیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اوپر سے دوسرے افراد کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتانا پاک نہیں ہے۔ اس سلسلے میں وہ اصحابِ کہف کے کتے کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتا گیلانا پاک ہے، سو کھاپاک ہے۔ اس سلسلے میں قرآن و سنت کے حوالے سے اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں

(۱) عن جابر رضی اللہ عنہ قال: أمرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الکلاب... إلخ۔ (مشکوٰۃ ص: ۳۵۹)۔

(۲) عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب (وفي رواية إذا ولغ) الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولهن بالتراب۔ (مشکوٰۃ ص: ۳۵۲، باب تطهير النجاسات)۔

(۳) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير۔ (مشکوٰۃ ص: ۳۸۵)۔

تا کہ ہم لوگوں کو اس بارے میں صحیح طور پر معلوم ہو۔

جواب: ... اسلام میں گھر کی یا کھیتی باڑی اور مویشیوں کی حفاظت یا شکار کی ضرورت کے لئے کتاب پالنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن صحیحین کی مشہور حدیث ہے کہ جس گھر میں کتاب یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔<sup>(۱)</sup> مشکوٰۃ صفحہ: ۳۸۵ میں صحیح مسلم کے حوالے سے اُمّ المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ: ایک دن صبح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی افسردہ اور غمگین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: آج رات جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا مگر وہ آئے نہیں، (اس کا کوئی سبب ہوگا ورنہ) بخدا! انہوں نے مجھ سے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ پھر یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتے کے پلے کا خیال آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکالا گیا، پھر جگہ صاف کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے وہاں پانی چھڑکا۔ شام ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت فرمائی کہ آپ نے گزشتہ شب آنے کا وعدہ کیا تھا (مگر آپ آئے نہیں)، انہوں نے فرمایا: ہاں! وعدہ تو تھا مگر ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتاب ہو یا تصویر ہو۔ اس سے اگلے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم فرمایا یہاں تک کہ یہ حکم فرمایا کہ چھوٹے باغ کی حفاظت کے لئے جو کتا رکھا گیا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔<sup>(۲)</sup>

کتے سے پیار کرنا اور اس کو گود میں لینا، جیسا کہ آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے، کسی مسلمان کے شایانِ شان نہیں، جس چیز سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہو اس سے کسی سچے مسلمان کو کیسے اُلفت ہو سکتی ہے؟ علاوہ ازیں کتے کے منہ سے رال ٹپکتی رہتی ہے، اور ممکن نہیں کہ جو شخص کتے کے ساتھ اس طرح اختلاط کرے اس کے بدن اور کپڑوں کو کتے کا نجس لعاب نہ لگے، اس کے کپڑے بھی پاک نہیں رہ سکتے، اور نجس ہونے کے علاوہ اس کا لعاب زہر بھی ہے، جس شخص کو کتا کاٹ لے اس کے بدن میں یہی زہر سرایت کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کو سات مرتبہ دھویا جائے اور ایک مرتبہ منی سے مانجھا جائے۔<sup>(۳)</sup> یہ حکم اس کے زہر کو دور کرنے کے لئے ہے۔ کتے سے اختلاط کرنا اس زمانے میں انگریزوں کا شعار ہے، مسلمانوں کو اس سے احتراز کرنا چاہئے۔

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. (مشکوٰۃ ص: ۳۸۵).

(۲) وعن ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوماً واجماً وقال: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماءً فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل، فقال: لقد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة! قال: أجل، ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. رواه مسلم. (مشکوٰۃ ج: ۱ ص: ۳۸۵، باب التصاوير).

(۳) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ فرمائیں۔

## قسم کھانے کے مسائل

### قسم کھانے کی مختلف صورتیں

کون سی قسم میں کفارہ لازم آتا ہے اور کس میں نہیں آتا؟

سوال: ... سنا ہے کہ قسم کی کئی قسمیں ہیں، کفارہ کون سی قسم میں لازم آتا ہے؟

جواب: ... قسم تین طرح کی ہوتی ہے:

اول: ... یہ کہ گزشتہ واقعہ پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، مثلاً: قسم کھا کر یوں کہے کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا، حالانکہ اس نے کیا تھا، محض الزام کو ٹالنے کے لئے جھوٹی قسم کھالی، یا مثلاً: قسم کھا کر یوں کہا کہ فلاں آدمی نے یہ جرم کیا ہے، حالانکہ اس بے چارے نے نہیں کیا تھا، محض اس پر الزام دھرنے کے لئے جھوٹی قسم کھالی۔ ایسی جھوٹی قسم ”یمین غموس“ کہلاتی ہے، اور یہ سخت گناہ کبیرہ ہے،<sup>(۱)</sup> اس کا وبال بڑا سخت ہے۔<sup>(۲)</sup> اللہ تعالیٰ سے دن رات توبہ و استغفار کرے اور معافی مانگے، یہی اس کا کفارہ ہے، اس کے سوا کوئی کفارہ نہیں۔

دوم: ... یہ کہ کسی گزشتہ واقعہ پر بے علمی کی وجہ سے جھوٹی قسم کھالے، مثلاً: قسم کھا کر کہا کہ زید آ گیا ہے، حالانکہ زید نہیں آیا تھا، مگر اس کو دھوکا ہوا، اور اس نے یہ سمجھ کر کہ واقعی زید آ گیا ہے، جھوٹی قسم کھالی، اس پر بھی کفارہ نہیں اور اس کو ”یمین لغو“ کہتے ہیں۔<sup>(۳)</sup>

(۱) الیمین باللہ ثلاثة أنواع: غموس وهو الحلف على إثبات شيء أو نفيه في الماضي أو الحال يعتمد الكذب فيه فهذه الیمین یأثم فيها صاحبها وعليه فيها الاستغفار والتوبة دون الكفارة. (عالمگیری، کتاب الایمان، الباب الأول فی تفسیرھا شرعاً و رکنھا و شرطھا و حکمھا ج: ۲ ص: ۵۲ طبع رشیدیہ)۔ لغو وهو أن يحلف على أمر في الماضي أو في الحال و يظن أنه كما قال والأمر بخلافه بأن يقول: والله قد فعلت كذا، وهو ما فعل وهو يظن أنه فعل، أو رأى شخصاً من بعيد فقال: والله أنه لزيد، وظنه زيذاً، وهو عمرواً، فهذه الیمین نرجو أن لا يؤخذ بها صاحبها. (عالمگیری ج: ۲ ص: ۵۲، کتاب الایمان)۔

(۲) عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. (أبوداؤد ج: ۲ ص: ۱۰۶، کتاب الایمان)۔

(۳) لغو وهو أن يحلف على أمر في الماضي أو في الحال و يظن أنه كما قال والأمر بخلافه بأن يقول: والله قد فعلت كذا، وهو ما فعل وهو يظن أنه فعل، أو رأى شخصاً من بعيد فقال: والله أنه لزيد، وظنه زيذاً، وهو عمرواً، فهذه الیمین نرجو أن لا يؤخذ بها صاحبها. (عالمگیری ج: ۲ ص: ۵۲، کتاب الایمان، الباب الأول)۔



سوم: ... یہ کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھالے، اور پھر قسم کو توڑ ڈالے، اس کو "یمین منعقدہ" کہتے ہیں، ایسی قسم توڑنے پر کفارہ لازم آتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

## نیک مقصد کے لئے سچی قسم کھانا جائز ہے

سوال: ... سچ کوچ ثابت کرنے کے لئے، جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لئے، ایک حق ایک خیر کو شر سے بچانے کے لئے، ذلیل کو ذلیل، شریف کو شریف ثابت کرنے کے لئے، ظالم کو ظالم، مظلوم کو مظلوم ثابت کرنے کے لئے قرآن پاک کی قسم کھانا یا قرآن پر ہاتھ رکھ کر حق اور سچ کا ساتھ دینا صحیح ہے؟  
جواب: ... سچی قسم کھانا جائز ہے۔<sup>(۲)</sup>

## قرآن مجید کی قسم کھانا جائز ہے

سوال: ... کیا قرآن مجید کی قسم کھا سکتا ہے یا نہیں؟ حالانکہ حدیث شریف میں ہے: من حلف بغير الله فقد أشرك۔  
جواب: ... قرآن کریم، کلام الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم کھانا، غیر اللہ کی قسم نہیں۔ اس لئے قرآن کریم کی قسم صحیح ہے، اور اس قسم کے توڑنے پر کفارہ لازم آئے گا۔<sup>(۳)</sup>

## قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یا بلارکھے قسم اٹھانا

سوال: ... الف نے قرآن پاک کی موجودگی میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آج کے بعد رشوت نہیں لوں گا۔  
ب نے قرآن پاک کی غیر موجودگی میں قرآن کی قسم کھا کر کہا کہ میں آج کے بعد رشوت نہیں لوں گا۔ کیا ان دونوں قسموں میں کوئی فرق ہے؟

جواب: ... کوئی فرق نہیں، قرآن پاک کی قسم کھانے سے قسم ہو جاتی ہے۔<sup>(۴)</sup>

(۱) منعقدہ وهو أن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، وحكمها لزوم الكفارة عند الحنث. (عالمگیری ج: ۲ ص: ۵۲، کتاب الايمان، الباب الأول طبع مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔

(۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، الحديث. (أبو داود، کتاب الايمان ج: ۲ ص: ۱۰۷)۔ وفي الهندية: اليمين بالله تعالى لا تكره ولكن تقليله أولى من تكثيره. (عالمگیری، کتاب الايمان، الباب الأول في تفسيرها شرعاً وورکنها وشرطها وحكمها ج: ۲ ص: ۵۲ طبع مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔

(۳) وقال محمد بن مقاتل الرازي: لو حلف بالقرآن قال يكون يمينا وبه أخذ جمهور مشائخنا رحمهم الله. (عالمگیری ج: ۲ ص: ۵۳، کتاب الايمان، الباب الثاني)۔

(۴) ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينا. (الدر المختار، کتاب الايمان، مطلب في الفرق بين السهو والنسيان ج: ۳ ص: ۷۱۲ طبع سعید)۔ ونقل في الهندية عن المصمرات وقد قيل هذا في زمانهم أما في زماننا فيمين وبه نأخذ ونأمر ونعتقد وقال محمد بن مقاتل الرازي أنه يمينا وبه أخذ جمهور مشائخنا اهـ. فهذا مؤيد لكونه صفة تعورف الحلف بها كعزة الله وجلاله. (رد المحتار ج: ۳ ص: ۵۶ طبع مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ، وأيضاً في الهندية ج: ۲ ص: ۵۳، کتاب الايمان، الباب الأول، وفتح القدير ج: ۴ ص: ۳۵۶ طبع مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔

## جانبین کا جھگڑا ختم کرنے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر رقم اٹھالینا

سوال: ... جانبین میں اختلاف کے بعد الزام اتارنے کے لئے رواج ہے کہ قرآن پاک پر اتنی رقم رکھ دیتا ہوں تو اٹھالے، دوسرا فوراً اٹھالیتا ہے۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ ایسا معاملہ از روئے شرع جائز ہے یا نہیں؟ اگرچہ جھوٹا ہو، رکھنے والا بری ہو جاتا ہے، اور اٹھانے والا خدا نخواستہ جھوٹا ہو تو شریعت میں یہ کس سزا کا مستحق ہے؟

جواب: ... قرآن کریم پر رقم رکھنا خلاف ادب ہے، البتہ اگر رنج نزاع کی یہ صورت ہو سکتی ہو کہ جس شخص پر الزام ہے وہ رقم قرآن مجید کے پاس رکھ دے اور مدعی سے کہا جائے کہ اگر واقعی یہ تمہارا حق ہے تو قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر یہ رقم اٹھالو، رقم اٹھانے والا اگر جھوٹا ہوگا تو اس پر وبال پڑے گا۔

## قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنے والے کو گناہ ہوگا، نہ کہ فیصلہ کرنے والے کو

سوال: ... آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ہمارے برادری کے لوگ زیادہ تر فیصلے قرآن پاک پر کرتے ہیں، کچھ لوگ قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بول جاتے ہیں، مگر فیصلہ کرنے والے کو اس کا بالکل علم نہیں ہوتا، تو کیا اس کا گناہ فیصلہ کرنے والے پر بھی ہوگا؟ جبکہ اسے اس کا بالکل علم نہیں ہوتا کہ گواہ یا ملزم نے غلط قسم کھائی ہے۔

جواب: ... فیصلہ کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں، قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنے والوں پر گناہ ہے، مگر برادری کے لوگوں کو چاہئے کہ قرآن کریم کی بے حرمتی نہ کرائیں، اگر کسی شخص کے بارے میں خیال ہو کہ وہ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر بھی جھوٹ بول دے گا، اس سے ہاتھ نہ رکھوائیں۔

## ”کلمہ شہادت پڑھ کر کہتا ہوں کہ کام نہیں کروں گا“، لیکن پھر کر لیا تو کیا کفارہ ہے؟

سوال: ... عرض ہے کہ میں نے کسی کام کے نہ کرنے کے لئے کلمہ پڑھا اور کلمہ شہادت پڑھ کر کہا کہ میں کلمہ شہادت پڑھ کر کہتا ہوں کہ فلاں کام نہیں کروں گا، لیکن کچھ ہی دن بعد میں نے وہ کام کر لیا، اس طرح میں نے کلمہ شہادت کا کیا ہوا عہد توڑ دیا، اور ایسا تین بار کلمہ شہادت پڑھ کر میں نے عہد توڑ دیا۔ جناب عالی! اب میں اپنے کئے پر نادم ہوں اور اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہوں کہ نہ جانے میرا کیا حشر ہوگا؟ برائے مہربانی مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں بتائیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہئے؟ اور کس طرح تین مرتبہ کلمہ شہادت کا بھرم نہ رکھنے کا ازالہ ہوگا؟ نیز یہ بھی بتائیں کہ مندرجہ بالا جرم کا ازالہ کس طرح ہوگا؟ کیا اس طرح کا جرم کرنے سے میں دائرۃ اسلام سے خارج تو نہیں ہو گیا؟

جواب: ... قسم توڑنے سے خارج از اسلام نہیں ہوا، لیکن کفارہ ادا کرنا لازم ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ دس محتاجوں کو کھانا کھلائے، اور اگر اس کی گنجائش نہ ہو تو تین دن کے روزے رکھے۔<sup>(۱)</sup>

(۱) ”فَكَفَّرْتَهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ“ (المائدة: ۸۹)۔

## اللہ اور قرآن کی جھوٹی قسمیں کھانا

سوال: ... اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید کی جھوٹی قسمیں کھائے تو اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: ... جھوٹی قسم کھانے والوں کی دنیا برباد ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور آخرت کا عذاب ابھی سر پر ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی پناہ میں رکھے۔<sup>(۱)</sup>

## لفظ ”بخدا“ یا ”واللہ“ کے ساتھ قسم ہو جائے گی

سوال: ... میں نے ایک کاروبار شروع کیا اور میں نے اپنے ایک دوست سے باتوں باتوں میں بے اختیاری طور پر یہ کہہ دیا کہ: ”بخدا! اگر مجھے اس کاروبار میں نقصان ہوا تو میں یہ کاروبار بند کر دوں گا“ میرا قسم اٹھانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن غلطی سے میرے منہ سے ”بخدا“ کا لفظ نکل گیا۔ مجھے کاروبار میں نقصان ہوا ہے، لیکن میں نے یہ کاروبار بند نہیں کیا ہے۔ کیا میں نے قسم توڑ دی ہے؟ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ نیز کیا ”واللہ“ کہنے سے قسم ہو جاتی ہے؟

جواب: ... لفظ ”بخدا“ کہنے سے قسم ہوگئی۔<sup>(۲)</sup> اور چونکہ آپ نے قسم توڑ دی اس لئے قسم توڑنے کا کفارہ لازم ہے، اور وہ ہے دس محتاجوں کو دو مرتبہ کھانا کھلانا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو تین روزے رکھنا۔<sup>(۳)</sup> لفظ ”واللہ“ کہنے سے بھی قسم ہو جاتی ہے۔<sup>(۴)</sup>

## رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا جائز نہیں

سوال: ... گزارش ہے کہ میری والدہ نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں سینما کی چوکھٹ پر قدم رکھوں تو مجھے رسول پاک کی قسم۔ اب وہ یہ قسم توڑنا چاہتی ہے، اس کا کفارہ کیا ادا کیا جائے گا؟

جواب: ... اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں، اور ایسی قسم کے توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں، بلکہ اس سے توبہ

(۱) غموس: وهو الحلف على إثبات شيء أو نفيه في الماضي أو الحال يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين يَأْتُم فِيهَا صَاحِبُهَا وَعَلَيْهِ فِيهَا الْإِسْتِغْفَارُ وَالتَّوْبَةُ. (عالمگیری، کتاب الایمان، الباب الأول فی تفسیرھا، ج: ۲ ص: ۵۲)۔

(۲) ولو قال بالفارسية: ”سو گند میخورم بخدای“ يكون يمينا. (هداية ج: ۲ ص: ۳۸۰، کتاب الایمان). والقسم بالله تعالى وباسم من أسمائه كالرحمن والرحيم والحق أو بصفة من صفاته تعالى كعزة الله وجلاله وكبريائه... إلخ. (تنوير الأبصار، کتاب الایمان، مطلب فی الفرق بين السهو والنسيان ج: ۳ ص: ۱۰۰ طبع سعید)۔

(۳) وكفارته تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم بما يستر عامة البدن... إلخ. (تنوير الأبصار، کتاب الایمان، مطلب كفارة اليمين ج: ۳ ص: ۲۵ طبع سعید)۔ فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة، صام ثلاثة أيام متتابعات. (هداية ج: ۲ ص: ۳۸۱، کتاب الایمان، باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا)۔

(۴) والحف بحرف القسم وحرور القسم الواو كقوله: والله، والباء كقوله: بالله، والتاء كقوله: تالله، لأن كل ذلك معهود في الایمان ومذكور في القرآن. (هداية ج: ۲ ص: ۳۷۹، کتاب الایمان، باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا)۔

کرنا لازم ہے۔<sup>(۱)</sup>

”یہ کروں تو حرام ہے“ کہنے سے قسم ہو جاتی ہے، جس کے خلاف کرنے پر کفارہ ہے

سوال: ... میں نے دو مختلف مواقع پر شدید غصے اور اشتعال میں آکر قسم کھالی ہے کہ میں یہ (یعنی اپنے گھر میں قربانی کے جانور کا گوشت) اگر کھاؤں تو حرام کھاؤں گا۔ مگر بعد میں بصد اصرار میں نے گوشت کھالیا۔ اسی طرح تقریباً دو ماہ پہلے ایک دن میں نے غصے میں بیوی کو کہا کہ آج گھر کا کھانا مجھ پر حرام، مگر پھر بعد میں تناول کر لیا۔ اب ان دونوں قسموں کا کفارہ کیونکر ادا ہوگا؟ نیز دونوں قسموں کا علیحدہ کفارہ ادا کرنا ہوگا یا ایک ہی کفارہ؟

جواب: ... دونوں قسموں کا الگ الگ کفارہ ادا کیجئے۔<sup>(۲)</sup> قسم کا کفارہ دس محتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے، اگر ہر محتاج کو

صدقے کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت دے دی جائے تب بھی درست ہے۔<sup>(۳)</sup>

## کافر ہونے کی قسم کھانا

سوال: ... اگر ایک آدمی یہ بولے کہ: ”میں کافر ہوں اگر میں نے یہ کام پھر کیا“ اور وہ کام پھر وہ آدمی کرے تو کیا وہ آدمی

گناہ گار ہوتا ہے یا کافر؟

جواب: ... اس سے کافر نہیں ہوتا، البتہ ان الفاظ سے قسم ہو جاتی ہے۔ اس لئے قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا لازم ہے، اور

ایسی بیہودہ قسم کھانا بڑا گناہ ہے، اس لئے اس شخص کو اپنی اس قسم پر توبہ کرنی چاہئے۔

(۱) عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أدرکہ وهو ركب وهو يحلف بأبيه فقال: إن اللہ ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم فمن كان حالفاً فليحلف باللہ أو ليسکت، الحدیث۔ (أبو داؤد ج: ۲ ص: ۱۰۷)۔ ومن حلف بغير اللہ لم یکن حالفاً کالنبی علیہ السلام والکعبة۔ (هندیة ج: ۲ ص: ۵۳، کتاب الأیمان، الباب الأول، هداية ج: ۲ ص: ۴۵۹)۔

(۲) تتعدد الکفارة لتعدد اليمين والمجلس والمجالس سواء۔ (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج: ۳ ص: ۵۷)۔

(۳) ولو دعا عشرة مساکين فغداهم وعشاهم أجزاء ذلك... إلى قوله... ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسکين قيمة نصف صاع أجزاء ذلك۔ (کتاب الأصل للإمام محمد الشيباني ج: ۳ ص: ۲۱۱)۔

(۴) إذا حلف الرجل... إلى قوله... أو قال هو يهودی أو نصرانی أو مجوسی... إلى قوله... فهذه كلها أیمان وإذا حلف بشيء منها يفعلن كذا وكذا فحنث وجبت علیه الکفارة۔ (کتاب الأصل للإمام محمد الشيباني ج: ۳ ص: ۱۷۵)۔ وان قال:

إن فعلت كذا فهو يهودی أو نصرانی أو كافر، يكون يمينا۔ (هداية ج: ۲ ص: ۴۶۱، وهندية ج: ۲ ص: ۵۳، ۵۴، وفتح القدير ج: ۳ ص: ۳۶۳، والدر المختار ج: ۱ ص: ۲۹۱)۔ وحكمها لزوم الکفارة عند الحنث۔ (هندية ج: ۲ ص: ۵۲)۔

ولأ يقال أن من نوى الكفر في المستقبل كفر في الحال وهذا بمنزلة تعليق الكفر بالشرط لأننا نقول ان من قال: إن فعلت كذا فأنا كافر، مراده الإمتناع بالتعليق ومن عزمه أن لا يفعل فليس فيه رضا بالكفر عند التعليق۔ (رد المحتار ج: ۳ ص: ۶۰)۔

وأيضاً: أنه لا يكفر إن كان عنده في اعتقاده أنه يمين وعليه كفارة اليمين۔ (تنقيح الحامدية، كتاب الأیمان والنذور ج: ۱ ص: ۸۶ طبع مكتبة حبيبيه كوئته)۔

## جھوٹی قسم کا کفارہ استغفار ہے

جھوٹی قسم کھانے کا کفارہ سوائے توبہ استغفار کے کچھ نہیں

سوال: ...قرآن شریف کے سامنے میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، کیونکہ میری زندگی کا مسئلہ تھا، اس کے لئے مجھے کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مجھے معاف فرمادیں؟

جواب: ...قسم کھا کر اگر آدمی قسم توڑ ڈالے تو اس کا توبہ کفارہ ہوتا ہے، لیکن اگر جھوٹی قسم کھالے کہ میں نے یہ کام کیا، حالانکہ نہیں کیا تھا، یا یہ کہ میں نے یہ نہیں کیا، حالانکہ کیا تھا، تو اس کا کفارہ سوائے توبہ استغفار کے کچھ نہیں۔<sup>(۱)</sup>

بھائی کے فائدے کے لئے جھوٹا حلف اٹھانے کا کفارہ

سوال: ...مسئلہ یہ ہے کہ میرے شوہر کے بھائی نے یہاں انڈیا کی جائیداد کے حصول کے لئے کلیم داخل کیا، میرے شوہر کو علم تھا کہ وہاں ان کی جائیداد ہے، میرے جیٹھ نے ان سے کہا کہ کلیم منظور کروانے میں ان کی مدد کریں۔ میرے شوہر نے ان کی مالی پریشانیوں سے متاثر ہو کر ان کی ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ کورٹ میں بھی کوششیں کیں، وہاں حلفیہ بیان کا موقع آیا تو چونکہ اور کوئی عزیز وغیرہ نہیں تھے، اس لئے میرے شوہر سے کہا گیا کہ جب آپ کو علم ہے تو حلفیہ بیان دیں۔ میرے شوہر نے حلفیہ بیان دے دیا، لیکن ان کو یہ یقینی علم نہیں تھا کہ کتنی جائیداد ہے؟ اس وقت سے ایک ذہنی اذیت ہے، حالانکہ ہم نے ان سے کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں کیا اور نہ ہی اس خیال سے ان کا کام کروایا تھا۔ وجہ اس ذہنی اذیت کی یہ ہے کہ میرے شوہر کے چچا نے وہاں جائیداد اپنے قبضے میں رکھی اور یہاں ان کے بھتیجے نے اس کا کلیم حاصل کر لیا۔ اس واقعے سے پہلے ہمارے حالات بہت پرسکون تھے، خوش حالی تھی، عزت تھی، لیکن اس کے فوراً بعد سے کوئی نہ کوئی ذہنی اور مالی پریشانی ہمیں لاحق رہی۔ اس بات کو کئی سال ہو گئے ہیں، لیکن ذہنی سکون نہیں ہے۔ مالی طور پر بھی حالات ٹھیک ہونے لگتے ہیں، لیکن پھر بجائے سدھرنے کے بگڑ جاتے ہیں۔ مستقل کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، برائے مہربانی اگر اس کا کوئی کفارہ ہو تو بتادیں۔

جواب: ...آپ کے شوہر نے بھائی کی مدد کے لئے عدالت میں جو جھوٹی قسم کھائی، اس کا کوئی کفارہ توبہ استغفار کے بغیر

(۱) وفيه الكفارة... إلى قوله... إن حنث. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ۳ ص: ۵۳). الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين يأنم فيها صاحبها لقوله عليه السلام من حلف كاذباً أدخله الله النار ولا كفارة فيها إلا التوبة والإستغفار. (هداية ج: ۲ ص: ۴۵۸، كتاب الأيمان).

نہیں ہو سکتا۔ جب ان کو معلوم تھا کہ انڈیا میں چچا جائیداد پر قابض ہے، تو بھائی کا کلیم داخل کرنا ہی ناجائز تھا، اور اس ناجائز کام کے لئے آپ کے شوہر کو جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہئے تھی۔ بہر حال اب جو غلطی ہو چکی ہے، اس کا تدارک توبہ و استغفار سے ہو سکتا ہے۔<sup>(۱)</sup>

## جھوٹے حلف نامے کا کفارہ

سوال: ... ایک مدت سے ذہنی کشمکش میں گرفتار ہوں، آپ سے رہنمائی کا طالب ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے میرے مسئلے کا حل بتائیں۔

میرا شمار ایک ماہر ڈاکٹر میں ہوتا ہے، کچھ عرصہ پہلے تک میں دین سے نا بلد تھا، تین سال قبل میں ایف آر سی ایس کرنے لندن گیا، وہاں انڈیا سے آئی ہوئی تبلیغی جماعت سے سامنا ہو گیا، اس کے بعد سے میری دنیا بدل گئی۔ حرام، حلال کا ادراک ہوا، آپ کا کالم بڑی باقاعدگی سے پڑھتا ہوں۔ پچھلے دنوں حرام کی کمائی کے متعلق آپ کا جواب پڑھا کہ کس طرح گھرانے کا سربراہ اپنے پورے گھر کو حرام کی کمائی کھلا رہا ہے، اور آپ نے جس طرح ڈوراندیشی سے اس کی بیوی کو صل بتایا کہ کسی غیر مسلم سے قرض لے کر گھر چلاؤ۔ میں اسی دن سے سخت مضطرب ہوں، میری کہانی یہ ہے کہ بظاہر اچھے نمبر ہونے کے باوجود جب کراچی میں میڈیکل میں داخلہ نہیں ملا تو میں نے جعلی ڈومیسائل بنا کر پنجاب میں ڈاکٹری میں داخلہ لے لیا اور وہاں ہی سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ اب ذہن میں یہ کشمکش ہے کہ چونکہ میں نے ڈومیسائل بنواتے وقت حلف نامہ داخل کیا کہ میں لاہور میں پیدا ہوا ہوں جو کہ جھوٹا حلف نامہ تھا۔ اس کے بعد مستقل رہائش یعنی پی آر سی بھی میں نے داخل کیا، اس کے لئے بھی جھوٹا حلف نامہ داخل کیا، تیسری غلطی یہ کہ جب ڈاکٹری کا فارم بھرا تو اس میں بھی جھوٹے حلف نامے داخل کئے، جھوٹے لاہور کے ایڈریس لکھے۔ اب آپ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ فرمائیں کہ ڈگری حاصل کرنے کے لئے میں نے حلال اور حرام میں تمیز نہیں کی، جھوٹے حلف نامے داخل کئے، جھوٹ پر مبنی سرٹیفکیٹ (ڈومیسائل اور پی آر سی) جمع کرائے، اگر میں یہ سب کچھ نہ جمع کراتا تو آج ڈاکٹر نہ ہوتا، نہ ہی داخلہ ملتا، اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو مجھے ڈگری عطا ہوئی ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور اس ڈگری کی وجہ سے جو آمدنی ہو رہی ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ آیا حرام کمائی میں شمار ہو گا یا حلال کمائی کہلائے گی؟ آپ مجھے آگاہ کریں کہ آیا میری کمائی جو ڈاکٹری کے پیشے سے ہوئی ہے وہ حلال ہے یا نہیں؟ اگر حلال نہیں تو میں کچھ اور کام کر کے اپنے اہل و عیال کو حلال کمائی کھلا سکوں۔

(۱) فالغموس ہی الحلف علی امر ماض تعمد فیہ الکذب مثل أن يحلف علی شیء قد فعله ما فعله مع علمه بذالك، أو علی شیء لم يفعله لقد فعله مع علمه انه لم يفعله وقد يقع علی الحال أيضًا، رآ یختص بالماضی مثل أن يقول: والله ما لهذا علی دین، وهو كاذب أو يدعی علیه حق فيحلف بالله ما يستحقه علی مع علمه باستحقاقه فهذه كلها یمن الغموس لأنه یقطع بها حق المسلم والتجری علی الله تعالی وسمیت غموسًا لأنها تغمس صاحبها فی النار قوله فهذه الیمن یأثم بها صاحبها لقوله علیه السلام: من حلف بالله كاذبًا أدخله الله النار، قوله ولا كفارة لها إلا الاستغفار، یعنی مع التوبة لقوله تعالی: ان الذین یشترون بعهد الله وأیمانهم ثمنًا قليلًا أولئك لا خلاق لهم فی الآخرة. (الجوهرة النيرة ج: ۲ ص: ۲۸۶-۲۸۷، کتاب الایمان). أيضًا: غموس وهو الحلف ..... فی الماضی أو الحال یتعمد الکذب فیہ ..... یأثم فیها صاحبها وعلیه فیها الاستغفار والتوبة. (عالمگیری ج: ۲ ص: ۵۲، کتاب الایمان، الباب الأول).

جواب: ... آپ نے جھوٹے حلف نامے داخل کئے ان کا آپ پر وبال ہوا، جن سے توبہ لازم ہے۔ جھوٹی قسم کھانا شدید ترین گناہ ہے، اس کے لئے آپ اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر توبہ کریں<sup>(۱)</sup>۔ جہاں تک آپ کی ڈاکٹری کا تعلق ہے، اگر آپ نے ڈاکٹری کا امتحان پاس کیا ہے اور اس میں کوئی گھپلا نہیں کیا اور آپ میں صحیح طور ڈاکٹری کی استعداد موجود ہے تو آپ کا یہ ڈاکٹری کا پیشہ جائز ہے۔

## جھوٹی قسم

سوال: ... میرا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے میری ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی تھی، اس لڑکے کے ہم پر بہت احسان ہیں، ہمارے ہاں مالی پریشانی کے سبب اس نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد میں بدنامی کے ڈر سے اس سے کترانے لگی، اس عرصے میں ہم دوسری جگہ منتقل ہو گئے، جہاں کا اس کو پتا معلوم نہیں تھا۔ میں ملازمت کرتی ہوں، اور وہ بھی ایک بینک میں ملازمت کرتا ہے۔ ایک دن اس سے میری باہر ملاقات ہو گئی۔ ایک بات بتا دوں کہ وہ کسی بھی طرح ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، اور اس سے چھپتی پھر رہی ہوں۔ ایک دن اس نے مجھے باہر دیکھا تو راستے میں روک لیا۔ میں لوگوں کی وجہ سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس وقت اس سے پیچھا چھڑانے کے لئے کہا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کو میری بات کا یقین نہ آیا، ہر تھوڑی دیر بعد مجھ سے اس بارے میں پوچھتا، ہر دفعہ میرا جواب یہی ہوتا، پھر اس نے اپنی بے یقینی کو یقین میں بدلنے کے لئے گاڑی میں لگی ہوئی سورۃ کو اتارا جس کے آگے کی طرف کوئی اور سورۃ تھی، اور پیچھے کی طرف چاروں قل لکھے ہوئے تھے، پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اس پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ واقعی میرا نکاح ہو چکا ہے۔ میں چونکہ واقعی اس سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ میرے لئے مستقل بدنامی کا سبب بنتا جا رہا تھا، اس لئے میں نے ہاتھ رکھ کر کہہ دیا۔ اس کے بعد میں نے فوراً استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے مقدس کلام پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولا جائے، مگر اس وقت میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کا آسان حل تحریر فرمائیں۔

جواب: ... آپ نے ٹھیک کیا، آئندہ اس لڑکے سے بات نہ کی جائے، اور چاروں قل کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوا، اللہ

تعالیٰ معاف فرمائے، استغفار کرتی رہیں، واللہ اعلم!

## کسی حقیقی مجرم کے خلاف بن دیکھے جھوٹی گواہی دینا

سوال: ... میں نے اپنے ایک بہت ہی عزیز دوست کے کہنے پر ایک مجرم کے خلاف گواہی دی، حالانکہ میں گواہ نہیں تھا، لیکن اس نے جرم کیا ضرور تھا، اور ثبوت بھی ہے۔ وہ مجرم رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے اور میرے دوست نے ہی اسے گرفتار کیا تھا، اس کام کے لئے مجھے عدالت میں خدا کی قسم کھانی پڑی جو کہ جھوٹی تھی، کیا اس رویہ سے میں گناہ کا مرتکب ہوا؟ اور اگر ہوا تو اس کا کیا کفارہ ہے؟

(۱) الیمین الغموس فالغموس هو الحلف علی امر ماضٍ یتعمد الکذب فیہ فہذہ الیمین یأثم فیہا صاحبہا ولا کفارة فیہا إلا التوبۃ والاستغفار۔ (ہدایۃ ج: ۲ ص: ۲۷۸ کتاب الایمان)۔

جواب: ... وہ شخص اگرچہ مجرم تھا، مگر آپ چونکہ چشم دید گواہ نہیں تھے، اس لئے آپ کو جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہئے تھی، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا کفارہ توبہ و استغفار کے سوا کچھ نہیں۔<sup>(۱)</sup>

## جھوٹی قسم اٹھانا سخت گناہ ہے، کفارہ اس کا توبہ ہے

سوال: ... آج سے تقریباً ۱۷ سال پہلے میں نویں یا دسویں جماعت کا امتحان دے رہا تھا، امتحان کے سلسلے میں مجھے سٹی کورٹ جانا پڑا اور وہاں پر حلف نامہ بھرا تھا امتحان دینے کے سلسلے میں، اور مجھے یاد نہیں کہ اس حلف نامے میں کیا لکھا تھا؟ آیا کہ حلف نامے میں صحیح باتیں لکھوائی تھیں یا غلط؟ یاد نہیں۔

ابھی تقریباً دو ماہ ہوئے میں نے نیا شناختی کارڈ بنوایا ہے، شناختی کارڈ کے فارم میں ایک جگہ حلف نامہ ہے، جس میں لکھا ہے کہ پہلے پاسپورٹ بنوایا ہے یا نہیں؟ میں نے لکھ دیا کہ نہیں بنوایا ہے، حالانکہ پہلے پاسپورٹ بنوایا ہے، اس لحاظ سے حلف نامے میں غلط بیانی سے کام لیا، اس لحاظ سے جو غلطی میں نے کی اس کا بعد میں خیال آیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ میں اپنی غلطی کس طرح سے دور کروں؟ چونکہ مجھے حلف نامے کی اہمیت کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا۔

جواب: ... جھوٹی قسم اٹھانا بہت سخت گناہ ہے، اس سے خوب ندامت کے ساتھ توبہ کرنا چاہئے، یہی اس کا کفارہ ہے۔<sup>(۲)</sup>

## جھوٹی قسم کھانا کبیرہ ہے

سوال: ... اگر کوئی شخص جذباتی ہو کر غصے میں یا جان بوجھ کر قرآن کی قسم کھالے تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ؟ اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟

جواب: ... جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے، اس کا کفارہ توبہ و استغفار ہے۔<sup>(۳)</sup> اور اگر یوں قسم کھائی کہ فلاں کام نہیں کروں گا، اور پھر قسم توڑ دی تو دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے، اگر نہیں کھلا سکتا تو تین دن کے روزے رکھے۔<sup>(۴)</sup>

(۱) الحلف علی إثبات شیء أو نفيه فی الماضي أو الحال يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها وعليه فيها الاستغفار والتوبة دون الكفارة. (هندية ج: ۲ ص: ۵۲، كتاب الأيمان، الباب الأول).

(۲) عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبورة كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. الحديث. (أبو داود ج: ۲ ص: ۱۰۶). الحلف على إثبات شيء أو نفيه في الماضي أو الحال يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها وعليه فيها الاستغفار والتوبة دون الكفارة. (هندية ج: ۲ ص: ۵۲ طبع مكتبة رشيدية كوئٹہ).

(۳) ولنا أنها أى اليمين الغموس كبيرة محضنة لقوله عليه الصلاة والسلام: خمس من الكبائر لا كفارة فيهن وذكر منها الغموس. (الكفاية على هامش فتح القدير ج: ۴ ص: ۳۳۸ طبع مكتبة رشيدية، كذا فى السنن الكبرى للبيهقى ج: ۱۰ ص: ۳۵). فالغموس هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار. (هداية ج: ۲ ص: ۴۵۸).

(۴) وحكم اليمين بالله تعالى عند الحنث وجوب الكفارة. (قاضى خان ج: ۲ ص: ۲۸۶ طبع مكتبة حافظ كتب خانہ كوئٹہ). "فَكَفَّرْتَهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتَهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ" (المائدة: ۸۹). (كذا فى الهداية ج: ۲ ص: ۴۶۱).



## جبراً قرآن اٹھانے کا کفارہ

سوال: ... ڈر یا خوف سے جھوٹا قرآن مجید اٹھوانے کا کفارہ کیا ادا کرنا پڑے گا؟ اور کیا قرآن مجید اٹھوانے والے کو بھی

گناہ ہوگا؟

جواب: ... جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لئے قرآن کریم اٹھانا بڑا سنگین گناہ ہے، توبہ و استغفار سے یہ گناہ معاف کرانا

چاہئے، یہی اس کا کفارہ ہے۔<sup>(۱)</sup> اور قرآن اٹھوانے والا بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے۔<sup>(۲)</sup>

## مجبوراً اٹھائی ہوئی جھوٹی قسم کا کفارہ

سوال: ... ایک غیر ملک میں جہاں کے قوانین انتہائی سخت ہیں، شدید خوف کے تحت میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا:

”میں نے وہ کام نہیں کیا“ جو اصل میں نے کیا تھا۔ بعد ازاں توبہ کے لئے روزے رکھے، قرآن پاک خرید کر مسجدوں میں رکھے۔

استغفار کا ورد ہر وقت جاری رکھا، مگر دل سے بوجھ نہیں اترتا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس گناہ کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ میں نے مجبور

ہو کر عجلت میں قرآن پر ہاتھ رکھ دیا، اس دن سے میری معاشی، معاشرتی، دینی، اخلاقی اور جسمانی حالت تنزل پذیر ہے۔ میرے اس

گناہ کو دس سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ برائے مہربانی مجھے کفارہ ادا کرنے کا کوئی طریقہ تجویز فرمائیں۔

جواب: ... جھوٹی قسم کھانا، اس کا کوئی کفارہ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑایا جائے، اور گڑگڑا کر معافی

مانگی جائے۔<sup>(۳)</sup> اور قرآن کریم اٹھانا، یہ بہت بڑی جرأت ہے! ... بہر حال اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی

غلطی کو معاف فرمائیں۔ صلوٰۃ توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب گڑگڑا کر معافی مانگیں، اور جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے، بدستور توبہ

کرتے رہیں۔ فرائض شرعیہ کو بجالائیں، اور اپنی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائیں۔

## سودا بیچنے کے لئے جھوٹی قسم کھانا

سوال: ... یہ جو ہمارے اکثر گھرانوں میں بات بے بات قسم خدا، قسم قرآن کی کھاتے ہیں، چاہے وہ بات سچی ہو یا جھوٹی،

لیکن عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ فرمائیے تو مہربانی ہوگی کہ ان سچی جھوٹی قسموں کی کیا سزا ہے؟ ہمارے اکثر

تاجر حضرات جن سے ہمارا روزانہ واسطہ پڑتا ہے، مثلاً: کپڑے کے تاجر وغیرہ وہ بھی اپنا مال بیچنے کے لئے پانچ منٹ میں تقریباً کتنی ہی

قسمیں کھاتے اور کہتے ہیں کہ یہ بھاؤ ایمان داری کا بھاؤ ہے۔ چاہے وہ بھاؤ سچا ہو یا جھوٹا۔ اور اکثر اسی بھاؤ میں کمی کرتے ہیں اور کہتے

(۱) غموس وهو الحلف على إثبات شيء أو نفيه في الماضي أو الحال يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين ياثم فيها صاحبها

وعليه فيها الاستغفار والتوبة دون الكفارة. (عالمگیری ج: ۲ ص: ۵۲، کتاب الایمان، الباب الأول).

(۲) ”ولا تعاونوا على الإثم والعدوان“ (المائدة: ۲).

(۳) فالغموس هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين ياثم فيها صاحبها لقوله عليه السلام: من حلف كاذباً

أدخله الله النار، ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار. (هداية ج: ۲ ص: ۲۷۸ کتاب الایمان).

ہیں کہ ہم آپ کی خاطر تھوڑا نقصان اٹھا رہے ہیں خدا کی قسم ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور قرآن کی قسم ہم نے آپ سے ایک پائی بھی منافع نہیں لیا۔ حالانکہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تاجر حضرات ہمارے لئے نقصان اٹھائیں اور کاروں میں گھومیں؟ جواب ضرور دیں۔

جواب:.... جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اگر کسی کو اس کی عادت پڑ گئی ہو تو اس کو توبہ کرنی چاہئے اور اپنی اصلاح کرنی چاہئے۔ سودا بیچنے کے لئے قسم کھانا اور بھی بُرا ہے۔<sup>(۱)</sup> حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تاجر لوگ بدکاروں کی حیثیت میں اٹھائے جائیں گے سوائے اس تاجر کے جو خدا سے ڈرے اور غلط بیانی سے باز رہے۔<sup>(۲)</sup>

## زبردستی قرآن اٹھوانے والے بھائی سے قطع تعلق کرنا

سوال:.... بچوں کی شادی کی بات کے سلسلے میں میرے بڑے بھائی نے مجھ سے زبردستی قرآن شریف اٹھوایا ہے، جبکہ میں نے انہیں ہر طرح مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ یہ بات میں نے نہیں کی ہے، تو وہ اپنی بات پر اڑے رہے کہ نہیں تم نے ہزار لوگوں کے سامنے یہ کہا ہے کہ میں اپنے بچے کی شادی تمہارے گھر میں یعنی تمہاری بیٹی سے نہیں کروں گا۔ حالانکہ یہ بات میں نے بخدا کسی سے بھی نہیں کہی ہے، لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ: اگر مان بھی لیا کہ میں نے یہ بات ہزار لوگوں میں کہی ہے تو کوئی ایک بھی گواہ لے کر آؤ اور اس کے سامنے مجھے جھوٹا کرواؤ۔ لیکن وہ ایک بھی گواہ نہیں لائے اور مجھے کہا کہ: میں گواہ نہیں لاتا، اگر تم قرآن شریف اٹھا کر قسم نہیں کھاؤ گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم جھوٹے ہو۔ اور ایسی باتیں کہیں کہ مجھے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہا کہ قرآن شریف اٹھا کر اپنی سچائی کو ثابت کر سکوں، لہذا مجبوراً قرآن شریف اٹھا کر اپنی سچائی ثابت کر دی۔ پھر میں نے یہ کہا کہ: اب تو میں نے سچائی ثابت کر دی، اب رشتہ ہوگا یا نہیں؟ تو وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے اور کہا کہ: رشتہ نہیں ہوگا۔ اور مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ میں ہر عید پر اور کبھی کبھی ان کے گھر چلا جاتا ہوں لیکن وہ ہم سے ملنا گوارا نہیں کرتے۔ قرآن و حدیث کی رو سے یہ بتائیں کہ کیا میں نے انتہائی مجبوری میں قرآن شریف اٹھا کر کوئی غلطی کی ہے جو کہ میں نے صرف اور صرف اپنی سچائی ثابت کرنے کے لئے اٹھایا تھا؟ اور کیا یہ ان کا اقدام درست تھا جبکہ یہ معاملہ گفت و شنید کے ذریعہ بھی حل ہو سکتا تھا؟ لیکن انہوں نے کسی بات کو بھی سننا گوارا نہ کیا، تو اس کے بارے میں بھی لکھیں کہ ذرا ذرا سی بات پر قرآن شریف اٹھوانا کیسا ہے؟ اور اس کی کیا سزا ہے؟ تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو۔

(۱) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الكبائر؟ قال: الإشراف بالله... إلى قوله... قال: ثم اليمين الغموس. قال: فقلت لعامر: ما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقطع مال امرئ مسلم بيمينه وهو فيها كاذب. (بيهقي ج: ۱۰ ص: ۳۵). عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف في البيع! فإنه ينفق ثم يمحق. (مشکوٰۃ ص: ۲۳۳، باب المساهلة في المعاملة).

(۲) عن عبید بن رفاعہ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التُّجَّارُ يَحْشُرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَّقَ. (ترمذی، کتاب البیوع ج: ۱ ص: ۱۴۵ طبع میر محمد).

جواب: ... انہوں نے آپ کو قرآن مجید اٹھوانے پر جو مجبور کیا، یہ ان کی غلطی تھی، لیکن اگر آپ نے سچائی پر قرآن مجید اٹھایا ہے تو آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ ان کا آپ سے قطع تعلق کر لینا بھی ان کی غلطی ہے، کیونکہ رنجش کی وجہ سے اپنے عزیزوں سے قطع تعلق کر لینا بڑا سنگین گناہ ہے، جس کا وبال دنیا و آخرت دونوں میں بھگتنا ہوگا۔<sup>(۱)</sup> بہر حال اگر وہ آپ سے قطع تعلق رکھیں تب بھی آپ ان سے قطع تعلق نہ کریں اور ان کی بُرائی بھی نہ کریں، وہ خود اپنے کئے کا پھل پائیں گے۔<sup>(۲)</sup>

(۱) عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلنی وصلہ اللہ، ومن قطعنی قطعہ اللہ. وأيضاً: عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. (مشکوٰۃ ص: ۴۱۹، باب البر والصلة، الفصل الأول).

(۲) عن حذيفة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون: إن أحسن الناس أحسنًا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساؤا فلا تظلموا. (ترمذی، باب ما جاء فی الإحسان والعفو ج: ۲ ص: ۲۱ طبع میر محمد کتب خانہ کراچی). قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ألا أدلکم علی اکرام اخلاق الدنيا والآخرة، تعفوا عمن ظلمکم وتعطى من حرمک وتصل من قطعک. (السنن الكبرى للبيهقي ج: ۱ ص: ۲۳۵، کتاب الشهادات، باب شهادة أهل العصبية).

## قسم توڑنے کا کفارہ

قسم توڑنے کے کفارہ کے روزے لگاتا رکھنا ضروری ہے

سوال: ... قسم توڑنے کے کفارہ میں تین روزے مسلسل رکھنا ضروری ہے یا فاصلے سے رکھے جاسکتے ہیں؟

جواب: ... بعض روایات میں کفارہ قسم کے روزوں کو پے درپے مسلسل رکھنے کا حکم آتا ہے، اسی لئے امام اعظم ابوحنیفہؒ اور

بعض دوسرے ائمہؒ کا بھی ان روزوں میں یہی مذہب ہے کہ ان روزوں کو مسلسل رکھنا ضروری ہے۔<sup>(۱)</sup>

قسم کے کفارہ کا کھانا دس مسکینوں کو وقفے وقفے سے دے سکتے ہیں

سوال: ... قسم توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلانا ہے، اب مشکل یہ ہے کہ دس مسکین بیک وقت ملتے نہیں، تو کیا

ایسا کر سکتے ہیں کہ دو چار دن کے وقفے سے چند مسکین کو آج کھلادیا اور چند کو کچھ دن بعد؟ اس طرح دس مسکینوں کا دو وقتہ میزان وقفوں کے ساتھ پورا کر دیں تو یہ جائز ہوگا کہ نہیں؟

جواب: ... اس طرح بھی درست ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ ایک ہی مسکین کو دو وقتہ کھلائیں، مثلاً: اگر دس محتاجوں کو ایک

وقت کا کھلایا، اور دوسرے دس محتاجوں کو دوسرے وقت کا کھلایا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا (الجوهرة النيرة ج: ۲ ص: ۲۵۲)۔

قسم کے کفارہ کا کھانا بیس تیس مسکینوں کو اکٹھے کھلادینا

سوال: ... آپ نے قسم توڑنے کا کفارہ بتایا ہے کہ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلایا جائے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دیگ

پکا کر ایک ہی وقت میں بیس تیس مسکینوں کو کھانا کھلادیا جائے؟

جواب: ... جی نہیں! اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ دس محتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا شرط ہے، اگر بیس آدمیوں کو ایک

ہی وقت کھلادیا یا دس محتاجوں کو ایک وقت اور دوسرے دس کو دوسرے وقت کھلایا تو کفارہ ادا نہیں ہوا، بلکہ جن دس محتاجوں کو ایک وقت

(۱) عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات. (السنن الكبرى للبيهقي ج: ۱۰ ص: ۶۰)۔

فعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعات فإن صامها متفرقة لم يجز عنه. بلغنا أنه في قراءة ابن مسعود: "ثلاثة أيام متتابعة"۔

(المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ج: ۲ ص: ۲۲۷ طبع إدارة القرآن)۔ فإن لم يقدر على أحد هذه الأشياء الثلاثة، صام

ثلاثة أيام متتابعات. (قدوری ص: ۲۰۳، وھندیة ج: ۲ ص: ۶۱ ورد المختار ج: ۳ ص: ۶۷ طبع مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔

کھلایا انہی کو دوسرے وقت کھلانا لازم ہے۔ ہاں! یہ جائز ہے کہ دس محتاجوں کو دو دن صبح کا یا دو دن شام کا کھانا کھلا دے۔<sup>(۱)</sup>

## قسم کا کفارہ کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا اور کس طرح کھلانا ہے؟

سوال: ... اگر کسی شخص پر کسی قسم کا کفارہ ہو، اور اس کو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے تو کیا اس کو سب کو ایک ہی مرتبہ میں کھلانا ہوگا؟ یا ہر مہینے تھوڑے تھوڑے فقراء کو کھلا سکتا ہے؟

جواب: ... قسم توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صبح جن مسکینوں کو کھلایا، شام کو بھی انہی کو کھلائے، یا ہر محتاج کو صدقہ فطر کے برابر نقد رقم دیدے، یعنی فی کس بیس روپے۔ قسم توڑنے کا کفارہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## نابالغ پر قسم توڑنے کا کفارہ نہیں

سوال: ... تقریباً دس بارہ سال کی عمر میں، میں نے قسم توڑی تھی، آیا اس کا کفارہ مجھ پر لازم آتا ہے؟

جواب: ... نابالغ پر قسم توڑنے کا کفارہ نہیں، پس اگر تو آپ قسم کھاتے وقت نابالغ تھے تو آپ کے ذمہ کفارہ نہیں، اور اگر بالغ تھے (کیونکہ بارہ سال کا لڑکا بالغ ہو سکتا ہے) تو کفارہ ادا کیجئے۔<sup>(۳)</sup>

(۱) وان أطعم مسکیناً واحداً عشرة أيام غداء وعشاء أجزاءه ..... ولو غدى عشرة وعشى عشرة غيرهم لم يجزى، وكذا إذا غدى مسکیناً وعشى آخر عشرة أيام لم يجزى. (فتاوى عالمگیری ج: ۲ ص: ۶۳ طبع رشیدیة).

(۲) "فَكَفَّرْتَهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ" (المائدة: ۸۹). وان شاء أطعم ستين مسکیناً كالإطعام في كفارة الظهار. وفي الشرح ..... كل مسکين نصف صاع من برّ أو دقيقه أو صاعاً من شعير أو تمر أو أكلتين شعبتين. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الأيمان ج: ۳ ص: ۱۰۸).

(۳) ففي الحالف أن يكون عاقلاً بالغاً فلا يصح يمينا المجنون والصبى وان كان عاقلاً. (هنديّة ج: ۲ ص: ۵۱). التكليف بالإسلام والعقل والبلوغ نقلًا عن الحواشي السعدية. (رد المختار ج: ۳ ص: ۵۰ طبع مكتبه رشیدیة كونث، وفي البدائع ج: ۳ ص: ۱۰، كتاب الأيمان، فصل وأما شرائط ركن اليمين... الخ، طبع ايج ايم سعيد کمپنی).

## مختلف قسمیں جن سے کفارہ واجب ہوا

قسم خواہ کسی کے مجبور کرنے پر کھائی ہو کفارہ ادا کرنا ہوگا

سوال:.... اگر کوئی شخص قصداً مجبوراً قرآن شریف اٹھا کر قسم کھالے کہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا، اور یہ قسم وہ لوگوں کے مجبور کرنے پر کھاتا ہے تو کیا اس قسم کو توڑنے کے لئے کفارہ ادا کرنا پڑے گا یا کوئی اور طریقہ ہے؟

جواب:.... قسم خواہ از خود کھائی ہو یا کسی کے مجبور کرنے سے، اس کے توڑنے پر کفارہ لازم ہے،<sup>(۱)</sup> اور وہ ہے دس محتاجوں کو دو وقتہ کھانا کھلانا، اگر اتنی ہمت نہ ہو تو تین دن لگا تار روزے رکھے۔<sup>(۲)</sup>

قسم کا کفارہ قسم توڑنے کے بعد ہوتا ہے

سوال:.... میں نے قسم کھائی ڈیڑھ سال تک سگریٹ نہیں پیوں گا، لیکن کچھ عرصہ بعد میں نے ریڈیو پروگرام میں پوچھا کہ میری یہ قسم کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ ۶۰ غریبوں کی دعوت کریں یا ۳ روزے رکھیں۔ تو میں نے ۳ روزے رکھے اور اس کے بعد سگریٹ پینا شروع کر دی، تو کیا یہ میری قسم ٹوٹ گئی یا مجھے پھر ۶۰ غریبوں کی دعوت کرنی ہوگی؟

جواب:.... قسم کا کفارہ قسم توڑنے کے بعد لازم آتا ہے، آپ نے جب قسم توڑ دی تب کفارہ لازم آیا، قسم کا کفارہ دس محتاجوں کو کھانا کھلانا اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو تین روزے رکھنا۔<sup>(۳)</sup>

(۱) وفعل المحلوف عليه عامداً أو ناسئاً أو مكرهاً فهو سواء، وحكمها لزوم الكفارة عند الحنث. (هندية ج: ۲ ص: ۵۲، كتاب الايمان، الباب الأول، طبع مكتبة رشيدية كوئٹہ).

(۲) فَكَفَّرْتَهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ“ (المائدة: ۸۹). طعام الإباحة أكلتان مشبعتان غداء وعشاء. (هندية ج: ۲ ص: ۶۳ طبع رشيدية). لأن الواجب إشباع العشرة وإن غداهم وعشاهم. (هندية ج: ۲ ص: ۶۳ طبع رشيدية). فإن لم يقدر على أحد هذه الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات. (قدوری ص: ۲۰۳، هندية ج: ۲ ص: ۶۱ طبع مكتبة رشيدية كوئٹہ).

(۳) وإذا حلف الرجل على يمين فحنث فيها فعليه أي الكفارات شاء إن شاء أعتق وإن شاء أطعم عشرة مساكين وإن شاء كسى عشرة مساكين وإن لم يجد شيئاً من ذلك فعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعات. (المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ج: ۳ ص: ۱۹۶).

## ایک مہینے کی قسم کھائی اور مہینہ گزرنے کے بعد وہ کام کر لیا

سوال: ... ایک شخص نے قسم کھائی کہ ایک مہینے تک فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، کیا ایک مہینے کے بعد اگر کھالے تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا یا نہیں؟ اور اگر وہ چیز کئی دفعہ کھائی تو ایک مرتبہ کفارہ دینا پڑے گا یا جتنی مرتبہ کھائی اتنے کفارے دینے پڑیں گے؟

جواب: ... اگر مہینے کے اندر اندر وہ چیز کھائی تب تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور اگر مہینہ گزر گیا اور وہ چیز نہیں کھائی تو قسم پوری ہوگئی۔ بعد میں اگر کھائے تو کفارہ لازم نہیں<sup>(۱)</sup>۔ اسی طرح جب ایک بار قسم ٹوٹ گئی تو کفارہ واجب ہو گیا، اس کے بعد اس قسم کی پابندی لازم نہیں، اس لئے کئی بار کھانے سے ایک ہی کفارہ لازم ہوگا۔<sup>(۲)</sup>

## کسی کی گھریلو زندگی بچانے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر غلط بیانی کرنے کا کفارہ

سوال: ... اگر کوئی شخص کسی کی گھریلو زندگی کو بچانے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ کہے کہ: ”میں نے پہلے جو کہا تھا، وہ سب جھوٹ تھا“ جبکہ ایسا نہیں، تو اب اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ کیونکہ وہ شخص صرف اس لئے یہ بات کہہ رہا ہے کہ ایک لڑکی کے گھر والوں کی عزت رہ جائے اور اس لڑکی کی زندگی بچ جائے، اور اس طرح کرنے کو لڑکی اور اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں۔

جواب: ... اس گناہ کا کفارہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رورو کر معافی مانگے، یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ ان شاء اللہ گناہ معاف ہو گیا ہوگا۔<sup>(۳)</sup>

## اپنے ہاتھ میں پنج سورہ لے کر کسی عورت سے کہنا کہ ”کہو تم میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرو گی“ کا کیا کفارہ ہے؟

سوال: ... عرصہ چار سال پہلے ایک شخص نے اپنے ہاتھ میں پنج سورہ اٹھا کر مجھ سے کہا کہ: ”تم وعدہ کرو کہ میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرو گی“ اور مجھ سے زبردستی ایسا عمل کرنے کو کہا، لیکن میں اس سے کہتی رہی کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، اس میں میرا یا تمہارا کوئی دخل نہیں۔ اس کے بعد میرے والدین نے میری شادی کہیں اور کر دی، اور میری شادی ناکام ہوگئی، کیونکہ میرا شوہر ذہنی اور نفسیاتی مریض تھا۔ مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا مجھے کفارہ ادا کرنا چاہئے تھا یا نہیں؟ جس ناکردہ جرم کی سزا مجھے ملی، اگر کفارہ ادا کرنا چاہئے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟

جواب: ... اگر آپ نے اس شخص کے کہنے پر یہ قسم کھالی تھی کہ آپ اسی سے شادی کریں گی، تو آپ کے ذمے کفارہ لازم

(۱) واذا حلف الرجل علی یمین فحنث فیہا فعلیہ الکفارات۔ (مبسوط ج: ۳ ص: ۱۹۶، کتاب الایمان)۔

(۲) وتحل الیمین اذا وجد الشرط مرة۔ (الدر المختار ج: ۳ ص: ۵۳۲، کتاب الایمان، طبع رشیدیہ)۔ ایضاً حوالہ بالا۔

(۳) عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الکبائر: الإشراک باللہ وعقوق الوالدین

وقتل النفس والیمین الغموس۔ (مشکوٰۃ، باب الکبائر وعلامات النفاق ص: ۱۷، طبع قدیمی)۔

ہے۔ لیکن آپ کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس شخص سے شادی کرنے کی قسم نہیں کھائی، لہذا آپ کے ذمے کوئی چیز لازم نہیں، واللہ اعلم! (۱)

قرآن پر ہاتھ رکھ کر شوہر سے کہنا کہ: ”اگر آپ ابھی رات کو گئے تو میں کیڑے مار دوں کھالوں گی“ پھر نہیں کھائی

سوال: ... میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، شادی کو دو سال سے زیادہ ہونے والے ہیں، ایک رات میرا اور میرے شوہر کا جھگڑا ہو گیا، وہ ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر جانے لگے، میں نے انہیں روکنے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھائی کہ: ”اگر آپ ابھی رات کو گئے، تو میں کیڑے مارنے کی دوا (جو اس وقت کمرے میں ہی رکھی تھی) کھالوں گی“ مگر میرے شوہر نے میری بات نہ سنی اور چلے گئے، بعد میں ہماری صلح ہو گئی، اور میں نے اس رات وہ دوا بھی نہیں پی۔ پوچھنا یہ ہے کہ میں نے جو قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی، اب اس کا کفارہ کیسے ادا کروں؟

جواب: ... میری بہن! میاں بیوی کے درمیان ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایسی غلط قسم ہرگز نہیں کھانی چاہئے۔ اس سے توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ چونکہ آپ نے قسم توڑ دی ہے، اس لئے دس محتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلاؤ، یا فی محتاج ۲۵ روپے کسی دینی ادارے میں بھیج دو، اور ان کو ہدایت کر دو کہ یہ طالب علموں کی خوراک پر خرچ کی جائے۔ (۲)

کسی اہم مسئلے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانا

سوال: ... کیا کسی اہم مسئلے کے لئے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانا جائز ہے؟

جواب: ... قسم کی تاکید کے لئے ایسا کیا جاتا ہے، سچی قسم کھانا اس طرح جائز ہے، اور جھوٹی قسم کھانا گناہ درگناہ! (۳)

جھوٹی قسم کے لئے قرآن ہاتھ میں لینا

سوال: ... اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کھالے اس طرح کہ ہاتھ میں قرآن بھی لے لے، تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟

جواب: ... صرف قرآن ہاتھ میں لینے سے تو قسم نہیں ہوتی، اگر اس کے ساتھ زبان سے بھی قسم کھائی ہو تو اس قسم کو توڑنے کا

(۱) وإذا حلف الرجل على يمين فحنت فيها فعليه الكفارة. (مبسوط ج: ۳ ص: ۱۹۶، کتاب الايمان).

(۲) ”فكفرتُه اطعام عشرة مسكينين من اوسط ما تطعمون اهليكم“ (المائدة: ۸۹).

(۳) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. (مشکوٰۃ، باب الكبائر وعلامات النفاق ص: ۱۷). وقال محمد بن مقاتل الرازي: لو حلف بالقرآن قال يكون يمينا. (عالمگیری ج: ۲ ص: ۵۳، کتاب الايمان، الباب الثاني).



کفارہ یہ ہے کہ دس محتاجوں کو دو دفعہ کھانا کھلائے، یا تین دن کے لگاتار روزے رکھے۔<sup>(۱)</sup>

## قرآن پاک پر ہاتھ رکھے بغیر زبانی قسم بھی ہو جاتی ہے

سوال: ... میرے ایک دوست نے قرآن پاک کی قسم کھائی تھی کہ اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم سیریز ہار گئی تو میں ٹی وی پر کرکٹ دیکھنا چھوڑ دوں گا۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم سیریز ہار گئی، مگر میرا دوست ٹی وی دیکھتا ہے۔ جب میں نے اپنے دوست کو کہا کہ آپ پہلے کفارہ ادا کریں پھر ٹی وی دیکھیں، مگر میرے دوست نے کہا کہ میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم نہیں کھائی اور زبانی قسم نہیں ہوتی۔

جواب: ... اس کی قسم ٹوٹ گئی، اس پر قسم کا کفارہ لازم ہے۔<sup>(۲)</sup>

## دکان داروں کا قرآن کریم لے کر عہد کرنا کہ کم قیمت پر چیز نہ بیچیں گے، اس کی شرعی حیثیت

سوال: ... ہم کچھ دکان دار، ہاتھ میں قرآن پاک لے کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم سب کمپنی کی مقرر کردہ قیمت سے کوئی سامان کم قیمت پر فروخت نہیں کریں گے۔ کیا یہ حلف اٹھانا شرعی اعتبار سے درست ہے؟

جواب: ... ایسا حلف اٹھانا درست نہیں، اور حلف اٹھا کر اگر توڑ دیا ہو تو قسم کا کفارہ یعنی دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا یا اس کی قیمت ادا کر دینا چاہئے۔ ایک مسکین کو سترہ اٹھارہ روپے دے دیئے جائیں۔<sup>(۳)</sup>

## رشوت نہ لینے اور داڑھی نہ کاٹنے کی قسم توڑ دینا

سوال: ... میں نے مسجد میں قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ آج کے بعد میں رشوت نہیں لوں گا، مگر کچھ دنوں کے بعد پھر یہ کام شروع کر دیا۔

۲: ... میں نے داڑھی کے بارے میں بھی کہا کہ آج کے بعد داڑھی نہیں کاٹوں گا، لیکن کچھ دن کے بعد پھر کاٹ دی۔ ان دونوں صورتوں میں مجھے کیا کفارہ ادا کرنا چاہئے؟

جواب: ... آپ نے اچھا نہیں کیا کہ نیک کام کے لئے آپ نے قسم کھائی تھی، یعنی آئندہ رشوت نہیں لوں گا، مگر اس کے بعد پھر یہ کام شروع کر دیا۔

(۱) ورکنها اللفظ المستعمل فيها۔ (الدر المختار علی رد المحتار ج: ۳ ص: ۵۰ طبع مکتبہ رشیدیہ)۔ واذ حلف الرجل علی یمین فحنث فیها فعلیه ای الکفارات شاء ان شاء اعتق وان شاء اطعم عشرة مساکین وان شاء کسی عشرة مساکین وان لم یجد شیئاً من ذلك فعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعات۔ (المبسوط لمحمد بن الحسن الشیبانی ج: ۳ ص: ۱۹۶، کتاب الایمان)۔

(۲) ایضاً۔

(۳) "فَكَفَّرْتُهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ" (المائدة: ۸۹)۔

۲: ... اسی طرح آپ نے وعدہ کیا تھا کہ داڑھی نہیں کاٹوں گا، اور اسی پر آپ نے قسم بھی کھائی تھی، مگر پھر قسم توڑ دی۔ ان دونوں قسموں کے توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک قسم کے بدلے دس محتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلائیں<sup>(۱)</sup>، یا ہر ایک محتاج کو تقریباً بیس روپے دے دیں۔ دو قسموں کا کفارہ بیس مسکینوں کو بیس بیس روپے دینا ہے۔ اگر اس بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو مجھے خط لکھیں۔

### قرآن پر ہاتھ رکھ کر خدا سے کیا ہوا وعدہ توڑ دینا

سوال: ... اگر ایک مسلمان آدمی قرآن پاک کو ہاتھ لگا کر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن وہ شخص وہی گناہ دوبارہ کر لیتا ہے اور اس طرح وہ قسم یا اللہ تعالیٰ سے وعدہ توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، کیا ایسے شخص کی نجات ممکن ہے یا نہیں؟

جواب: ... اس شخص کو توبہ کرنی چاہئے، اور خوب گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہئے، اور قسم جو اس نے توڑ دی ہے اس کا کفارہ لازم ہے کہ دس محتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے یا ہر محتاج کو سات آٹھ روپے نقد دیدے<sup>(۲)</sup>۔ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہیں، نجات کی امید ضرور رکھنی چاہئے۔

### خدا تعالیٰ سے عہد کر کے توڑ دینا بڑی سنگین غلطی ہے

سوال: ... آج سے چار سال قبل میں نے کسی بات پر ”قرآن مجید“ اٹھالیا تھا، یعنی یہ کہ ”قرآن حکیم“ پر ہاتھ رکھ کر عہد کر لیا تھا کہ فلاں بات اب نہیں کروں گا۔ لیکن پھر غفلت میں وہ بات کر بیٹھا اور مسلسل چار سال تک کرتا رہا۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لائٹھی بے آواز ہے، اب مجھے اس گناہِ عظیم کی سزا ملنا شروع ہو گئی ہے تو خیال آیا۔ بہر حال میں اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں وہ بڑا بخشنے والا رحیم اور کریم ہے، اب میں سخت نادم ہوں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہتا ہوں۔ آپ صرف اتنا بتادیں کہ اس قسم کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟ میں ان دنوں سخت پریشان ہوں، آپ جلد از جلد اخبار کے ذریعہ جواب سے نوازیں اور مجھ گناہ گار کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہِ عظیم کو معاف کرے اور مجھ پر رحم کرے۔

جواب: ... خدا تعالیٰ سے عہد کر کے توڑ دینا بڑی سنگین بات ہے۔<sup>(۳)</sup> شکر کیجئے کہ آپ کو اس کی سزا نقد مل گئی، اور آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ خدا تعالیٰ سے معافی مانگئے اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کیجئے، اور قسم کا کفارہ ہے دس محتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا،

(۱) "فَكَفَّرْتَهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ" (المائدة: ۸۹)۔

(۲) ایضاً۔

(۳) ولو دعا عشرة مساكين فغداهم وعشاهم أجزاءه ذلك... إلى قوله... ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين قيمة نصف صاع أجزاءه ذلك۔ (كتاب الأصل للإمام محمد الشيباني ج: ۳ ص: ۲۱۱)۔ وحكم اليمين بالله تعالى عند الحنث وجوب الكفارة۔ (قاضی خان علی ہامش الہندیہ ج: ۲ ص: ۲، کتاب الایمان، طبع رشیدیہ)۔

(۴) "وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا" (النحل: ۹۱)، "وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ" (المائدة: ۸۹)۔

اور اگر اس کی گنجائش نہ ہو تو تین دن کے روزے رکھنا۔<sup>(۱)</sup>

کسی کاراز فاش نہ کرنے کا عہد کر کے ایسے شخص کو بتانا جس کو پہلے معلوم ہو

سوال: ... اگر کوئی شخص یہ عہد کرے کہ میں کسی کاراز کسی کو نہیں بتاؤں گا، پھر کسی ایسے شخص کو یہ راز بتادے جس کو پہلے سے معلوم ہو، تو یہ عہد کی خلاف ورزی شمار ہوگی؟ اور کیا یہ گناہ میں داخل ہے؟

جواب: ... گناہ گار بھی ہوگا اور عہد کی خلاف ورزی کی وجہ سے قسم توڑنے کا کفارہ بھی لازم آئے گا۔<sup>(۲)</sup>

”تمباکو استعمال نہ کروں گی“ کا عہد کر کے توڑ دیا تو کفارہ ہوگا

سوال: ... آج سے تقریباً آٹھ سال پہلے میں نے کسی گھریلو جھگڑے کی وجہ سے قرآن شریف ہاتھ میں لے کر عہد کیا کہ تمباکو استعمال نہ کروں گی۔ تین سال پہلے عہد توڑ دیا، اب اس کا کفارہ کیا ادا کروں؟

جواب: ... قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دیجئے، دس محتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا... اگر پونے دو کلو غلہ ہر محتاج کو دے دیا جائے تو بھی ٹھیک ہے... اگر اس کی گنجائش نہ ہو تو تین دن کے روزے رکھیں۔<sup>(۳)</sup>

گناہ نہ کرنے کی قسم کا توڑنا

سوال: ... میں نے قرآن مجید کی قسم کھائی تھی کہ میں کوئی گناہ کام زندگی بھر نہیں کروں گا، مگر میں یہ قسم توڑنا چاہتا ہوں، مجھ پر سخت گناہ تو نہ ہوگا؟ اور اس کا کفارہ کیا ادا کرنا پڑے گا؟

جواب: ... اگر آپ نے بُرا کام نہ کرنے کی قسم کھائی تھی تو قسم توڑنا بہت بُری بات ہے، اور اگر توڑ دیں گے تو کفارہ لازم ہوگا، یعنی دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا، یا تین دن کے روزے رکھنا۔<sup>(۴)</sup>

کسی کام کو باوجود نہ کرنے کی قسم کھانے کے عہد آیا سہواً کر لینا

سوال: ... اگر کسی نے قسم کھائی ہو کہ فلاں کام نہیں کروں گا مگر عہد آیا سہواً وہ کام کر جائے جس کا نہ کرنے کا عہد کیا ہو یا قسم کھائی ہو، ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہئے؟ اگر کفارہ ہو تو کیا کرنا چاہئے؟

(۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۱، ۳ ملاحظہ کیجئے

(۲) ومنعقدة وهو أن يحلف على أمر في المستقبل ..... وحكمها لزوم الكفارة عند الحنث. (عالمگیری ج: ۲ ص: ۵۲، کتاب الايمان، الباب الأول).

(۳) "ولكن يؤخذكم بما عقدتم الايمان فكفرته اطعام عشرة مسكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام، ذلك كفره ايمانكم اذا حلفتم" (المائدة: ۸۹). عالمگیری ج: ۲ ص: ۵۲، کتاب الايمان، الباب الأول.

(۴) أيضا.

جواب: ... اس پر قسم توڑنے کا کفارہ لازم ہے، دس محتاجوں کو دو وقتہ کھانا کھلا دے (یا اس کے بجائے ہر محتاج کو صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت دیدے)، اگر اس کی ہمت نہ ہو تو تین دن کے پے در پے روزے رکھے۔<sup>(۱)</sup>

## کسی کام کے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑنا

سوال: ... اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑنے کا کفارہ دینا ہوتا ہے یا صرف توبہ کرنے سے عہد توڑنے کا گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ کیا ہم کفارے میں کھانا کھلانے کے مساوی رقم کسی مسکین کو دیں تو کفارہ ادا ہو جائے گا؟

جواب: ... اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا قسم اور نذر کے معنی میں ہوتا ہے، اگر کسی کام کے نہ کرنے کا عہد کیا جائے اور پھر اس عہد کو توڑ دیا جائے تو قسم توڑنے کا کفارہ لازم آتا ہے۔ دس مسکینوں کو دو دفعہ کھانا کھلانے کے بجائے ہر محتاج کو صدقہ فطر کی مقدار غلہ (یعنی پونے دو کلو گرام یا اس کی قیمت) دینا بھی صحیح ہے۔<sup>(۲)</sup> لیکن ایک مسکین کو پورے کفارے کی رقم یک مشت دینا کافی نہیں، بلکہ دس مسکینوں کو دینا ضروری ہے۔ اگر دس دن تک ایک مسکین کو ایک ایک دن کی رقم یا غلہ دیتا رہے تو یہ جائز ہے۔<sup>(۳)</sup>

## تین دفعہ کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھا کر توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟

سوال: ... قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ اور کس طرح ادا کرنا چاہئے؟ کیونکہ میں نے ایک معاملے پر، یعنی میں نے قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تین دفعہ قسم کھائی اور پھر توڑ دی۔ کیا اس کا کفارہ تین دفعہ ہوگا یا صرف ایک دفعہ؟

جواب: ... قسم کا کفارہ دس مسکینوں کو دو وقتہ کھانا کھلانا ہے، یا ایک صدقہ فطر کی مقدار ہر ایک فقیر کو دے دیا جائے، یعنی

(۱) واذا حلف الرجل على يمين فحنت فيها فعليه أي الكفارات شاء إن شاء أعتق وإن شاء أطعم عشرة مساكين وإن شاء کسی عشرة مساكين وإن لم يجد شيئاً من ذلك فعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعات. (كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني ج: ۳ ص: ۱۹۶، كتاب الأيمان). ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين قيمة نصف صاع أجزاء ذلك. (كتاب الأصل للإمام محمد الشيباني ج: ۳ ص: ۲۱۱، وھندیة ج: ۲ ص: ۶۳، كتاب الأيمان).

(۲) وأما كونه حالفاً بعهد الله وميثاقه فلأن العهد في الأصل هي المواعدة التي تكون بين اثنين لو ثوق أحدهما على الآخر وهو الميثاق وقد استعمل في اليمين لقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية. فقد جعل العهد في القرآن يميناً. (بحر الرائق ج: ۴ ص: ۲۸۴ طبع سعيد كمپنی). ولو قال وعهد الله أو قال وذمة الله يكون يميناً. (ھندیة ج: ۲ ص: ۵۳ طبع مکتبه رشیدیہ کوئٹہ). و حکمها لزوم الكفارة عند الحنث. (ھندیة ج: ۲ ص: ۵۲). وفيه الكفارة... إلى قوله... إن حنث. (الدر المختار على هامش رد المحتار ج: ۳ ص: ۵۳ طبع مکتبه رشیدیہ کوئٹہ). طعام التملیک أن يعطى عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أو صاعاً من شعير كما في صدقة الفطر. (ھندیة ج: ۲ ص: ۶۳).

(۳) ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين قيمة نصف صاع أجزاء ذلك. (كتاب الأصل للإمام محمد الشيباني ج: ۳ ص: ۲۱۱). ولو أعطاه في يوم واحد بدفعات في عشر ساعات قيل يجزئ وقيل لا، وهو الصحيح، لأنه إنما جاز أعطاه في اليوم الثاني تترياً له منزلة مسكين آخر لتجدد الحاجة. (رد المحتار ج: ۳ ص: ۶۲ طبع مکتبه رشیدیہ کوئٹہ).

کل دس صدقہ فطر دے دیئے جائیں۔<sup>(۱)</sup> اگر قسم کھائی اور اس کا کفارہ نہیں ادا کیا کہ پھر وہی قسم کھالی تو ایک ہی کفارہ ہوگا۔<sup>(۲)</sup>

کیا بار بار قسم توڑنے والے کی بخشش نہیں ہوگی؟

سوال: ... دراصل میں نے دو سال قبل روہڑی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ”بال مبارک“ کی زیارت کی تھی جو وہاں کی مسجد میں رکھا ہوا ہے۔ وہاں میں نے بال مبارک دیکھ کر قسم اٹھائی تھی کہ اب میری آنکھیں گناہ نہیں دیکھیں گی، میرے ہاتھ گناہ نہیں کریں گے، میرے پاؤں گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن میں نے بہت سارے گناہ کر دیئے۔ اس کے بعد ایک دن مسجد میں تنہا نماز پڑھنے کے بعد میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائی کہ اب میں گناہ کا کام نہیں کروں گا، لیکن گناہ نے میرا پیچھا نہ چھوڑا اور بڑے کام مجھ سے ہوتے رہے۔

اس کے بعد مجھے ایک شخص ملا، جس نے مجھ سے دوستی کر لی، اور مسجد میں قرآن پاک میرے سر پر رکھ کر مجھ سے وعدہ لیا کہ تم مجھ سے خفا نہ ہو گے اور ساتھ بھاؤ گے۔ میں نے بھی وعدہ کر لیا، مگر وہ شخص غدار ثابت ہوا۔ اب میں نے اس سے سب رشتے ناتے توڑ ڈالے ہیں، لیکن میں پریشان ہوں کہ میں نے کتنی مرتبہ قسمیں اٹھائی ہیں، میری عمر ۲۰ سال ہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نیکیوں کے کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن پتا نہیں کہ میری نماز بارگاہِ الہی میں قبول ہوگی یا نہیں؟

جواب: ... جب آپ نے گناہ نہ کرنے کی قسم کھائی تھی تو ہمتِ مردانہ سے کام لے کر گناہ سے بچنا چاہئے تھا۔ لیکن اب جبکہ آپ گناہ سے نہیں بچ سکے اور آپ کی قسم بھی ٹوٹ گئی، تو اس کے تدارک کے لئے توبہ کرنی چاہئے۔ آپ قسم توڑنے کا کفارہ<sup>(۳)</sup> ادا کر دیں... اور وہ دس محتاجوں کو دو وقت کھانا کھلانا، اور اگر ہر محتاج کو صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا اس کی نقد قیمت دے دی جائے تب بھی کافی ہے... اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا روئیں اور گڑگڑائیں کہ دل سے گناہ کی ساری غلاظت اور سیاہی دھل جائے۔ اور سچی اور سچی توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی شانِ کریمی پر کامل و مکمل اعتماد رکھتے ہوئے یہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ معاف کر دیئے۔<sup>(۴)</sup> آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں... لیکن قسم نہ کھائیں... ان شاء اللہ اس تدبیر سے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، پریشانی جاتی رہے گی اور تعلق مع اللہ میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا زبردست مکر ہے کہ وہ پہلے تو آدمی سے گناہ کراتا ہے، اور گناہ ہو جانے کے بعد آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ: ”تو اتنا بڑا گناہ گار، تیری بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ اور تیری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے...؟“ اس طرح وہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، توبہ کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے روک

(۱) ”فَكَفَّرْتَهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ“ (المائدة: ۸۹)۔

(۲) إذا حلف رجل على أمر لا يفعله أبداً ثم حلف في ذلك المجلس أو مجلس آخر لا يفعله أبداً، ثم فعله كانت عليه كفارة يمينين۔ (عالمگیری ج: ۲ ص: ۵۶، کتاب الايمان، الباب الثانی)۔

(۳) ”فَكَفَّرْتَهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ“ (المائدة: ۸۹)۔

(۴) ”يَسْأَلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوْبُوا إِلَى اللَّهِ تُوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ“ (التحریم: ۸)۔

دیتا ہے۔ آپ نے اس شخص سے تعلق توڑ دیا، اچھا کیا، آپ کو پریشان نہ ہونا چاہئے۔ قسم کا کفارہ دے دیجئے اور اطمینان سے نماز پڑھئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے ہیں۔

### تین قسمیں توڑنے کا کفارہ کیا ہوگا؟

سوال: ... میں نے تین مختلف مواقع پر قسمیں اٹھائیں تھیں کہ یہ کام نہیں کروں گا، تیسری قسم تو ایک غلط کام سے توبہ کرنے کی اٹھائی تھی کہ نہیں کروں گا، لیکن پھر سرزد ہو گیا۔ یہ مستقل مزاجی کی کمی کہئے، بہر حال اب بتائیے کہ:

۱: ... میں ان قسموں کا کفارہ کتنا ادا کروں؟

۲: ... اگر قسم توڑنے کا کفارہ ساٹھ آدمیوں کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے تو کیا میں کھانا کھلانے کے بجائے روپے دے دوں؟

۳: ... اگر روپے دو تو تین قسموں کے کتنے بنیں گے؟ اور یہ کہ کسی ایک نادار کو دے دوں یا مختلف ناداروں کو دینا ضروری ہے؟

جواب: ... آپ نے تین بار قسم کھا کر توڑ دی، اس لئے تین قسموں کا کفارہ آپ کے ذمہ ہے۔<sup>(۱)</sup> ہر قسم کا کفارہ دس محتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے، پس آپ کے ذمہ تیس محتاجوں کا کھانا ہوا۔ اگر آپ چاہیں تو ہر فقیر کو صدقہ فطر کی مقدار غلہ یعنی پونے دو سیر گیہوں یا اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی مستحق نہ ملے تو کسی دینی مدرسے میں اتنی رقم جمع کر دیجئے۔<sup>(۲)</sup>

### بیٹے کو گھر سے نکالنے کی قسم توڑنا شرعاً واجب ہے

سوال: ... زاہد کو اس کا والد گھر سے نکل جانے کا حکم دیتا ہے، مگر زاہد کہتا ہے کہ میں اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ زاہد کے والد کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے اور وہ صرف قرآن مجید اٹھا کر کہتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا میرے گھر کے کسی فرد سے کوئی تعلق رکھے گا تو میں گھر کو چھوڑ جاؤں گا۔ اب مجبوراً زاہد کو گھر چھوڑنا پڑا، اب جس سلسلے میں زاہد کو گھر سے نکالا گیا اس میں سراسر قصور زاہد کے والد ہی کا تھا، وہ کچھ جذباتی اور جلد غصے میں آنے والے شخص ہیں۔ برادری کے باقی لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ قصور زاہد کے والد کا ہی ہے، جبکہ زاہد معصوم ہے اور زاہد کے والد وہی ہیں۔ اب زاہد چاہتا ہے کہ وہ اپنی والدہ سے مل لیا کرے، مگر اس طرح اس کے والد کی قسم جھوٹی ہوتی ہے۔ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کہ اس کا کیا صل ہو سکتا ہے؟ آیا زاہد اپنے گھر پھر واپس جاسکے گا یا کم از کم اپنی والدہ سے ملاقات کر لے گا؟

جواب: ... زاہد کے والد کی قسم غلط ہے، اور ایسی قسم کا توڑ دینا از روئے حدیث واجب ہے، اس لئے زاہد کو چاہئے کہ وہ اپنی

(۱) بتعدد اليمين بتعدد الاسم... إلى قوله... وفي تجريد عن أبي حنيفة إذا حلف بإيمان فعليه لكل يمين كفارة وانجلس والمجلس سواء۔ (بحر الرائق ج: ۴ ص: ۲۹۱، کتاب الايمان، طبع سعيد کمپنی)۔

(۲) طعام التملك أن يعطى عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أو صاعاً من شعير كما في صدقة الفطر۔ (هندية، الباب الثاني فيما يكون يمينا وما لا يكون... إلخ الفصل الثاني، الكفارة ج: ۲ ص: ۲۳)۔ ولو أعطاهم قيمة الطعام فأعطى كل مسكين قيمة نصف صاع أجزاء ذلك۔ (كتاب الأصل للإمام محمد الشيباني ج: ۳ ص: ۲۱۱)۔

ماں اور بہن بھائیوں سے ملے اور زاہد کا باپ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔<sup>(۱)</sup>

## بھائی سے بات نہ کرنے کی قسم کھائی تو آب کیا کرے؟

سوال: ... میں نے اپنے بھائی سے لڑتے ہوئے قسم کھائی، جس کے الفاظ یہ ہیں، میں نے اپنے بھائی سے کہا: ”اگر میں تم سے آج کے بعد بات کروں تو مجھ پر میری بیوی طلاق ہوگی۔“ یہ میرے منہ کے الفاظ ہیں، جس پر میں آج شرمندہ ہوں اور میں اپنے بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔

جواب: ... بھائی سے بات کرنے پر بیوی کو ایک رجعی طلاق ہو جائے گی،<sup>(۲)</sup> جس کا مطلب یہ ہے کہ عدت پوری ہونے تک وہ اس کی بیوی ہے، عدت کے اندر جب جی چاہے اس سے میاں بیوی کا تعلق قائم کر سکتا ہے، یا زبان سے کہہ دے کہ میں اپنی بیوی کو واپس لیتا ہوں، اس کو ”رجوع“ کرنا کہتے ہیں۔<sup>(۳)</sup> اگر اس نے عدت ختم ہونے تک رجوع نہ کیا تو آب نکاح ختم ہو گیا، اب اگر دونوں پھر مل بیٹھنا چاہیں تو دوبارہ باقاعدہ نکاح کرنا ہوگا، مگر حلالہ کی ضرورت نہ ہوگی۔<sup>(۴)</sup>

## شادی نہ کرنے کی قسم کھائی تو شادی کر کے کفارہ ادا کرے

سوال: ... مسئلہ یہ ہے کہ زید نے قرآن شریف پر غصے کی حالت میں ہاتھ رکھ کر بلکہ قرآن شریف اٹھا کر قسم کھائی کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، مگر بعد میں اس غلطی پر پشیمانی ہوئی، کیا اس کا کفارہ ہے؟

جواب: ... نکاح کر لے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے، یعنی دس مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلائے، اس کی طاقت نہ ہو تو تین دن کے روزے رکھے۔<sup>(۵)</sup>

## قرآن مجید سر پر اٹھا کر قسم کھائی کہ میں شادی کروں گا، پھر نہیں کی

سوال: ... میں نے ایک دن قرآن مجید کو سر پر اٹھا کر قسم کھائی کہ میں شادی کروں گا، لیکن بعد میں کئی قسم کی سوچیں ذہن میں آئیں، کیونکہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، جب بات سچی ہو گئی تو میں نے انکار کر دیا، اب اس غلطی پر بہت ہی پشیمان ہوں کہ قرآن

(۱) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من حلف علی یمین فرأی غیرہا خیراً منها فلیأت الذی ہو خیر ولیکفر عن یمینہ۔ (مسلم ج: ۲ ص: ۲۸، باب ندب من حلف یمیناً... الخ)۔ وحاصلہا أن المحلوف علیہ أنواع فعل معصیة أو ترک فرض فالحنث واجب۔ (بحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۹۱، کتاب الذیمن۔ شرح منہج کتبہ۔)

(۲) وإذا أضافہ الی الشرط وقع عقیب الشرط إتفاقاً... الخ۔ (فتاویٰ عالمگیری ج: ۱ ص: ۴۲۰)۔

(۳) وإذا طلق الرجل امراتہ تطلیقة رجعیة أو تطلیقتین فله أن یراجعہا فی عدتہا۔ (فتاویٰ عالمگیری ج: ۱ ص: ۴۷۰)۔

(۴) إذا کان الطلاق بانناً دون الثلاث فله أن یتزوجہا فی العدة وبعد إنقضائها۔ (عالمگیری ج: ۱ ص: ۴۷۲)۔

(۵) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من حلف علی یمین فرأی غیرہا خیراً منها فلیأت الذی ہو خیر ولیکفر عن یمینہ۔ (مسلم ج: ۲ ص: ۲۸)۔ ”فکفرتہ اطعام عشرۃ مسکین من أوسط ما تطعمون أهلیکم أو کسوتہم أو تحریر رقبة فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام، ذلک کفرة أیمانکم إذا حلفتم“ (المائدة: ۸۹)۔

مجید کی قسم اٹھا کر کیوں وعدہ کیا؟ آپ جناب کوئی معافی کی صورت بتادیں۔  
جواب: ... آپ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیں۔<sup>(۱)</sup>

## قرآن پر ہاتھ رکھ کر کھائی ہوئی محبت کرنے کی قسم کا کفارہ

سوال: ... ایک لڑکی نے مجھ سے محبت کی تھی، میں بھی اسے بے انتہا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ میں اس کو چاہتا ہوں، لہذا ایک مرتبہ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ تم مجھ سے ہمیشہ محبت کرتے رہو گے۔ بہر حال میں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی اور پھر اس نے بھی مجھے اپنی محبت کا یقین دلانے کے لئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ میں مرتے دم تک تم سے محبت کرتی رہوں گی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اس لڑکی کی شادی کسی اور جگہ ہو گئی اور پھر لڑکی نے شادی کے بعد مجھ سے نفرت کا اظہار کیا، جس سے میرا دل بھی اس کی طرف سے ہٹ گیا۔ لہذا اب آپ یہ تحریر کر دیں کہ میں قسم کے کفارہ کو کس طرح ادا کروں؟ جبکہ میں پانچ وقت کی نماز کا پابند بھی ہوں اور خدا سے معافی کا طلب گار بھی ہوں۔

جواب: ... یہ تو اچھا ہوا کہ ”نا جائز محبت“ نفرت سے بدل گئی، دونوں اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں، یعنی دس محتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلائیں، یا صدقہ فطر کی مقدار غلہ (یعنی پونے دو کلو گیمہوں) یا نقد قیمت ہر مسکین کو دے دیں، اگر اتنی گنجائش نہ ہو تو تین دن کے روزے رکھیں، اور خدا تعالیٰ سے استغفار بھی کریں۔<sup>(۲)</sup>

## ماموں زاد بھائی سے بہن رہنے کی قسم کھائی تو اب اس سے شادی کیسے کریں؟

سوال: ... میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے نہایت مجبوری کے تحت اپنے ماموں زاد بھائی کے سامنے یہ قسم کھائی تھی کہ: ”میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں تمہاری بہن ہوں اور بہن بن کر رہوں گی اور بہن کے تمام حقوق پورے کروں گی۔“ یہ بات کئی سال پہلے کی ہے، اب میں ڈاکٹر بن چکی ہوں اور وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ میرے ماں باپ میری شادی اس سے کرنا چاہتے ہیں، میں سخت پریشان ہوں، کیونکہ میں قسم توڑنا چاہتی ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ قسم توڑنے کی صورت میں مجھے کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ اور آپ یہ بھی بتادیں کہ قسم توڑنے کی صورت میں مجھے کیا بہت سخت سزا ہوگا؟ مجھ پر قیامت کے دن عذاب ہوگا؟

جواب: ... آپ پر قسم توڑنے کا کوئی گناہ نہیں۔ آپ ماموں زاد سے شادی کر کے قسم توڑ دیں، اس کے بعد کفارہ ادا کر دیں۔<sup>(۳)</sup>

(۱) وقال محمد بن مقاتل الرازی: لو حلف بالقرآن قال یكون یمیناً۔ (عالمگیری ج: ۲ ص: ۵۳)۔

(۲) ”فَكَفَّرْتَهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ“ (المائدة: ۸۹)۔

(۳) عن عبدالرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبدالرحمن بن سمرة! إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير و كفر يمينك... الخ۔ (سنن أبي داود ج: ۲ ص: ۱۰۹، كتاب الأيمان والنذور، طبع سعيد كمپنی، أيضاً صحيح مسلم ج: ۲ ص: ۳۸، باب ندب من حلف يميناً)۔



## غلط قسم توڑ دیں اور کفارہ ادا کریں

سوال: ... ہماری بینک کی یونین کے صدر نے ہمیں ایک میٹنگ میں بلایا اور ادھر ہماری یونین کے ہی کچھ لوگوں پر تنقید کرنے لگا کہ وہ یہ یہ کرتے ہیں، پھر اچانک ہی وہ اٹھے اور قرآن شریف لے کر آئے اور ہم سب سے حلف اٹھوایا کہ ہم سب اس کو ہی ووٹ دیں گے، اب جبکہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ ہماری یونین کا صدر جھوٹا ہے اور انتظامیہ سے ملا ہوا ہے، اور دوسرا گروپ صحیح ہے، اور جلد ہی الیکشن بھی ہونے والے ہیں، اب میں اور میرے کچھ ساتھی پریشان ہیں، کیونکہ ہم سے اس نے دعا سے قرآن پر حلف لیا ہے، اب اگر ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں تو ہمارا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا، دوسری طرف قرآن شریف کا مسئلہ ہے۔ برائے مہربانی ہمیں اس کا شرعی حل بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ حلف توڑنے کی صورت میں کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟

جواب: ... ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ: ”جب تم کسی بات کی قسم کھا لو، پھر دیکھو کہ دوسری صورت بہتر ہے (یعنی اس کام کا نہ کرنا بہتر ہے) تو جو کام بہتر ہو کر لو اور اپنی قسم (کے توڑنے) کا کفارہ ادا کر دو“ (مشکوٰۃ ص: ۲۹۶)۔<sup>(۱)</sup>

یہ حدیث شریف آپ کے سوال کا جواب ہے، آپ لوگ اپنی قسم توڑ دیں اور قسم کے کفارے ادا کریں۔ قسم کا کفارہ ہے دس محتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا، یا ان کو لباس دینا اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو تین روزے رکھ لئے جائیں۔<sup>(۲)</sup>

## صحیح قسم پر قائم رہنا چاہئے

سوال: ... ہم ۲۰ ساتھی ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ہم سب نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ ہم اپنی فیکٹری کے حکام سے اپنے حق کے لئے لڑیں گے اور کوئی بھی ساتھی پیچھے نہیں ہٹے گا، میں اپنے ساتھیوں کا کسی وجہ سے ساتھ نہ دے سکا، اب میں ہر وقت ذہنی طور پر پریشان رہتا ہوں۔

جواب: ... فیکٹری والوں سے صحیح بات کا مطالبہ جائز ہے، اور غلط بات کا مطالبہ درست نہیں۔ اگر کسی صحیح بات کے کرنے کی آدمی قسم کھالے تو اس کو کرنا چاہئے، اگر نہ کرے تو قسم توڑنے کا کفارہ واجب ہے، یعنی دس محتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو تین دن کے روزے رکھنا۔ اور اگر کسی غلط بات پر قسم کھائی ہو تو قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔<sup>(۳)</sup>

## کمپنی میں ٹھیکے پر کام نہ کرنے کی قسم توڑنے کا کیا کفارہ ہے؟

سوال: ... میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں اس کمپنی والوں نے ہم سے ٹھیکے پر کام کرنا پاپا ہم سے، اور کروں نے قرآن

(۱) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من حلف علی یمین فرأی خیراً منها فلیکفر عن یمینہ ولیفعل۔ رواہ مسلم۔ (مشکوٰۃ، باب الایمان والندور ص: ۲۹۶، ایضاً: مسلم ج: ۲ ص: ۴)۔

(۲) ”فکفرتہ اطعام عشرۃ مسکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریرو رقبتہ فمن لم یجد فصیام ثلثۃ ایام، ذلک کفرۃ ایمنکم اذا حلفتم“ (المائدۃ: ۸۹)۔

(۳) ص: ۵۴۴ کا حاشیہ نمبر ۱ ملاحظہ فرمائیں۔

کریم پر ہاتھ رکھ کر یہ عہد کیا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی ٹھیکے پر کام نہیں کرے گا۔ مگر بعد میں ہم سب کو ٹھیکے (کنٹریکٹ) پر کام کرنا پڑا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور یہ وعدہ کیا کہ ہم پاکستان جا کر اس کا کفارہ ادا کریں گے۔ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ میں اس کفارہ کو کس طرح ادا کروں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کفارہ کے پیسے کسی مستحق کو دوں، مگر مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں کفارہ کے کتنے روپے ادا کروں؟

جواب: ... جتنے لوگوں نے عہد کر کے توڑا، ان سب کے ذمہ لازم ہے کہ دس دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائیں، یا ہر مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت ادا کریں۔ ۱۹۹۱ء میں اس کی قیمت کے تقریباً آٹھ روپے فی مسکین بنتے ہیں، اگر ایک محتاج کو دس دن کھانا کھلا دیں یا ہر دن صدقہ فطر کی رقم اس کو دے دیں تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔<sup>(۱)</sup> لیکن اگر اس کو دس دن کے کھانے کی رقم یک مشت دے دی تو صرف ایک دن کا کھانا شمار ہوگا، نو دن کا ذمہ رہے گا۔

### ”تمہاری چیز کھاؤں تو خنزیر کا گوشت کھاؤں“ کہنے سے قسم

سوال: ... میں ایک کارپوریشن میں کام کرتا ہوں، جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں ایک سیکشن میں دو کمرے ہیں، ہم لوگ دو کمروں میں بیٹھے ہوئے کام کرتے ہیں، ہم لوگوں میں کسی کے ہاں کوئی خوشی ہو تو مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دوسرے کمرے والوں نے روپے جمع کر کے مٹھائی تقسیم کی، انہوں نے اپنے لئے چم مٹھائی منگوائی اور ہمارے لئے گلاب جامن کے ڈبے بھیجے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو میں نے اس سے جو کہ بڑا بنا ہوا تھا کہا: مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو چیز اپنے لئے پسند کرے، دوسرے مسلمان بھائی کے لئے بھی وہی چیز ہونی چاہئے۔ اس میں بات بڑھ گئی تو میں نے غصے میں اس کی قسم کھالی کہ تمہارے کمرے کے کسی بھی آدمی کی تقسیم کردہ کوئی چیز کھاؤں تو خنزیر کا گوشت کھاؤں۔ اس بات کو تقریباً تین سال گزر چکے ہیں، اس دن سے وہ لوگ کوئی چیز ہمیں کھانے کے لئے دیتے ہیں تو میں نہیں کھاتا۔ اس بات پر وہ لوگ سب ناراض ہوتے ہیں اور مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت یہ قسم نہ کھاتا۔ برائے مہربانی اس قسم کا شرعی طور پر حل بتائیں، اس کا توڑ ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر کس طرح سے ٹوٹ سکتی ہے؟ کفارہ کیا ہے؟

جواب: ... آپ نے بڑی غلط قسم کھائی، اس قسم کو توڑ دیجئے، اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دیجئے، قسم کا کفارہ ہے دس محتاجوں کو دو وقت کھانا کھلانا اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو تین دن کے روزے رکھنا۔<sup>(۲)</sup>

(۱) ”فَكَفَّرْتَهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ“ (المائدة: ۸۹)۔ ويدفع عن كل صلاة نصف صاع حنطة ولو دفع جملة إلى فقير واحد جاز بخلاف كفارة اليمين۔ (فتاویٰ ہندیہ ج: ۱ ص: ۱۲۵، کتاب الصلاة، الباب الحادی عشر)۔

(۲) ایضاً۔

## کیا یونین کے غلط حلف کو توڑنا جائز ہے؟

سوال: ... ہمارے ادارے کے لیبر یونین کے دور ہنماؤں نے گزشتہ چند ماہ قبل ہمارے چند ساتھیوں سے فرداً فرداً وفاداری کا حلف قرآن پاک پر ہاتھ رکھوا کر اٹھوایا، لیکن اب مذکورہ یونین اور اس کے متعلقہ دونوں رہنما حلف اٹھانے والوں کے حقوق و اختیارات کو سلب کر رہے ہیں، ادارے کے مزدوروں کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ذاتی مفادات حاصل کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی مزدور ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اسے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس صورت حال میں ہمارا مذکورہ یونین و متعلقہ دونوں رہنماؤں کے ساتھ چلنا مشکل ہے۔

## حلف کا متن

”میں فلاں بن فلاں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں یونین کا وفادار رہوں گا، اگر میں غداری کروں گا تو مجھ پر خدا کی مار پڑے گی، اگر میں اس حلف کو توڑنے اور کفارہ ادا کرنے کی غرض سے مولوی یا عالم سے رُجوع کروں گا تو بھی مجھ پر خدا کی مار پڑے گی۔“

اس حلف وفاداری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس حلف کو توڑا جاسکتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟

جواب: ... کسی فرد یا ادارے یا تنظیم کے ساتھ وفاداری کا ایسا عہد کرنا کہ خواہ وہ جائز کام کرے یا ناجائز، ہر حال میں اس کا وفادار رہے گا، یہ شرعاً جائز نہیں۔ ہاں! یہ عہد کرنا صحیح ہے کہ اچھے اور نیک کام میں وفاداری کروں گا، غلط اور بُرے کام میں وفاداری نہیں کروں گا۔

آپ نے ”حلف نامہ“ کا جو ”متن“ نقل کیا ہے، یہ غیر مشروط وفاداری کا ہے، اور یہ شرعاً ناجائز ہے، خصوصاً اس میں جو کہا گیا ہے کہ: ”کسی مولوی سے بھی رُجوع کروں تو مجھ پر خدا کی مار پڑے“ کے الفاظ بھی ناجائز ہیں۔

۲: ... اگر آدمی غلط اور ناجائز قسم کھالے تو اس کا توڑ دینا واجب ہے اور ایسی قسم کھانے پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور توبہ کرے۔<sup>(۱)</sup>

۳: ... اس حلف کو توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ اس ناجائز حلف کو توڑ کر قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرے، اور قسم توڑنے کا کفارہ قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا کہ دس محتاجوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے (اور اگر کھانا کھلانے کی بجائے ہر محتاج کو صدقہ بغطر کی مقدار غلہ یا اس کی نقد قیمت دیدے تب بھی صحیح ہے)، یا دس محتاجوں کو لباس پہنائے (ہر محتاج کو اتنا لباس دینا کافی ہے جس میں نماز جائز ہو، یعنی ایک لنگی جس سے ناف سے گھٹنوں تک ستر چھپ جائے)، اور یہ نہ کر سکتا ہو تو تین دن کے روزے رکھے۔<sup>(۲)</sup>

(۱) ومن حلف علی معصیة کعدم الکلام مع أبویہ أو قتل فلان الیوم وجب الحنث والتکفیر۔ (رد المحتار ج: ۳ ص: ۲۸۸)۔  
 (۲) کفارة الیمین ..... إن شاء کما عشرة مساکین کل واحد ثوباً فما زاد وادناه ما یجوز فیہ الصلوة، وإن شاء أطعم عشرة مساکین کالأطعام فی کفارة الظهار والأصل فیہ قوله تعالیٰ: ”فکفرته إطعام عشرة مسکین“ الآیة ..... فإن لم یقدر علی أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات ... الخ۔ (هدایة ج: ۲ ص: ۲۸۱، کتاب الأیمان، باب ما یکون یمیناً وما لا یکون یمیناً، طبع مکتبه شرکت علمیه ملتان)۔

## درزی سے کپڑے نہ سلوانے کی قسم کا کیا کروں؟

سوال: ... ایک دن میں نے ایک جوڑا کپڑا اور ایک واسکٹ درزی کو سلوائی کے لئے دیا، وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اس نے کپڑے اور واسکٹ دونوں اتنے خراب سی کر دیئے کہ میں نے سخت غصے میں قسم کھائی کہ اس درزی سے عمر بھر میں کوئی چیز نہیں سلواؤں گا۔ وہ درزی ہماری دکان میں ہے، اس لئے اس سے سلوانے پر مجبور ہوں۔

جواب: ... درزی سے کپڑے سلوائیجئے، اس طرح قسم ٹوٹ جائے گی، پھر کفارہ ادا کر دیجئے۔<sup>(۱)</sup>

(۱) عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه. (مسلم ج: ۲ ص: ۴۸). "فَكَفَّرْتُهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ" (المائدة: ۸۹). - وحكمها لزوم الكفارة عند الحنث. (هندية ج: ۲ ص: ۵۲، كتاب الأيمان، الباب الأول).

## کن الفاظ سے قسم نہیں ہوتی؟

### غیر اللہ کی قسم کھانا سخت گناہ ہے

سوال: ... میں نے دیکھا ہے کہ لوگ خدا کے سوا اور بہت سی قسمیں بھی اٹھالیتے ہیں، مثلاً: تم کو میرے سر کی قسم، تم کو میری قسم، یا تم کو اپنی سب سے زیادہ عزیز چیز کی قسم وغیرہ، کیا اس قسم کی قسم جائز ہے؟

جواب: ... خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا سخت گناہ ہے۔<sup>(۱)</sup> مثلاً یوں کہا کہ: باپ کی قسم، رسول کی قسم، کعبہ کی قسم، اولاد کی قسم، بھائی کی قسم، یا اگر کسی اور کی قسم کھائی تو شرعاً یہ قسم نہیں ہوتی۔ البتہ قرآن کریم کلام الہی ہے، اس لئے قرآن کی قسم کھانے سے قسم ہو جاتی ہے،<sup>(۲)</sup> اور اس کے توڑنے پر کفارہ لازم ہے۔<sup>(۳)</sup>

### دل ہی دل میں قسم کھانے سے قسم نہیں ہوتی

سوال: ... میں نے دل میں قسم کھائی تھی اور دل میں وعدہ کیا تھا کہ ایسا نہیں کروں گا، مگر کر لیا تو اب اس پر کفارہ کیا ہے؟

جواب: ... دل میں عہد کرنے سے نہ قسم ہوئی، نہ کوئی کفارہ لازم آتا ہے، نہ آپ نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، جب تک کہ قسم کے الفاظ زبان سے ادا نہ کرے۔ اس لئے اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف یہ ہوا کہ آپ نے دل میں

(۱) عن سعد بن عبیدة قال كنت عند عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما فقمت وترکت رجلاً عنده من كندة فأتيت سعد بن المسيب قال: فجاء الكندي فرغاً فقال: جاء ابن عمر رجل فقال: أحلف بالكعبة؟ قال: لا ولكن أحلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلف بأبيك فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك. (بيهقي ج: ۱۰ ص: ۲۹). عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه وهو ركب وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو يسكت. (أبو داود ج: ۲ ص: ۱۰۷، بيهقي ج: ۱۰ ص: ۲۸). من حلف بغير الله لم يكن حالفاً كالنبي عليه السلام والكعبة. (هندية ج: ۲ ص: ۵۳).

(۲) أما اليمين بغير الله فنوعان، أحدهما اليمين بالآباء والأنبياء والملائكة والصوم والصلاة وسائر الشرائع والكعبة والحرم وزمزم ونحو ذلك ولا يجوز الحلف بشيء من ذلك. (عالمگیری، كتاب الإيمان ج: ۲ ص: ۵۱).

(۳) وقال محمد رحمه الله في الأصل: لو قال: والقرآن، لا يكون يمينا ذكره مطلقاً..... وقد قيل هذا في زمانهم وأما في زماننا فيكون يمينا وبه نأخذ ونأمر ونتعقد ونعتمد..... وبه أخذ جمهور مشائخنا... إلخ. (هندية، باب فيما يكون يمينا وما لا يكون ج: ۲ ص: ۵۳ طبع بلوچستان بک ڈپو). أيضاً: أما في زماننا فيمين وبه نأخذ ونأمر ونتعقد وقال محمد بن مقاتل الرازي انه يمينا وبه أخذ جمهور مشائخنا... فهذا مؤيد لكونه صفة تعورف الحلف بها كعزة الله وجلاله. (رد المحتار المشهور بالشامی ج: ۳ ص: ۵۶ طبع مکتبه رشیدیہ).

ایک ارادہ کیا تھا جو پورا نہیں ہو سکا۔<sup>(۱)</sup>

## ”تمہیں خدا کی قسم“ کہنے سے قسم لازم نہیں ہوتی

سوال: ... ایک شخص نے مجھ سے اپنا کام کرانے کے لئے بہت زور ڈالا، اور اللہ کی قسم دی کہ تمہیں یہ کام ضرور کرنا ہے، لیکن میں نے اس شخص کا کام نہیں کیا۔ اب میں پریشان ہوں کہ میں نے باوجود اس کے قسم دلانے کے اس کا کام نہیں کیا۔ کیا مجھے اس شخص نے جو اللہ کی قسم دلائی تھی اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، جبکہ میں نے اپنے زبان سے اللہ کی قسم نہیں کھائی؟

جواب: ... صرف دوسرے کے کہنے سے کہ: ”تمہیں اللہ کی قسم ہے“ قسم لازم نہیں ہوتی، جب تک اس کے کہنے پر خود قسم نہ کھائے، پس اگر آپ نے خود قسم نہیں کھائی تھی تو آپ کے ذمہ کفارہ نہیں، اور اگر آپ نے قسم کھائی تھی تو کفارہ لازم ہے۔<sup>(۲)</sup>

## ماں، باپ یا بچوں کی قسم کھانا حرام ہے

سوال: ... اگر کوئی شخص اپنے یا غیر کے ماں باپ یا بچوں کی قسم کھائے، یعنی یوں کہے کہ تیرے یا میرے ماں باپ اور بچوں کی قسم کہ اگر تو نے یہ کام کیا۔ آیا اس طرح کی قسم کھانا درست ہے یا نہیں؟ اور اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ نیز یہ بھی واضح فرمائیں کہ غیر اللہ کی قسم کھانا درست ہے یا نہیں؟ اور اس پر کفارہ کیا ہوگا؟

جواب: ... اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم کھانا حرام ہے، اس سے توبہ کرنی چاہئے۔ اور یہ قسم نہیں ہوتی، اس لئے اس کا کفارہ لازم نہیں آتا۔ ہاں گناہ ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔<sup>(۳)</sup>

## کسی دوسرے کا خدا کا واسطہ دینے سے قسم نہیں ہوتی

سوال: ... میں سگریٹ نوشی کرتا ہوں، ہو ایوں کہ میری بیوی نے پابندی عائد کر دی، ایک روز خدا کی قسم کا واسطہ دے کر ایک سگریٹ دیا، میں نے دوبارہ مانگا تو انکار کر دیا کہ خدا سے بھی نہیں ڈرتے؟ میں نے کہا: وہ تو میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ اب میں نے سگریٹ نوشی شروع کر دی ہے، اس لئے کہ اگر نہ پیوں تو دوسری بیماریاں عود کر آنے کا خدشہ ہے۔ مہربانی فرما کر آپ فتویٰ دیجئے کہ اس قسم کی لغو قسم کا کفارہ ہوتا ہے یا نہیں؟

(۱) ورکنہا اللفظ المستعمل فیہا۔ (الدر المختار علی هامش رد المختار ج: ۳ ص: ۵۰ طبع مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست بہ صدورہا ما لم تعمل بہ او تتکلم۔ (مشکوٰۃ، باب الوسوسة، فصل الاول ص: ۱۸)۔

(۲) وان لم یکن فیہا کذا ولم یکن فیہا کذا وان اراد الاستحلاف فیہو استحلاف ولا شیء علی واحد منہما... الخ۔ رجل قال لآخر: علیک عہد اللہ ان فعلت کذا، فقال الآخر: نعم، فلا شیء علی القائل وان نوى به اليمين ويكون هذا علی استحلاف الجیب۔ (ہندیہ ج: ۲ ص: ۶۰ طبع مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)۔

(۳) لا یقسم بغير اللہ تعالیٰ کالتبی والقرآن والکعبۃ۔ (رد المختار ج: ۳ ص: ۱۲، طبع رشیدیہ کوئٹہ)۔

جواب:۔۔۔ کسی کے یہ کہنے سے کہ ”تم کو خدا کی قسم“ اس پر قسم لازم نہیں ہوتی، جب تک خود قسم نہ کھائے، پس اگر آپ کی بیوی کے قسم دلانے پر آپ نے قسم نہیں کھائی تھی تو آپ پر کوئی کفارہ نہیں۔ اور اگر آپ نے قسم کھائی تھی اور وہ توڑ ڈالی تو قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دیجئے۔ یعنی دس مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلانا، اور جس کو اتنی مقدور نہ ہو وہ تین دن کے روزے رکھے۔<sup>(۱)</sup>

## کسی کو قسم دینا

سوال:۔۔۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ اگر تو نے فلاں کام کیا تو تم کافر ہو۔ اور میں نے ہامی بھری۔ اب اگر وہ شخص اپنے کہے ہوئے الفاظ واپس لے لے، اور میں وہ کام کر لوں، تو شریعت کی روشنی میں ارشاد فرمائیں کہ میرے ایمان پر کوئی اثر پڑے گا؟ اگر بھولے سے میں وہ کام کر لوں تو کیا اثر پڑے گا؟ اگر کوئی شخص زبردستی قسم دے، تو کیا اس سے قسم واجب ہو جاتی ہے؟

جواب:۔۔۔ اس قسم کی کسی کو قسم دینا گناہ ہے، اور کسی کے قسم دلانے سے قسم بھی نہیں ہوتی، اگر ایسی قسم کھالی ہو تو آدمی کافر نہیں ہوگا، البتہ قسم کا کفارہ اس کے ذمے لازم ہوگا، واللہ اعلم!<sup>(۲)</sup>

## بچوں کی قسم کھانا گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہئے

سوال:۔۔۔ میری بیوی اور سالی میں ایک بہت ہی معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا، اس دوران غصے کی حالت میں میری بیوی نے میرے بچوں کی قسم کھائی کہ آئندہ میں اپنے میکے نہیں آؤں گی (جبکہ میرے دو ہی بچے ہیں)، اب وہ اپنی قسم پر پشیمان ہے اور میکے جانا چاہتی ہے۔ آپ بتائیں اس قسم کا کتاب و سنت کی رو سے کیا کفارہ ہوگا؟ اور وہ کس طرح ادا کیا جائے تاکہ یہ قسم ختم ہو جائے اور وہ دوبارہ اپنے میکے جانا شروع ہو جائے؟

جواب:۔۔۔ بچوں کی قسم کھانا گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہئے، اور یہ قسم لازم نہیں ہوتی، نہ اس کے کفارے کی ضرورت ہے، اس لئے میکے جاسکتی ہے۔<sup>(۳)</sup>

## بچوں کی جان کی قسم کھانا جائز نہیں

سوال:۔۔۔ میرے بھائی نے انتہائی غصے کی کیفیت میں اپنے پانچ بچوں کی قسم کھائی تھی، لیکن اب وہ قسم توڑ دی ہے۔ برائے

(۱) ”فَكَفَّرْتَهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ“ (المائدة: ۸۹)۔

(۲) ولو إن فعل كذا فهو يهودى ..... أو كافر ..... حتى لو فعل ذلك الفعل يلزمه الكفارة ..... وإن كان عنده أنه إذا أتى بهذا الشرط لا يصير كافراً لا يكفر. (عالمگیری ج: ۲ ص: ۵۳، كتاب الأيمان، الباب الثاني)۔

(۳) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بأبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالانداد ولا تحلفوا إلا بالله. (أبو داود ج: ۲ ص: ۱۰۷، البيهقى ج: ۱۰ ص: ۴۹)۔ من حلف بغير الله لم يكن حالفاً كالنبي عليه السلام والكعبة. (هندية ج: ۲ ص: ۵۳، كتاب الأيمان، الباب الثاني)۔

مہربانی یہ فرمائیے کہ ان کو کیا کرنا چاہئے؟ نیز جو کچھ بھی کرنا ہے وہ خود ہی کریں یا ان کی جانب سے کوئی دوسرا فرد بھی کر سکتا ہے؟  
جواب: ... قسم صرف اللہ تعالیٰ کی کھائی جاتی ہے، بچوں کی جان کی قسم کھانا جائز نہیں، نہ اس سے قسم ہوتی ہے، مگر غیر اللہ کی قسم کھانے پر اس کو توبہ و استغفار کرنا چاہئے۔<sup>(۱)</sup>

## بیٹے کی قسم کھانا جائز نہیں

سوال: ... الف نے اپنی ماں کے جبراً کہنے پر اپنے بیٹے کی قسم کھائی کہ وہ (الف) اپنے چچا سے کبھی نہیں ملے گا۔ حالانکہ الف کا اپنے چچا اور ان کے اہل و عیال سے کوئی تنازع نہیں بلکہ محبت ہے۔ کیا الف کی اپنے چچا سے میل جول کرنے پر قسم ٹوٹ گئی؟ اگر ایسا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ مزید برآں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ب (الف کے بیٹے) کی صحت، زندگی اور عافیت پر کوئی زک آنے کا اندیشہ تو نہیں؟ کیونکہ الف نے بیٹے کی قسم کھائی اور پھر توڑ دی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے غیظ و غضب سے خوفزدہ ہے۔  
جواب: ... بیٹے کی قسم کھانا ہی جائز نہیں، بلکہ حرام ہے۔<sup>(۲)</sup> اور چچا سے قطع تعلق بھی حرام ہے۔<sup>(۳)</sup> الف والدہ کے کہنے سے دو ناجائز باتوں کا مرتکب ہوا، اسے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور چچا کے ساتھ قطع تعلق ختم کر دے۔ الف کے بیٹے پر ان شاء اللہ کوئی زد نہیں آئے گی۔

## ”تمہیں میری قسم“ یا ”دودھ نہیں بخشوں گی“ کہنے سے قسم نہیں ہوتی

سوال: ... محترم! میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ماں اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ: ”تمہیں میری قسم ہے، اگر تم فلاں کام کرو“ یا یہ کہے کہ: ”اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی“ اور بیٹا اس قسم کو توڑ دیتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہئے؟  
جواب: ... ”تمہیں میری قسم“ کہنے سے قسم نہیں ہوتی، اسی طرح ”دودھ نہیں بخشوں گی“ کے لفظ سے بھی قسم نہیں ہوتی، اس لئے اگر اس شخص نے اپنی والدہ کے حکم کے خلاف کیا تو قسم نہیں ٹوٹی، نہ اس پر کوئی کفارہ لازم ہے، البتہ اس کو اپنی والدہ کی نافرمانی کا گناہ ہوگا، بشرطیکہ والدہ نے جائز بات کہی ہو۔<sup>(۴)</sup>

## قرآن مجید کی طرف اشارہ کرنے سے قسم نہیں ہوتی

سوال: ... میں اپنی بیوی کو کچھ رقم دیتا ہوں، رقم دینے میں کچھ تاخیر ہوگئی، میری بیوی نے غصے میں آکر کہا: ”آئندہ میں آپ سے پیسے نہیں مانگوں گی، سامنے قرآن پڑا ہے (اشارہ کر کے)“ اور قرآن شریف سامنے موجود تھا۔ آیا یہ قسم ہوگئی؟ اور اگر اس قسم کو میری بیوی توڑ دے تو کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟

(۲، ۱) گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳ دیکھیں۔

(۳) عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه. (مشکوٰۃ ص: ۴۱۹، باب البر والصلة، الفصل الأول).

(۴) ایضاً۔



جواب: قرآن کریم کی طرف اشارہ کرنے سے قسم نہیں ہوتی۔<sup>(۱)</sup>

”اگر فلاں کام کروں تو اپنی ماں سے زنا کروں“ کے بیہودہ الفاظ سے قسم نہیں ہوتی

سوال: ... میں عرصہ دراز سے ایک گناہ میں مبتلا تھا، بلکہ اب بھی شاذ و نادر مرتب ہو جاتا ہوں۔ اس گناہ سے بچنے کے لئے متعدد بار توبہ کی، لیکن وقتی طور پر سہی کوئی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ آخر ایک دن قسم اٹھائی کہ: ”اگر میں نے یہ گناہ دوبارہ کیا تو یوں سمجھوں گا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔“ کچھ عرصہ یہ قسم بحال رہی، بد قسمتی سے پھر اس گناہ کا مرتب ٹھہرا اور اس طرح پھر اپنی پرانی روش پر اتر آیا۔ عجیب بات ہے کہ ہر گناہ کرنے کے بعد نادوم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا، بلکہ اپنی طرف سے سچی توبہ کی لیکن بار آور ثابت نہ ہوئی۔ لہذا ایک تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرمائے، دوسرے نہ کرنے کی توفیق بخشے۔ مزید قسم توڑنے کا کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ سنا ہے آسان کفارہ ۶۰ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، وضاحت فرمائیں۔ ظاہر ہے سانھ مسکین تو اکٹھے نہیں کئے جاسکتے، اس کی کوئی آسان صورت ہے؟ کیا کسی دینی مدرسہ میں اس کھانے کے عوض رقم ادا کی جاسکتی ہے؟ رقم کتنی ہونی چاہئے؟ یہ رقم وقفے وقفے سے جمع کرا سکتا ہوں؟ کیونکہ ملازم پیشہ آدمی ایک ہی وقت میں ادا ایگی نہیں کر سکتا۔ بہر حال میری اس الجھن کو حل فرمائیں۔

جواب: ”اگر فلاں کام کروں تو اپنی ماں سے زنا کروں“ ان بیہودہ الفاظ سے قسم نہیں ہوتی، نہ اس پر کوئی کفارہ لازم ہے، ان گندے الفاظ سے توبہ کرنی چاہئے۔ البتہ اس سے پہلے آپ نے جتنی مرتبہ قسمیں کھا کر توڑیں، ان کا ہر ایک کا الگ الگ کفارہ ادا کیجئے۔<sup>(۲)</sup>

غیر مسلم کے ذمہ قرآن پاک کی قسم پوری نہ کرنے کا کفارہ کچھ نہیں

سوال: ... میں ایک غیر مسلم ہونے کے ناتے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آزارہ کرم جواب اخبار میں یا براہ راست مجھے بھیجئے۔ سوال یہ ہے میں نے ایک آدمی سے ۵۰ روپے لئے تھے، اس نے مجھے مقررہ تاریخ تک لوٹا دینے کو کہا، لیکن میں کسی ناگزیر وجوہات کی بنا پر یہ پیسے لوٹا سکا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں ان کو یہ پیسے کسی کفارہ کے ساتھ واپس کر دوں؟ واضح رہے کہ میں نے ان کو مقررہ تاریخ تک پیسے لوٹا دینے کی قرآن شریف کی قسم کھائی تھی۔ آپ اسلام کی رو سے اس سوال کا جواب دیں۔

جواب: ... آپ اصل رقم واپس کر دیں، تاریخ مقررہ پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے ذمہ کوئی کفارہ نہیں۔ آپ نے جو قسم کھائی تھی اور وہ قسم آپ پوری نہیں کر سکے، اس کا کفارہ آپ کے مذہب میں کوئی ہے تو ادا کر دیجئے۔ دین اسلام کی رو سے آپ کے ذمہ اس کا بھی کوئی کفارہ نہیں۔ اگر کوئی مسلمان قسم توڑتا تو اس کے ذمہ قسم توڑنے کا کفارہ لازم آتا۔<sup>(۳)</sup>

(۱) ورکنها اللفظ المستعمل فيها۔ (الدر المختار ج: ۲ ص: ۵۰، کتاب الایمان، طبع رشیدیہ)۔

(۲) يتعدد اليمين بتعدد الاسم... إلى قوله... وفي تجريد عن أبي حنيفة إذا حلف بأيمان فعليه لكل يمين كفارة والجلس والجالس سواء۔ (بحر الرائق ج: ۴ ص: ۲۹۱، کتاب الایمان، طبع سعید کمپنی)۔ وتعدد الكفارة لتعدد اليمين والجلس والجالس سواء۔ (در مختار ج: ۳ ص: ۷۱۴، کتاب الایمان)۔

(۳) (ولا كفارة بيمين كافر وإن حنث مسلماً) بآية: إنهم لا إيمان لهم۔ (تنوير الأبصار ج: ۳ ص: ۷۲۸، کتاب الایمان)۔